

# ردِّ قادیانیت

## رسائل

- حضرت مولانا احمد بزرگ ملکنی
- جناب حاجی سید عبدالرحمن منگھری
- حضرت مولانا حافظ عبدالسلام اکھتری
- حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی
- حضرت مولانا حافظ حکیم عبدالرشید حسینی
- حضرت مولانا محمد امجد اعجازی
- حضرت مولانا علم الدین ساکن قادیان
- جناب محترم اہم نشی محمد شفیع اترسوی
- حضرت مولانا علم الدین حافظ آبادی
- جناب قاضی اشرف حسین رحمانی

# احتساب قادیانیت

جلد ۳۰

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضورى باغ روڈ، ملتان - فون: 4514122

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

احساب قادیانیت جلد تیس (۳۰)	نام کتاب :
حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی	نام مصنفین :
حضرت مولانا حافظ عبدالسلام لکھنوی	
حضرت مولانا حافظ حکیم عبدالکھور حنفی	
حضرت مولانا علم الدین ساکن قادیان	
حضرت مولانا علم دین حافظ آبادی	
جناب حاجی سید عبدالرحمن موٹگیری	
حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی	
حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب موٹگیری	
جناب محترم المکرم شمس محمد شفیع امرتسری	
جناب قاضی اشرف حسین رحمانی	
۶۸۰	صفحات :
۳۵۰ روپے	قیمت :
ناصر زین پریس لاہور	مطبع :
ستمبر ۲۰۰۹ء	طبع اول :
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان	ناشر :

Ph: 061-4514122

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

## فہرست رسائل مشمولہ..... احتساب قادیانیت جلد ۳۰

عرض مرتب	۳
..... ۱ روئید ادمباحث رنگون	۱۱ حضرت مولانا احمد بزرگ سلمکی
..... ۲ صورت محمدیہ بر فرقہ غلمدیہ	۱۵۷ حضرت مولانا حافظ عبدالسلام کھنوی
..... ۳ تحفہ محمدیہ برائے فرقہ غلمدیہ	۲۱۱ حضرت مولانا حافظ حکیم عبدالغفور حسنی
..... ۴ حقیقت مرزائیت مع فتنہ نبوت بحجاب اجراء نبوت	۲۹۷ حضرت مولانا علم الدین
..... ۵ چودھویں صدی کا دجال کون؟	۳۰۱ مولانا علم دین حافظ آبادی
..... ۶ آئینہ قادیانی	۳۱۳ جناب حاجی سید عبدالرحمن موگیری
..... ۷ تشبیہ قادیانی	۳۲۵ " "
..... ۸ حق طلب کی سچی فریاد	۳۳۵ " "
..... ۹ قادیانی نبوت کا خاتمہ	۳۵۷ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی
..... ۱۰ صاعقہ آسمانی بر فرقہ قادیانی	۳۷۵ حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب موگیری
..... ۱۱ عبدالماجد قادیانی کی کھلی چٹھی کا مفصل جواب	۵۰۹ " "
..... ۱۲ مرزائیت کے متعلق جزیرہ ٹرینی ڈاؤ کے	" "
مسلمانوں کے سات سوالات کے جوابات	۵۱۹ " "
..... ۱۳ اسلامیہ تبلیغی انسٹیٹیوٹ پیڈیا	۵۷۹ جناب منشی محمد شفیع امرتسری
..... ۱۴ جواب تھانی	۶۳۵ جناب قاضی اشرف حسین رحمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

## عرض مرتب

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم . اما بعد!

قارئین کرام! لیجئے اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے احتساب قادیانیت کی

تیسویں (۳۰) جلد پیش خدمت ہے۔ اس میں چودہ کتب و رسائل جمع کئے گئے ہیں۔

1 ..... روئیداد مباحثہ رنگون:

۱۹۲۰ء میں لاہوری مرزائی گروہ کے نفس ناطقہ خواجہ کمال الدین رنگون بر ما گئے

اور بر ما کے مسلمانوں سے چندہ بنورنے کے لئے اپنے کو اور اپنے گروہ لاہوری مرزائیوں کو

اسلام کے روپ میں پیش کیا۔ اس زمانہ میں بر ما میں مولانا احمد بزرگ سملکئی وہاں مسلمانوں

کے نامور عالم دین تھے۔ آپ نے خواجہ کمال الدین کے کذب و دجل کو پارہ پارہ کرنے کے

لئے لکھنؤ سے مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کو بر ما تشریف لانے کی دعوت دی۔

آپ کی تشریف آوری پر بر ما کے مسلمانوں کے لئے پردہ غیب سے رحمت خداوندی کا مظاہرہ

ہوا۔ خواجہ کمال الدین کو مباحثہ کے لئے خطوط لکھے گئے۔ اس کے شہادت کے جوابات دیئے

گئے۔ جگہ جگہ اس کی تردید میں اجتماعات منعقد ہوئے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی عالم دین،

حاضر جواب، مناظر اور بلا کے خطیب تھے۔ برصغیر میں ردرفض پر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز

محدث دہلوی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے کام کیا۔ اس زمانہ میں اس مباحثہ کی تمام

کاروائی کو ”صحیفہ رنگون بر پیروان دجال زبون“ کے نام سے مولانا احمد بزرگ سملکئی نے

مرتب کر کے شائع کیا۔ اب چند سال ہوئے دینی تعلیمی ٹرسٹ لکھنؤ نے اسے جدید خطوط پر

مرتب کر کے روئیداد مباحثہ رنگون کے نام پر شائع کیا۔ اب تیسری بار احتساب قادیانیت کی

اس جلد میں اس کو شائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سعادت حاصل کر رہی ہے۔

فلحمد للہ!

2 ..... صولت محمدیہ برفرقہ غلمدیہ:

یکم رجب المرجب ۱۳۵۱ھ سے ۱۲ رجب المرجب تک حضرت مولانا عبدالشکور لکھنویؒ شہرہ آفاق مقدمہ بہاولپور کی بیرونی کے لئے بہاولپور تشریف لائے۔ آپ کے صاحبزادہ مولانا حافظ عبدالسلام آپ کے ہمراہ تھے۔ اس زمانہ میں حضرت لکھنوی نے مقدمہ بہاولپور کے لئے جو مواد جمع کیا اس کتاب میں آپ کے صاحبزادہ صاحب نے محفوظ و مرتب کر دیا۔ اس کتاب کے چار فصل اور ایک خاتمہ ہے۔ فصل اول: میں برادران اسلامی کے لئے چند ضروری ہدایات، فصل دوم: میں مقدمہ بہاولپور کے واقعات، فصل سوم: میں فرقہ غلمدیہ و قادیانیہ، مرزائیہ کی مختصر تاریخ ہے۔ فصل چہارم: میں مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق چند ضروری معلومات (عقائد کفریہ) ہیں۔ خاتمہ: میں ریاست بہاولپور کے کچھ مسرت انگیز چشم دید حالات ہیں۔ اسی کتاب سے مرزا ملعون کے کفریہ عقائد و نظریات کو مباحثہ رنگون میں بھی درج کیا گیا۔ بہت سا مواد ایک ہی ہے۔ چونکہ دونوں جگہ انہیں حوالہ جات سے مرزا قادیانی کے کفر کو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود رہنے دیا۔ موقع کی مناسبت سے اس کے سوا چارہ نہ تھا۔

3 ..... تحفہ محمدیہ برائے فرقہ غلمدیہ (قادیانیہ، مرزائیہ)

مرزا پوراٹھیا کے حضرت مولانا حافظ عبدالشکور حسنی نے مرزا قادیانی ملعون کے ایک بیروکار کے رسالہ ”نور ہدایت“ کا تحفہ محمدیہ کے نام سے جواب تحریر فرمایا۔ عمدہ الطابع لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اولاً یہ ماہنامہ رسالہ انجم لکھنؤ نمبر ۱۳ تا ۱۶، رجب، شعبان ۱۳۳۹ھ میں قسط وار شائع ہوا۔ بعدہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوا۔ اب دوسری بار ستمبر ۲۰۰۹ء میں مجلس تحفظ

ختم نبوت اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ فلحمد للہ!

4 ..... حقیقت مرزائیت مع ختم نبوت، بجواب اجرائے نبوت:

اس کتاب کے مصنف مولانا علم الدین ساکن خاص قادیان ہیں۔ مولانا علم الدین بعد میں جامع مسجد کھیل پور (انک) کے خطیب بھی رہے۔ آپ کے قیام انک کے دوران میں ایک قادیانی ملعون نے چہار ورقی پمفلٹ بنام ”اجرائے نبوت“ شائع کیا۔ مولانا علم الدین نے اس کے جواب میں یہ کتاب شائع فرمائی۔ جو ۲۱ شعبان ۱۳۴۷ھ کو آپ نے مکمل فرمائی۔ اس کتاب میں قادیانی گروہ کی کتب سے قادیانیت کو باطل ثابت کیا گیا اور مسئلہ ختم نبوت کو تحقیق و الزام ہر دو طریق پر روشن کر کے دیکھا گیا ہے۔ اس جلد میں یہ بھی شامل ہے۔

5 ..... چودھویں صدی کا دجال کون؟

مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک پیرو نے ”چودھویں صدی کا چاند“ نامی رسالہ شائع کیا۔ حافظ آباد کی جامع مسجد اہل حدیث کے خطیب مولانا علم دین نے جواب میں ”چودھویں صدی کا دجال کون؟“ یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ معروف اہل حدیث رہنما مولانا نور حسین گر جاکھی گوجرانوالہ شہر نے اس رسالہ کو شائع فرمایا۔ اب دوبارہ احتساب کی اس جلد میں اسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شائع کر رہی ہے۔ فلحمد للہ!

6 ..... آئینہ قادیانی:

خانقاہ رحمانی موگیئر کے متوسلین میں ایک بڑا نام حضرت حاجی سید عبدالرحمن صاحب کا ہے۔ آپ حضرت قبلہ مولانا سید محمد علی موگیئرؒ کے مریدان باصفا میں سے تھے۔ آپ نے ”آئینہ قادیانی“ اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی کتب و اقوال سے قادیانیت کے مکروہ عقائد و عزائم سے عوام کو باخبر کرتے ہوئے قادیانیت کی حالت واقعی کو بیان کیا ہے۔

اولاً خانقاہ مونگیر سے یہ شائع ہوا۔ اب اس جلد میں شائع کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ فلحمد للہ!

.....7 تنبیہ قادیانی:

یہ رسالہ بھی خانقاہ رحمانیہ مونگیر سے شائع ہوا۔ اس کے مصنف بھی حضرت حاجی عبدالرحمن صاحب ہیں۔ اس کے پہلے ایڈیشن کے ٹائٹل پر فارسی کے یہ اشعار درج تھے۔

ہوش دارید اے مسلمان جہاں ..... قادیان  
قتہ وردین محمد مصطفیٰ خواہد شدن  
می نہد فضل خودش بر نور عین مصطفیٰ  
ژاژی خاید زبانش عییا خواہد شدن  
قصہ دیرینہ ظلم یزید پر جفا  
حالیا تازہ زدست میرزا خواہد شدن  
گاہ عیسیٰ گاہ موسیٰ گاہ نحر انبیاء  
گاہ ابن اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن

پہلے شعر میں جہاں کے بعد اور قادیان سے پہلے کا لفظ مٹا ہوا ہے۔ پہلی اشاعت میں اس کے چوبیس صفحات تھے۔ اب مکمل کمپیوٹر اشاعت اس جلد میں شائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مصنف کی تربت پر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش نازل فرمائیں۔

.....8 حق طلب کی سچی فریاد:

عبدالحمید نامی ایک ماسٹر قادیانیت سے متاثر تھے۔ انہوں نے دو خط لکھے۔ ایک خط مولانا عصمت اللہ مدرس سوپول کو لکھا اور دوسرا خط اپنے بھائی عبدالحمید کو لکھا۔ جسے شائع بھی کر دیا گیا۔ جو خط اپنے بھائی کو لکھا اسے معروف قادیانی عبدالماجد نے شائع کرایا۔

دونوں خطوط کا جواب حضرت حاجی سید عبدالرحمن صاحب نے تحریر فرمایا۔ کان پور سے اولاً یہ شائع ہوا۔ اس جلد میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائیں۔

9 ..... قادیانی نبوت کا خاتمہ ..... مرزائیوں سے چند سوال:

لدھیانہ کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی تھے۔ آپ کے خاندان کے اکابر نے اولاً مرزا قادیانی ملعون پر کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی، بانی احرار، رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے رشتہ میں چچا لگتے تھے۔ تقسیم کے بعد آپ منڈی بہاء الدین میں عرصہ تک جامع مسجد کے خطیب رہے۔ ۱۹۶۳ء میں فیصل آباد جناح کالونی کی جامع مسجد میں بطور خطیب کے تشریف لائے۔ ۱۹۷۰ء میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ لدھیانہ میں تھے۔ تب آپ لدھیانہ کے مفتی تھے۔ آپ نے یہ رسالہ ۱۳ نومبر ۱۹۳۳ء کو تحریر فرمایا۔ قادیانیوں نے ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو پورے ہندوستان میں یوم تبلیغ منانے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ”کیا آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت غیر تشریحی کے اجراء کا قائل کافر ہے؟“ دو ورقہ پمفلٹ قادیانی جماعت نے قادیان سے شائع کیا۔ جس کا حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی نے یہ جواب تحریر فرمایا۔ پون صدی کے بعد اس جلد میں اسے شائع کرنے کی توفیق ایزدی پر سجدہ شکر بجالتے ہیں۔ فلحمد والشکر للہ!

10 ..... صاعقہ آسمانی برقتہ قادیانی:

حضرت حکیم محمد یعسوب صاحب خانقاہ رحمانیہ موگیہ کے متوسلین میں سے تھے۔ ”صاعقہ آسمانی برقتہ قادیانی“ آپ کا تالیف کردہ رسالہ ہے۔ آپ نے اس کا تعارف یوں لکھا۔ ”اللہ ویتہ صاحب قادیانی کے مایہ ناز رسالہ ”خاتمہ سح آسمانی“ کا برہانی جواب ان کے بہتر (۷۲) مطالبات کا انہیں پر انقلاب (پھیر دینا) قابل دید ہے۔ پھر حیات و نزول عیسیٰ



علیہ السلام کا ثبوت قرآن و حدیث سے اور مرزا کا اپنے قسمیہ اقرار سے جھوٹا ہونا اس پر مزید ہے۔“ ۲۸ جنوری ۱۹۲۲ء کو بانگی پور پنشن سے شائع ہوا۔ اس جلد میں اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ فلحمد للہ!

11 ..... عبدالماجد قادیانی کی کھلی چٹھی کا مفصل جواب:

انڈیا میں پوربئی کے مقام پر عبدالماجد قادیانی رہتے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد علی مونگیریؒ وہاں (پوربئی) تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوربئیؒ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ پورے علاقہ میں دھوم دھام سے ہر دو بزرگان کے بیانات ہوئے۔ عبدالماجد قادیانی کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اپنی سخت مٹانے کے لئے اس نے کھلی چٹھی شائع کی۔ موقعہ پر اجمالی جواب حضرت چاند پوربئیؒ نے دے کر قادیانی عبدالماجد کی بولو رام کر دی۔ بعد میں اس رسالہ کی شکل میں حکیم محمد یعسوبؒ نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ بھی اس جلد میں شامل ہے۔ یہ ۱۶ مئی ۱۹۱۶ء کو لکھا گیا تھا۔ خانقاہ رحمانیہ مونگیری سے شائع ہوا۔

12 ..... مرزائیت کے متعلق جزیرہ ٹرینی ڈاڈ کے مسلمانوں کے سات سوالات کے جوابات:

حضرت مولانا حکیم محمد یعسوبؒ نے جوابات تحریر کئے۔ مولانا عبدالشکور لکھنویؒ امام اہل سنت ایسے اکابر نے اس کی تائید و توثیق فرمائی۔

13 ..... اسلامیہ تبلیغی انسائیکلو پیڈیا یعنی تحقیق المذہب:

مولانا غشی محمد شفیع امرتسریؒ نے یہ اسلامیہ تبلیغی انسائیکلو پیڈیا مرتب فرمائی۔ اس میں عیسائیت، یہودیت، ہندومت، سکھ مت، آریہ دھرم، پارسی مذہب، کیونزم اور قادیانیت کے رد میں ابواب دارخامہ فرسائی کی۔ باب نہم ص ۱۱۱ سے ۲۰۸ تک قادیانیت کی تردید پر مشتمل ہے۔ رد قادیانیت کی بحث اس کتاب میں شامل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے

ہیں۔ اس کا تیسرا ایڈیشن لاہور سے اگست ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ اب اسے ۲۰۰۹ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت شائع کر رہی ہے۔

14 ..... جواب حقانی ملقب بہ آئینہ صداقت:

ایک قادیانی نے اسرار نہانی لکھی۔ اس کا جواب یہ رسالہ ہے۔ جو مولانا قاضی اشرف حسین نے شائع فرمایا۔ خانقاہ مونگیر سے ۱۳۳۲ھ کو بار اول شائع ہوا۔

یوں احتساب قادیانیت کی تیسویں (۳۰) جلد

۱ رسالہ	مولانا احمد بزرگ سملکیؒ کا
۱ رسالہ	حافظ عبدالسلام لکھنویؒ کا
۱ رسالہ	حکیم عبدالکھور حنفیؒ کا
۱ رسالہ	حضرت مولانا علم الدینؒ کا
۱ رسالہ	مولانا علم دینؒ کا
۳ رسائل	حاجی عبدالرحمن صاحبؒ کے
۱ رسالہ	مفتی محمد نعیم لدھیانویؒ کا
۳ رسائل	حکیم محمد یعسوبؒ کے
۱ رسالہ	منشی محمد شفیع امرتسریؒ کا
۱ رسالہ	قاضی اشرف حسینؒ کا

۱۴ رسائل پر یہ جلد مشتمل ہے۔

کل

محتاج دعاء: فقیر اللہ وسایا ملتان

۲۰ رمضان المبارک ۱۴۳۰ھ

۱۱ ستمبر ۲۰۰۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلَدِ الْبَيْتِ الْأَبْيَعَارِي  
مَجْلَدِ الْبَيْتِ الْأَبْيَعَارِي

# روپیلا ماہر رنگون

(صحیفہ رنگون برپروان دجال زبون)

از افادات (حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی<sup>ؒ</sup>)

ترتیب (حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی<sup>ؒ</sup>)

## عرض ناشر

باسمہ تعالیٰ حامداً ومصلياً ومسلماً!

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا

محمد وعلى اله واصحابه اجمعين!

”عقیدہ ختم نبوت“ دین اسلام کا بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے اور رسول خدا ﷺ کے زمانہ سے لے کر آج تک ہر دور اور ہر مقام کے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر نبوت و رسالت ختم ہو چکی۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو شخص نبی ﷺ کے بعد ”نبوت“ کا دعویٰ کرے وہ ”کذاب، دجال“ اور کھلا ہوا کافر ہے۔

میسویں صدی کے اوائل میں مرزا غلام احمد قادیانی نے صاف اور کھلے لفظوں میں اپنے نبی و رسول ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا تو علماء حق نے اپنا دینی فریضہ تصور کرتے ہوئے اس عظیم فتنہ کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہزاروں کتابوں، مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ قادیانی مذہب کا رد کیا اور ہر محاذ پر قادیانیت کی سرکوبی کے لئے عظیم قربانیاں پیش کیں۔

زیر نظر کتاب بھی اسی مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو رنگین میں قادیانی فتنہ کے خلاف ہونے والی کوششوں کی روداد ہے۔ ۱۹۲۰ء میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خاص الخاص مصاحب اور لاہوری پارٹی کے رہنما خواجہ کمال الدین بی۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی نے رنگون میں مقیم سورتی تاجروں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرنے کے لئے خط و کتابت کی اور ان خطوط میں اپنے رنگون آنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ وہ یہاں آ کر قادیانیت کی تحم ریزی کریں اور اپنا تیار کردہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ شائع کرنے کے لئے لوگوں سے چندہ وصول کریں۔ کسی حد تک خواجہ کمال الدین اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے لیکچروں کے ذریعہ سادہ لوح مسلمانوں کو متاثر کیا اور ترجمہ قرآن کے نام پر مسلمانوں سے خاصی رقم بھی جمع کی۔

رنگون میں قائم جمعیت علماء اور دینی مدارس کے ذمہ داروں کو جب اس تشویشناک صورتحال کا پتہ چلا کہ خواجہ کمال الدین رنگون آ رہا ہے تو معززین شہر اور جمعیت علماء کی طرف سے پورے شہر میں اشتہارات تقسیم کر دیئے گئے۔ ان اشتہارات میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات اور مرزائی مذہب کی تفصیلات کو ظاہر کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو ان اشتہارات سے کسی قدر

”قادیانیت“ سے واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ تاہم جمعیت علماء رنگون خصوصاً حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی مفتی اعظم جامع سورتی رنگون نے مسلمانوں کو قادیانیت کے زہریلے اثرات سے بچانے اور قادیانی مذہب سے واقف کرانے کی غرض سے طے کیا کہ لکھنؤ سے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فاروقی کو دعوت دی جائے تاکہ قادیانی فتنہ اور خواجہ کمال الدین کی ریشہ دانیوں کا پوری قلع و قمع ہو جائے۔

جمعیت علماء رنگون کی دعوت پر حضرت امام اہل سنت رنگون رونق افروز ہوئے۔ آپ نے اس فتنہ کے خلاف جو سعی بلیغ فرمائی اور خواجہ کمال الدین کی اصل حقیقت کو بے نقاب کیا تو حق واضح ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا اور خواجہ کمال الدین کو بڑی رسوائی اور ذلت کے ساتھ رنگون چھوڑنا پڑا۔

۱۹۲۰ء میں یہ کتاب ”صحیفہ رنگون برپیروان دجال زبون“ کے نام سے ”اصح المطالع“ لکھنؤ سے شائع ہوئی اور ایک عرصہ سے نایاب تھی۔ کئی مرتبہ اس کتاب کی اشاعت کا دل میں داعیہ پیدا ہوا۔ مگر میری غیر معمولی مصروفیات اور وسائل کی کمی کے باعث یہ کام معرض التواء میں پڑا رہا۔ اب جب کہ یہ ناکارہ ”عقیدہ ختم نبوت“ کی اشاعت و حفاظت اور لکھنؤ کے قرب و جوار کے اضلاع میں ”قادیانی فتنہ“ کی سرکوبی کے لئے اپنی بساط کے مطابق جدوجہد کر رہا ہے تو اس کتاب کی ضرورت اور اشاعت کی فکر بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ چونکہ حضرت امام اہل سنت مفتی علمی بحثوں اور خاص طور پر مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کی تردید میں میرے علم و مطالعہ میں اس سے زیادہ مفید و مدلل اور اس ترتیب و تفصیل کے ساتھ کبھی طور پر اتنا مواد کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں ہے اور بجا طور پر یہ حضرت امام اہل سنت کے علمی تہکات اور باقیات صالحات میں سے ہے۔ قادیانیت کے رد میں کام کرنے والے علماء کرام اور دارالعلوم دیوبند میں اپنے بعض رفقاء سے کئی ملاقاتوں میں راقم الحروف نے اس کتاب کی افادیت اور اشاعت کا تذکرہ کیا تو تمام دوستوں نے میری رائے سے اتفاق کیا اور کتاب کی اشاعت پر زور دیا۔

”دینی تعلیمی ٹرسٹ“ لکھنؤ جس کے قیام کا مقصد ہی دین اسلام کی اشاعت اور باطل فرقوں کی تردید ہے اور جو گذشتہ سالوں سے لکھنؤ کے قرب و جوار میں دینی کاموں کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ اس کے اہتمام سے اب یہ کتاب منظر عام پر آ رہی ہے اور ”روداد مباحثہ رنگون“ کے نئے نام سے شائع کی جا رہی ہے۔

اللہ پاک جزائے خیر دے۔ عزیز گرامی مولانا شاہ عالم گورکھپوری نائب ناظم کل ہند

مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کو کہ انہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود اصل کتاب کو سامنے رکھ کر قادیانیوں کی قدیم کتابوں سے مراجعت کی اور کتاب میں درج حوالوں کو ”روحانی خزائن“ (جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خرافات کا ۲۳ جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم مجموعہ ہے) سے ملا کر کتاب کے معیار و اعتبار کو چار چاند لگا دیئے۔

اللہ پاک ”دینی تعلیمی ٹرسٹ“ لکھنؤ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے استفادہ کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کام کرنے کی توفیق بخشے۔

عبدالعظیم فاروقی

چیرمین دینی تعلیمی ٹرسٹ

۲۲۶۰۰۳ چوہدری گڑھی لکھنؤ ۲۰۷/۲۹

کچھ کتاب کے بارے میں

قادیانی مذہب کی لاہوری شاخ کا مکروہ چہرہ عوام کو دکھانے کے لئے چھوٹی بڑی اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں یہ کتاب مختصر بھی ہے اور اصولی بھی۔ رہی کتاب کی افادیت کی بات تو یہ ”مشک آنت کہ خود ہوید“ کی مصداق ہے۔ اس کو معرض بحث میں لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں ایک بات پر قلم کرتا چلوں ممکن ہے کہ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔ وہ یہ کہ قاطع مرزا ایت شیر اسلام حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ کے قلمی مسودات کے مطالعہ کے دوران راقم سطور کی نظر سے گزرا کہ حضرت چاند پوریؒ اس کتاب پر اعتماد فرماتے ہیں اور جو کچھ قادیانیوں پر گرفت اس کتاب میں کی گئی ہے۔ بالخصوص قادیانیوں کے شائع کردہ ترجمہ قرآن مجید میں قادیانی تحریفات کے سلسلہ میں اسے حضرت چاند پوریؒ اسی کتاب کے حوالہ سے بلا نقد و تبصرہ اپنے مسودہ میں درج فرماتے ہیں۔

کتاب پر ایک صدی گزر گئی۔ وقت کا تقاضا تھا کہ اس کی افادیت کو عام کرنے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے بطور مقدمہ مختصر آہنی سہی چند ضروری باتیں شامل اشاعت کر دی جائیں۔ مثلاً لاہوری گروپ کی تاریخ، لاہوریوں کی منافقانہ پالیسی تاریخ کے آئینہ میں لاہوریوں اور قادیانیوں کے درمیان اختلاف کے مکروہ اسباب، محمد علی اور خوجہ کمال الدین کی شخصیت اور حیثیت، لاہوری گروپ کی خطرناکی اور زہرناکی وغیرہ۔ مگر یہ سب کچھ کتاب کی طباعت و اشاعت بلا تاخیر مطلوب ہونے کے باعث نہ ہو سکا۔ ”لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرآ“

یہ وضاحت شاید قارئین کی شکایت کا باعث بنے کہ پھر اشارہ ہی کیوں کیا گیا۔ اس لئے مذکورۃ الصدر جملہ عنادین پر تو نہیں۔ البتہ خواجہ کمال الدین کی شخصیت و حیثیت پر چند سطریں پیش ہیں۔ تاکہ ناظرین کو بخوبی یہ اندازہ ہو سکے کہ جس مکروہ شخص اور قادیانی عفریت سے اہل رنگون کا پالا پڑا تھا اس سے نمٹنا امام اہل سنت ہی کا حصہ تھا۔ ہر شخص کے بس کا یہ روگ نہ تھا جو خواجہ کے مقابل آ کر فتح و ظفر کا جھنڈا لہرا دیتا۔

قادیانی مذہب میں خواجہ کمال الدین کا ایک ممتاز مقام ہے۔ مرزائی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء مرزا قادیانی اور خواجہ کمال الدین کے تعلقات خلوص پر مبنی تھے۔ عبد اللہ آتھم عیسائی کی موت سے متعلق مرزا کی پیشین گوئی صاف طور پر جھوٹی نکلنے پر بھی خواجہ کے اعتقاد میں کچھ تزلزل نہ آیا۔ چنانچہ ضمیمہ انجام آتھم میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ ”ہمارے نو عمر دوست، خواجہ کمال الدین بی اے بڑی سرگرمی سے دین کی اشاعت میں کوشش کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نیک بختی کے نشان پاتا ہوں۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۵)

(تریاق القلوب ص ۹۱، خزائن ج ۱۵ ص ۳۳۳) میں مرزا قادیانی نے خواجہ کو اپنے مخصوص گواہوں میں شمار کرایا اور اپنی خانہ ساز پیشین گوئیوں پر بطور فخر گواہ بٹھرایا ہے۔ علاوہ ازیں کئی ایک مقدمات میں خواجہ نے بحیثیت وکیل مرزا کی خدمت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مقدمات میں اچھی خاصی مرزا کی حجامت بھی بنوادی ہے۔ جیسا کہ آپ اسی کتاب میں پڑھیں گے۔ مرتب کتاب نے اپنے حاشیہ میں کذبات مرزا کے ضمن میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ مقدمہ خواجہ سے ہی متعلق تھا اور اسی مقدمہ میں خواجہ ہی کی وکالت میں اللہ رب العزت نے مرزا کی جوگت بنوائی ہے اس کی تفصیل مرزا کی زبانی ضروری معلوم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے راقم سطور نے بین القوسین نوٹ لگا کر مرتب کے حاشیہ کو داخل متن کر کے اس پر ضروری تفصیل کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ تصنیفی اصول کے خلاف بھی نہ ہو اور قارئین حاشیہ در حاشیہ کی الجھن سے بچتے ہوئے مرزا قادیانی کی الہام بازی کی تاریخی حقیقت سے واقف بھی ہو جائیں۔

۱۹۱۳ء میں جب لاہوری گروپ کی شکل میں قادیانی مذہب تقسیم ہوا تو یہی خواجہ کمال الدین، مسٹر محمد علی لاہوری کے دست و بازو بن گئے۔ جہاں سے خواجہ کی زندگی کا وہ منافقانہ دور شروع ہوتا ہے جس کا سبق مرزا قادیانی سے انہوں نے سیکھا تھا۔ قبل ازیں کہ راقم سطور خواجہ کے اس دوسرے دور سے متعلق کچھ تبصرہ کرے مناسب سمجھتا ہے کہ قادیانی اخبار ”الفضل قادیان“ نے خواجہ کے قول و عمل جو محفوظ کر رکھے ہیں۔ جن کی روشنی میں خواجہ کی زندگی خوب واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔

.....۱ ”ایک نہایت عجیب بات ہے کہ خواجہ صاحب (مرزا قادیانی کی) حقیقی پیش گوئیوں کو وقعت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا۔ پیش گوئیاں کیا بلاء ہوتی ہیں۔ ایسی پیش گوئیاں تو عام لوگ کر دیتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک کتاب تھی۔ جس میں اس جنگ (جون ۱۹۱۹ء میں ہوئی تھی) کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہوئی تھیں۔ جو بعینہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔“ (الفضل ۱۲ جنوری ۱۹۲۰ء ج ۷ ص ۵۱)

.....۲ ”ووکنگ مشن کے کارکنوں (جس کے سرغنہ خواجہ کمال الدین تھے) کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور۔ جلسے پر آنے والوں کے لئے تو یہ دکھانے کے لئے کہ ہم اشاعت احمدیت کو کس قدر ضروری سمجھتے ہیں۔ لکھ دیا لوگوں کو احمدی بنانے میں کوشش کرنی چاہئے۔ لیکن ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ ولایت میں احمدیت کا ذکر کرنا اور حضرت مسیح موعود کا نام لینا سم قاتل سمجھتے ہیں۔“ (الفضل ۱۹ فروری ۱۹۲۰ء ص ۱۲)

مرزا کے ایک قریبی دوست کے قول و عمل میں جہاں لاہوریوں اور مرزائیوں کے لئے عبرت کا سبق ہے وہیں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خواجہ اور مرزا کی گہری دوستی اپنے اخیر مرحلے میں کھٹی ہوتی نظر آتی ہے اور مرزا نے اپنی کوڑھ مغزی سے خواجہ کے چہرے میں نیک بختی کے جوشان دیکھے تھے اور اپنی جھوٹی پیشین گوئیوں پر خواجہ کو گواہ بنایا کرتا تھا۔ وہ سب کچھ اخیر میں رنو چکر ہوتا نظر آتا ہے اور یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ خواجہ اور مسٹر محمد علی لاہوری اپنے انہی دو خطرناک دانتوں کے سہارے زندگی بھر مسلمانوں بلکہ بعض اہل علم اور دانشوروں کا شکار کرتے رہے۔

”صحیفہ رنگون“ (جواب روداد مباحثہ رنگون کے نام سے شائع ہو رہی ہے) کے بعض مضامین سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ علماء رنگون نے قادیانیت کے خلاف ہزار ہا اشتہارات شائع کئے اور بے شمار جلسے جلوس بھی کئے۔ لیکن اپنے جگری دوست مرزا قادیانی سے سیکھی سکھائی منافقانہ پینترے بازیوں میں کامل خواجہ کمال الدین اس وقت تک زیر نہ ہوا۔ جب تک امام اہل سنت نے رنگون پہنچ کر خواجہ کی شہ رگ نہ دبائی۔ یہ حضرت امام اہل سنت کے گہرے مطالعہ اور موضوع سے متعلق وسیع تر معلومات نیز مرزائیوں کی کتابوں اور کتابچوں تک رسائی کی بات ہے کہ آپ نے ۱۹۰۹ء کی خواجہ کی تصنیف ”صحیفہ آصفیہ“ کو رنگون پہنچتے ہی جب پیش کیا اور لاہوری نفاق کی دبیز تہوں میں چھپے خواجہ کے بھیا تک جرائم طشت از بام کئے تو وہ خواجہ جی جو اپنی چکنی چڑی باتوں



میں پورے شہر اور رئیس رنگون سر جمال جیسوں کو یہ غمال بنائے بیٹھا تھا۔ ساری اکڑنوں بھول، رنگون سے یوں بھاگنے لگا جیسے مجرم پولیس کو دیکھ کر چھپتا بھاگتا ہے اور دیکھا یہ گیا کہ خواجہ کبھی حلف اٹھا کر ایمان کی دہائی دیتا ہے۔ کبھی یا رفاہ مرزا قادیانی سے برأت ظاہر کرتا اور کبھی جھوٹے حوالوں اور کتابوں کی بندر بھسکی دیتا ہے۔ جب بات کسی طرح غبی نظر نہیں آتی تو کہتا ہے صاحب ہمیں ایک پیسہ نہ دو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ مگر ہوا یہ کہ امام اہل سنت نے خواجہ کی شہ رگ جو دبا رکھی تھی خواجہ کے سامنے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔

ناظرین! یہ تھے خواجہ کمال الدین جن کی شخصیت و حیثیت جاننے کے بعد ہمارے اکابر سے ان کی صف آرائی کا ایک منظر آپ کتاب ہذا میں پڑھیں گے۔ اس سے متعلق ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ ہاں کتاب کو ایک صدی کے بعد منظر عام پر لانے کے لئے کیا کچھ کیا گیا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ راقم سطور پر تصنیفی اصول کی خلاف ورزی کا الزام نہ عائد ہو۔

۱..... کتاب کی زبان صدی گزرنے کے بعد بھی قابل تفہیم اور رواں ہے۔ اس لئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ خال خال کہیں ضرورت پڑی تو سادہ قوسین ( ) کے درمیان اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

۲..... مرتب کتاب کا حاشیہ پہلے سے کتاب میں ہے۔ جس پر اخیر میں علامت ۱۲ کی لگی ہوئی ہے۔ راقم سطور نے جن امور کی وضاحت حاشیہ میں ضروری سمجھ اس کی اخیر میں ”ش، ع“ لکھ دیا ہے تاکہ مرتب کے حاشیہ سے امتیاز رہے۔

۳..... قدیم طرز کتابت کی وجہ سے کتاب میں پیرا گراف کی تبدیلی اور ان کے درمیان ذیلی سرخیوں کا اضافہ اسی طرح علامات ترقیم، فل اسٹاپ، کاما، رابطہ، ندائیہ، سوالیہ، سیسی کولن وغیرہ لگانا ناگزیر تھا۔ راقم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ جہاں کام بن گیا وہاں خود حضرت مرتب کتاب ہی کی عبارتوں کو ذیلی سرخی میں تبدیل کیا۔ اگر مرتب کی موزوں عبارت نہ ملی تب اپنی جانب سے کسی مناسب جملہ کا اضافہ کیا ہے۔

۴..... قادیانی کتب اور دیگر کتابوں کے حوالوں کی مراجعت خود راقم سطور نے کی ہے۔ جدید حوالے اور جہاں حوالے نہیں تھے۔ ان کا اضافہ راقم نے قوسین ( ) کے درمیان کیا ہے جو قدیم حوالوں کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے تاکہ چھوٹی سی کتاب حاشیوں کا جنگل نہ بن جائے۔ چونکہ فن مناظرہ میں اطمینان قلبی کے لئے قاری کا ذہن خاص طور پر حوالوں کی جانب

مرکوز رہتا ہے کہ آیا کبھی ہوئی بات صحیح ہے اور اس کے حوالے اور مآخذ بھی دستیاب ہیں یا نہیں۔ اگر مستقل یہ حوالے حاشیہ میں درج کئے جاتے تو سطر دو سطر کے بعد حاشیہ کا مطالعہ یقیناً قاری کے لئے الجھن کا باعث بنتا۔ ہاں! قادیانی کتابوں کے حوالے ”روحانی خزائن“ نامی سیٹ سے لئے گئے ہیں۔ تو سین میں ”خ“ سے مراد یہی مرزا قادیانی کی روحانی خطاؤں کا مجموعہ ہے اور ”ج“ سے مراد جلد ہے۔

۵..... بعض مقامات پر عنوانات میں ترتیب قائم کرنے کی غرض سے مضامین میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اس سے عبارت یا مرتب کتاب کے منشاء و مقصود میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ البتہ ترتیب کی وجہ سے افادیت میں اضافہ ہو گیا۔

۶..... کتاب میں مرزائی کتب کے بعض حوالے ایسے بھی ملے کی عبارت مرزا قادیانی ہی کی ہے۔ لیکن کتاب کا نام بدلا ہوا ہے۔ شاید یہ کاتب کا سہو ہو یا بوقت طباعت نظر ثانی کی کمی ہو بہر کیف جو کچھ بھی ہو بندہ نے اس کی تصحیح کر دی ہے اور اس پر کوئی حاشیہ یا نوٹ اس لئے نہیں لگایا کہ کتاب کے طبع ثانی میں غلط حوالوں کی تصحیح کی ضرورت ہے نہ کہ اس پر حاشیہ آرائی کی۔

۷..... رنگ و مزاج میں اختلاف کے باعث بعض احباب تو یہ کہیں گے کہ جو کچھ کیا خوب کیا اور بعض کہیں گے کہ سا تو اس نمبر یہی ہے کہ جو کچھ کیا سب غلط کیا۔ لیکن جس صورت میں بعض اعذار کے سبب تصنیفی اصولوں کے مکمل خیال نہ رکھ سکنے کا اور اپنی خامیوں کا اعتراف بندہ کو ہے تو اب مبصرین ناقدین کے لئے کتاب پر تنقید کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہاں! ضرورت اس کی ہے خامیوں سے بندہ کو مطلع کیا جاوے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔

اخیر میں اپنے محسن و کرم فرما حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم چیرمین ”دینی تعلیمی ٹرسٹ“، مہتمم دارالمبلغین لکھنؤ اور رکن شوریٰ دارالعلوم دیوبند کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ کو امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فاروقی علیہ الرحمۃ کی علمی تحقیقات پر کچھ کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا بلکہ استفادہ کی سعادت بخشی۔ یقیناً حضرت مولانا موصوف ردقادیانیت پر کام کرنے والے تمام افراد کی طرف سے شکر یہ کے مستحق ہیں کہ مولانا نے اس نایاب اور قیمتی کتاب کو اپنے ٹرسٹ کی طرف سے شائع فرمایا۔ ”فجزاہم اللہ خیر الجزأ عنا وعن جميع المسلمين“

والسلام!

شاہ عالم گورکھپوری، دارالعلوم دیوبند

## جمع برادران اسلام خصوصاً تاجران رنگون سے گزارش

خدا کے لئے غور سے پڑھو!

اے برادران اسلام! اے ہمدردان ملت! کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ دنیا میں کس قدر مذاہب ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ خود آپ کے شہر رنگون میں قریب سو مذاہب کے موجود ہیں اور ان مذاہبوں کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب کی اشاعت و حمایت میں سرگرم ہیں اور کوئی طریقہ کوشش کا ایسا نہیں جو ان سے چھوٹ جاتا ہو۔ روئے زمین پر فقط ایک ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت ہیں جو خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔

خروس اور شہباز سب اوج پر ہیں

فقط ایک ہم ہیں کہ بے بال و پر ہیں

جن مسلمانوں کو اپنے دین پاک کی خدمت کا شوق بھی ہے۔ ان میں اکثر کی حالت یہ ہے کہ روپیہ سے خالی ہیں اور بعض کے پاس روپیہ ہے تو ان کو کام اور بے کام کی پہچان نہیں ہے۔ خواجہ کمال الدین کو کہتے سنا ہے کہ میں لندن میں جا کر تبلیغ اسلام کروں گا۔ ان کو ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیا۔ پھر کسی نے تحقیق بھی نہ کی کہ انہوں نے لندن میں جا کر کیا کیا۔ اسلام کی اشاعت کی یا مرزائیت پھیلائی؟ کسی نے ان سے یہ بھی نہ کہا کہ حضرت آپ لندن میں مسلمان بنانے کے لئے جا رہے ہیں کیا اب ہندوستان میں کوئی غیر مسلم باقی نہیں؟ سب کو مسلمان کر چکے۔ بہر حال مسلمانوں کی حالت رنج کے قابل ہے۔ کسی کو توجہ نہیں اور کسی کو سلیقہ نہیں۔ طبقہ علماء میں امراء کی شکایت ہے کہ وہ لوگ روپیہ کو دین و ایمان سے بھی عزیز سمجھتے ہیں اور طبقہ امراء میں علماء کا شکوہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف چند کتابوں کا پڑھا دینا یا فتویٰ لکھ دینا جانتے ہیں اور جو ضرورتیں اس وقت درپیش ہیں ان سے بالکل بے خبر ہیں۔

برادران من! ان دونوں طبقوں کی شکایتیں ایک حد تک درست ہیں۔ ابھی تازہ واقعہ ہے جب عالی جناب (امام اہل سنت) حضرت مولانا محمد عبدالککور صاحب فاروقی ”مدیر انجم“ لکھنؤ سے رنگون تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی اور اس کی خدمات کو دو شعبوں پر منقسم کیا۔

اول! یہ کہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے، اپنے مذہب سے واقف کرنے کی کوشش کی

جائے۔

دوم! یہ کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اور یہ بھی فرمایا کہ پہلا کام بہ

نسبت دوسرے کے اہل بھی ہے اور مفید اور ضروری ہونے میں بھی دوسرے کام پر فوقیت رکھتا ہے اور جناب ممدوح نے ان دونوں خدمات کے نہایت اہل اور نتیجہ خیز طریقے بھی متعین کئے۔ جن میں تقریری اور تحریری دونوں قسم کی خدمات کا مفصل تذکرہ تھا۔ اگر ان تجویزوں پر عمل ہوتا تو تھوڑے ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو جاتا۔

اس جلسہ میں تمام رنگون کے ائمہ مساجد اور بعض تاجران عالی ہمت بھی موجود تھے۔ سب نے اس تجویز پر لبیک کہی اور اس کے مفید اور نتیجہ بخش ہونے کا یقین ظاہر کیا۔ بعض ذمی رتبہ تاجروں نے سچے جوش میں بڑی بڑی رقموں کے دینے کا وعدہ کیا۔ جن میں عارف معلم صاحب اور حاجی یوسف صاحب، داؤد صاحب خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ عارف معلم صاحب نے اپنا مکان دوسروں پر پیہ ماہوار کرایہ کا دفتر انجمن کے لئے اور پچاس روپیہ ماہوار مصارف کے لئے پیش کیا۔ ”وعلى هذا القياس“ مگر مولانا صاحب ممدوح کے تشریف لے جانے کے بعد یہ سب باتیں افسانہ خواب ثابت ہوئیں۔ معلوم نہیں یہ کوتاہی کس کی طرف سے ہوئی۔ علماء کی طرف سے یا امراء کی طرف سے۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب موصوف سے سورتی تاجروں کی درخواست تھی کہ آپ رنگون میں قیام کریں۔ مگر انہوں نے منظور نہ کیا۔ اگر وہ وہاں رہتے تو بلاشبک زبانی اور کتابی تقریری و تحریری دونوں طرح کا درس تبلیغ اس پیمانہ پر جاری ہو جاتا جو تجویز ہوا تھا اور اس کام میں جس قدر روپیہ کی ضرورت ہوتی تاجران رنگون کی ادنیٰ توجہ سے بآسانی فراہم ہو جاتا اور اس کا نفع نہ صرف ملک برما، بلکہ سارے ہندوستان بلکہ تمام دنیا کو پہنچتا۔ مگر یہ خیال دل کے سمجھانے کے لئے چنداں مفید نہیں۔ اچھا اگر حضرت مولانا صاحب ممدوح دوسری مہمات و ضروریات کے باعث ترک وطن کر کے رنگون میں مقیم نہ ہو سکے تو دوسرے علماء رنگون میں موجود تھے اور ہیں، ان سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ یا اب کیوں نہیں لیا جاتا؟ اے مسلمانوں! خدا کے لئے جاگو اور دین الہی کی حمایت کرو۔ جس پر آج چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش بھی تم سے نہیں ہو سکتی؟

دین کا دعویٰ اور امت کی خبر لیتے نہیں

چاہتے ہو تم سند اور امتحان دیتے نہیں

اے مردان! کوشید و جامہ زناں پوشید۔ وما علينا الا البلاغ!

راقم: ایک جگر سوختہ مسلمان اور مسلمانوں کا ادنیٰ خادم

بسم الله الرحمن الرحيم!

## ابتدائیہ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على نبيه الذي لا نبي بعده وعلى اله

وصحبه الذين بهم تكامل جنده!

اما بعد! برادران ایمانی کی خدمت میں گزارش ہے کہ گزشتہ ایام میں مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کے بعض قبعین نے ارادہ کیا کہ ملک برما میں مرزائیت کی تحم ریزی کریں۔ شہر رنگون میں دو چار مرزائی ہیں۔ مگر وہ بالکل گمنامی اور کس پرسی کی حالت میں ہیں۔ لہذا تجویز ہوئی کہ خواجہ کمال الدین جو بوجہ اشتہارات تبلیغ اسلام کے، سادہ لوح مسلمانوں کی نظر میں کچھ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ رنگون قدم رنجی فرمائیں۔ چنانچہ صاحب ممدوح تشریف لائے۔

حق تعالیٰ جزائے خیر دے مسلمانان رنگون کو بالخصوص سورتی تاجروں کو کہ وہ عین وقت پر متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس فتنہ کا آغاز ہی میں مقابلہ کر کے تمام ملک برما کو اس مہلکہ عظیمہ سے بچالیا۔ ان صاحبوں نے یہاں تک کوشش کی کہ ہندوستان سے عالی جناب (امام اہل سنت) مولانا محمد عبدالشکور (فاروقی) صاحب مدیر ”انجم“ لکھنؤی کو تکلیف دی اور خوب خوب کام کیا۔

”بارك الله عليهم في الدنيا والاخرة“

یہ اسی معرکہ خیز واقعہ کی روئیداد ہے۔ نام اس کا ”صحیفہ رنگون بر پیروان دجال زبوں“ رکھا گیا اور اس کو ایک مقدمہ اور دو باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا گیا۔

مقدمہ میں ”مرزا اور مرزائیت“ کی مختصر دلچسپ تاریخ بیان کی گئی ہے اور پہلے باب میں خواجہ صاحب کے رنگون آنے کا اور حضرت مولانا صاحب مدیر ”انجم“ عم فیضہ کے تشریف لانے کے بعد خواجہ صاحب کے مقابلہ میں اتمام حق کی جس قدر کارروائیاں ہوئیں ان کا مفصل بیان ہے۔

دوسرے باب میں مرزا اور مرزائیت کے باطل اور خارج از اسلام ہونے کے دلائل بیان کئے گئے ہیں اور اس سلسلہ میں حسب ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔

- ۱..... مرزا کا کذاب ہونا، اس کے بکثرت جھوٹ خود اس کی کتابوں سے۔
- ۲..... مرزا کے اقوال متعلق تو ہیں انبیاء علیہم السلام۔
- ۳..... مرزا کا دعویٰ نبوت۔

- .....۳ مرزا کا منکر ضروریات دین ہونا۔
- .....۵ ختم نبوت کی بحث۔
- .....۶ حیات مسیح علیہ السلام کی بحث۔
- .....۷ مرزائیوں کے انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا نمونہ۔
- .....۸ خاتمہ میں علماء اسلام کے فتوے، مرزا اور مرزائیوں کے کفر پر نقل کئے گئے ہیں اور یہ کہ نہ ان سے مناکحت جائز ہے نہ ان کو ہماری مساجد و قبرستانوں میں کوئی حق ہے۔
- .....۹ اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلہ ہے۔ جس میں مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونا اور مسلمانوں کے قبرستان سے ان کا بے دخل ہونا دکھایا گیا ہے۔
- الحمد للہ! یہ کتاب ایسی جامع و مکمل تیار ہو گئی کہ جو شخص اس کو اوّل سے آخر تک دیکھ لے مرزائیت کی پوری حقیقت سے واقف ہونے کے علاوہ بڑے سے بڑے مرزائی کو بحث میں مغلوب و مہبوت کر سکتا ہے۔ خواہ وہ قادیانی پارٹی کا ہو یا لاہوری پارٹی کا۔
- جو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ ان سے التجا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف اور نیز ان تمام مسلمانان رنگون کے لئے بارگاہ الہی میں دعائے خیر کریں جن کی مساعی جیلہ سے یہ کام ہوا اور جن کے مصارف سے یہ کتاب چھپی۔ ”واللہ ولینافی الدارین وهو حسبنا رب المشرقین ورب المغربین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ رسولہ الثقلین سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آلہ و صحبہ الی وجود الملویین و طلوع القمرین“
- راقم خاکسار: احمد بزرگ عفی عنہ سورتی سملکی، مفتی جامع سورتی، شہر رنگون

### مقدمہ

### مرزا اور مرزائیت کی مختصر تاریخ

حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ: میرے بعد تمیں دجال، کذاب، ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد ج ۲ ص ۲۸۸)

اس ارشاد نبوی کے مطابق بہت سے دجال مدعی نبوت دنیا میں پیدا ہو چکے۔ اسی سلسلہ کا ایک شخص ہمارے زمانہ میں سرزمین پنجاب سے ظاہر ہوا۔ جس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ پنجاب (ہندوستان) میں ضلع گورداسپور کے متعلق ایک چھوٹا سا قصبہ قادیان ہے۔ امرتسر سے شمال مشرق

کو جو ریلوے لائن جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا اسٹیشن بنالہ ہے۔ جو ایک پرانا اور مشہور قصبہ ہے۔ بنالہ سے گیارہ میل کے فاصلہ پر ”کادیان“ ہے۔ مرزا غلام احمد اسی مقام ”کادیان“ کے رہنے والے تھے۔ جس کو انہوں نے قادیان مشہور کیا۔

مرزا غلام احمد (مرزائیوں کے بقول) ۱۲۶۱ھ مطابق ۱۸۴۵ء (اور اپنے بقول ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء) میں پیدا ہوئے اور ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۲۰ھ مطابق ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو مر گئے۔ (کتاب البریہ ص ۱۵۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷)

مرزا غلام احمد کے والد مرزا غلام مرتضیٰ پیشہ طبابت کرتے تھے اور کچھ مختصری زمینداری بھی تھی۔ مرزا قادیانی نے ابتداء عمر میں فارسی اور کچھ عربی پڑھی۔ کتب درسیہ تمام نہیں ہونے پائیں کہ (ابو باش دوستوں اور اپنی آوارہ گردی کی بدولت) فکر معاش نے پریشان کر دیا۔ تحصیل علم چھوڑ کر نوکری کی تلاش شروع کی۔ مرزا کا ابتدائی زمانہ نہایت گمنامی اور عسرت میں گذرا۔ جیسا کہ خود مرزا نے اپنی کتاب ”استغنا“ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی مقلسی اور تنگدستی کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ میرے باپ دادا انہیں سختیوں میں مر گئے۔

(ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۷۸، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۴)

المختصر مرزا غلام احمد بہت سرگردانی و پریشانی کے بعد کسی طرح سیالکوٹ کی کچھری میں (۱۸۶۳ء میں منشی گیری کے لئے) پندرہ روپیہ ماہوار کے ملازم ہو گئے۔ مگر اس قلیل رقم میں فراغت کے ساتھ بسر نہ ہو سکی تو یہ سوچا کہ مختاری (وکالت) کا قانون پاس کر کے مختاری شروع کریں۔ چنانچہ بڑی محنت سے قانون یاد کرنا شروع کیا۔ لیکن امتحان دیا تو کامیاب نہ ہوئے۔ آدمی تھے چلتے ہوئے۔ لہذا (۱۸۶۸ء میں منشی گیری چھوڑ کر) ایک دوسرا راستہ اپنے لئے تجویز کیا۔ اشتہار بازی اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے شہرت حاصل کرنے کے درپے ہوئے۔ سب سے پہلے آریوں کے مقابلہ میں آپ نے اشتہار بازی شروع کی۔ بڑے بڑے اشتہار نہایت آب و تاب سے ہزاروں شائع کئے۔ راقم کی نظر سے مرزا قادیانی کے کئی ابتدائی اشتہارات گذر چکے ہیں۔ ایک اشتہار پر ۲ مارچ ۱۸۷۸ء کی تاریخ ہے۔

۱۔ صحیح نامہ اس مقام کا یہی ہے۔ اہل پنجاب اس کو اب بھی کادیان کہتے ہیں۔ پنجابی زبان میں کادی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں کیوڑا فروش لوگ رہتے تھے۔ مرزا نے بہت روپیہ صرف کر کے سرکاری کاغذات میں اس کو قادیان لکھوایا اور لکھا کہ یہ لفظ دراصل قادیان ہے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ اور گناہ بے لذت ہے۔

جب اس طریقہ سے ایک حد تک شہرت حاصل کر چکے تو (۱۸۸۰ء میں) ایک کتاب ”براہین احمدیہ“ آریوں کے مقابلہ میں تصنیف کی اور اس کے لئے (۲۰ صفحہ کی کتاب پر ۶۰ ہزار سے زائد) بڑے بڑے اشتہارات نکالے اور مسلمانوں سے چندہ لیا اور خوب لیا۔ ہزاروں روپیہ اس بہانہ سے مرزا قادیانی نے وصول کیا اور اب کچھ فراغت و اطمینان سے بسر ہونے لگی۔

غالباً مرزا قادیانی نے اسی وقت سے اپنے دماغ میں یہ خیالات قائم کر لئے تھے کہ بتدریج مجددیت و مسیحیت و نبوت و رسالت کے دعویٰ کرنا چاہئے۔ اگر یہ دعویٰ چل گئے تو پھر کیا ہے۔ اچھی خاصی بادشاہت کا لطف آجائے گا اور اگر نہ چلے تو اب کون سی عزت حاصل ہے۔ جس کے جانے کا خوف ہو۔ بنیاد ان دعویوں کی ان کے ابتدائی اشتہارات میں بھی کچھ کچھ موجود ہے۔ خوش قسمتی سے مرزا قادیانی کو اسی ابتدائی زمانہ میں کچھ دنوں سرسید احمد خان علی گڑھی کی صحبت بھی نصیب ہو گئی اور ان کی روشن خیالات نے مرزا قادیانی کے لئے ان کے مجوزہ راستہ کو کچھ سہل کر دیا۔ سرسید نے اس زمانہ میں یہ مسئلہ اختراع کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ کوئی انسان اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ بس مرزا قادیانی نے بھی اپنے آغاز کے لئے اس مسئلہ کو پسند کیا اور اس پر بڑا زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ بڑے بڑے اشتہار بھی شائع کئے۔ علاوہ عقلی استبعادات اور خانہ ساز الہامات کے کئی آیات قرآنیہ اور کئی حدیثوں کو بھی دور از کار تاویلات کر کے اپنے استدلال میں پیش کیا۔ علماء اسلام کو مباحثہ کے چیلنج دیئے اور کئی مقام پر مباحثہ بھی کیا۔ سب سے زیادہ مشہور مباحثہ جو اس مسئلہ میں ہوا وہ ہے جو بمقام دہلی جناب مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی مرحوم سے (۱۹ ربیع الاول ۱۳۰۹ھ بروز جمعہ دہلی بعد نماز جمعہ بر مکان خسر مرزا قادیانی) ہوا۔ جس میں مرزا قادیانی نے بالآخر اپنی عاجزی و مغلوبیت دیکھ کر یہ بہانہ کیا کہ میرے گھر (قادیان) سے تار آیا۔ میرے خسر صاحب بیمار ہیں۔ اب میں نہیں ٹھہر سکتا اور راہ فرار اختیار کی۔ کارروائی اس مباحثہ کی چھپ گئی ہے۔ جس کا نام ”الحق الصریح فی اثبات حیاة المسیح“ ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ انگریزی دانوں کے مذاق کے مطابق تھا۔ اس لئے انگریزی دان طبقہ کی توجہ بھی آپ کی طرف مائل ہوئی اور مقصود بھی یہی تھا کہ دوست مند طبقہ کو متوجہ کیا جائے۔

موت پا کر مرزا قادیانی نے پہلے تو اپنے کو ایک روشن ضمیر صوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دہلی مقبرے کے لوگوں کو ترغیب دے کر مرزا قادیانی سے مرید کرائیں۔ ریاست مینڈھو، ضلع علی



گڑھ کے ایک واقعہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر مثل مسیح ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا ادعا کیا۔ مریم بھی بنے اور ابن مریم بھی بنے اور اس کے بعد ختم نبوت کا انکار کر کے اپنے نبی و رسول، صاحب وحی و صاحب شریعت ہونے کا اعلان کیا اور اپنے کو تمام انبیاء سابقین سے اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ آخر میں کرشن ہونے کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ (تذکرہ ص ۴۲۳)

ان مختلف و متناقض دعوؤں میں عجیب عجیب رنگ مرزا قادیانی نے بدلے۔ کبھی تو یہ کہا کہ میں نہ نبی ہوں اور نہ رسول، ہر قسم کی نبوت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ختم ہو چکی۔ کبھی یہ کہا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، صاحب شریعت ہوں، تمام نبیوں سے افضل ہوں، حتیٰ کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے۔ بلکہ انصاف یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ ”الوہیت“ کا بھی فرمایا ہے۔ غرض کوئی رتبہ مرزا قادیانی سے چھوٹنے نہیں پایا۔ جیسا کہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ خود ان کے اقوال بلفظ نقل کئے جائیں گے۔

الحاصل: مرزا قادیانی نے خوب نام پیدا کیا اور خوب عیش کیا۔ عمدہ عمدہ غذا میں (مشک و عنبر کے ساتھ ٹانک و اکن شراب اور ایسے عجون جن میں غالب حصہ ایون کا ہوتا تھا خطوط امام بنام غلام ص ۵) نفیس نفیس لباس جو کبھی ان کے باپ دادا کو نصیب نہ ہوئے تھے استعمال فرماتے رہے۔ اتنی دولت کمائی کہ اپنی اولاد کے لئے بڑا ذخیرہ چھوڑ گئے۔ یہ سب کچھ تو ہو چکا مگر اب وہ ہیں اور دارالجزاء ہے۔ جہاں نہ اشتہار بازی کام آ سکتی ہے نہ دل فریب دعویٰ۔

مرزا غلام احمد کے بعد ان کے دوست حکیم نور الدین صاحب خلیفہ ہوئے اور وہ بھی چل بسے۔ اب آج کل ان کے خلیفہ دوم ان کے فرزند ارجمند مرزا محمود قادیانی ہیں۔

۱۔ حکیم نور الدین ۱۹۱۴ء میں مرا۔ اس کے بعد بشیر الدین محمود خلیفہ ہوا جو علماء اسلام بالخصوص حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی مدظلہ سے مباہلہ کی پاداش میں ۱۹۶۵ء میں مر گیا۔ اس کے بعد مرزا محمود ہی کا بڑا بیٹا مرزا ناصر خلیفہ بنا۔ وہ بھی مولانا چنیوٹی کے دعاء مباہلہ سے ۹ جون ۱۹۸۲ء میں اس طرح ہلاک ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی سے بڑھاپے میں اس نے شادی کی اور کشتہ کھا کر کشتہ ہو گیا۔ ناصر کے بعد اس کے چھوٹے بھائی مرزا طاہر نے خلافت کی کمان سنبھالی۔ اس نے بھی مباہلوں کا خوب ڈھونگ رچایا۔ مگر الحمد للہ ۱۹ اپریل ۲۰۰۳ء میں خدا نے اس سے بھی ”یا کو پاک کر کے تیرے بار قادیانیوں کے لئے عبرت کا سامان فراہم کیا“ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ”اب مرزا مسرور پانچواں خلیفہ بنا ہے۔ اگر اس نے اپنے پچھلوں کے انجام سے سبق حاصل نہ کیا تو انشاء اللہ وہ بھی اپنے انجام کو جلد ہی پہنچے گا۔

خلیفہ دوم صاحب کے زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین میں باہم افتراق پڑا اور اس وقت تک پانچ فرقہ ان میں ہو چکے ہیں۔

مرزائی پارٹیوں کا اجمالی تعارف

۱..... لاہوری پارٹی: جس کے امام مسٹر محمد علی صاحب اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔ (یہ دونوں مرزا قادیانی کے قدیم اور قریبی مرید ہیں)

۲..... محمودی پارٹی: جس کے امام مرزا محمود (پسر مرزا قادیانی) ہیں۔

۳..... ظہیری پارٹی: جس کا پیشوا ظہیر الدین اروپی (مرید مرزا قادیانی) ساکن گوجرانوالہ (پاکستان) ہے۔

۴..... جٹاپوری پارٹی: جس کا سرگروہ عبداللہ تھاپوری (مرید مرزا قادیانی) ہے۔

۵..... سمبویالی پارٹی: جس کا مقتدا محمد سعید ہے۔ سمبویالی ایک گاؤں (پاکستان میں) ضلع سیالکوٹ کے پاس ہے۔ یہ شخص اسی گاؤں کا باشندہ ہے۔

لاہوری پارٹی اور محمودی پارٹی میں بظاہر تو اختلاف ضرور ہے اور اس اختلاف کی بنیاد یوں پڑی کہ مسٹر محمد علی یہ چاہتے تھے کہ حکیم نور الدین کے بعد (۱۹۱۴ء میں) میں خلیفہ بنایا جاوے۔ مرزا محمود کے سامنے ان کی نہ جلی۔ لہذا دونوں میں رنجش ہو گئی۔ مگر عقائد کے اعتبار سے دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو کچھ فرق ہے وہ ایک عقلمند کی نظر میں جنگ زرگری سے زیادہ نہیں ہے۔

بہر کیف جو کچھ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ لاہوری پارٹی مرزا کو مقتدا، پیشوا، مسیح موعود، مجدد وقت، سب کچھ مانتی ہے۔ مگر ان کی نبوت کے متعلق اپنا یہ عقیدہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ مجازی طور پر نبی کہے گئے ہیں۔ حقیقی نبی نہ تھے اور مرزا قادیانی نے جن جن الفاظ میں دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ ان الفاظ کی دوزار کار تاویلات کر کے چاہتی ہے کہ حقیقت حال پر پردہ ڈالے۔

محمودی پارٹی کہتی ہے کہ مرزا حقیقی طور پر نبی تھا۔ جیسے اور انبیاء ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کا نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا نہ ماننے والا۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کے کلمات کی تاویل نہیں کرتی اور اس کے دعویٰ نبوت کو چھپانا پسند نہیں کرتی۔ بلکہ (پنڈت من گھڑت تاویلات کے پردہ میں) ختم نبوت کا انکار کرتی ہے۔

لاہورن پائی دراصل بڑی (نفاق کی) پالیسی سے کام لے رہی ہے۔ اس نے دیکھا ان دعویٰ نبوت سے بھڑکتے ہیں اور ایسے متوحش ہوتے ہیں کہ پھر ان کے جال میں پھنسنے نہیں ک جا سکتی اور چندہ وغیرہ جو کچھ وصول ہوتے ہیں وہ مسلمانوں ہی سے وصول ہوتے

ہیں۔ اس لئے اس نے یہ روش اختیار کی ہے کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے اور مرزا کے نہ ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ چنانچہ اس پالیسی سے بہت کچھ فائدہ اٹھا رہی ہے اور مسلمان جس قدر اس کے فریب میں آجاتے ہیں محمودی پارٹی کے فریب میں نہیں آتے۔

محمودی پارٹی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کے امام مرزا محمود کو اپنے باپ کے ترکہ نے پورے طور پر مستغنی کر دیا ہے۔ نیز وہ دیکھتی ہے کہ مرزا کا دعویٰ نبوت کسی تاویل سے چھپ نہیں سکتا۔

مرزائیوں کی یہی دونوں پارٹیاں بڑی ہیں اور اس کتاب میں انہیں دونوں کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ دکھائی جائے گی۔ باقی تین پارٹیاں بہت مختصر مختصر ہیں اور انہیں دونوں کے رد سے وہ بھی مردود ہو جاتی ہیں۔ لہذا محض بغرض علم کچھ اجمالی تذکرہ ان کا اس مقام پر لکھا جاتا ہے اور بس۔ ظہیری پارٹی، مرزا کو نبی و رسول سے بالاتر خدا کا مظہر قرار دیتی ہے اور اپنے اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔ جن میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔ اس پارٹی کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ظہیر الدین اردہلی جو اس فرقہ کا امام ہے۔ وہ یوسف موعود ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی یہ بھی کی گئی کہ: ”میرے بعد یوسف آئے گا۔ بس اسے یوں سمجھ لو کہ خدا ہی اتر ہے۔“

ظہیر الدین کہتا ہے کہ وہ یوسف میں ہوں اور میں بھی خدا کا مظہر ہوں۔ ”نعوذ باللہ من ہذاہ الکفریات الصریحۃ“

ظہیری پارٹی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ قادیان مکہ ہے وہاں خدا کے ایک رسول نے جنم لیا تھا۔

تیسرا پوری پارٹی، بھی مرزا کو نبی و رسول مانتی ہے۔ مگر اس کا پیشوا عبد اللہ تھاپوری مرزا سے سبقت لے گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے خود اپنے بازو سے الہام ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی کتاب ”تفسیر آسمانی“ میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ خلاف وضع فطرت طوٹ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

سمبڑیالی پارٹی، سب سے سابق القدم ہے۔ محمد سعید جو اس کا پیشوا ہے۔ کہتا ہے خدا نے مجھے قرآن انبیاء فرمایا اور کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کو نبی شریعت ملی تھی وہ شریعت محمدیہ کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے۔ مگر اس کا موقع پورے طور پر جان کو نہیں ملا۔ یہ شخص جو اصلاحات شریعت محمدیہ کی (مرزا قادیانی کی اصلاحات کے علاوہ) اب تک پیش کر چکا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔

.....۱ شراب حلال ہے۔

.....۲ اپنی رشتہ داری میں مثلاً خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، کی لڑکی سے نکاح حرام ہے۔

.....۳ ختنہ حرام ہے۔ ”وغير ذلك من الخرافات نعوذ بالله منها“

یہ پانچوں پارٹیاں آپس میں اس قدر اختلاف ظاہر کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں۔ مگر دین اسلام کے تباہ کرنے اور مسلمانوں کے لوٹنے میں سب مشترک سعی کر رہی ہیں۔ سب کی یہ متفقہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو حضرت رمتہ اللعالمین ﷺ کے ظل رحمت سے نکال کر مرزا غلام احمد قادیانی کی امت بنایا جائے۔ خدا اس بلا سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ورنہ ان کے مکرو فریب سے بچنا ہر ایک کا کام نہیں۔

### تنبیہ ضروری

مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکس لقب سے یاد کئے جائیں۔ اس میں بھی بعض ناواقف سخت غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عرف عام اور کاغذ اہل اسلام نے اس فرقہ کو مرزائی کا لقب دیا ہے۔ اس لقب کا رواج بھی کافی ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس فرقہ کو قادیانی بھی کہتے ہیں۔ یہ لقب بھی پوری شہرت حاصل کر چکا ہے۔ سمجھنے میں تاثر نہیں ہوتا اور خانقاہ رحمانیہ مونگیر (بہار) سے اس طائفہ کو ”جدید عیسائی“ کا خطاب ملا ہے جو واقعی بہت موزوں اور بامعنی ہے۔ عالی جناب (امام اہل سنت) حضرت مولانا صاحب مدیر ”انجم“ عم فیضہ نے بمقام بھاگلپور مولوی عبدالماجد صاحب مرزائی کے اس اصرار پر کہ ہمیں غلام احمد کے نام کی طرف نسبت دیجئے۔ ان کو غلامی کا لقب دیا تھا۔ یہ لقب بھی بعض اہل علم کی مطبوعہ تحریرات میں آچکا ہے۔ پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس فرقہ کو انہی چار ناموں میں سے کسی کے ساتھ یاد کیا کریں۔

.....۱ مرزائی۔ ۲..... قادیانی۔ ۳..... جدید عیسائی۔ ۴..... غلامی۔

اس فرقہ کی خواہش ہے کہ ان کو ”احمدی“ کہا جائے اور اپنی تحریرات میں وہ اپنے کو احمدی لکھتے ہیں۔ مگر مسلمان اس خواہش کو ہرگز پورا نہیں کر سکتے۔ بدوہجہ۔

اول! یہ کہ اس لفظ میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید رسول خدا ﷺ کی طرف نسبت مراد ہو۔

دوم: اس وجہ سے کہ آج کئی سو برس سے لفظ احمدی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کے تبعین کے نام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ ان حضرات کی مہروں میں یہ لفظ کندہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب کی مہر ہے۔ (غلام علی احمدی) حضرت مولانا شاہ احمد سعید صاحب کی مہر ہے۔ (احمد سعید احمدی)

لہذا مرزائیوں کے لئے اس لفظ کا استعمال ایک طرح کا غصب ہوگا۔ کسی مسلمان نے کبھی اس فرقہ کو احمدی لکھا ہو تو یہ اس کی ناواقفیت ہے یا سبقت قلم۔  
 ”عافانا اللہ من جمیع ما یکرہ“

## پہلا باب

رنگون میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے مقابلہ کے واقعات

خواجہ کمال الدین صاحب جو مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کے سرگرم مبلغ بلکہ اس پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ پہلے لاہور میں وکالت کرتے تھے۔ مگر اس میں چنداں کامیابی نہ تھی۔ لہذا اس کو ترک کر کے آپ نے سارے ہندوستان میں اعلان کر دیا کہ میں تبلیغ اسلام کے لئے لندن جاؤں گا۔ مسلمان اس دلفریب لفظ کو سن کر گردیدہ ہو گئے اور خوب خوب چندہ دیا۔ خواجہ صاحب لندن تشریف لے گئے اور وہاں خوب عیش سے ہوٹلوں میں قیام فرماتے ہوئے مرزائیت کی ترویج میں مشغول ہوئے۔ مسلمانوں کی برابر سادہ لوح قوم شاید ہی دوسری ہو۔ غالباً آج کوئی عیسائی ان سے کہے کہ میں تبلیغ اسلام کا کام کروں گا۔ مجھے چندہ دو تو وہ اس کو بھی چندہ دینے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

خواجہ صاحب کی جماعت نے ایک انگریزی ترجمہ قرآن مجید تیار کیا اور اس کے لئے مسلمانوں سے چندہ مانگا۔ دوسرے مقامات سے جس قدر رقمیں ملی ہوں ان کا تو حساب نہیں۔ صرف رنگون سے تقریباً سولہ ہزار روپیہ دیا گیا۔ وہ ترجمہ لندن میں چھپوایا گیا اور اب معقول قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ اس ترجمہ میں شروع سے لے کر آخر تک تمام خرافات مرزائیت کے بھرے ہوئے ہیں۔ جو دین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ جیسا کہ عنقریب نمونہ اس کا پیش کیا جائے گا۔

خواجہ کمال الدین کی نظر بر ماپر

اسی سلسلہ میں خواجہ صاحب کو رنگون کی طرف توجہ ہوئی اور آپ نے بعض اہل رنگون سے خط و کتابت کر کے (ماہ ستمبر ۱۹۲۰ء کی ابتدائی تاریخوں میں) رنگون تشریف لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ رنگون تشریف لانے سے آپ کے دو مقصد تھے۔

اول! یہ کہ صوبہ برہما میں مرزائیت کی اشاعت کریں۔

دوم! یہ کہ مسلمانوں سے جن کے دین کی بیخ کنی آپ فرماتے ہیں۔ چندہ بھی لیں۔ سنا ہے کہ بعض تاجران رنگون نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ کم از کم ایک لاکھ روپیہ چندہ کر کے فراہم کر

دیا جائے گا۔ مگر خوش قسمتی سے رنگون میں جمعیت العلماء قائم ہے اور کئی مدارس اسلامیہ ہیں۔ جن کی وجہ سے علمائے کرام کی ایک جماعت رنگون میں مقیم ہے۔ جمعیت علماء کو جب خواجہ صاحب کی تشریف آوری کی خبر ملی تو ان حضرات کو محض بوجہ حمیت دینی اس کا خیال پیدا ہوا اور وہ خدا کا نام لے کر اس بات کے لئے مستعد ہوئے کہ خواجہ صاحب کو مرزائیت کی اشاعت میں کامیابی نہ ہونے پائے۔ چندہ چاہے ایک لاکھ کی جگہ دو لاکھ لے جائیں۔ اس کی کچھ پروا نہیں۔ چنانچہ خواجہ صاحب کے تشریف لاتے ہی کئی اشتہارات جن میں مرزا کے حالات اور مرزائیت کی حقیقت پورے طور پر ظاہر کی گئی تھی۔ معززین شہر اور جمعیت العلماء کی طرف سے تمام شہر میں تقسیم اور چسپاں کئے گئے۔

### حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کی رنگون تشریف آوری

ان اشتہارات سے فی الجملہ واقفیت ”مرزائی مذہب“ سے مسلمانان رنگون کو حاصل ہو چکی تھی۔ مگر اس کے بعد جمعیت العلماء نے یہ رائے طے کی کہ عالی جناب (امام اہل سنت) مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی مدظلہ مدیر ”النجم“ لکھنؤ کو رنگون آنے کی تکلیف دی جائے تاکہ اس فتنہ کا پورے طور پر قلع و قمع ہو جائے۔

چنانچہ ایک تاریخ تار آپ کی خدمت میں بھیجا گیا اور آپ نے بمقتضائے حمیت دینی اس طویل سفر کو گوارا فرمایا۔ ۷ محرم الحرام ۱۳۳۸ھ (بمطابق اگست ۱۹۲۰ء) کو آپ رونق افروز رنگون ہوئے اور آپ نے سہی بلیغ، اس فتنہ کے قلع و قمع میں مبدول فرمائی۔ حق تعالیٰ نے آپ کو سہی جمیل کو مشکور کیا اور نتیجہ حسب مراد نکلا۔

جو جو کوششیں جناب ممدوح نے کیں ان سب کا علی التفصیل ذکر کرنا تو بہت طویل چاہتا ہے۔ لہذا جو بڑی بڑی باتیں ہیں اور جن کا ذکر کرنا مسلمانوں کے لئے مفید ہے۔ حوالہ قلم کی جاتی ہے اور ان کو متن عنوان پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

اول ..... خواجہ صاحب کو آپ نے جو تحریرات بھیجیں مع جواب و جواب الجواب۔  
دوم ..... جو اشتہارات آپ نے شائع کرائے یا خواجہ کمال الدین کی طرف سے شائع ہوئے۔  
سوم ..... جو مواعظ آپ نے بیان فرمائے۔

### سلسلہ تحریرات

جناب ممدوح نے تشریف لاتے ہی ایک تحریر خواجہ صاحب کو لکھی جو جمعیت العلماء کی طرف سے خواجہ صاحب کو بھیجی گئی۔ وہو هذا!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

حامداً ومصلياً أما بعد!

بخدمت شریف جناب خواجہ کمال الدین صاحب! بالقبایہ

بعد ما ہوا المسنون واضح ہو۔ جناب کو معلوم ہو چکا ہے کہ باستدعائے مسلمانان رنگون

جناب مولانا محمد عبدالشکور صاحب لکھنوی وارد رنگون ہوئے ہیں۔ ”فالحمد لله على ذلك“

لہذا یہ بہترین موقع اس امر کا ہے کہ جناب ممدوح کے سامنے جلسہ عام میں آپ ان شکوک کو دور کریں جو آپ کے مذہب کے متعلق مسلمانوں کو ہیں اور دریاں حالیکہ آپ انہی مسلمانوں کے نائب بن کر انہیں سے روپیہ لے کر تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔

اگر یہ ثابت ہو جائے کہ درحقیقت آپ مذہب سنی حنفی ہیں اور بقول آپ کے مرزا غلام احمد بھی مسلمان بلکہ سنی حنفی تھے اور انہوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ کہ شریعت اسلامیہ ان جیسے شخص کو ”رجل صالح“ سمجھنے سے منع نہیں کرتی تو پھر مسلمانوں کو آپ کی طرف سے کوئی شک نہ رہے گا اور سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ورنہ حقیقت حال کا انکشاف ایک عمدہ نتیجہ ہوگا۔ فقط!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

”الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصفطى اما بعد“

جمعیت العلماء کی طرف سے جناب خواجہ کمال الدین صاحب کو واضح ہو کہ جو تحریر ملفوف، عامۃ اہل اسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں کل بھیجی گئی تھی۔ مگر آپ نہ ملے، آج پھر بھیجی جاتی ہے۔ قوی امید ہے کہ آپ اس تحریر کی استدعا کو قبول فرما کر اپنے کو ایک اہم فریضہ سے سبکدوش فرمائیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ کا مذہب جو اکثر عوام کے نزدیک مشتبہ و نامعلوم ہے۔ بالکل آشکارا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ پر دھوکہ دینے اور فریب کرنے کا الزام عائد نہ ہو سکے گا۔

آپ کی طرف سے نوید قبول ملنے کے بعد جمعیت ہذا تعین وقت و مقام سے آپ کو اطلاع دے گی۔ آخر میں اس قدر عرض اور ہے کہ اس علمی اور مہذب گفتگو سے آپ اگر کوئی عذریہ انکار فرمائیں گے تو بہت ہی نامناسب ہوگا اور اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ آپ اپنا مذہب پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو کچھ آپ کے مشن پر پڑے گا اس کو خود سمجھ سکتے ہیں۔ فقط

## نوٹس

مسٹر کمال الدین صاحب بی۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی! واضح ہو کہ بہت کچھ تحقیق و تفتیش کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے اور ہمیں اس وقت اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کے عقائد، اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور آپ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لئے آپ کو مسلمانوں کی طرف سے تبلیغ اسلام کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نہ آپ مسلمانوں کے جائز سفیر کہلا سکتے ہیں۔ اصول اسلام مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی مانی یا جانی کسی قسم کی امداد کریں۔ اگر آپ کو اس نتیجے میں کچھ کلام ہے اور اپنے آپ کو اہل اسلام کا جائز سفیر ثابت کر سکتے ہیں تو باقاعدہ تقریری مناظرہ کے لئے بتاریخ ۱۹ ستمبر ۱۹۲۰ء بروز اتوار مدرسہ راندیریہ نمبر ۱۴ مغل اسٹریٹ میں بوقت ۹ بجے صبح تشریف لا کر مناظرہ کر لیں۔ فقط!

جمعیت العلماء نمبر ۳۶، مغل اسٹریٹ رنگون

اس کے بعد ۱۹ ستمبر کو ایک جلسہ مدرسہ محمدیہ راندیریہ ہال میں ہوا اور اس جلسہ کی طرف سے حسب ذیل تحریر بنام جناب سر جمال صاحب (جن کے گھر خواجہ صاحب مقیم تھے) بھیجی گئی۔

خط بنام سر جمال صاحب رئیس رنگون

مہربان عالی شان جناب آرنیبل سر عبدالکریم بن حاجی عبدالشکور جمال صاحب سی۔ آئی۔ ای رنگون۔ آپ کی خدمت میں ہم حسب ذیل صاحبان کی عرض ہے کہ عالی جناب خواجہ کمال الدین صاحب بی اے، ایل ایل بی رنگون میں تشریف لائے ہیں اور آپ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے (لاہوری گروپ کا سرغنہ اور مرزا قادیانی کا مرید خاص ہونے کے باوجود) اپنے لیکچروں میں کہا کہ میں سنی حنفی ہوں۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگوں میں دوسوہ ہو گیا ہے۔

ہم نے سنی جماعت کے علماء سے دریافت کیا اور باہر یعنی ہندوستان کے سنی علماء کرام سے بھی دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگوں کو جو دوسوہ ہوا تھا اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لئے اور زیادہ گڑبڑی ہوئی ہے۔

آپ دانا دینا ہو اور سب باتوں کو سمجھنے والے ہو۔ قوم میں اتفاق کرانے میں آپ کا کمال ہے اور عام طور سے سب کو معلوم ہے کہ ایسے کاموں میں آپ کی بہت کوششیں ہیں۔ مگر اب اپنی ہی قوم میں یہ مرض پھیل گیا ہے۔ اس کو دور کرنا چاہئے۔ اس لئے اپنی قوم کے لیڈروں کا فرض ہے کہ اس بات کو طے کریں اور سب مسلمانوں کو جمع کر کے سنی جماعت کے علماء کرام کو اور خواجہ



کمال الدین کو بھی بلایا جائے اور سب جماعت کے روبرو ان کی بحث ہونی چاہئے کہ جس سے عوام کا وہم دور ہو جائے اور یہ سب باقاعدہ تقریریں خلاصہ ہونا چاہئے اور اپنی قوم کا بھی اتفاق جیسا کہ اس کے قبل تھا ہم کو امید ہے ویسا ہو جائے گا اور یہ سب بلا دور ہو جائے گی۔ اس لئے ہماری اس عرض کو آپ ضرور قبول فرمائیں گے اور اس کا خیر میں ضرور ہماری امداد کریں گے اور اس کام کو اچھی طور سے انجام دیں گے۔ آپ مسلمان قوم کے بڑے لیڈر ہیں تو لیڈر انہ فرض ضرور بجالاویں گے۔ ایسی ہم کو امید ہے اور جو وقت آپ مناسب سمجھو وہ ہم کو اطلاع دیں۔ ہم ضرور اس کا انتظام کریں گے اور آپ کی بھی ہم اس کام میں مدد کریں گے۔

یوسف ہاشم ودہلی پریسیڈنٹ جلسہ

اس تحریر پر علاوہ پریسیڈنٹ کے پینتیس معزز تاجران رنگون کے دستخط تھے۔ ان تمام پے در پے کوششوں کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب کی مہر سکوت ٹوٹی اور ہزار مشکل حسب ذیل تحریر آئی۔

نقل خط خواجہ کمال الدین صاحب مرزائی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

مکرمی جناب محمد حاجی احمد با داموسیٰ جی قاسم۔ ابراہیم ماجوا، ابراہیم اسمعیل پٹیل احمد اسمعیل واید۔ سلیمان موسیٰ ملا۔ غلام حسین ابراہیم ماجوا۔ موسیٰ محمد وغیرہ صاحبان۔

السلام علیکم ورحمته اللہ وبرکاتہ!

آپ کا عنایت نامہ مجھے ملا۔ میرے نزدیک آپ کا مطالبہ یہاں تک تو صحیح ہے کہ آپ کو میرے معتقدات کے متعلق صاف طور پر علم ہو جائے کہ وہ کیا ہیں۔ سو وہ دنیا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ نہ میں نے انہیں کبھی پوشیدہ رکھا۔ یہاں آ کر بھی قریباً ہر ایک لیکچر میں ہزار ہا آدمیوں کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ان آٹھ سوالوں کا جواب بھی میں نے آپ میں سے بعض کو پرائیویٹ طور پر اور پھر عام پبلک میں بصدارت جناب سر جمال صاحب جوہلی ہال میں دے دیا۔ ایک خدا ترس مسلمان کا فرض تھا کہ وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتا اور میرے اسلام پر شبہ نہ لاتا۔ ہاں ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کو میرے معتقدات کا علم نہ ہو۔ اس لئے میں انہیں یہاں لکھ دیتا ہوں۔

”أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد النوت“

میں خدا کو ایک جانتا ہوں۔ حضرت محمد ﷺ کو نبی برحق اور ان پر سلسلہ رسالت و نبوت کو ختم شدہ مانتا ہوں۔ یعنی آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ میرے نزدیک کافر، کاذب اور خارج از اسلام ہے۔ میں قرآن کریم کو آخری کتاب اور شریعت محمدیہ کو آخری شریعت مانتا ہوں۔

میں اپنی ہدایت کے لئے اول قرآن کو اس کے بعد حدیث اور ان دونوں کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ صاحب کے اجتہاد کو اور ان پر ترجیح دیتا ہوں۔ میں اہل قبلہ ہوں اور میں مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔

میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات پر اور آپ کی معراج پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ باتیں کسی کو مسلمان نہیں بناتیں تو مجھے آپ سے پر خاش نہیں۔ ایسا ہی اگر یہ میری تحریر میرے اسلام کے لئے آپ کے نزدیک کافی نہیں تو اس کی بھی مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب آپ خدا کے آگے ذمہ دار ہیں۔ میں مولویانہ اکھاڑوں کا دشمن اور فرقی مباحثات کو اسلام کی تباہی کا موجب سمجھتا ہوں۔ اس میرے مسلک سے دنیا واقف ہے اور میں اس پر بفضلہ قائم ہوں اور کسی قسم کے لالچ سے اپنے اس اصول کو توڑ نہیں سکتا۔

آپ نے حضرت مرزا قادیانی مغفور کے دعوائے رسالت و نبوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں نہ ان کی طرف سے مبلغ ہوں نہ ان کے دعاوی کا معلم بن کر آیا ہوں اور نہ اس تعلیم و تبلیغ کے لئے ولایت گیا ہوں۔ ان کے دعاوی کے جو اس وقت مبلغ اور معلم ہیں۔ ان سے آپ ان کے متعلق فیصلہ کر لیں وہ یہاں آسکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس قدر شوق ہے۔ رہا میں ان کی نبوت و رسالت کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہوں۔ میں کسی شخص کو خواہ وہ مرزا قادیانی ہوں یا کوئی اور۔ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہیں مانتا اور ہرگز نہیں مانتا ہوں اور مدعی نبوت کو آنحضرت کے بعد کافر کاذب جانتا ہوں۔ ہاں میری اپنی تحقیق میں اور میرے علم و یقین میں یہی ہے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت نہ تھے۔ بروئے حدیث شریف ”لم یبق من النبوة الا المبشرات“ نبوت کے کل اجزاء تو ختم ہو چکے ہیں۔ صرف ایک جزو یعنی مبشرات امت محمدیہ میں جاری ہے۔ یعنی آنحضرت ﷺ کے بعض غلام، خدا سے مبشرات پائیں گے۔ ایسا ہی قرآن میں ”لھم البشری فی الحیوة الدنیا“ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے مراد خدا کا انسان سے ہم کلام ہونا

ہے۔ اسی کا نام الہام ولایت ہے۔ یہ امت محمدیہ میں جاری ہے اور میرے علم و یقین میں مرزا قادیانی اسی کے مدعی تھے۔ وہ آنحضرت ﷺ پر نبوت اور رسالت کو منقطع سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ۱۹۰۵ء میں علماء دین سے ایک استفتاء کیا۔ اس میں ذیل کی عبارت درج ہے۔

”والنبوة قد انقطعت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ولا کتاب بعد الفرقان الذی ہو خیر الصحف السابقة ولا شریعة بعد الشریعة المحمدیة بید انی سمیت نبیاً علی لسان خیر البریة وذلك امر ظلی من بركات المتابعة وہ۔ اری فی نفسی خیراً ووجدت کلمات وجدت من هذه النفس المقدسة وما عنی اللہ من نبوتی الا کثرة مکالمة والمخاطبة ولعنة اللہ علی من اراد فوق ذلك وحسب نفسه شیئاً او اخرج عنقه من الربقة النبویة وان رسولنا خاتم النبیین علیہ انقطعت سلسلة المرسلین فلیس حق احد ان یدعی النبوة بعد رسولنا المصطفیٰ علی الطریقة المستقلة وما بقی بعده الا کثرة مکالمة . وهو بشرط الاتباع لا بغير مبايعة خیر البریة وواللہ ما حصل لی هذا المقام الا من انوار اتباع الاشعة المصطفویة . وسمیت نبیاً من اللہ علی طریق المجاز لا علی وجه الحقیقة“

(الاستفتاء ضمیر حقیقت الوحی ص ۶۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۸۹)

یہاں نہ صرف صفائی سے یہ کہا ہے کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے۔ بلکہ یہ بھی اقرار کیا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا اطاعت رسول میں ملا اور جس نبوت کو میں اپنی طرف منسوب کرتا ہوں وہ مجازی ہے نہ حقیقی اور اپنا ایمان وہ اس طرح لکھتے ہیں: ”وبعزة اللہ وجلالہ انی مؤمن مسلم وأمن باللہ وکتبہ ورسله وملائکته وابعث بعد الموت وبان رسولنا محمد المصطفیٰ ﷺ افضل الرسل وخاتم النبیین“

(حجرات البشری ص ۸، خزائن ج ۷ ص ۱۸۲)

اپنے دعویٰ کے متعلق جہاں تک مجھے علم ہے۔ جناب مرزا قادیانی کی یہ آخری تحریر!

۱۔ مرزا قادیانی کی یہ تحریر ۱۸۹۳ء کی ہے۔ خواجہ صاحب اسے ”آخری تحریر“ بتا کر جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۰ء میں کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد دعویٰ نبوت سے متعلق مرزا قادیانی کی بے شمار تحریریں ہیں۔

ہے۔ مجھے مرزا قادیانی اس تحریر میں رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مملن ہے اس تحریر سے پہلے ان کی کسی تصنیف میں کوئی ایسا امر ہو جس سے ان کے دعویٰ کے متعلق کوئی شک پیدا ہو سکے۔ لیکن جس صورت میں اس مضمون پر یہ ان کی آخری تحریر ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف میرے علم میں آپ کی کوئی تحریر نہیں تو اس تحریر کے ہوتے ہوئے وہ میرے نزدیک مدعی نبوت نہیں ہیں۔ اگر اس تحریر پر بھی کوئی شخص انہیں رسالت کا دعویٰ رکھتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ انہوں نے بیشک مجازی طور پر اپنے متعلق لفظ نبوت یا نبی کا استعمال کیا ہے۔

لیکن اس طرح مجازی طور پر لفظ نبی یا مرسل کا استعمال جناب مرزا قادیانی سے پہلے بھی سلف صالحین میں موجود ہے۔ آپ چاہیں گے تو میں حوالے لکھ بھیجوں گا۔ ۱

آپ کی تفسی کے لئے میں نے یہ باتیں لکھ دی ہیں اور میرے نزدیک کافی ہیں۔ میں ایک کارخیر میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں۔ جس کی خاطر میں نے اپنی ہزاروں روپیہ کی آمدنی چھوڑ دی اور اب تک خود بھی اس کام میں اپنی گرہ سے خرچ کرتا ہوں۔ ابھی گذشتہ دسمبر میں میں نے تین ہزار روپیہ اپنی جیب سے دیا ہے۔ یہ کام بروئے تعلیم قرآن بہترین کارخیر ہے۔ اس کی طرف آپ کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو بسم اللہ! اور اگر آپ اس کارخیر میں ایسے شخص کے ذریعہ روپیہ خرچ کرانا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنے عقائد اس خط میں آپ کو لکھ دیئے ہیں جس

۱ آج تک سلف صالحین میں سے کسی نے اپنے متعلق نبی یا رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا نہ حقیقتاً نہ مجازاً۔ مرزائی دھوکہ بازوں کا یہ صریح جھوٹ اور فریب ہے۔ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی نے (فتوحات مکینہ ص ۶۳) میں لکھا ہے۔ ”اسم النبى زال بعد رسول الله ﷺ“ حضور ﷺ کے بعد نبی کا اسم ہی زائل ہو گیا۔ یعنی اپنی ذات سے متعلق کوئی شخص نبی یا مرسل کا لفظ استعمال کرے یہ جائز نہیں۔ دوسری جگہ شیخ اکبر لکھتے ہیں۔ ”فاخبر رسول الله ﷺ ان الرؤيا جزء من اجزاء النبوة فقد بقى للناس فى النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوه ولا النبى الا على المشرع خاصة . فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين فى النبوة“ (ج ۲ ص ۳۹۵) یعنی نبوت کے اجزاء میں سے رؤیا وغیرہ باقی ہے۔ لیکن باوجود اس کے نبی اور رسول کا لفظ اپنی ذات پر اطلاق کرنے سے روک دیا گیا۔ لہذا سلف صالحین میں سے کسی نے اپنی ذات پر مرزا قادیانی کی طرف نبوت کا لفظ استعمال کیا ہو اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حوالہ لکھ بھیجنے کی بات کرنا یہ خوبہ کمال الدین کی صرف بندر بھسکی ہے اور بس۔

نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے اپنے آپ کو فرقی بحثوں سے الگ کر دیا ہے۔ اس معاملہ میں یہاں بھی معتبر سے معتبر شہادت آپ کو مل سکتی ہے کہ میں نے جب سے انگلستان میں اشاعت اسلام کا کام شروع کیا ہے تب سے کسی خاصی فرقہ کی اشاعت میں نے نہیں کی۔ میں نے اس دن سے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا جو کسی فرقہ کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے صرف قرآن اور حدیث کو پیش کیا ہے اور آئندہ بھی میں اپنا مشن کسی فرقہ کی تعلیم سے وابستہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا ایمان اور ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اپنا روپیہ مجھے دیں اور اشاعت اسلام کے لئے آپ اپنا وکیل مجھے کریں اور یہ بھی یار رہے کہ میں حق و کالت نہیں لیتا ہوں جو کرتا ہوں بلا مزد اور عندا نڈ کرتا ہوں۔ ان حالات پر بھی اگر آپ کی تشفی نہیں تو آپ پر حرام ہے کہ ایک پیسہ بھی اس راہ خدا میں مجھے دیں۔

میں ایک نصیحت آپ کو کرتا ہوں کہ اسلام نے جو نقصان اٹھایا وہ ان اندرونی تنازعات اور باہمی فرقی مباحثات سے اٹھایا۔ آج اسلامی سلطنتیں زیادہ تر انہیں جھگڑوں سے تباہ ہو گئی ہیں۔ ایران اور ترکی میں تنازعہ فرقہ کے باعث جو دشمنان اسلام نے فائدہ اٹھایا اور اس کا نتیجہ جو ہوا وہ آپ پر بھی ظاہر ہے۔ اگر آپ نے ابھی یہ نہیں سمجھا تو آج مجھ سے سمجھ لیں کہ ہماری تباہی کا ایک بڑا موجب یہی فرقی مباحثات ہیں۔ میں گذشتہ آٹھ سال سے ہر جگہ یہی وعظ کرتا ہوں۔ یہی میری تحریریں بھی ہیں کہ مسلمانو! خدا کے واسطے ان آپس کے تنازعات سے بچو۔ ان اختلاف فرقی کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بقول پیغمبر رحمت ہیں۔ لیکن تاجران مذہب اور پیشہ ور مناظرین نے انہیں ہمارے لئے مصیبت بنا دیا ہے۔ بہر حال میرا یہ اصول ہے کہ مسلمانوں کو مباحث فرقہ سے روکوں اور ان کو متفقہ اصول اسلام کی اشاعت پر بلاؤں اور یہ میں نے کیا ہے اور کامیاب ہوا ہوں۔ جو میرا اعلان شدہ اصول ہو اس اصول کے خلاف مجھے آج بلانا عقلمندوں کے شایان شان نہیں۔ جس صاحب کو کسی نے لکھنؤ سے یہاں فرقی تنازعات کے میدان گرم کرنے کے لئے بلوایا ہے۔ ان کو بھی میرے اس اصول کا علم ہے۔ آپ جیسے چند شرفا کے نام پر یہ صاحب میرے پاس لکھنؤ میں آئے اور میں نے ان کو اس وقت بھی مباحثہ یا مناظرہ کی اجازت نہیں دی۔ صرف میں نے اسی قدر ان کو اجازت دی کہ میں ان کو لکھا دوں کہ میں کیا مانتا ہوں۔ اور کیا نہیں مانتا ہوں۔ میں نے اس کے علاوہ برنگ مناظرہ کچھ بولنے کی اجازت ان کو نہیں دی۔ اس چٹھی میں میں نے بالتفصیل اپنے عقائد لکھ دیئے۔ اگر آپ یہ باتیں میرے منہ

سے سننا چاہتے ہیں تو کسی لیکچر کے بعد میں اس چٹھی کو پڑھ دوں گا اور اسی لئے یہ چٹھی میں نے خود پڑھ کر سنادی ہے۔ خدا سے ڈرو۔ اسلام کی رہی سہی حیثیت کو ان فرقہ بندیوں کے باعث تباہ نہ کرو۔ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ سلطنت، طاقت، شوکت سب چلی گئی۔ صرف علمی طور سے اور دلائل کے ساتھ ہم آج اسلام کی حقانیت دوسروں پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ سوائے اس کے ہمارے پلے اور کیا رہ گیا۔ کیا آپ لوگ اس کام سے بھی ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ چاہئے تھا کہ آپ لوگ اور ایسے ہی یہ مولوی صاحبان مجھے غیر مسلموں کے مقابل میں اصول اسلام پیش کرنے میں امداد دیتے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ میرے یہاں کے لیکچروں نے یہاں کے بعض انگریزی خواں مسلمانوں کو بے دینی سے بچایا اور ایک طرح انہیں از سر نو مسلمان کیا۔ بد مذہب والوں اور ہندوؤں کو اسلام کے قریب کیا۔ ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا کی۔ یہی کام علماء کا ہونا چاہئے تھا جو انہوں نے چھوڑ دیا اور فرقی مباحثات میں پڑ گئے۔ میں جس دن سے یہاں آیا ہوں مختلف قسم کے شکوک، مسلمان لوگ میرے پاس لے کر آئے۔ انہیں ہلکوک کے دفعیہ میں نے بعض لیکچر دیئے۔ ایک خط میرے پاس ابھی آیا ہے جس میں چند اور سوال کا جواب مجھ سے طلب ہوا ہے۔ میں ان کا ترجمہ ذیل میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کچھ بھی غیرت اسلام ہے تو کیوں میرے ساتھ اس معاملہ میں امداد نہیں کرتا۔ اگر آپ کو محبت اسلام ہے تو جو روپیہ کسی ایک مولوی صاحب کو لکھنؤ سے بلانے میں خرچ ہوا ہے وہ بھی نفع بخش ہو جائے گا۔ آپ ان سوالات کو ان علماء کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وہ پبلک جلسہ میں اس کا جواب دے دیں اور اس کا جواب اگر انگریزی میں ہی دیتا ہو۔ کیونکہ شاید مسائل اردو نہیں سمجھتا اور چٹھی بھی انگریزی میں ہے تو ان علماء سے جواب لکھا کر مجھے بھیج دیں میں منکھور ہوں گا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ کہاں تک آپ مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ اور قرآن سے محبت ہے یا کہاں تک لوگ دولہ مولویوں کو آپس میں لڑا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔

اب میں ان سوالات کا خلاصہ لکھ دیتا ہوں جن کے جواب میں آپ کو اگر کچھ بھی غیرت اسلام ہے تو میری مدد کریں۔ وہ یہ ہے۔

بالغے صاحب کے سوالات

..... جس صورت میں قرآن بعض مذاہب دیگر ان کا خدا کی طرف سے آنا تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر قوم کو نبی دیا گیا پھر کہتا ہے نبی قوم کی زبان میں آتا ہے اور یہ بھی فرماتا

۱۔ خدا کی قدر خواجہ صاحب اپنے کو بھی مولوی سمجھتے ہیں۔

ہے کہ قرآن عربی میں اس لئے آیا کہ تم سمجھ سکو۔ پھر کیوں آنحضرت ﷺ کل دنیا کے لئے رسول بن کر آئے؟ وہ عربی نہ بولنے والی قوموں کے نبی نہیں ہو سکتے۔

۲..... کتب سابقہ خدا نے بھیج کر کیوں منسوخ کیں۔ اگر ان میں کوئی کمی تھی جو قرآن نے پوری کی تو سابقین کو کیوں اس سے محروم کیا گیا۔ صحیفہ قدرت میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی خدا کی بتائی ہوئی چیز کی موجودگی میں اسے باطل اور بے مصرف خدا نے نہیں کیا۔

۳..... بہائی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جناب آدم سے ہدایت کا وعدہ تھا وہ جب تک بنی آدم رہیں گے وہ وعدہ جاری رہے گا۔ پھر قرآن کیوں خاتم ہدایت ہے اور آنحضرت ﷺ کیوں خاتم النبیین ہیں۔

۴..... بروئے تعلیم قرآن ایمان باللہ، ایمان بالآخرة، عمل صالح، نجات کے لئے کافی ہیں۔ کسی خاصل رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ (سورۃ بقرہ آیت ۶۲) پھر کیوں آنحضرت ﷺ کی رسالت منوانا ضروری ہے۔ اس خط کی نقل رکھ لی گئی۔ والسلام!

خواجہ کمال الدین فقط

مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۲۰ء

ناظرین! نے دیکھا کہ یہ تحریر کس قدر پر فریب کار روایوں سے بھری ہوئی ہے۔ جواب میں سب باتوں سے قطع نظر کر کے صرف اصل مقصد کے متعلق ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاکہ تحریر کو طول نہ ہو اور بات خلاف بحث نہ چلی جائے۔

مثلاً شروع خط میں لکھا ہے کہ میں نے اپنا مذہب کبھی چھپایا نہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ رنگون میں بھی اپنا مذہب چھپایا۔ لوگوں کے سوالات کے جواب نہ دیئے۔ مطبوعہ آٹھ سوالوں کا پرائیویٹ جواب دینا چہ معنی؟

اور مثلاً اندرونی و فرقی تنازعات کے متعلق بہت کچھ نصیحتیں مسلمانوں کو کیں۔ لیکن اپنے پیشوا مرزا غلام احمد کو کچھ نہ کہا کہ اس نے کیوں یہ نزاعات برپا کئے؟ کیوں نئی نئی موش باتیں اپنے دل سے گڑھ گڑھ کر بیان کیں؟ کیوں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنایا؟

اور مثلاً لکھا کہ میں لندن میں مرزائیت کی تبلیغ نہیں کرتا یہ کیسا مفید جھوٹ ہے۔ رسالہ اشاعت اسلام بابت فروری واگست ۱۹۲۰ء سے خاص مرزائیت کی تبلیغ کا پورا ثبوت ملتا ہے اور مثلاً لکھا کہ: ”میں نے لکھنؤ میں جناب مولانا عبدالشکور صاحب کو اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہ دی۔“ یہ کس قدر نخوت و انانیت کا کلمہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لکھنؤ میں برسر حکومت تھے اور

مولانا محمود آپ کی اجازت کے محتاج تھے۔ علاوہ ازیں جھوٹ بھی ہے۔ لکھنؤ کی تقریر کا اشتہار اسی دن چھپ گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود ہی معافی مانگی تھی۔

اور مثلاً باگلے صاحب کو آمادہ کر کے ایک مضمون شائع کر دیا تاکہ ان کا پیچھا چھوٹ جائے۔ مگر، رانے اس کو انہیں پرالٹ دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

حامدًا ومصليًا

جناب من: کمال الدین صاحب!

بعد ماہوا المسون واضح ہو۔ کل بعد مغرب آپ کا عنایت نامہ کئی روز کے انتظار شدید اور وعدہ امروز و فردا کے بعد ملا۔ جس کا شکر یہ قبول فرمائیے۔ اگرچہ بعض کلمات آپ کے قلم سے ہمارے علمائے دین کی شان میں خلاف ادب نکل گئے ہیں۔ لیکن ہم اس سے درگزر کر کے آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ صرف دو تین باتوں کے متعلق اپنی تفسیحی چاہتے ہیں۔

افسوس ہے کہ آپ نے بالمشافہ ہمارے علمائے کرام کے سامنے گفتگو کرنے سے صاف انکار کر دیا ورنہ معاملہ بہت جلد صاف ہو جاتا اور یہ نزاع فرقی جس سے آپ اپنا شفر ظاہر کرتے ہیں اور اس کو باعث تنزل اہل اسلام بیان کرتے ہیں، یقیناً مٹ جاتا۔ خیر اب امور ذیل کا تفسیحی بخش جواب دیجئے۔ لیکن براہ کرم مثل سابق وعدہ امروز و فردا میں وقت گزاری نہ فرمائیے۔

..... اپنے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ مجازی طور پر کیا ہے اور ان کی کتاب ”استفتاء“ کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو جانے کی تصریح ہے۔ اس موقع پر دو باتیں جو اب طلب ہیں۔

اول یہ کہ مرزا قادیانی نے جا بجا تمام نبیوں سے خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا افضل ہونا بیان کیا ہے اور اپنے الہام و وحی کو کتب الہیہ اور قرآن شریف کا ہم پایہ قرار دیا ہے۔ دیکھئے اسی کتاب حقیقت الوحی میں جس کے ضمیمہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقہ بین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳، مطبوعہ ۱۹۰۷ء)



نیز اسی کتاب میں ہے: ”پھر جب کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

(حقیقت الوحی ص، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹)

دوسری کتابوں میں مرزا قادیانی نے اس سے بھی بہت زیادہ لکھا ہے۔ مگر چونکہ آپ نے ضمیمہ حقیقت الوحی کا حوالہ دیا ہے۔ لہذا ہم نے بھی اسی پر قناعت کی۔

نیز تترہ حقیقت الوحی میں ہے کہ: ”خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔“

(تترہ حقیقت الوحی ص ۲۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۲۴۰)

پس اب سوال یہ ہے کہ کیا مجازی نبی حقیقی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ یا اس کا الہام حقیقی نبی کے الہام کے برابر قطعی اور یقینی ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ افضلیت و مساوات کا روشن دلیل اس بات کی ہے کہ مرزا قادیانی نے مجازی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

دوم یہ کہ: (استثناء ص ۲۳) میں جس کی عبارت کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ مرزا قادیانی ختم نبوت کے ساتھ ایک استثناء لگا چکے ہیں۔ (لہذا) آپ کے تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ص ۲۲ کی عبارت ملاحظہ ہو: ”وان نبیاء خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ الا الذی ینور بنورہ ویكون ظهورہ ظل ظهورہ فالوحی لنا حق وملك بعد الاتباع“

(الاستثناء ص ۲۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۳۳)

(ترجمہ) بے شک ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مگر وہ شخص نبی ہو سکتا ہے جو حضور ﷺ کے نور سے منور ہو اور اس کا ظہور حضور کے ظل کا ظہور ہو۔ لہذا حضور کی اتباع کے بعد وحی کے ہم حق دار اور مالک ہیں۔

پس جب مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ ختم نبوت آنحضرت ﷺ کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے کے لئے نہیں ہوا تو آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ کس طرح قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔

۲..... معراج شریف پر ایمان رکھنے والے کو آپ مسلمان ہونے کے لئے

ضروری لکھتے ہیں۔ لیکن آپ کے مرزا قادیانی اس کے منکر ہیں اور معراج کو ایک قسم کا کشف کہتے ہیں۔ چنانچہ ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں کہ: ”سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔“ (ازالہ ص ۴۷، خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)

پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ: ”اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۷، خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)

اس عبارت میں یہ گستاخی قابل دید ہے کہ رسول رب العالمین ﷺ کے جسم انور کو کثیف کہا۔ (معاذ اللہ منہ)

۳..... مرزا قادیانی نے صرف یہی ایک بات خلاف قرآن کے اور خلاف دین اسلام کے نہیں کہی کہ ختم نبوت میں ایک استثناء لگایا اور اس کا انکار کیا اور اپنی نبوت و رسالت کا دعوئی کیا۔ بلکہ اور بھی بہت سی باتیں ان میں ایسی ہیں کہ ان میں کی ایک بات بھی اسلام سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے۔

مثلاً انہوں نے اپنی جھوٹی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت سے یہ لکھا کہ اگلے نبیوں اور خاص کر سرور عالم ﷺ کی بعض پیشین گوئیاں ٹل گئیں یا جھوٹی ہو گئیں۔

(ضرورۃ الامام ص ۱۷، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸، ازالہ اوہام ص ۲۳۳، خزائن ج ۳ ص ۴۹۵) اور مثلاً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو عمل مسمریزم اور قابل نفرت و مکروہ لکھا اور ان کی سخت توہین کی۔ (ازالہ ص ۳۱۱، خزائن ج ۳ ص ۲۵۸)

اور مثلاً انہوں نے نبیوں کی نسبت لکھا کہ وحی کے سمجھنے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۲۴، خزائن ج ۹ ص ۱۳۳، ازالہ اوہام ص ۷۳۶، خزائن ج ۳ ص ۴۹۶)

اور مثلاً انہوں نے آنحضرت ﷺ کی شان اقدس و ارفع میں یہ لکھا کہ: ”دجال وغیرہ کی حقیقت ان پر منکشف نہ ہوئی تھی۔ مجھ پر منکشف ہوئی۔“ (ازالہ ص ۶۹۲، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳) اور مثلاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک خانہ سازی وحی میں صاحب اولاد قرار دیا اور اس کو خاطمی ٹھہرایا۔ (حقیقت الوحی ص ۸۶، ۱۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹، ۱۰۶)

اور مثلاً اعجاز احمدی میں احادیث نبویہ کی نسبت لکھا کہ: ”جو حدیث ہماری وحی کے خلاف ہو اس کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“ (اعجاز احمدی ص ۳۱، ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۱۴۰) اور آنحضرت ﷺ کی توہین کے لئے مرزا قادیانی کا یہ شعر کافی ہے۔

اخذنا عن الحی الذی لیس مثله  
وانتم عن الموتی رویتم ففکروا

(اعجاز احمدی ص ۵۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۹)

(ترجمہ) ہم نے اس سے لیا کہ وہ حی و قیوم اور وحدہ لا شریک ہے اور تم لوگ (اے مسلمانو) میری محمد ﷺ اور صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین اور اولیاء کرام سے روایت کرتے ہو۔

”و غیر ذلک مما لا تعدوا تحصی“ پس ہمارا منشا یہ ہے کہ آپ مرزا قادیانی سے تمہری کر کے ہمارے ہم خیال ہو جائیں۔ یا مرزا قادیانی کی ان تمام باتوں کا صحیح مطلب ہم کو سمجھا دیں۔ اس لئے ہم زبانی گفتگو کے متدعی تھے۔ جس سے آپ نے مصلحتاً انکار کر دیا۔

۳..... باگلے صاحب کی جس انگریزی تحریر کا ذکر آپ نے لکھا ہے اور ان کے اعتراضات کے جواب میں ہمارے علماء کرام سے مدد مانگی ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ علماء اسلام ہمیشہ مخالفین اسلام کا جواب دینے کے لئے آمادہ ہیں اور انہیں کی سعی مشکور اور تبلیغ اسلام کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا آفتاب چمک رہا ہے۔ لیکن باگلے صاحب نے اپنی تحریر کو شروع میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ اعتراضات ان کو نیز اور بہت سے لوگوں کو آپ کے لیکچروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس جب کہ آپ کے لیکچر قرآن اور دین اسلام کے خلاف ہیں تو جو اعتراضات ان سے پیدا ہوں ان کے ذمہ دار آپ ہیں۔ نہ اسلام اور علماء اسلام۔ تاہم باگلے صاحب کے نفس اعتراض کا جواب شافی و کافی اصل قرآن کی تعلیم کے مطابق علماء اسلام دیں گے۔

آخر میں اس قدر عرض اور ہے کہ علماء دین کے لئے تو آپ تکفیر کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا کرتے ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اس تحریر میں آپ نے رنگوں کے انگریزی دان مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ کیا یہ چیز آپ کے لئے جائز ہے؟

باگلے صاحب کی تحریر پر آپ کو توجہ کرنا چاہئے کہ آپ کے لیکچروں نے غیر مسلموں کی نظر میں اسلام کو اس قدر ذلیل کر دیا ہے۔ فقط جواب بدست حال ہذا عنایت ہو۔

غلام حسین مانجو چینا اسٹریٹ رنگون

اس تحریر کے ختم ہونے کے بعد ایک اشتہار مطبوعہ آپ کا ملا۔ چونکہ اس اشتہار کے مضامین وہی ہیں جو کل آپ ہمارے سامنے کہہ چکے تھے۔ لہذا سب نے سمجھ لیا کہ یہ اشتہار آپ کا

ہے اور دوسرے کا نام فرضی ہے۔ تعجب ہے کہ جب آپ علماء کے سامنے نہیں آنا چاہتے اور نزاعی فرقی سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اشتہار بازی اور وہ بھی درپردہ کیوں ہے؟ کاش یہ اشتہار اپنے نام سے دیا ہوتا تو اس کا جواب بھی ہم اسی کے ساتھ شامل کر دیتے۔ فقط

غلام حسین ابراہیم مانجوا!

اس کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب نے جلدی سے ایک جلسہ اپنے میزبان سر جمال صاحب کی صدارت میں منعقد کر دیا اور مسلمانوں میں مشہور کیا کہ میں باگلے صاحب کے لائیکل اعتراضات کا جواب دوں گا۔ یہ خبر جمعیت العلماء میں بھی پہنچ گئی اور اسی وقت باگلے صاحب کا جواب جو (امام اہل سنت) عالی جناب مولانا محمد عبدالشکور صاحب نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا۔ اسے جلسہ میں بھیج دیا گیا اور خواجہ صاحب کو ایک خط پھر اس کے ساتھ بھیج دیا گیا اور صدر جلسہ سے اجازت مانگی گئی کہ یہ خط اور باگلے صاحب کا جواب جلسہ عام میں پڑھ کر سنایا جائے۔ مگر خواجہ صاحب نے بڑی چالاکی سے صدر صاحب کو اجازت دینے سے روکا۔ خود خواجہ صاحب نے البتہ اس تحریر کو پڑھ لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اپنی تقریر میں اکثر حصہ ہمارے جواب کا بیان کر کے اپنا نام کیا۔ لیکن ہمارے قاصدوں نے ایک کا پنی جلسہ کے دروازے پر آدیزاں کر دی تھی۔ جس سے تمام حقیقت کھل گئی۔ وہ ہوندا!

جناب خواجہ کمال الدین صاحب کی خدمت میں

”بعد ماہو المسنون“ عرض ہے کہ یہ تو آپ نے پہلے تسلیم کر لیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے پیشوا ہیں اور اب آپ نے اپنی تحریر مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۲۰ء میں تسلیم کر لیا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ اب صرف ذرا سی بات باقی ہے کہ آپ ان کے دعویٰ نبوت میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مجازی نبوت مراد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ذیل کی باتیں آپ کی تاویل کے قبول کرنے سے مانع ہیں۔

۱..... مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کو حقیقی نبیوں سے افضل کہا ہے۔

۲..... مرزا قادیانی نے اپنے الہام کو حقیقی نبیوں کی وحی کا ہم رتبہ قرار دیا۔

۳..... مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے منکروں بلکہ شک کرنے والوں اور بیعت

نہ کرنے والوں غرض کہ کل مسلمانوں کو باستثناء اپنے فرقہ کے کافر بنا دیا۔!

! چونکہ یہ حوالہ جات اس کتاب میں جا بجا خصوصاً دوسرے باب میں آچکے ہیں۔ اس

لئے یہاں درج نہیں کئے گئے۔

پس اب گزارش ہے کہ آپ اپنی تاویل واپس لیں یا سمجھادیں کہ مجازی نبوت میں یہ تینوں باتیں کیسے بن سکتی ہیں۔ اللہ جو اب تحریری جلد عنایت کیجئے۔

باگلے صاحب کی چٹھی کا جواب

”باسمہ تعالیٰ حامداً ومصلياً“

باگلے صاحب نے ایک چٹھی انگریزی میں چھاپی ہے۔ جس میں انہوں نے چار اعتراض اسلام پر کئے ہیں اور نتیجہ سب کا یہ نکالا ہے کہ دین محمدی کو قبول کرنا ضروری نہیں۔ اگرچہ باگلے صاحب نے اس چٹھی میں یہ لکھ کر کہ خواجہ صاحب عنقریب رنگون چھوڑنے والے ہیں۔ ہمارے علماء خاص کر عالی جناب حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب لکھنؤی ”عم فیضہم“ سے بھی ان اعتراضات کے جواب کی امید ظاہر کی ہے۔ لیکن چونکہ باگلے صاحب نے آغاز تحریر میں یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ اعتراضات ان کو اور نیز بہت سے انگریزی دانوں کو جو اسلام سے دلچسپی لے رہے ہیں۔ خواجہ کمال الدین صاحب کے قابلانہ لیکچروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یہ چٹھی باگلے صاحب نے ہمارے علماء کی خدمت میں بھیجی بھی نہیں اور خواجہ صاحب ابھی رنگون میں مقیم بھی ہیں۔ لہذا کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم اپنے علمائے کرام کو ان اعتراضات کے جواب کی طرف متوجہ کریں۔ مگر خواجہ کمال الدین نے اپنی تحریر مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۲۰ء میں ان اعتراضات کے جواب کے لئے ہمارے علماء سے مدد مانگی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب جواب دینے سے عاجز ہیں اور اندیشہ ہے کہ جو لوگ خواجہ صاحب کے مذہب سے ناواقف ہیں۔ وہ شاید ان کی عاجزی کو علمائے اسلام کی عاجزی تصور کریں۔ اس لئے عالی جناب مولانا صاحب مدیر النجم لکھنؤ سے جواب حاصل کر کے ہدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں۔

محمد ضمیر الدین

مدرس مدرسہ اسلامیہ

نمبر ۴۸ مرچنٹ اسٹریٹ رنگون

اعتراضوں کا جواب

پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن شریف نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہر رسول پر اسی قوم کی زبان میں وحی آئی ہے۔ جس کی طرف وہ بھیجا گیا اور یہ بھی کہا کہ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ تم سمجھو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور محمد ﷺ صرف عرب کے لئے ہیں۔ پس یہ دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے ہے؟

جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے مذکورہ بالا مضمون صرف ان نبیوں کی بابت بیان کیا ہے جو آنحضرت ﷺ سے پہلے آئے تھے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ سے پہلے کسی نبی کی نبوت ساری دنیا کے لئے نہیں ہوئی۔ ہر نبی صرف ایک خاص قوم کے لئے ہوتا تھا اور اسی قوم کی زبان میں ان پر وحی اترتی تھی۔ اس قضیہ کو الٹ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ جس نبی کی جو زبان ہو اس کی نبوت اسی قوم کے ساتھ مخصوص ہے غلط ہے۔ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ سب سے پہلے اہل عرب اور ان کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اس روشنی کا پھیلاؤ مقصود تھا۔

قوله تعالى: "لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (بقرہ:)" ﴿تاکہ تم اے اہل عرب سب لوگوں کے سامنے گواہی دینے والے بنو اور رسول تمہارے سامنے گواہی دینے والے بنیں۔﴾  
 قرآن شریف تصریح کر رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت اور قرآن کی ہدایت ساری دنیا کے لئے ہے۔ حسب ذیل آیتیں پڑھو۔

..... "قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً الذى له ملك السموات والارض لا اله الا هو يحيى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الامى (اعراف:)" ﴿اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جس کی حکومت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ وہی جلاتا ہے۔ وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر۔﴾

..... ۲ "وما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذيراً (سبأ:)"  
 ﴿یعنی اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔﴾

..... ۳ "واوحى السى هذا القرآن لا نذرکم به ومن بلغ (انعام)"  
 ﴿یعنی یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ میں تم کو اس کے ذریعہ سے ڈراؤں اور نیز ان تمام لوگوں کو جن تک قرآن پہنچ جائے۔﴾

..... ۴ "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً (فرقان)" ﴿برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندوں پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام دنیا کے لئے ڈرانے والا بنے۔﴾

پس جب قرآن کی یہ تصریح ہے تو اس کے خلاف کسی آیت کا مطلب لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کسی کلام سے کوئی ایسا مفہوم استنباط کرنا جو اس کلام کے دوسرے حصہ کی تصریح کے خلاف ہو۔ عقلاً بھی جائز نہیں۔

۲..... دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن دوسرے مذاہب کے خدائی آغاز کو تسلیم کرتا ہے اور تو رہت کو نور و ہدایت کہتا ہے۔ پس ایسی حالت میں اگر یہ وحیاں کامل تھیں تو کیوں منسوخ ہوئیں۔ نا کامل تھیں تو وہ لوگ کیوں کامل چیز سے محروم کئے گئے۔

جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے بیشک یہ بیان کیا ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک میں نبی آئے اور ہدایت اتری۔ مگر یہ کہیں نہیں بیان کیا کہ دنیا کے موجودہ مذاہب وہی ہیں۔ جن کی تعلیم نبیوں نے دی۔ بلکہ یہ تصریح اکثر آیتوں میں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور خدائی کتابوں میں ان نبیوں کے بعد بہت کچھ تحریف و تبدیل لوگوں نے کر دی۔ اس تحریف و تبدیل کا ثبوت تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل سے بھی ہم کو ملتا ہے۔

پس اب سمجھ لینا چاہئے کہ اگلی شریعتوں کے منسوخ ہونے کی وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شریعتیں اصلی حالت پر باقی نہ تھیں۔ ان میں بہت تحریف ہو گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ قرآن دین کامل لے کر آیا ہے اور اگلی شریعتیں بہ نسبت شریعت محمدیہ کے دین کامل لے کر نہیں آئی تھیں۔ جیسا کہ فرمایا: ”الیوم اکملت لکم دینکم (مائدہ)“ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا۔ بہ نسبت اگلی شریعتوں کے، شریعت محمدی کا مکمل ہونا دونوں شریعتوں کے مسائل دیکھنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

باقی رہا کہنا کہ اگلی تو میں کیوں ایسے دین کامل سے محروم کی گئیں۔ ایک بجا اعتراض ہے۔ نظام عالم ہم کو بتلا رہا ہے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ ترقی بتدریج ہوتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت کمزور ہوتا ہے۔ بولنا چلنا پھرنا اور تمام وہ قوتیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بتدریج اس میں پیدا ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔ اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ پہلے ہی سے سب قوتیں انسان کو کیوں نڈل گئیں اور بچے اس کمال سے کیوں محروم کئے گئے۔ قانون فطرت پر اعتراض کرنا ہے۔

۳..... تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بہائی لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبری ختم نہیں ہوئی۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتے رہیں گے۔ پس بنی آدم میں ہمیشہ سلسلہ نبوت کا قائم رہنا چاہئے۔ محمد ﷺ پر نبوت ختم ہونے کا عقیدہ غلط ہے۔

جواب یہ ہے کہ بہائی لوگوں کا یا ان سے سیکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیرووں کا یہ کہنا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔ قرآن اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ قرآن صاف تصریح کر رہا ہے کہ نبوت محمد ﷺ پر ختم ہو گئی۔ ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین (احزاب: ۴۰)“ ﴿یعنی محمد ﷺ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔﴾

قرآن کی وہ دو آیتیں جن کا حوالہ اعتراض میں ہے۔ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو بہائی اور مرزائی بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خدا کی طرف سے نبی آئیں گے اور ہدایت آئے گی۔ یہ کسی لفظ سے اشارہ بھی نہیں نکلتا کہ نبوت کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ بات دوسرے اعتراض کے جواب میں بیان ہو چکی ہے کہ اگلی شریعتیں کیوں منسوخ ہوئیں۔ پس چونکہ وہ وجہ منسوخیت کی شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ اس لئے محمد ﷺ پر نبوت کا ختم ہو جانا عقل کے بھی موافق ہے۔ اگلی شریعتیں دین کامل نہ تھیں اور شریعت محمدیہ دین کامل ہے۔ اگلی شریعتوں میں تحریف ہو گئی تھی۔ لیکن شریعت محمدیہ کے محفوظ رہنے کا خدا ذمہ دار ہے۔

”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (حجر: ۱۰)“ ﴿یعنی یہ نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔﴾

شریعت محمدیہ کا محفوظ رہنا ان سلسلہ اسانید کے علاوہ جو اہل اسلام کے پاس ہیں۔ تاریخی واقعات اور غیر مسلم اصحاب کی شہادت سے بخوبی ظاہر ہے۔

۴..... چوتھا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کسی خاص پیغمبر کی پیروی میں نجات کو منحصر نہیں کہتا۔ جیسا کہ دوسرے پارہ کی آیت سے ظاہر ہے۔ پس اب کیا ضرورت دین اسلام قبول کرنے کی ہے۔

جواب یہ ہے کہ کسی خاص پیغمبر کی پیروی میں نجات کا منحصر نہ ہونا صرف خواجہ کمال الدین صاحب کا قول ہے۔ ورنہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ نجات دین اسلام میں منحصر ہے: ”ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه (آل عمران)“ ﴿یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے نہ قبول کیا جائے گا۔﴾

باقی رہی کسی دوسرے پارہ کی آیت جس کو لائق معترض نے نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب خواجہ صاحب نے صحیح نہیں بیان کیا۔ اس آیت کا منشا صرف اس قدر ہے کہ قرآن نجات کو کسی قوم



کے ساتھ مخصوص نہیں بتاتا۔ جیسا کہ یہودیوں کا قول تھا۔ ”الذین آمنوا“ اور ”نصاری“ اور ”صابئیین“ وغیرہ الفاظ مذہبی حیثیت سے متجاوز ہو کر قومیت کے معنی میں مستعمل ہونے لگے تھے۔ جس طرح لفظ عرب کو جو قومیت کے لئے موضوع ہے۔ تمدن عرب کا مصنف مذہبی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو خواہ وہ کسی قوم کے ہوں عرب کہتا ہے۔ پس قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے خواہ وہ کسی قوم کا ہو وہ نجات کا حقدار ہے اور اگر آیت کے معنی وہ لئے جائیں جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو معاذ اللہ یہ ایک مہمل کلام ہوا جاتا ہے۔ اس لئے کہ: ”الذین آمنوا“ کے ساتھ ”من آمن“ کا لفظ کسی طرح نہیں لگ سکتا۔ یعنی ایمان والوں کے لئے یہ شرط لگانا کہ وہ ایمان لائیں بے معنی ہے۔ فقط! والسلام علی من اتبع الهدی! تحریرات بالا کے بعد ایک تحریر اور خواجہ صاحب کو بھیجی گئی اور تمام حجت قطعی طور پر کر دیا گیا نقل اس کی حسب ذیل ہے۔

جناب خواجہ کمال الدین صاحب!

گزارش ہے کہ بتاریخ ۱۰ محرم الحرام ۱۳۳۹ھ بعد نماز جمعہ آپ کی ایک تحریر جو آپ نے چند حضرات اہل سنت کے نام روانہ فرمائی ہے۔ سورتی مسجد میں پڑھی گئی۔ اس کے سننے سے ہمیں سخت تعجب ہوا کہ آپ نے ہمارے آٹھ سوالات کے جواب اپنے لیکچروں میں خصوصاً جوہلی ہال کے لیکچر میں بیان کئے۔ بڑے غیرت کی بات ہے کہ ہم نے بذریعہ پوسٹ رجسٹری اور دستی تحریریں آپ کی خدمت میں روانہ کیں اور ایک کھلی چشمی بھی شائع کی اور اسی امید میں رہے کہ آپ براہ راست ہمیں جواب دیں گے۔ لیکن آپ کی حیثیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ صاف طور پر نمودار ہر سوال کا جواب تحریر فرما کر ہمارے پاس بھیج دیتے یا بذریعہ اشتہار شائع کرتے۔ نہ کسی روز آپ نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ آج لیکچر میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔

جوہلی ہال کا لیکچر ایک دوسرے عنوان سے مشہور کیا گیا تھا۔ جس کو دیکھ کر یہ وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ آپ ہمارے آٹھ سوالات کی طرف توجہ کریں گے۔ بڑا افسوس ہمیں اس تحریر کو سن کر یہ ہوا کہ آپ نے باوجود طویل مضمون لکھنے کے ان خاص سوالات کا کچھ بھی جواب نہ دیا۔ بلکہ نہایت چالاکी سے اپنا عقیدہ چھپانے کی کوشش کی ہے اور بہت سی غیر ضروری باتوں سے کاغذ سیاہ کر کے اصل مقصد سے کوسوں دور جا کھڑے ہوئے ہیں۔

خواجہ صاحب! افسوس ہے کہ جس قدر اپنے خیال میں آپ اپنی صفائی مسلمانوں کو

دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی قدر آپ کی طرف بدگمانی بڑھتی جاتی ہے اور وہ محض اسی لئے کہ آپ نے مسلمانوں کے حسب منشا ہر سوال کا جواب سادے اور مختصر الفاظ میں نہیں دیا۔ بلکہ تقریر کی طرح تحریر کو بھی ملمع سازی سے ”سوال از آسماں جواب از ریساں“ کا مصداق بنا دیا اور مسلمانوں کو دھوکا دینے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔

یہ ہم نے مانا کہ آپ نے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ مسلمان اب ایسے بھولے بھالے نہیں رہے کہ آپ کی وکالت کا جادوان پر اثر کر جائے اور آپ جس طرح چاہیں ان سے روپیہ وصول کر کے اسلام کے پردہ میں قادیانی مشن کی اشاعت کریں۔ ہم اب بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ درگئی باتوں کو چھوڑ کر یا تو صاف طور پر اہل سنت کے عقائد سے اتفاق ظاہر کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہہ دیں یا کھلم کھلا قادیانی بن کر مسلمان کو اس مکر و فریب سے نجات بخشیں۔

دورگئی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا  
سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا  
موسیٰ کا کاغذی عنہ

پریسڈنٹ اسلامیہ لیٹریچر سوسائٹی نمبر ۳۸

مرچنٹ اسٹریٹ رنگون ۱۹ ستمبر ۱۹۲۰ء

اس کے بعد جب شہر رنگون میں ہر طرف غوغا ہوا اور عام طور پر ہر جگہ خواجہ کمال الدین کی بے دینی کا چرچا ہونے لگا اور یہ کہ ان کے طرفدار نہایت بے انصاف ہیں تو سر جمال صاحب نے بھی خواجہ صاحب سے مطالبہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے سوالات کا جواب نہیں دیتے اور اپنا مذہب چھپاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس کے جواب میں سر جمال صاحب کو ایک خط لکھا جو سر جمال صاحب نے ۲۸ ستمبر کو بدست ملا احمد صاحب سیکرٹری راندریہ انسٹیٹیوشن دفتر جمعیت العلماء میں بھیجا جس کی نقل حسب ذیل ہے۔

مکرم سر جمال صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ!

جس معاملہ کی صفائی کے لئے آپ کو بعض سورتی صاحبان نے کہا ہے وہ دراصل ہو چکا ہے۔ چند ایک سورتی صاحبان میرے پاس ایک خط لائے تھے اور میرے عقائد معلوم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے جواب میں ایک مفصل خط لکھ دیا اور ان کو سنا دیا اس کا ایک حصہ میں یہاں

لفظاً لفظاً نقل کر دیتا ہوں۔ (اس کے بعد اپنے خط مورخہ ۲۲ ستمبر کی عبارت نقل کی ہے۔ یہ خط اوپر درج ہو چکا) اس خط کے جواب میں مجھے جو خط آیا ہے اور جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کی باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن ہم کو سمجھا دو کہ مرزا قادیانی کی فلاں فلاں عبارت سے کیا مطلب ہے۔ میں نہ مرزا قادیانی کی طرف سے واعظ بن کر یہاں آیا ہوں نہ ان کے دعویٰ کو کسی پر پیش کرتا ہوں۔ بلکہ جب سے میں نے یہ مشن نکالا ہے۔ تب سے میں نے اپنی ذات کو مرزا قادیانی کے متعلق کچھ لکھنے یا بولنے سے الگ کر لیا ہے اور آئندہ بھی میرا یہی پختہ ارادہ ہے۔ پھر مجھ سے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں۔ مجھے جو پہلے خط آیا تھا۔ اس میں دس بارہ آدمیوں کے دستخط تھے۔ اب جو خط آیا ہے۔ اس پر صرف ایک آدمی کا دستخط ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی اصحاب اس امر سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس خط میں مجھ سے ایک اور درخواست کی گئی ہے کہ میں مرزا قادیانی سے تمرا لے کروں نہ معلوم یہ کس دل سے بات نکلی ہے۔ تیرہ سو برس سے تمرا کرنے والوں سے جو تکلیف اہل سنت والجماعت کو پہنچی ہے وہ ظاہر ہے نہ معلوم پھر تمرا کے خواہشمند کیوں ہو گئے۔ مجھ پر اعتراض تو ہوتا اگر میرا مذکورہ بالا عقیدہ اسلام کے مطابق نہ ہوتا۔ میں نے یہ معتبر ذریعہ سے سنا ہے کہ میرا خط لوگوں کو دکھلایا نہیں گیا ۲ نہ سنایا گیا۔ صرف کسی نے کہہ دیا کہ اس نے یہ یہ لکھا ہے۔ اصل خط نہیں سنایا گیا۔ اس لئے ممکن ہے بعض سورتی صاحبان کو اطمینان نہ ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے زبانی کہنے کے علاوہ یہ تحریر آپ کو لکھ دی ہے کہ آپ اسی خط کو یا چھاپ دیں یا بجنسہ جہاں چاہیں بھیج دیں۔ اس سے زیادہ میں کسی کی تشفی نہیں کر سکتا اور نہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

میں ایک غیر مسلم کے مقابل آنے کو ہر منٹ تیار ہوں۔ میں مسلمان کے مقابل کسی تنازعہ فرقی کے لئے باہر آنا برا سمجھتا ہوں۔ اسی موضوع پر میں نے لکھا ہے اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ میں اسلام کے لئے وہ دن مبارک سمجھوں گا جب ہم میں سے فرقی تنازعہ مٹ جائے گا اور مل رات دن اس کوشش میں ہوں۔ کیا عجب بات ہے کہ جس بات سے مجھے نفرت ہے اس کے لئے مجھے بلایا جاتا ہے۔

اب ایک بات پر میں اس خط کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے انگلستان کے مشہور و معروف

۱۔ خواجہ صاحب کے علم کا یہ حال ہے کہ تیری کا تمرا لکھتے ہیں۔

۲۔ کیا سفید جھوٹ ہے جس کا جھوٹ ہونا سارا رنگوں جانتا ہے۔

مصنف ایچ جی ویل نے ایک چٹھی لکھی تھی کہ تم آنحضرت ﷺ کو کیوں آخری نبی مانتے ہو۔ اس کے جواب میں جو میں نے لکھا اس کو رسالہ جنوری ۱۹۱۷ء میں اور پھر مئی ۱۹۱۹ء میں درج کر دیا۔ وہ رسالہ میں بھیجتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں جو شخص لندن میں بیٹھ کر لندن کے مشہور و معروف آدمیوں کو یہ لکھتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں وہ کیسے اس کے الٹ کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ۱۹۱۷ء میں میں نے آنحضرت ﷺ کے اخلاق پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی میں نے یہی لکھا ہے وہ بھی بھیجتا ہوں۔

مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس جگہ بعض اشخاص کس قسم کے ہیں۔ اسلامی مشاہیر میں سے ہندوستان میں سے کون ہے جس نے میرے مشن سے محبت اور اس کی مدد نہیں کی۔ مولانا ابوالکلام نے کلکتہ میں میری حمایت میں جلسہ کیا۔ الہلال میں میرے کام کی تعریف میں مضمون لکھے۔ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی مٹلی نے لکھنؤ میں میری خاطر گھر گھر چندہ مانگا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنے اخبار میں کئی دفعہ لکھا کہ: ”جو کام ہمارا تھا وہ اس نے کیا (یعنی میں نے) اور یہ خدا کا فضل ہے۔“

آج کل مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کمری مولانا محمد علی صاحب وشوکت علی صاحبان ملن ہمارے انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے نکلنے پر وہ ایک خط لکھتے ہیں۔ ترجمہ کی از حد تعریف کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین بہادروں کی طرح مرد میدان بن کر کام کرتا ہے۔ میں بھی (یعنی محمد علی صاحب) یہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سابقوں الاولون میں سے ہے۔ میرے لئے عزت و فخر کا مقام ہوگا اگر میں قدم بقدم ان کی پیروی کروں۔ پھر اخیر خط میں لکھتے ہیں کہ اگر ان کا مکتوب الیہ (مرزا یعقوب صاحب) مجھے خط لکھے تو یہ بھی لکھے کہ محمد علی میری ریش چومنے کی خواہش کرتا ہے۔ جو اجمل خان صاحب نے لکھا ہے اس کا تار آپ کو مل چکا ہے۔

خواجہ کمال الدین مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۹۲۰ء

اس کے بعد پے در پے حسب ذیل دو اشتہار ہماری طرف سے شائع ہوئے۔

## سلسلہ اشتہارات

باسمہ تعالیٰ حامداً ومصلياً

مرزا غلام احمد قادیانی کے مدعی نبوت ہونے کا ثبوت اور اس کے کفریات  
خواجہ کمال الدین اور رنگون کی لٹوہری پارٹی مرزائی اور عبدالقادر مرزائی محمد امین

مرزا کی اپنے اور اپنے پیشوا غلام احمد کو مسلمان ثابت کریں اور ان کے کفریات کا جواب دیں۔  
..... ۱ غلام احمد (تترہ حقیقت الوہی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳، مکتوبات احمدیہ نمبر ۴ ج ۳ ص ۴۹) میں لکھتا ہے کہ: ”آنحضرت ﷺ کے معجزات جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تین ہزار معجزہ ہیں۔ اس (خدا) نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

مرزا یو! کیا یہ کفر کا کلمہ نہیں ہے؟ اور دعویٰ حقیقی نبوت کا نہیں ہے؟ اور کیا (مرزا نے) حضور ﷺ سے اپنے کوفضیات نہیں دی؟ کسی امتی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اپنے پیر کا اور اپنا ایمان ثابت کرو۔

..... ۲ مرزا حدیثوں کے متعلق لکھتا ہے کہ: ”خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں۔ یا سرے سے موضوع ہیں اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڈ دیہ ص ۱۴ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۱۷۷) دوسری جگہ مرزا لکھتا ہے: ”اور دوسری حدیثوں کو ہم رومی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“ (اعجاز احمدی ص ۳۱، ۳۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۰)

مرزا اپنے قصیدہ میں لکھتا ہے: ”ہبل النقل شی بعد ایحاء ربنا فای حدیث بعدہ نتخیر“ ﴿خدا تعالیٰ کی وحی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدائے تعالیٰ کی وحی کے بعد کس حدیث کو مان لیں۔﴾ (اعجاز احمدی ص ۵۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۸)

”وقد مزق الاخبار کل ممزق“ ﴿اور حدیثیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔﴾  
”أخذنا من الحی الذی لیس مثلہ . وانتم عن الموتی رویتم ففکروا“ ﴿ہم نے اس سے لیا کہ وہ حی و یوم اور واحد لا شریک ہے اور تم لوگ (اے مسلمانوں) مردوں (یعنی محمد ﷺ اور صحابہ اہل بیت اور تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ محدثین اولیاء کرام) سے روایت کرتے ہو۔﴾ (اعجاز احمدی ص ۵۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۹)

مرزا یو! کیا یہ کفر کا کلمہ نہیں ہے؟ اور دعویٰ حقیقی نبوت کا نہیں ہے؟ اور کیا حضور ﷺ سے (مرزا نے) اپنے کوفضیات نہیں دی؟ کسی امتی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ مرزا یو! اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

۳..... مرزا لکھتا ہے: ”جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے۔ جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظلمات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ (یعنی حدیثوں) کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں جس کی حق یقین پر بناء ہے۔“ (اربعین نمبر ۱۳ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۳۵۳)

مرزا یو! کیا یہ کفر کا کلمہ نہیں ہے؟ اور دعویٰ حقیقی نبوت کا نہیں ہے؟ کیا کسی امتی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ مرزا یو! اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

۴..... مرزا قادیانی لکھتا ہے: ”میرا نہ ماننے والا مجھ سے بیعت نہ کرنے والا میرا منکر کافر ہے۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۶ درحاشیہ، ج ۱ ص ۳۳۵، حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲ ص ۱۶۷)

مرزا یو! کیا تمام دنیا کے ۳۵ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو کافر بلا وجہ کہتا کفر نہیں ہے؟ اور کیا یہ دعویٰ حقیقی نبوت کا نہیں ہے؟ اور کسی امتی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کہ میرا نہ ماننے والا کافر ہے۔

۵..... مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۱۲۹، خزائن ج ۲ ص ۱۵۳) میں لکھتا ہے: ”اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے۔ مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۵، خزائن ج ۲ ص ۱۵۹) میں ہے: ”پھر جب کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح کو افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

مرزا یو! کیا یہ دعویٰ حقیقی نبوت کا نہیں ہے؟ کیا کوئی امتی بڑے سے بڑا کسی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی امتی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کیا یہ کلمہ کفر کا نہیں ہے؟ جواب دو اور اپنا اور اپنے پیشوا کا اسلام ثابت کرو۔

۶..... مرزا حضور ﷺ کے معراج کی نسبت لکھتا ہے کہ: ”میر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہئے۔ اس قسم کے کشفوں میں خود مؤلف (یعنی غلام احمد) صاحب تجربہ ہے۔ (یعنی کئی مرتبہ ایسی کشفی معراج مجھے ہو چکی ہے)“ (ازالہ اوہام ص ۲۷، ۲۸، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)

مرزا نیو! کیا معراج کی یہی حقیقت ہے؟ اور یہ مرزا قادیانی کا دعویٰ حضور ﷺ سے  
افضلیت کا نہیں ہے؟ کیا یہ کفر کا کلمہ نہیں ہے؟ اور کیا حقیقی نبوت کا یہ دعویٰ نہیں ہے؟ کسی امتی نے  
ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

۷..... مرزا قادیانی (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۲۸۲، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳) میں لکھتا ہے:  
”حضور ﷺ پر ابن مریم اور دجال اور یاجوج ماجوج اور لوطہ الارض کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی  
اور مجھ پر کھلے طور سے منکشف کر دی گئی۔“

مرزا نیو! کیا یہ گستاخانہ کلمہ کفر نہیں؟ اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

۸..... مرزا لکھتا ہے: ”انما امرک اذا اردت شیئاً ان تقول له کن  
فیکون“ اے مرزا تو جس چیز کے لئے کہے کہ ہو جاوہ فوراً ہو جائے۔

(حقیقت الوحی ص ۱۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

”ارید ما تریدون“ میں (خدا تعالیٰ) وہی ارادہ کروں گا جو تمہارا (مرزا کا) ارادہ

(حقیقت الوحی ص ۱۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

ہے۔

”قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی“ کہہ (اے غلام احمد کہ اے لوگو) اگر تم

خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو۔ (حقیقت الوحی ص ۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۸۲)

”قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی“ کہہ (اے غلام احمد اے لوگو) میں

(حقیقت الوحی ص ۸۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۸)

انسان ہوں میری طرف یہ وحی ہوئی ہے۔

”واتل علیہم ما اوحی الیک من ربک“ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے

تیرے پر وحی نازل کی گئی ہے وہ ان لوگوں کو جو تیری جماعت میں داخل ہوں گے سنا۔

(حقیقت الوحی ص ۷۴، خزائن ج ۲۲ ص ۷۸)

”قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً“ کہہ دے (اے غلام

احمد) اے تمام لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر بھیجا گیا ہوں۔ (تذکرہ ص ۳۵۲، مطبوعہ روه)

”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین

کلہ“ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اپنی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو ہر

قسم کے دین پر غالب کرے۔ (حقیقت الوحی ص ۷۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۷)

”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ اور ہم نے دنیا پر رحمت کرنے کے لئے

(اربعین نمبر ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۴۳)

تجھے بھیجا ہے۔

”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ اور یہ (غلام احمد) اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو یہ خدا کی وحی ہے۔

(اربعین نمبر ۳۳ ص ۳۶، خزائن ج ۷ ص ۲۷۷)

”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

”سچا شفیع میں ہوں۔“ (مظہوم)

”خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام

انسانوں کے لئے اس کو مدارجات ٹھہرایا۔“ (اربعین نمبر ۳۳ ص ۶، حاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۳۳۵)

”لولاك لما خلقت الافلاك“ (اے غلام احمد) اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا آسمانوں

کو پیدا نہ کرتا۔ (حقیقت الوحی ص ۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

مرزا سیو! کیا یہ حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے؟ اور کیا یہ کفر کی بات نہیں ہے؟ اپنا اور اپنے

پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

مرزا سیو! نبی کی دو قسم ایک حقیقی دوسری مجازی، یہ اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہے؟ یا رسول

ﷺ نے یا صحابہ کرامؓ نے یا تابعینؓ نے یا تبع تابعینؓ نے یا ائمہ مجتہدینؓ نے یا ائمہ حدیثؓ نے

فرمائی ہے؟ اگر کسی نے نہیں فرمایا یہ تو سب تمہاری من گھڑت ہے تو بہ کرو تو بہ کرو۔

۹..... مرزا لکھتا ہے: ”انت منى بمنزلة توحيدى“ تو مجھ سے ایسا ہے

جیسا کہ میری توحید۔ ”انت منى وانا منك“ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ ”انت منى

بمنزلة ولدى“ تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

”آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

”انى مع الرسول اجيب اخطى واصيب“ میں رسول (غلام احمد) کے

ساتھ ہو کر جواب دوں گا۔ میں (میں اپنے کچھ کہنے اور کرنے میں) خطا بھی کروں گا اور صواب

بھی۔ (یعنی جو چاہوں گا کبھی کروں گا کبھی نہیں)

(حقیقت الوحی ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۶، البشرى ج ۲ ص ۷۹)

مرزا سیو! کیا یہ حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے؟ اور کیا یہ کفریات نہیں ہیں؟ اپنا اور اپنے

پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔



۱۰..... مرزا، انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت اس طرح ظاہر کرتا ہے۔ ”لہ  
خسف القمر المنیر وان لی . غسا القمر ان المشرقان اتنکر“ حضور ﷺ کے لئے  
چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو (میرے افضل  
ہونے کا) انکار کرے گا۔ (اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

مسج کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاڈ پیو شرابی نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار تکبر خود میں  
خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ (مکتوبات احمدیہ نمبر ۲۲ ج ۳ ص ۲۳، نور القرآن نمبر ۲۲، ۱۲، خزائن ج ۹ ص ۳۸۷)  
کوئی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔

(اعجاز احمدی ص ۲۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۳)

”بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت ﷺ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی  
اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔“ (ازالہ اوہام ج ۱ ص ۳۰۰، خزائن ج ۳ ص ۳۰۷)

”عیسیٰ کجاست تا بنہد پابمہنم۔“ (ازالہ اوہام ج ۱ ص ۱۵۸، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

”ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔“

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

۱۱..... حضرت حسینؑ سے اپنے کو مرزا قادیانی نے افضل کہا۔ ”میں سچ کہتا ہوں  
کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔“ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)  
”صد حسین ست در گر بیانم۔ سو حسین میرے گریبان میں ہیں۔“

(نزدل المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

۱۲..... مرزا قادیانی نے صحابہؓ کی توہین کی ہے۔ ”ابو ہریرہؓ جو غیبی تھا اور درایت

(اعجاز احمدی ص ۱۵، خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۷)

”حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۴۶، خزائن ج ۳ ص ۳۲۲)

مرزا! کیا ایسی گستاخی سے آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حقیقی نبوت کا نہیں  
ہے؟ کیا مجازی نبی، حقیقی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔  
اقوال مذکورہ بالا سے مفصلہ ذیل دعویٰ مرزا غلام احمد کے بخوبی ظاہر ہیں۔

۱..... دعویٰ الوہیت۔

۲..... دعویٰ نبوت و رسالت۔

- ۳..... اپنی ذات کو موجب تخلیق عالم کہنا۔
- ۴..... رحمتہ للعالمین کا وصف اپنے لئے ثابت کرنا۔
- ۵..... حضور ﷺ سے اپنے کو افضل سمجھنا۔
- ۶..... ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے کو افضل سمجھنا۔
- ۷..... دشنام دہی نبی۔
- ۸..... تذلیل و تحقیر نبی۔
- ۹..... اپنی وحی کو قرآن مجید کے مثل قطعی اور یقینی سمجھنا۔
- ۱۰..... تحقیر احادیث نبویہ۔
- ۱۱..... اپنے معجزات کو حضور ﷺ کے معجزات سے زیادہ کہنا۔
- ۱۲..... اپنی وحی کے مقابلہ میں حضور ﷺ کی احادیث کو ردی کی طرح پھینک دینا۔
- ۱۳..... حضرت حسینؑ سے اور صحابہ کرامؓ و اہل بیتؑ و تابعینؑ و تبع تابعینؑ، ائمہ مجتہدینؑ و ائمہ حدیثؑ و اولیاء کرامؑ سے اپنے کو افضل کہنا اور ان کی تحقیر کرنا۔
- ۱۴..... ۳۵ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو کافر کہنا۔ وغیرہ وغیرہ
- اے مسلمانوں! اب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد و اقوال ہوں۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تردد ہو سکتا ہے؟ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں نہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائز ہے۔ جس طرح سے یہود و نصاریٰ و ہندو سے اہل اسلام مذہباً علیحدہ رہتے ہیں ان سے زیادہ مرزائیوں سے پرہیز کرنا شرعاً ضروری اور لازمی ہے۔

وما علینا الا البلاغ! فقط:

خادم اسلام بندہ: ابراہیم ایلمہ والا

مدرسہ اسلامیہ نمبر ۲۸ مرچنٹ اسٹریٹ رنگون

باسمہ تعالیٰ حامداً ومصلياً

خواجہ کمال الدین صاحب کے اصلی مذہب کا انکشاف

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

خواجہ کمال الدین صاحب کو رنگون آئے ہوئے قریب دو ماہ کے ہوئے۔ اس مدت

میں متعدد لیکچر آپ نے مختلف مقامات میں دیئے۔ اگرچہ ان لیکچروں میں زیادہ تر انگریزی دان اور وہی لوگ ہوتے تھے جن کو دین و مذہب سے کوئی مضبوط تعلق نہیں اور خواجہ صاحب کی توجہ بھی تمام دولت مندوں ہی کی طرف ہے۔ کیونکہ جس مقصد کے لئے آپ نے رنگون کا دور دورہ از سفر اختیار کیا ہے وہ انہیں سے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم کچھ دیندار غرباء بھی آپ کے لیکچروں میں پہنچ جاتے تھے۔ خواجہ صاحب نے بتدریج اپنے لیکچروں میں مرزائیت کی اشاعت شروع کی جس کو محسوس کر کے مسلمانوں میں عام طور پر ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں نے رنگون کی جمعیت العلماء سے فتویٰ بھی اس کے متعلق حاصل کیا اور اس کو چھپوا کر شائع کیا اور جمعیت العلماء کے علماء نے مختلف مقامات پر کمال الدین صاحب و مرزا قادیانی کی رد میں وعظ کیے۔ پھر آٹھ سوالات بھی طبع کرا کر منتشر کئے گئے۔ لیکن خواجہ صاحب نے بجائے اس کے کہ ان سوالات کا جواب دے کر مسلمانوں کی بے چینی دور کرتے اور اپنے مذہب کی طرف سے یہ کہہ کر کہ میں سنی حنفی ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ میں نہ رکھتے، غریب مسلمانوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کی۔

نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں نے خواجہ صاحب سے بالمشافہ گفتگو کرنے کی تیاری کی اور اس لئے حضرت (امام اہل سنت) مولانا مولوی محمد عبدالشکور صاحب (فاروقی) لکھنؤی مدظلہ کی خدمت میں بذریعہ تار سب حال عرض کیا اور جناب مولانا ممدوح کو رنگون آنے کی تکلیف دی۔

جناب ممدوح کے تشریف لانے کے بعد ایک چٹھی سر جمال صاحب رئیس رنگون کی خدمت میں اور متعدد تحریریں خواجہ صاحب کے نام بھیجی گئیں۔ لیکن نہ سر جمال صاحب نے کچھ جواب دیا نہ خواجہ صاحب نے۔ بڑی مشکل سے کئی روز دوڑا کر اور وعدہ امروز و فردا سے پریشان کر کے خواجہ صاحب نے صرف ایک تحریر کا جواب بھی دیا تو یہ کہ میں مباحثہ نہ کروں گا۔ خواجہ صاحب کی یہ پوری تحریر لفظاً سورتی جامع مسجد میں بتاریخ ۱۰ محرم الحرام ۱۳۳۹ھ مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع کو سنادی گئی اور اس کا جواب بھی مجمع کو سنایا گیا جو بہت مختصر تھا اور خواجہ صاحب کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ مگر خواجہ صاحب نے جواب الجواب نہ دیا۔

بتاریخ ۹ محرم ۱۳۳۹ھ بالگلے صاحب نے اپنی اور نیز بہت سے انگریزی دان کی طرف سے ایک تحریر انگلش میں شائع کی کہ خواجہ صاحب کے لیکچروں نے حسب ذیل چار اعتراض ہمارے دماغوں میں پیدا کر دیئے ہیں۔ جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو ہم غیر ٹھہروری

سمجھنے لگے۔ خواجہ صاحب یا اور کوئی مولوی صاحب ان اعتراضات کا جواب دیں۔ خواجہ صاحب نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لئے جو جلسہ منعقد کیا اس جلسہ میں باسندہ عائد خواجہ صاحب، ان چاروں اعتراضوں کے جواب مع ایک نہایت مختصر اور فیصلہ کن تحریر کے خواجہ کو دیئے گئے۔ لیکن خواجہ صاحب نے نہ تو اعتراضات کے جوابات اہل جلسہ کو پڑھ کر سنائے نہ اس تحریر کا کچھ جواب دیا۔

بات ختم ہو چکی اور حق اچھی طرح واضح ہو گیا۔ حضرت مولانا صاحب موصوف الصدر عم فیضہ کے مواعظ حسنہ نے علاوہ اور بہت سے فوائد دینیہ کے عام طور پر مسلمانوں کو خواجہ کمال الدین اور ان کے پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و مذہب سے کافی آگاہی بخشی۔ نیز مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ نے جو ترجمہ قرآن شریف کا انگلش میں شائع کیا ہے۔ جس کے لئے سولہ ہزار روپیہ مسلمانان رنگون نے دیا اس ترجمہ میں شروع سے آخر تک کھلم کھلا مرزائیت کی باتیں درج ہیں جو دین و ایمان کے بالکل خلاف ہیں اور مسلمانوں کا روپیہ بجائے ترجمہ قرآن کے، مرزائیت کی اشاعت میں صرف ہوا ہے۔ ان سب امور کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواجہ صاحب کے چندہ میں کچھ خلل پڑ گیا اور بعض امراء کو جو ان کے طرف دار ہیں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ عام مسلمانوں کی ناراضی کا کم سے کم یہ اثر ضرور ہوگا کہ قوم میں جو عزت ہماری ہے وہ قائم نہ رہے گی۔ اس خیال نے اعلیٰ طبقہ میں کچھ جنبش پیدا کی اور اتمام حجت میں شاید کچھ کمی تھی خدا نے پوری کر دی۔ یعنی سر جمال صاحب کی کوشش بھی خواجہ صاحب کو اظہار حق یا قبول حق پر آمادہ نہ کر سکی۔

مناظرہ کی تیاری

سر جمال صاحب رنگون کے بڑے دولت مند شخص ہیں اور خواجہ صاحب کے میزبان بھی ہیں۔ انہوں نے ملا احمد صاحب بن ملا داؤد صاحب کو بلا بھیجا اور بالآخر مناظرہ کا جلسہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پختہ زبان دے دی۔ تاریخ بھی ۲۸ ستمبر ۱۹۲۰ء مقرر کر دی۔ طرفین کے شرکائے جلسہ کی تعداد بھی معین کر دی اور جو ملی ہال کے پاس جس مکان میں خواجہ صاحب فروکش ہیں وہی مکان جلسہ مناظرہ کے لئے معین کیا اور یہ بھی اصرار کیا کہ علمائے مسلمین سے سوا جناب مولانا عبدالشکور صاحب اور جناب مولانا مفتی احمد بزرگ صاحب عم فیضہما کے کوئی شریک جلسہ نہ ہو۔ ہمارے علمائے کرام نے قطع حجت کے لئے سب باتیں منظور کر لیں۔ سر جمال صاحب نے ملا احمد داؤد صاحب سے کہا کہ کل ۲۷ ستمبر کو وقت آغاز جلسہ کا بتلا دوں گا۔

## خواجہ کمال الدین کا فرار

دوسرے دن حسب وعدہ ملا احمد صاحب وقت پوچھنے گئے تو خواجہ کمال الدین بھی مع اور چند اصحاب سر جمال صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سر جمال صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب مباحثہ کرنا نہیں چاہتے۔ لہذا جلسہ نہ ہوگا۔

ناظرین! غور کریں کہ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کو اپنی زبان کا خیال ہوتا ہے تو کیا سر جمال صاحب جیسے امیر درمیں کو اپنے ایسے پختہ اقرار کا کچھ خیال نہ ہوا ہوگا۔ ضرور ہوا ہوگا مگر خواجہ صاحب پر ان کا زور نہ چل سکا۔ خواجہ صاحب کو یقین کامل ہے کہ کسی واقف کار کے سامنے جا کر اپنی مرزائیت کو ہرگز نہیں چھپا سکتے اور نہ مرزا کے مسلمان اور راست باز، نیک چلن، ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ نبی و رسول ہونا تو بڑی بات ہے۔

ملا احمد صاحب نے خواجہ صاحب سے کہا کہ صاحب یہ تو بڑی مشکل ہوئی۔ اب عام مسلمانوں کی نظر میں یا تو میں جھوٹا اقرار پاؤں گا یا آپ۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں تحریر لکھے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک تحریر لکھ دی جس میں علاوہ انکار مباحثہ کے اور بھی بہت سے لطائف ہیں۔ خواجہ صاحب نے یہ تحریر ملا احمد صاحب کو دے کر کہا کہ یہ تحریر علماء کو دکھلا کر پھر مجھے واپس دیجئے۔ چنانچہ اس کی نقل لے کر تحریر واپس کر دی گئی۔

## خواجہ صاحب کی رسوائی کا آخری منظر

ملا احمد صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے کوئی کتاب صحیفہ آصفیہ حضور نظام دکن کو مرزائی بنانے کے لئے لکھی ہے اور کئی ہزار کامیاں اس کی حیدرآباد دکن میں شائع کی ہیں؟ خواجہ صاحب یہ سن کر سر اسیمہ ہو گئے اور کہنے لگے ہاں میں نے لکھی تو ہے، وہ کتاب کس کے پاس ہے۔ ملا احمد صاحب نے کہا کسی کے پاس ہو اس سے کیا مطلب مگر میں خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ نے صحیفہ آصفیہ میں مرزا غلام احمد کو خدا کا نبی، رسول، خدا کا برگزیدہ مرسل، نذیر و بشیر، پیغمبر بہت جگہ لکھا ہے۔ حالانکہ آپ اپنے لیکچروں میں کہتے ہیں کہ میں ان کو نبی نہیں مانتا۔ نہ انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا۔ بولتے آپ نے لکھا یا نہیں؟ خواجہ صاحب نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ ملا احمد صاحب کی یہ تمام گفتگو مفصل لکھوائی گئی ہے جو خواجہ صاحب کی اس آخری تحریر کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ ہدیہ ناظرین ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس واقعہ کے ظہور نے چار چاند لگا دیئے اور ہر طبقہ پر اصل حقیقت کھل گئی۔

## حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب کے رخصتی کے کلمات

”بعد الحمد والصلوة“

یہ ناچیز مسلمانانِ رنگون کا بلایا ہوا یہاں آیا اور الحمد للہ کہ حجت خدا پوری ہوگئی۔ خواجہ صاحب اور کوئی مرزائی رنگون سے چندہ چاہے جس قدر لے جائیں۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ مرزائیت کی اشاعت کا موقع ان کو رنگون میں نہیں مل سکتا۔ ابھی رنگون میں اس ناچیز کا قیام چار روز اور ہے۔ یعنی ۷ اکتوبر کو انشاء اللہ تعالیٰ عزم رواگئی ہے۔ اگر کسی کو امور ذیل میں اب بھی کچھ شک رہ گیا ہو تو وہ اس ناچیز کے پاس آ کر خواجہ صاحب اور مرزا قادیانی کی خاص تصنیف دیکھ کر اپنا شک دور کر سکتا ہے۔

.....۱ خواجہ کمال الدین پکے مرزائی ہیں۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں مرزا کو خدا کا نبی رسول برگزیدہ مرسل وغیرہ وغیرہ لکھا ہے اور کوئی تاویل مجازی بروزی نبوت کی وہاں نہیں چل سکتی۔

.....۲ مرزا قادیانی نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کو تمام نبیوں سے حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ سے افضل قرار دیا ہے۔

.....۳ مرزا نے تمام نبیوں کی اور خاص کر آنحضرت ﷺ کی سخت سے سخت توہین کی ہے۔

.....۴ مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والے مسلمانوں کو کافر لکھا ہے۔

.....۵ مرزا قادیانی جھوٹ بہت بولتا تھا۔

.....۶ مرزا قادیانی کا ان خرافات سے توبہ کر کے مرنا ثابت نہیں۔

اس ناچیز کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی مرزائی مستعد ہو یا کسی مسلمان نے ان امور میں شک ظاہر کیا تو اس کا فیصلہ بروز قیامت خدا کے سامنے ہوگا۔ ”وما علینا الا البلاغ المبین وان اجری الا علی رب العلمین، کتبہ افقر عباد اللہ محمد عبدالشکور عافاہ مولاہ“

باسمہ تعالیٰ حامداً ومصلياً

خواجہ کمال الدین اور تبلیغ اسلام

مسلمانو! خدا کے لئے انصاف کرو اور ایمان سے فیصلہ کرو

گر امروز گفتار مانشوی

مبادا کہ فردا پشیمان شوی

..... ایک وقت وہ تھا کہ خواجہ کمال الدین تمہارے سامنے لیکچروں میں کہتے تھے کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کبھی نبی و رسول نہیں کہا، اور نہ اب کہتا ہوں اور جو کہے وہ کافر اور خود مرزا قادیانی نے بھی کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ میں سنی حنفی ہوں اور مرزا قادیانی بھی سنی حنفی تھا۔ یہی مضمون خواجہ صاحب نے پرچہ اشاعت اسلام میں بھی لکھا۔ مگر اب چونکہ تمام رنگون خواجہ صاحب اور ان کے پیغمبر قادیانی کی تصنیفات سے گونج اٹھا اور سب نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ خواجہ صاحب نے مرزا قادیانی کو خدا کا نبی، رسول، مرسل، برگزیدہ، مرسل نذیر، بشیر، مسیح موعود، مہدی معبود، وغیرہ وغیرہ لکھا اور مرزا قادیانی نے صاف صاف نبی بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔ لہذا اب خواجہ صاحب اسی زبان سے تمہارے سامنے کہتے ہیں اور اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ ہاں میں نے مرزا غلام احمد کو مرسل و پیغمبر لکھا۔ کیا یہ اختلاف بیانی خواجہ صاحب کی سچائی اور ان کے حیا و غیرت کے ثبوت میں کافی نہیں ہے؟ اور کیا اس کے بعد خواجہ صاحب کی کسی بات پر اعتبار کرنا ایمان دار کا کام ہے؟

.....۲ خواجہ صاحب اپنی تحریر موسومہ یوسف سلیمان ہال میں جو ۳ اکتوبر کو دہلی پریس میں چھپ کر خاص خاص لوگوں میں تقسیم ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ: ”میں نے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام پیروں نے مرزا کو مجازی طور پر نبی و رسول پیغمبر وغیرہ کہا ہے۔“ تحریر کے علاوہ تقریر میں بھی وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے کو حقیقی نبیوں سے افضل کہا۔ اپنے نہ ماننے والوں کو کافر لکھا اور خود تم نے بھی صحیفہ آصفیہ میں مرزا کے نہ ماننے والوں کو کافر بنایا۔ قرآن شریف کا جھٹلانے والا کہا، قحط اور طاعون اور یورپ کی لڑائیوں کو قہر الہی اور اس قہر الہی کا سبب مرزا کے نہ ماننے کو قرار دیا۔ تو اب مجازی معنی کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کا کچھ جواب خواجہ صاحب نہیں دیتے۔ کئی تحریریں بھی ان کو بھیجی گئیں۔ جن میں سے آخری تحریر بالکلے صاحب والے جلسہ میں ان کو دی گئی جو بہت مختصر تھی اور جس میں خدا کا واسطہ دے کر جواب مانگا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کسی تحریر کا جواب نہ دیا۔

.....۳ قرآن شریف میں ہے: ”ومن الناس من يقول اٰمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین (بقرہ: ۸)“ ﴿بعضے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہوئے۔﴾

اور فرمایا: ”افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا اٰمنا وہم لا یفتنون (عنکبوت: ۲۵)“ ﴿کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف آمانا یعنی آمنت باللہ وغیرہ کہنے سے وہ چھوٹ

جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ ﴿

غرض کہ بہت سی آیات قرآنیہ میں یہ حکم ہے کہ کسی کے زبانی کلمہ پڑھ لینے پر اعتبار نہ کرو۔ در صورت یہ کہ اس کے خلاف باتیں اس میں موجود ہوں۔ پس کیا اب سب مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی زبانی کلمہ گوئی پر اعتبار نہ کریں۔ کیونکہ اس کلمہ کے خلاف باتیں ہم ان میں دیکھ رہے ہیں۔ جن سے نہ تو قاعدہ کے طور پر توبہ کرتے ہیں نہ صفائی پیش کرتے ہیں۔

۴..... خواجہ صاحب کا یہ کہنا کہ جب سے تبلیغ اسلام کا کام میں نے شروع کیا ہے۔ کسی خاص فرقہ کی تعلیم نہیں کرتا۔ کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جب کہ انگریزی ترجمہ قرآن جس کی اشاعت میں اب بھی وہ سرگرم ہیں۔ بالکل مرزائیت کی باتوں سے بھرا ہوا ہے جو دین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ جس کو تم نے خود دیکھا اور سنا۔

۵..... خواجہ صاحب کا زبانی مباحثہ سے گریز سب پر ظاہر ہو چکا۔ وہ اپنی تحریر و تقریر میں صاف صاف کہہ چکے۔ حتیٰ کہ سر جمال صاحب نے خود انہیں کے قیام گاہ میں ہمارے علماء کو بلایا، تاریخ مباحثہ مقرر کی اور حاضرین جلسہ کی تعداد بھی اتنی کم رکھی کہ مثل نہ ہونے کے ہمارے علماء نے سب کچھ منظور کر لیا۔ مگر خواجہ صاحب نے اپنے میزبان کی عزت کا بھی کچھ خیال نہ کر کے انکار کر دیا۔ پس کیا اب بھی کس کو ان کے برسر حق ہونے کا وہم ہو سکتا ہے۔

نوٹ: اب رہی یہ بات کہ آیا مجازی طور پر کسی کو نبی کہنا جائز ہے یا نہیں اور جو حوالے کتب تقاسیر وغیرہ کے خواجہ صاحب دیتے ہیں کہاں تک صحیح ہیں اور ختم نبوت جس کا اقرار خواجہ صاحب کرتے ہیں ختم نبوت کے کیا معنی انہوں نے اور ان کے پیغمبر نے گھڑے ہیں۔ اگر مباحثہ ہوتا تو ان سب باتوں کا فیصلہ ہو جاتا اور سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بھی خواجہ صاحب کا ایک بے مثل فریب ہے۔ نظر! الداعیۃ الی الخیر!

جمعیت العلماء رنگون

باسمہ تعالیٰ حامداً ومصلياً

شریعت ربانی کی عدالت سے

خواجہ کمال الدین پر فرد جرم

بعد تحقیق کے خواجہ صاحب پر حسب ذیل جرائم قائم کئے گئے ہیں۔ جو اخلاقاً و قانوناً

بھی عظیم جرم ہیں۔



.....۱ خواجہ صاحب نے دوسرے مقامات کی طرح مسلمانان رنگون کو دھوکہ دیا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کبھی نبی و رسول نہیں کہا نہ کہتا ہوں اور جو کہے وہ کافر۔ غرض کہ اسی طرح کی فریبی باتیں کہہ کر ناواقفوں کو اپنا مسلمان، بلکہ سنی حنفی ہونا باور کرایا اور ان سے تبلیغ اسلام کے نام سے چندہ وصول کرنا شروع کیا۔ حالانکہ خواجہ صاحب نے خلاف دین اسلام کے اپنی تصنیفات میں مرزا قادیانی کو خدا کا نبی، رسول، برگزیدہ مرسل وغیرہ کہا۔ جس کا اب ان کو خود بھی اقرار ہے اور ان کفریات صریحہ سے کوئی توبہ نامہ اب تک نہیں شائع کیا۔

.....۲ خواجہ صاحب نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کا نہیں کیا اور یہ کہ وہ سنی حنفی تھا۔ حالانکہ مرزا قطعاً خارج از اسلام تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں صاف صاف دعویٰ نبوت کا کیا ہے اور تمام نبیوں کی، خاص کر حضرت سرور انبیاء ﷺ کی سخت توہین کی ہے۔ ان کی حدیثوں کو ردی کی طرح پھینک دینے کے لئے کہا۔ آپ کو مردہ کہا۔ آپ کے معجزہ شق القمر کا انکار کیا وغیرہ وغیرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی بری بری گالیاں دی ہیں اور ان کے لئے حوالہ قرآن کا دیا ہے تاکہ قرآنی حکم سمجھ کر تمام مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیا کریں۔

.....۳ خواجہ صاحب نے بعد خرابی بسیار، یہ اقرار کیا کہ ہاں میں نے مرزا قادیانی کو نبی، رسول، پیغمبر لکھا ہے تو اس کے ساتھ یہ ابلہ فریب فقرہ لگا دیا کہ مجازی طور پر میں نے نبی و رسول و پیغمبر کہا ہے اور مرزا و نیز اس کے تمام پیروں کی مراد بھی یہی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب نے مرزا قادیانی کے نہ ماننے والوں کو صحیفہ آصفیہ میں کافر یعنی قرآن کا مکذب قرار دیا اور مرزا قادیانی کے انکار کرنے کی وجہ سے دنیا پر قہر الہی کا نازل ہونا بیان کیا۔ مرزا قادیانی کی نبوت پر ان آیات قرآنیہ کو منطبق کیا جن میں اولوالعزم پیغمبروں کا بیان ہے اور خود مرزا قادیانی نے اپنے کو حقیقی نبیوں سے افضل کہا۔ اپنے الہام کو قرآن شریف و دیگر کتب الہیہ کی طرح واجب الایمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ ماننے والوں کو کافر لکھا۔ لہذا مجازی نبوت کسی طرح نہیں بن سکتی۔

.....۴ خواجہ صاحب اور ان کی ساری جماعت نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر انگریزی ترجمہ قرآن کی اشاعت کے لئے ہزاروں روپیہ رنگون سے اور اسی طرح کی رقوم دوسرے مقامات سے وصول کیں۔ حالانکہ اس ترجمہ قرآن میں انہوں نے ازراہ خیانت اپنے

نوٹ اضافہ کئے ہیں۔ جن میں سراسر مرزائیت کی باتیں بھری ہیں اور ضروریات دین اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

۵..... خواجہ صاحب نے علمائے کرام کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کئے اور جب ان کو مباحثہ کی دعوت دی گئی جو درحقیقت ان سے جرائم مذکورہ بالا کی صفائی کا مطالبہ تھا تو انہوں نے یہ چلتا ہوا فقرہ کہہ کر کہ میں مسلمانوں سے بحث نہیں کرتا۔ قرآن کو قرآن سے نہیں لڑاتا مباحثہ سے گریز کیا۔

لہذا حکم ہوا کہ

خواجہ صاحب کو ہدایت کی جائے کہ آج سے کل تک ان تین باتوں میں کسی بات کو اختیار کر لیں اور جو بات ان کو پسند ہو اس کی منظوری اپنے دستخط سے لکھ کر جمعیت العلماء میں فی الفور بھیج دیں۔

الف..... حضرات علمائے کرام دامت برکاتہم کی خدمت میں بمقام جامع رنگون حاضر ہو کر باقاعدہ توبہ کریں اور اپنا توبہ نامہ چھپوا کر شائع کر دیں۔

ب..... یہ نہ منظور ہو تو مسلمانوں کے عام جلسہ میں کسی عالم کے سامنے جو جمعیت العلماء کی طرف سے منتخب ہوں گے اپنی صفائی پیش کریں اور ثبوت جرم کی شہادتوں کا جواب دیں۔

ج..... یہ دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو جس قدر روپیہ مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے اثر سے کسی دوسری قوم سے تبلیغ اسلام کا فریب دے کر وصول کیا ہے۔ فی الفور دینے والوں کو واپس کر دیں۔ ترجمہ قرآن کی رقوم البتہ اپنی سہولت کا لحاظ رکھ کر باقسط ادا کریں اور اگر خواجہ صاحب کو تینوں باتیں منظور نہ ہوں یا اس ہدایت نامہ کا جواب نہ دیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ: ”پئے زجر تو قرآن ایستادست“ ”ان الذین اجر مواسیصیبہم صغار من عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون“ ﴿۱﴾ یہ تحقیق وہ لوگ کہ انہوں نے جرائم کار کتاب کیا۔ عنقریب ان کو پہنچے گی ذلت اللہ کی طرف سے اور سخت عذاب، بسبب اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ ﴿۲﴾ فقط! جمعیت العلماء رنگون۔

۳۶ مغل اسٹریٹ، مورخہ ۵ اکتوبر ۱۹۲۰ء

ان اشتہارات نے خواجہ صاحب کے لئے تمام راستے بند کر دیئے اور مرزائیت کی حقیقت پوری طرح کھول دی۔ مردانہ وار توبہ کرنا بڑا کام ہے۔ اس کی تو کیا امید کی جاسکتی۔ مگر

بادل تا خواستہ رنگون سے ان کو اپنا ڈیرہ اٹھانا پڑا۔ لیکن چلتے چلتے ایک مطبوعہ اشتہار اور ایک قلمی تحریر دتی پریس میں چھاپ کر خاص خاص لوگوں کو دیتے گئے۔ جن کی نقل حسب ذیل ہے۔

خواجہ کمال الدین کی طرف سے مطبوعہ آخری اشتہار

خدا واسطے مسلمان غور کریں۔

اس شہر میں چند ہفتوں سے خواجہ کمال الدین صاحب وارد ہیں۔ ان کی خدمات اور ان کے کام کے متعلق میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ جس معاملہ میں یہاں چند اصحاب نے ایک چرچا کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق میں (منشی عبدالقادر لاہوری مرزائی) کچھ عرض کرتا ہوں۔

خواجہ صاحب نے اپنے پبلک لیکچروں میں اپنے عقیدہ کا اظہار کر دیا۔ ان سے جو آٹھ سوال پوچھے گئے۔ ان کا جواب جو بلی ہال میں انہوں نے دے دیا۔ جو باعث اطمینان ہوا لیکن اب ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ خواجہ صاحب کے اعلان کردہ ۲ عقائد تو درست ہیں۔ لیکن جس کے وہ مرید ہیں وہ مدعی نبوت ہے اور وہ کافر ہے۔

خود خواجہ صاحب نے کئی دفعہ رنگون پبلک کے سامنے اعلان کیا کہ وہ آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کے بعد مدعی نبوت کو کافر کاذب اور خارج از دائرہ اسلام سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی خواجہ صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرزا قادیانی قادیانی مدعی نبوت نہ تھے۔ اس بات کے لئے مجھے مرزا قادیانی کی بعض تصانیف دیکھنے کا موقع ملا ہے۔

مرزا قادیانی نے ۱۸۹۲ء میں ایک اشتہار دہلی میں دیا تھا۔ پھر جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اس اشتہار کے مطلب کو حلقاً بیان کیا تھا۔ اس اشتہار میں ذیل کے الفاظ درج ہیں۔

”اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائک کا منکر، بہشت و دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلۃ القدر اور معجزات و معراج نبوی سے بکلی منکر ہے۔ لہذا میں اظہار الحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افتراء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی

۱۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اسی کو کہتے ہیں۔

۲۔ غلط یہ آواز کسی طرف سے نہیں آئی۔ بلکہ یہ آواز آئی کہ خواجہ صاحب کا یہ اعلان مکر و فریب ہے۔ وہ اپنے عقائد اس کے خلاف اپنی تصانیف میں لکھ چکے ہیں۔ جن سے انہوں نے اب تک توبہ کی نہ اب کرتے ہیں۔

عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن و حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ ﷺ پر ختم ہوگئی۔ ”آمَنْتُ

باللہ وملائکته وکتابہ ورسله والبعث بعد الموت و آمنت بکتاب اللہ العظیم القرآن الکریم“ اس میری تحریر پر ہر ایک شخص گواہ رہے اور خداوند عظیم و سمیع اول الشاہدین ہے کہ میں ان تمام عقائد کو مانتا ہوں جن کے ماننے کے بعد ایک کافر بھی مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے اور جن پر ایمان لانے سے ایک غیر مذہب کا آدمی بھی معاً مسلمان کہلانے لگتا ہے۔ میں ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں درج ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۰)

پھر کتاب (ازالہ اوہام ص ۶۱، خزائن ج ۳ ص ۲۳۰، مصنفہ مرزا قادیانی) میں ذیل کی عبارت درج ہے۔ ”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو۔ کیونکہ علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود ممنوع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔“

پھر کتاب (نشان آسمانی ص ۲۹، خزائن ج ۴ ص ۳۹۱، مصنفہ مرزا قادیانی) پر ہمیں ذیل کی عبارت ملتی ہے۔ ”نہ مجھے دعویٰ نبوت و خروج از امت، اور نہ میں منکر معجزات اور ملائک اور نہ لیلۃ القدر سے انکاری ہوں اور آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیا ہو یا پرانا ہو اور قرآن کریم کا ایک شعہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہوگا۔ ہاں محدث آئیں گے جو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ظلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں۔“

پھر (کتاب البریہ ص ۲۸۲، خزائن ج ۱۳ ص ۲۱۶) پر ذیل کی عبارت درج ہے۔ ”افتراء کے طور پر ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم معجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تمام افتراء ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور ہم فرشتوں اور معجزات اور تمام عقائد اہل سنت کے قائل ہیں۔“ اس قسم کی تحریریں مرزا قادیانی کی تصنیف میں بکثرت ہیں۔ جن میں وہ انکار نبوت

کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”لم یبق من النبوة الا المبشرات“ یعنی نبوت کے مختلف اجزاء ہیں۔ ان میں سے صرف ایک جزو مبشرات یعنی روئے صالح جاری رہیں گے۔ روئے صالح چھالیسواں حصہ نبوت کا آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ اس قسم کے مکالمہ مخاطبہ کے مدعی ہمیشہ امت مرحومہ میں ہوتے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پہلے بھی بعض نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اسی قسم کے مدعی مرزا قادیانی ہیں۔ اسی کا نام وہ جزوی، بروزی نبوت رکھتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حقیقی معنوں میں نبی یا مرسل نہیں ہوں۔ بلکہ مجازی طور پر ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی ایک آخری تصنیف میں ایک استفتاء کیا ہے اور اسے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے ساتھ بطور ضمیمہ لگایا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں۔

”والنبوة قد انقطعت بعد نبینا ﷺ ولا کتاب بعد الفرقان الذی ہو خیر الصحف السابقة . ولا شریعة بعد الشریعة المحمدیة . بیدانی سمیت نبیا علی لسان خیر البریة . وذلك امر ظلی من بركات المتابعة وما ارى فی نفسی خیراً وجدت کلما وجدت من هذه النفس المقدسة وما عنی اللہ من نبوتی الا کثرة مکالمة والمخاطبة ولعنة اللہ علی من اراد فوق ذلك او حسب نفسه شیئاً او اخرج عنقه من الربة التنبویة . وان رسولنا خاتم النبیین علیہ انقطعت سلسلة المرسلین فلیس حق اجد ان يدعی النبوة بعد رسولنا المصطفیٰ علی الطريقة المستقلة وما بقی بعد الا کثرة مکالمة وهو بشرط الاتباع لا غیر متابعة خیر البریة وواللہ ما حصل لی هذا المقام الا من انوار اتباع الاشعة المصطفویة وسمیت نبیاً من اللہ علی طریق المجاز لا علی وجه الحقیقة“ (الاستفتاء بحقیقت الوحی ص ۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۶۸۹)

اس عبارت کا مطلب یہ ہے یعنی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: نبوت تو آنحضرت ﷺ کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ قرآن کے بعد نہ کسی کتاب کا آنا ہے اور نہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی اور شریعت آ سکتی ہے۔ میری نبوت جو ہے وہ ایک امر ظلی ہے۔ یعنی وہ نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ نبوت کا سایہ ہے اور یہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھ میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ مگر وہی جو اس مقدس انسان یعنی آنحضرت ﷺ سے مجھے ملی ہے اور میری نبوت سے مراد خدا تعالیٰ نے صرف کثرت مکالمہ رکھی ہے۔ یعنی خدا سے بولنا اور جو اس سے زیادہ ذرا بھی ارادہ کرے اس

پر لعنت خدا کی ہو، ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں۔ ان پر مرسلین کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے اور آپ کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مستقل طور پر نبوت کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ آپ کے بعد صرف کثرت مکالمہ باقی رہ گیا اور اس کے لئے بھی اطاعت آنحضرت ﷺ کی شرط ہے۔ مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ محض آپ کی اطاعت سے ہوا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کر پکارا تو محض مجاز کے طور پر نہ "حقیقتاً" یہ ان کی اس مضمون پر آخری تحریر ہے۔ وہ اس کے ذریعہ علماء سے اپنے عقائد کا استفسار چاہتے ہیں باقی اور عقائد کا بھی اسی طرح ذکر ہے۔

اب خدا راے مسلمانوں اس امر کو نہ بھولو کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس عبارت کے ہوتے ہوئے کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ ان کی تحریر میں سے کوئی بے جوڑ ٹکڑا یا سطر لے لی جائے اور کفر کا مصالح جمع کر لیا جائے۔ ہم حنفی ہیں اور امام صاحب کے اس حکم کو نہ بھولو۔ اگر کسی میں ۹۹ وجوہ کفر ہوں اور ایک وجہ اسلام ہو تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس عبارت کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح اسے مدعی نبوت ٹھہرائیں اور اس پر کفر کا فتویٰ تجویز کریں۔

میں مانتا ہوں کہ ان کی تحریروں میں بعض الفاظ تشابہ ہوں گے۔ بعض سے کچھ شبہ پڑتا ہوگا۔ لیکن جب ان کی آخری تحریر "استثناء" مذکورہ بالا میں ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی اور تحریر نہیں تو پھر ہم مرزا قادیانی کو کافر ٹھہرا کر خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اگر مرزا قادیانی نے لفظ مرسل یا نبی اپنے متعلق استعمال کیا ہے تو پھر قرآن بھی لفظ مرسل کو غیر نبی پر استعمال کرتا ہے۔ "فقالوا انما اليكم مرسلون" یہاں مرسل "حوار بین مسیح" کو کہا گیا ہے۔ یہی کی ایک روایت غالباً روح المعانی میں درج ہے۔ جس میں آنحضرت ﷺ قرآن کے پڑھنے والے کو نبی ٹھہراتے ہیں۔ "من قرأ ثلث القرآن اعطى ثلث النبوة" یعنی جس نے ایک تہائی قرآن پڑھا اسے ایک تہائی نبوت دی گئی۔ جس نے کل قرآن پڑھا اسے کل نبوت دی گئی۔ اب یہاں نبوت سے مراد حقیقی نہیں بلکہ مجازی نبوت مراد ہے۔

۱ غلط ہے فقہ کی کسی کتاب میں یہ مضمون نہیں۔ ہاں عوام جہلاً میں البتہ مشہور ہے۔ خواجہ صاحب کی علمی قابلیت اسی ایک بات سے ظاہر ہو گئی۔ کتب فقہ میں اگر ہو تو یہ مضمون ہے کہ کسی مسلمان کے کسی کلام میں اگر سو مطلب ہو سکتے ہوں۔ ان میں ۹۹ کفر ہوں اور ایک اسلام تو اس کے کلام کا وہی مطلب مراد لینا چاہئے جو اسلام کے مطابق ہو۔

اس قسم کے الفاظ سابقین نے مجازاً استعمال کئے ہیں۔ مولانا روم مرشد کے متعلق فرماتے ہیں۔

او نبی وقت باشد اے مرید

حضرت محی الدین بن عربی لکھتے ہیں۔ ”فالنبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق وان كان التشريع قد انقطع“ یعنی نبوت تو مخلوق میں قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن شریعت کا آنا بند ہو چکا۔ پھر حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا ایک قول کتاب ”البروقیت والخواہر“ میں یوں درج ہے۔ ”اوتی الانبياء اسم النبوة واوتينا اللقب“ یعنی انبیاء کو تو نبوت اسماء میں لے لیا۔

اس قسم کی تحریر سب اولیاء کرام نے ایک نہ ایک رنگ میں لکھی ہیں۔ مگر حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں۔ اگر مرزا قادیانی ان لفظوں کے استعمال سے کافر ٹھہرتے ہیں تو پھر ان بزرگوں کو ہم کیا کہیں۔ لیکن ان بزرگوں کو بھی علماء وقت نے کافر ٹھہرایا ہے۔

اے مسلمانو! کیا تم ایسے شخص کو کافر کہو گے جو آنحضرت ﷺ کے بعد مدعی نبوت کو کافر کا ذب ٹھہراتا ہے اور اپنا عقیدہ یوں لکھتا ہے۔ ”وبعزة الله وجلاله انى مؤمن مسلم واومن بالله وكتبه ورسله والملئكة والبعث بعد الموت وبان رسولنا محمد مصطفى ﷺ افضل الرسل وخاتم النبيين“

میں نے یہ باتیں اس لئے لکھیں کہ ہم اہل رنگوں کا خیر میں ہمیشہ سبقت لیتے رہے ہیں۔ آج ایک شخص ہم میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خدائے تعالیٰ وہ کام کر رہا ہے۔ جو سب کاموں سے بہترین ہے۔ اس کا گذشتہ آٹھ سالوں کا کام ہمارے سامنے ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اسے فوق الفوق کامیابی بخشی ہے۔ وہ کبھی فرقی بحثوں میں نہیں پڑا وہ ہمیں کار خیر میں شامل کرنے کے لئے یہاں آیا ہے۔ یہ ہمارے لئے سخت بد بختی ہوگی۔ اگر ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ جس نے یہ اشتہار اس لئے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی عقیدہ کی بحث چھیڑے تو یہ سمجھا جائے گا۔ محض روپیہ بچانے کے بہانے ہیں۔

مسئلہ وفات مسیح کوئی مرزا قادیانی کا نیا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ مانتے آئے ہیں۔ مثلاً امام مالک صاحب کا ایک قول مجمع البحار میں درج ہے۔ لیکن اگر یہاں کے مفتی صاحبان کو مزید تشفی کرنی ہے تو دنیا میں بہت سے لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں ہم ایسے اصحاب کو

بلوائیں گے جو یہاں کے مفتی صاحبان کو بروئے تعلیم قرآن قائل کر دیں گے کہ مسیح مر گیا۔ بشرطیکہ یہ صاحب اگر تحریری بحث کرنے کا وعدہ دیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ محبت اور آشتی سے معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ البتہ ہمارے پاس ہماری اس تحریر کا مخاطب کوئی پیشہ ور نہیں ہے۔

اخیر میری یہ عرض ہے کہ مدتوں بعد ایک شخص ہم میں پیدا ہوا ہے۔ جس نے فرقی تنازعات سے علیحدہ ہو کر منکران اسلام کو اپنا مقابل بنایا۔ اس کی تحریریں تقریریں فرقی عقائد اور امتیازیوں سے خالی ہیں۔ للہ اس کی راہ میں نہ آؤ اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔

المشتمر: بنشی عبدالقادر، تانور و ڈرنگون۔

## خواجہ صاحب کی دوسری تحریری دستی پر لیس کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

### ایک ضروری اطلاع

”نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم . اما بعد! “ دوران قیام رنگون میں مجھ سے کئی دفعہ میرے عقائد کے متعلق پوچھا گیا اور میرے نزدیک ایک مسلمان کا حق ۱ ہے وہ دوسرے مسلمان سے ایسا سوال کرے اس کے جواب میں میں نے مختلف لیکچروں ۲ میں اپنے عقائد کھول کر بیان کر دیئے۔ پھر بعض مولانا صاحبان کے اشارے پر بعض احباب نے مجھے خط لکھے۔ جس کا جواب بھی میں نے مفصل دے دیا۔ اگر وہ بکتہ عام پبلک میں سنا دیا جاتا تو یہ تنازع ختم ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ اس لئے اب میں اپنا عقیدہ محض دوستوں کی درخواست پر شائع بھی کر دیتا ہوں۔ وھو ہذا!

”اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله“ اذاعت  
بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله  
تعالى والبعث بعد الموت “ میں خدا کو ایک جانتا ہوں اور حضرت محمد ﷺ کو نبی برحق اور آپ  
پر سلسلہ رسالت و نبوت کو منقطع اور ختم مانتا ہوں اور آپ کے بعد مدعی نبوت کا کافر کاذب اور خارج  
از اسلام سمجھتا ہوں۔ میں اپنی ہدایت کے لئے اول قرآن کو پھر حدیث اور اس کے بعد امام اعظم

! خدا خدا کر کے آپ نے حق تو تسلیم کیا پہلے تو اس سوال کو چلتی ہوئی گاڑی میں روڑا

اٹکانا بتے تھے۔

۲ چہ خوش سوال تحریری جواب زبانی۔



صاحب کے اجتہاد کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہوں۔ میں اہل قبلہ ہوں۔ کلمہ گو ہوں مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہوں۔ معراج لیلیٰ القدر اور معجزات آنحضرت ﷺ اور دیگر انبیاء مندرجہ قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔ فقط! آج میرے ہاتھ میں ایک مقدس کام ہے۔ جس کی کامیابی پر مسلمانوں کی آئندہ فلاح بہت حد تک منحصر ہے۔ میں نے ہزاروں روپیہ اس پر خرچ کئے۔ ابھی گزشتہ دسمبر میں دو کنگ مشن کے متعلق ایک مستقل مشنری فنڈ کھولنے کے لئے میں نے تین ہزار روپیہ دیا۔ میں اس کا رخیہ کی طرف آپ کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر میرے ان عقائد پر آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں تو بسم اللہ اور اگر اس تحریر کے بعد آپ کو میرے اسلام پر شبہ ہے پھر آپ پر حرام ہے کہ مجھے اشاعت اسلام کے لئے ایک کوڑی دو۔ بس میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔

یہ امر صحیح ہے کہ میں نے ایک کتاب صحیفہ آصفیہ ۱۹۰۹ء میں لکھی تھی۔ جس میں میں نے لفظ مرسل یا پیغامبر قادیان جناب مرزا قادیانی کے متعلق لکھے۔ جس کی بناء پر یہاں کے بعض شخص یہ زور دیتے ہیں کہ میں جناب مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہوں۔ اگر ایسا کہنے والے ایمان اور دیانت سے کام لیتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ صحیفہ آصفیہ کے آخری دو صفحہ بھی مسلمان بھائیوں کو پڑھ کر سنا دیتے۔ جہاں میں نے اپنا ایمان کھول کر بیان کیا ہے کہ حضرت محمد ﷺ خیر الرسل اور خیر الامم ہیں اور ان پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ جب میں نے اس کتاب کے خاتمہ پر اپنے ایمان کا خلاصہ لکھ دیا اور آنحضرت ﷺ پر ختم نبوت کا اقرار کر دیا تو پھر یہ کس قدر خیانت ہے کہ میری کتاب کا ایک آدھ فقرہ لوگوں کو سنا دیا جائے اور میرے متعلق وہ باتیں منسوب کی جائیں جس کے خلاف میرا ایمان کتاب میں درج ہے۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں صحیفہ آصفیہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں تو پھر میں نے کیوں آنحضرت ﷺ کے بعد ایک امتی کے متعلق خواہ وہ مرزا قادیانی ہوں یا کوئی اور۔ لفظ مرسل یا رسول یا پیغامبر استعمال کیا۔ یہ سوال ان کی طرف سے تو ہو سکتا ہے جو اہل علم نہیں۔ لیکن اگر ایک ذی علم یہ اعتراض کرتا ہے تو یا تو وہ خلق خدا کو دھوکہ دیتا ہے یا وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اہل علم سے نہیں۔

۱۔ خواجہ صاحب کیوں اپنے منہ سے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو۔ جو شخص عربی زبان نہ جانے، چاروں مذہب کے فقہ پر کجا، فقہ حنفی پر بھی نظر نہ رکھتا ہو وہ کیا ترجیح دے گا۔ خواجہ صاحب کو یہ بھی خبر نہیں کہ اصحاب ترجیح ایک طبقہ ہے مجتہدین میں سے۔

۲۔ خواجہ صاحب نے خود اپنے دھوکہ دہی کا اقرار کر لیا۔ کیونکہ ان کو تسلیم ہے کہ جو اہل علم نہیں وہ اس اختلاف بیانی سے شک میں پڑیں گے اور ظاہر ہے کہ صحیفہ آصفیہ جو اردو کی ایک معمولی کتاب ہے۔ اہل علم کے لئے نہیں لکھی گئی۔

لفظ پیغمبر عربی لفظ نہیں۔ وہ آج بھی عام بول چال میں کسی پیغام رساں پر بولا جاسکتا ہے۔ بہر حال لفظ پیغمبر یا رسول یا مرسل سب کا مفہوم ایک ہے۔ یعنی قاصد بھیجا ہوا فرستادہ۔

سوال صرف یہ ہے کہ آیا کسی غیر نبی یا امتی پر لفظ مرسل بولا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ لوگ اہل علم اور تفسیروں سے واقف ہوتے یا ضدی نہ ہوتے تو مجھ پر یہ اعتراض نہ کرتے کہ میں نے کیوں لفظ مرسل ایک غیر نبی یا امتی پر بولا ہے۔

سورہ یسین میں تین اشخاص کو خدائے تعالیٰ مرسل کہا ہے۔ ”اذ جاءہا المرسلون“ مفسرین نے ان مرسلوں کو حواری مسیح کہا ہے۔ بعض نے ان کے نام بھی دیئے ہیں۔ مثلاً یوحنا، شمعون، منشا، تھوما صدوق وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے نزدیک کوئی یہ لوگ حواری تھے نبی نہ تھے بلکہ امتی تھے۔ لیکن خدائے قرآن میں ان کو اپنے رسول کہا ہے۔ ملاحظہ ہو (تفسیر روح المعانی ج ۷ ص ۲۸۲، تفسیر خازن مع المعالم ج ۶ ص ۴، تفسیر سواطع الالہام ص ۵۲۹، تفسیر ابن عباس ص ۲۷۲، مطبوعہ ازہری مصری، تفسیر جلالین ج ۲ ص ۷۵) ایسا ہی دیکھو (بیضاوی، کشاف، رازی، مذاکر)

پھر اگر سلف صالحین نے لفظ مرسل کو ایک امتی پر بولا جانا تسلیم کر لیا ہے تو پھر میں نے کیا غلطی کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ حقیقی رسولوں اور نبی پر بھی بولا جاتا ہے۔ جو آنحضرت ﷺ کے بعد نہیں آسکتے۔ اس لئے لوگوں کو غلطی سے بچانے کے لئے میں نے کتاب کے آخری دو صفحات میں اپنا عقیدہ لکھ دیا کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہوگئی۔

بد قسمتی سے ہم میں علم کا چرچا نہیں رہا۔ جہاں مدعیان علم کا یہ حال ہوتا دوسروں کا کیا تصور۔ اس لئے اگر بے علم بھائیوں پر ناواقفی کے باعث میرے الفاظ مرسل یا پیغامبر شاق گزرتے تو درست تھا۔ بلکہ یہ تو ان کے عزت اور محبت رسول کا نشان ہے اور مجھے بھی ان کی خاطر منظور ہے۔ مجھے اپنے بھائیوں سے نہ نفرت منظور ہے نہ کسی کی تکلیف مجھے گوارا ہے۔ اس لئے اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ لفظ شاق گزرتے ہیں تو ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث یا خدا سے خبر پانے والا کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں۔ کیونکہ کسی طرح سے مجھ کو مسلمانوں میں نفرت اور نفاق منظور نہیں۔ میں نے عمر بھر

۱۔ الحمد للہ ہمارے علماء علم تفسیر سے خوب واقف ہیں۔ آپ کی طرح بے زادہ ورق گردانی کا نام علم تفسیر کی واقفیت نہیں ہے۔ چنانچہ عنقریب آپ کو معلوم ہوگا۔

۲۔ خواجہ صاحب صرف یہ الفاظ نہیں بلکہ آپ نے اور خود مرزا قادیانی نے اپنے اوصاف رسالت بلکہ اس سے بالاتر ثابت کئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بارہا لکھا گیا۔

میں کوئی لفظ مرزا قادیانی کے متعلق ایسا استعمال نہیں کیا۔ لیکن اسلاف نے لفظ نبی کو امتی اور غیر نبی پر استعمال کیا ہے۔

حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔ ”فالنبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق وان التشريع قد انقطع“ یعنی خلف میں قیامت تک نبوت جاری رہے گی۔ لیکن نبوت شریعت قطع ہو گئی۔ کتاب البواقیت والجوہر میں جو امام شعرانی کے عقائد میں ہے۔ اس کی جلد دوم ص ۳۹ میں حضرت محی الدین ابن عربی کا حوالہ دے کر یہی عقیدہ لکھا ہے۔ پھر اسی جگہ شیخ عبدالقادر گیلانی کا قول ”واوتى الانبياء اسم النبوة واوتينا اللقب“ یعنی انبیاء کو نبوت اسماء ملی ہے اور ہمیں لقباً۔ اسی طرح مولانا روم مرشد کے متعلق فرماتے ہیں۔

اد نبی وقت باشد اے مرید

پھر ابن عباس ”یؤتى الحكمة“ کی تفسیر میں حکمت سے نبوت مراد لیتے ہیں۔ (روح المعانی ج اول ص ۴۹) پر ایک حدیث درج ہے جہاں حضرت فرماتے ہیں جس نے ٹکٹ حصہ قرآن پڑھا اسے ٹکٹ نبوت ملی۔ جس نے نصف پڑھا اسے نصف جس نے دو تہائی اسے دو تہائی جس نے کل قرآن پڑھا اسے کل نبوت ملی۔ یہاں پڑھنے سے مراد تفقہ فی القرآن اور عمل بالقرآن ہے۔

اسی طرح آسیہ، ام موسیٰ، سارہ، ہاجرہ، حوا، مریم کی نبوت پر بھی بعض کا خیال ہے۔

(روح المعانی ج اول ص ۵۷)

ملاحظہ ہو۔

ان حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ نبی اور نبوت امتی اور غیر نبی پر بولا گیا ہے۔ یہ نبوت حقیقی نہیں۔ حقیقی نبوت ختم ہو گئی۔ اس نبوت سے مراد صرف انسان کا خدا سے بولنا ہے۔ جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”لم يبق من النبوة الا المبشرات“ نبوت ختم ہو گئی اس کی ایک جزو یعنی مبشرات یا روایا صادقہ، یعنی خدا کا بولنا باقی رہ گیا ہے۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے۔ ”لهم البشرى في الحياة الدنيا“ اسی نبوت کا نام نبوت ناقصہ، بروزی، مجازی لوگوں نے رکھا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ چھیا لیسواں حصہ نبوت کا ہے۔ اسی نبوت کا لقب شیخ عبدالقادر گیلانی کو ملا۔ اسی کی طرف حضرت ابن عربی نے اشارہ کیا اور اسی کے مدعی مرزا قادیانی ہیں۔ یہ دروازہ صرف امت محمدیہ پر کھلا ہے۔

اس شہر رنگون میں بعض غیر احمدی دوست ہیں۔ جن پر حسب مقدور یہ خدا کا فضل ہوتا

ہے۔ یعنی ان کو خدا سے خبر ملتی ہے۔ والا اصلی اور حقیقی نبوت حضرت محمد علیہ الف صلوٰۃ و سلام پر ختم ہوگئی۔ اخیر میں جہاں میں مولانا بزرگ احمد صاحب کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چند تفسیر بھیج کر مجھے مشکور فرمایا۔ میں ان سے یہ بھی عرض کرتا ہوں وہ خدا کے واسطے شہادت دیں کہ آیا جو حوالے میں نے مفسرین کے دیئے وہ درست ہیں یا نہیں اور ان کی رو سے لفظ مرسل وغیرہ غیر نبی پر اور امتی پر بولا گیا ہے یا نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس زمانہ میں جب علم مفقود ہو گیا ہے اور عام مسلمانوں میں بھی علم کا چچا نہ رہا تو بیشک ان لفظوں سے مسلمانوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ میں کسی کا کیوں گلہ کروں۔ خود ہمارے بھائیوں نے جو آج کل قادیان میں ہیں ان لفظوں سے دھوکہ کھایا اور مرزا قادیانی کی نبوت کو حقیقی نبوت سمجھ لیا اور انہیں نبی بنایا۔ اس وجہ سے ہم ان سے بیزار ہو گئے اور ان سے قطع تعلق کیا اور بالفاظ دیگر مرزا قادیانی نے ایسے شخص کو اور ایسے شخص کے ماننے والے کو اسلام سے خارج سمجھا جو آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا مدعی ہو۔ وہ مرزا قادیانی کے الفاظ یہ ہیں۔ جو آپ نے دہلی میں ایک اشتہار میں شائع کئے اور پھر ہزار مخلوق کے سامنے خانہ خدا میں کھڑے ہو کر دہرائے۔ وہو هذا!

”میں سیدنا و مولانا حضرت محمد ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ پر ختم ہوگئی۔ امنت باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلہ والبعث بعد الموت و امنت بکتاب اللہ العظیم القرآن الکریم“

یہ ان کی تحریر ۱۸۹۲ء کی ہے اور ۱۹۰۵ء میں اس مضمون پر ان کی آخری عربی تحریر شائع ہوئی۔ ایک اشتہار مشتملہ نسی عبد القادر صاحب تانور و ڈرگنوں میں درج ہے۔ جو دس دن ہوئے شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ ذیل میں لکھتا ہوں۔

نبوت تو آنحضرت ﷺ پر منقطع ہو چکی ہے۔ قرآن کے بعد نہ کسی کتاب کو آتا ہے اور نہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی اور شریعت آ سکتی ہے۔ میری نبوت جو ہے وہ ایک امر ظلی ہے۔ یعنی وہ نبوت حقیقی نہیں بلکہ نبوت کا سایہ ہے اور یہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھ میں کوئی خیر و برکت نہیں مگر وہی جو اس مقدس انسان یعنی نبی کریم ﷺ سے مجھے ملی ہے اور میری نبوت سے مراد خدا تعالیٰ نے صرف کثرت مکالمہ رکھی ہے یعنی خدا سے بولنا اور جو اس سے زیادہ

را بھی ارادہ کرے اس پر لعنت خدا کی؟۔ ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں۔ ان پر مرسلین کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے اور آپ کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مستقل طریق پر نبوت کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ آپ کے بعد صرف کثرت مکالمہ باقی رہ گیا اور اس کے لئے بھی اطاعت آنحضرت ﷺ شرط ہے۔ مجھے جو کچھ حاصل ہوا۔ محض آپ کی اطاعت سے ہوا مجھے اگر اللہ نے نبی کہہ کر پکارا تو محض مجاز کے طور پر نہ حقیقتاً۔

یہ مرزا قادیانی کی اس مضمون پر آخری تحریر ہے جو سب شبہات کو دور کر دیتی ہے۔ وہ نبوت کو آنحضرت ﷺ پر منقطع سمجھتے ہیں اور اس مجازی نبوت کے مدعی ہیں۔ جس کے مدعی حضرت ابن عربی اور حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی اور دیگر بزرگان دین رہے ہیں۔ اگر اس تحریر کے بعد کوئی ان کی تکفیر پر اصرار کرے تو اس کا معاملہ خدا سے ہے۔ والسلام فقط!

خواجہ کمال الدین بقلم خود، مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۲۰ء

### خلاصہ تحریرات و اشتہارات

جس قدر تحریرات خواجہ کمال الدین کے ساتھ ہوئیں اور جو اشتہارات شائع ہوئے سب ہدیہ ناظرین ہو چکے۔ اب ان کا نہایت مختصر خلاصہ بھی درج کیا جاتا ہے تاکہ نتیجہ نکالنا ہر شخص کے لئے آسان ہو جائے۔

۱..... خواجہ صاحب کو مناظرہ کی دعوت دی گئی۔ ان کے ملنے والوں نے خاص کر ان کے میزبان نے بھی ان کو مجبور کیا۔ لیکن انہوں نے کسی طرح ہمت نہ کی۔ اس سے ان کی حقیقت سب کو معلوم ہو گئی۔

۲..... حسب عادت رنگون میں بھی خواجہ کمال الدین نے یہی ظاہر کیا کہ نہ میں نے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہا نہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

۳..... جب علمائے اہل سنت کی طرف سے خواجہ کمال الدین کی کتاب صحیفہ آصفیہ کی تشہیر ہوئی کہ اس میں صاف صاف انہوں نے مرزا قادیانی کو نبی و رسول و پیغمبر لکھا ہے اور خود مرزا قادیانی کی تصنیفات رنگون میں مسلمانوں کو دکھلائی گئیں کہ اس نے بڑی صراحت کے ساتھ دعویٰ نبوت و رسالت کا کیا ہے تو خواجہ صاحب مجبور ہوئے اور انکار کی گنجائش نہ دیکھی۔

۴..... بالآخر خواجہ صاحب نے بڑی بیباکی سے کہا کہ ہاں میں نے مرزا قادیانی کو نبی کہا ہے اور مرزا قادیانی نے بھی دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ مگر اس میں کوئی خرابی نہیں۔ کیونکہ

میری اور مرزا قادیانی کی دونوں کی مراد نبوت مجازی ہے اور مجازاً غیر نبی کو نبی کہنا جائز ہے اور اس کے دلائل خواجہ صاحب نے حسب ذیل پیش کئے۔

الف ..... میں اور مرزا قادیانی دونوں کلمہ ایمان پڑھتے ہیں اور رسول خدا ﷺ کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔

ب ..... مرزا قادیانی نے خود اپنی مراد بیان کر دی ہے کہ میری مراد نبوت سے مجازی ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں کہیں میں نے ان کو نبی لکھا ہے اس سے مراد مجازی نبوت ہے۔

ج ..... غیر نبی پر مرسل کا اطلاق قرآن میں ہے۔ قوله تعالیٰ: ”واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون“

د ..... حدیث میں بعض اجزائے نبوت کے باقی رہنے کی خبر ہے۔ ”لم يبق من النبوة الا المبشرات“ (الحدیث)

ہ ..... حدیث میں قرآن پڑھنے والے کو نبوت کا ملنا بیان ہوا ہے۔

و ..... ابن عباس نے حکمت سے نبوت مراد لی ہے۔

ز ..... امام شعرانی اور غوث الاعظم جیلانی نے نبوت کا سلسلہ قائم مانا۔ مولانا روم نے بھی پیر کو نبی کہا۔

یہ کل سات باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً خواجہ صاحب کی طرف سے پیش ہوئیں۔ جن کے جوابات بار بار اس طرف سے دیئے گئے اور خواجہ صاحب جواب الجواب سے عاجز رہے۔

باقیہ سوالات کے جوابات

ہاں آخری چند نمبروں کا جواب نہیں دیا گیا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ حقیقت حال واضح ہو چکی تھی اور ہمارے جوابات سابقہ سے ان کا جواب بھی بآسانی مستطہ ہوتا تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ وہ باتیں خواجہ صاحب کی طرف سے حضرت مولانا صاحب مدیر انجم کے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہوئی تھیں۔ لہذا اب ہم یہاں ان تمام نمبروں کے جوابات بھی کجا کئے دیتے ہیں۔

جواب: الف ..... کلمہ ایمان پڑھنا اس وقت قابل اعتبار ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور تمہاری و نیز تمہارے مرزا قادیانی کی خلاف باتیں بکثرت موجود ہیں۔ جن کا کچھ جواب تم نہ دے سکے۔ از انجملہ یہ کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم نے بھی اس کو نبی و رسول کہا۔ ایسی کلمہ خوانی کو قرآن کریم واجب الرد قرار دیتا ہے۔

”ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين  
(بقرہ: ۸)“ ﴿بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔  
حالانکہ وہ مؤمن نہیں﴾

رہا ختم نبوت کا اقرار تو وہ محض فریب ہی فریب ہے۔ ختم نبوت کے معنی میں تم تاویل  
کرتے ہو۔ اور کہتے ہو نبوت مستقلہ تشریحیہ ختم ہوئی ہے نہ مطلق نبوت۔ پھر دوسری طرف اس  
کے بھی خلاف مرزا نے نبوت تشریحی کا بھی دعویٰ کیا ہے جیسا کہ آئندہ منقول ہوگا۔

جواب: ب..... صاف و صریح الفاظ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ قطع نظر  
اس سے مرزا اور نیز تم نے صرف دعویٰ نبوت پر اکتفا نہیں کی۔ بلکہ انبیاء کے صفات مخصوصہ اپنے  
لئے ثابت کئے۔ جیسا کہ آئندہ منقول ہوگا۔ پس اب نیت کا بیان کرنا بالکل ایسا ہے کہ کوئی شخص  
کلمہ کفر کہہ کر مکر جائے۔ قرآن مجید میں ایسے مکر جانے والوں کی نسبت فرمایا: ”يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ“ ﴿اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں  
کہا۔ حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور بعد مسلمان ہونے کے کافر ہو گئے﴾

فائدہ

مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میں نے مجازاً اپنے کو نبی کہا یا تمہارا یہ کہنا کہ ہم مرزا کو مجازاً نبی  
کہتے ہیں۔ ہرگز قابل قبول نہیں بوجہ ذیل:

- .....۱ مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو جہنمی کہا۔ (انجام آتھم ص ۶۲، خزائن ج ۱۱ ص ۶۳)
- .....۲ مرزا قادیانی نے اپنے کو حقیقی انبیاء بلکہ سید الانبیاء سے افضل کہا۔  
(براہین پنجم ص ۱۱۳، خزائن ج ۲۱ ص ۱۳۴)
- .....۳ مرزا قادیانی نے اپنے معجزات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کئے۔  
(تتمہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)
- .....۴ مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کو وحی الہی کہا اور ایسا قطعی اور واجب الایمان کہا۔  
(اربعین نمبر ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۴)
- .....۵ تم نے صحیفہ آصفیہ میں مرزا قادیانی کو نبی و رسول کہہ کر ان آیات قرآنی کا مصداق  
بیان کیا جو انبیائے اولوالعزم کی شان میں ہیں اور مرزا قادیانی کے منکر کو مستحق عذاب  
لکھا ہے۔ (مطبوعہ عرفان عام اسٹیر پریس لاہور ۱۹۰۹ء)

پس باوجود ان باتوں کے مجازی نبوت کیسے مراد ہو سکتی ہے اور اگر یہ مجاز ہے تو حقیقی نبوت میں اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے بیان کرو۔ ان باتوں کے بعد یہ کہنا کہ مجازی نبوت مراد ہے۔ یقیناً مخلوق خدا کو دھوکہ دینا ہے۔

جواب: ج..... غلط ہے ہرگز آیت مذکورہ میں غیر نبی پر مرسل کا اطلاق نہیں ہوا۔ سیاق آیت صاف بتا رہی ہے کہ یہ لوگ درحقیقت خدا کے رسول تھے۔ خاص کر یہ آیت بہت صفائی سے بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول نہیں بلکہ خدا کا رسول بیان کیا تھا۔ ”قالوا ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شئ ان انتم الا تكذبون“ یعنی کافروں نے کہا کہ تم ہمارے مثل انسان ہو خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم جھوٹ بولتے ہو۔ ﴿

اگر یہ لوگ اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول کہتے تو انسان ہونے کا اعتراض نہ کیا جاتا۔ کافروں کے خیال میں انسان ہونا خدا کی رسالت کے منافی تھا۔ نہ انسان کی رسالت کے۔ رہا حوالہ تفسیروں کا اس میں خواجہ صاحب نے سخت خیانت کی ہے۔ اکثر معتبر تفسیروں میں دو قول لکھے ہیں ایک یہ کہ: درحقیقت وہ خدا کے رسول تھے۔ دوسرے یہ کہ: وہ حضرت عیسیٰ کے رسول تھے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ بلکہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو رسالت کے لئے منتخب کیا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے ہارون کو۔

اور اگر ہم مان بھی لیں کہ خدا نے ان کو مجازاً رسول کہا تو وہاں تو وجہ مجاز کی موجود ہے کہ خدا کے رسول کے رسول تھے۔ مرزا پر کس وجہ سے مجازاً نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ مرزا کس رسول کا فرستادہ ہے؟

جواب: د..... یہ محض آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ بعض اجزائے نبوت کے باقی رہنے سے نبوت کا باقی رہنا کسی طرح لازم نہیں آتا۔ اذان کے بعض اجزا اگر کوئی کہے تو اس کو اذان نہ کہیں گے۔ تراز کے بعض اجزاء کو نماز نہیں کہیں گے۔ یہ بالکل موٹی بات ہے اور مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ بعض اجزائے نبوت مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے اندر پوری صفت کا مدعی ہے۔ (اور صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی ہے)

(اربعین نمبر ۳ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۳۳۵)



جواب:..... اوّل تو اس حدیث کی صحت ثابت کرو۔ پوری سند بیان کرو۔  
 راویوں کی توثیق کرو۔ دوسرے تمہارا مدعا پھر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو جس معنی میں  
 نبی کہتے ہو وہ نبوت ایسی معمولی چیز نہیں جو ہر قرآن پڑھنے والے کو حاصل ہے۔ مرزا کہتا ہے۔  
 ”اس تیرہ سو برس میں صرف میں نبی ہوا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۶)

جواب:..... یہ استدلال بھی عجیب ہے۔ حکمت سے نبوت مراد ہونے سے  
 تمہیں کیا فائدہ؟ جو لوگ حکمت سے نبوت مراد لیں گے وہ سوائے نبیوں کے دوسرے کو حکمت کا ملنا  
 کب جائز رکھیں گے۔ وہ نبوت کی طرح حکمت کو بھی آنحضرت ﷺ پر ختم کہیں گے۔

جواب:..... یہ محض تمہارا افتراء ہے کوئی مسلمان سلسلہ نبوت کے باقی  
 رہنے کا قائل نہیں۔ دیکھو رسالہ خاتم النبیین مطبوعہ مولگیر کہ اس میں اکابر صوفیہ کے اقوال بکثرت  
 منقول ہیں۔ رہا مولانا روم کا قول تو تم خود اقرار کرتے ہو کہ انہوں نے مجازاً نبوت کا اطلاق کیا اور  
 اس مجاز کے قرآن ان کے کلام میں موجود ہیں۔ بخلاف تمہارے مرزا کے کہ اس کے کلام میں کوئی  
 قرینہ مجاز کا نہیں بلکہ دلائل قطعیہ اس بات کے موجود ہیں کہ سوا معنی حقیقی کے معنی مجازی کسی طرح  
 مراد ہو ہی نہیں سکتے۔

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو اوصاف مخصوصہ نبوت اپنے لئے ثابت کئے یا  
 تم نے اس کے لئے ثابت کئے جب تک اس کا معقول جواب نہ دو گے اس وقت تک نہ مرزا کفر  
 سے بچ سکتا ہے نہ تم۔ اگر ایسی دوزخ کار تاویلات کی جائیں تو دنیا میں کسی بت پرست و یہودی  
 و عیسائی کو بھی کافر نہ کہہ سکیں گے۔

سلسلہ مواعظ

جناب مولانا صاحب ممدوح کے مواعظ نے بھی بہت فائدہ مسلمانان رنگون کو پہنچایا۔  
 تاریخ ورود رنگون کے دوسرے دن سے وعظ کا سلسلہ شروع ہوا اور روانگی کے دو روز پہلے تک قائم  
 رہا۔ شہر کے مختلف مقامات میں آپ کے وعظ ہوئے۔ تمام رنگون اعلیٰ کلمتہ الحق کے اعلان سے  
 گونج اٹھا۔ اکثر وعظ پہلے سے بذریعہ اعلان مشتہر کر دیئے جاتے تھے۔ بڑا مجمع ہوتا تھا۔ آخر میں  
 عبدالعزیز صاحب مریکار کے یہاں جو وعظ ہوا اس میں رنگون کے تمام اہل علم جمع تھے۔ بعض  
 پرانے لوگوں کا بیان ہے کہ اس قدر مجمع اہل علم کا کسی وعظ میں اس سے پہلے نہیں ہوا۔

مولانا صاحب محمود کے علاوہ دوسرے علماء کی بھی تقریریں ہوتی تھیں۔ آخر آخر میں جناب مولوی غلام قادر صاحب بھی آگئے تھے۔ جو ڈنڈہ یلگی ٹائل یعنی مدراسی زبان میں وعظ کہتے تھے۔ ان وعظوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کا بیان اور یہ کہ اس نے کس قدر توہین آنحضرت ﷺ کی، اور دین اسلام کی کی۔ خود اسی کی عبارتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائی گئیں اور مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں یعنی لاہوری و قادیانی کی حالت ایسی مفصل بیان کی گئی کہ انشاء اللہ تعالیٰ جو لوگ ان وعظوں میں شریک ہو چکے ہیں امید ہے کہ کسی مرزائی کے فریب میں نہ آئیں گے۔

رومرزائیت کے موجودہ ان وعظوں میں خود مسلمانوں کی ہدایت کے لئے کافی ذخیرہ ہوتا تھا۔ خصوصاً نماز اور جماعت کے متعلق بہت نفیس اور موثر مضامین ارشاد فرمائے گئے۔ بعض مضامین ان وعظوں کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے اخبارات و اشتہارات میں بھی شائع کئے گئے۔ جن سے تمام صوبہ برہما کو نفع عظیم پہنچا۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمانان رنگوں کی سعی جمیل مشکور ہوئی اور نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ ایک فتنہ عظیم جس کی تخم ریزی صوبہ برہما میں ہو چکی تھی۔ دفع ہو گیا اور جو کچھ ہوا سب خدا کا فضل تھا۔ ”والحمد لله على ذلك“

## دوسرا باب

مرزا اور مرزائیت کے بطلان اور خارج از اسلام ہونے کے دلائل مقدمہ میں بیان ہو چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد مرزائیوں میں کس طرح افتراق پیدا ہوا اور ان میں اب تک کتنے فرقے ہو چکے ہیں۔ ان فرقوں میں ماہہ الفرق عقائد کا کچھ مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ چونکہ ان فرقوں میں نسبتاً بڑے اور مشہور یہی دو فرق ہیں۔ لاہوری، جس کے رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں اور قادیانی جس کے امام مرزا کے فرزند ارجمند مرزا محمود ہیں۔ لہذا اس موقع پر ہم انہیں دونوں کا ابطال کافی سمجھتے ہیں۔ ومن الله التوفيق!

۱۔ کاش امام اہل سنت اور دیگر علماء کے مواعظ محفوظ کر لئے جاتے تو پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتی اور خاص کر موجودہ قادیانیوں کے لئے عبرت کا ایک کامیاب سبق ہوتا۔ بعض تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواعظ اس وقت کے اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ اگر یہ مواعظ کسی صاحب کے پاس محفوظ ہوں تو وہ راقم کے پتے پر بھیج دیں یا پھر یہ کہ مطلع فرمائیں تاکہ اسے حاصل کر کے منظر عام پر لایا جاسکے۔ فقط: شاہ عالم گورکھپوری۔ دارالعلوم دیوبند

واضح رہے کہ یہ دونوں فرقے واقف کار علمائے اسلام کے سامنے آنے سے ہمیشہ گھبراتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ بنیاد ان کی ہوا پر ہے۔ لیکن اگر کبھی پھنس گئے تو وفات و حیات مسیح علیہ السلام کی بحث چھیڑ دیتے ہیں اور قادیانی فرقہ کبھی کبھی اس بحث کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ایک بڑا کید اس فرقہ کا ہے۔ ہرگز ہرگز کسی طرح ان دونوں بحثوں کے چھیڑنے کا موقع ان کو نہ دینا چاہئے۔ کیونکہ ان دونوں بحثوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی حالت نہیں کھلتی اور نام ہو جاتا ہے کہ مرزائیوں نے مسلمانوں سے بحث کی اور ان دونوں بحثوں کو مرزا قادیانی سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ بالفرض اگر مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی اور نعوذ باللہ سلسلہ نبوت بھی ختم نہیں ہوا تو اس سے مرزا قادیانی کیوں کر مسیح موعود یا خدا کا نبی ہو سکتا ہے۔

کس نیاید بزیہ سایہ بوم  
ورہما از جہاں شور معدوم

مرزا قادیانی کے حالات دیکھو وہ بڑا کذاب تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی بہت سخت بدزبانی کے ساتھ اس نے توہین کی ہے اور ایسا شخص کسی شریعت میں کسی عقلمند کے نزدیک نیک آدمی ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی و رسول ہونا تو بڑی بات ہے۔ ہاں مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام یا مسئلہ ختم نبوت کی تحقیق بجائے خود جس کو سمجھنا ہو وہ سمجھ لے۔ لہذا ہم اس بات میں حسب ذیل عنوانات پر محققانہ بحث کرتے ہیں۔

.....۱ مرزا غلام احمد قادیانی بڑا کاذب تھا۔

.....۲ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء علیہم السلام کی توہین کی۔

.....۳ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی و رسول اور صاحب شریعت ہونے کا بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔

.....۴ مرزا غلام احمد قادیانی منکر ضروریات دین اسلام تھا۔

اس کے بعد محض واقفیت ناظرین کے لئے

.....۵ ختم نبوت اور۔

.....۶ حیات مسیح علیہ السلام کی بحث بھی اختصار کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ لکھ دی جائے گی۔

## مرزا غلام احمد قادیانی کا کذاب ہونا

دنیا میں ہمیشہ ہر زمانہ میں تمام اہل مذاہب اور لاندہ ہوں نے جھوٹ کو بدترین عیب سمجھا ہے۔ ایک جھوٹے شخص کو نبی و رسول ماننا اس کو افضل الانبیاء سمجھنا مامور من اللہ کہنا اس کے نہ ماننے والے کو کافر قرار دینا شاید مرزائی صاحبان کی نمایاں خصوصیات میں سے ہو اور اس پر جس قدر وہ فخر کریں بجائے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا ایسا ناقابل انکار ہے کہ خود ان کے جان نثاروں کو بھی ماننا پڑا۔ چنانچہ قادیان سے ایک رسالہ شائع ہوا۔ جس کا نام ”نبی کی پہچان“ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں دس سے زیادہ جھوٹی ثابت نہیں ہوئیں۔ اس شخص کے نزدیک دس باتوں کا جھوٹ ہو جانا کچھ عیب نہیں۔

مگر افسوس! یہ کہنا بھی غلط ہے کہ مرزا قادیانی کے صرف دس جھوٹ ثابت ہوئے۔ اگر اور علماء کی تصنیفات سے قطع نظر کر کے صرف ان کتب و رسائل کو دیکھا جائے جو خانقاہ رحمانی موگنیر سے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں تو دس کہنے والے کا کذب آشکارا ہو جائے۔

سنو! فیصلہ آسمانی حصہ اول مع تتمہ میں ۱۵۹ جھوٹ اور فریب مرزا کے دکھائے گئے ہیں اور فیصلہ آسمانی حصہ دوم میں ۶۹ اور حصہ سوم میں ۹۰۔ دوسری شہادت آسمانی میں ۳۵۔ انجم الثاقب حصہ اول میں ۳۲۔ مسیح کاذب میں دو درجن یعنی ۲۴ ہدیہ عثمانیہ میں ۷۔ کل میزان چار سو چھیالیس ہوئی۔ ”صحیفہ رحمانیہ“ اور ”صحیفہ محمدیہ“ کے متعدد نمبروں میں جو جھوٹ شائع کئے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

یہ سب حالات دیکھ کر بعض مرزائیوں کو مثل مولوی عبدالماجد صاحب بھاگلپوری کے ”منہاج نبوت“ تصنیف کرنی پڑی۔ جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا تمام نبیوں کا شیوہ رہا ہے۔ گویا کذب خاصہ نبوت ہے۔ (نعوذ باللہ منہ) اس منہاج نبوت کی بنیاد خود مرزا قادیانی اپنے دست مبارک سے رکھ گئے تھے۔ جیسا کہ عنقریب معلوم ہوگا۔

مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولنے کے ایسے عادی تھے کہ کوئی امکانی جھوٹ شاید ہی ان سے چھوٹا ہو۔ عقلاً جھوٹ کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔

- ۱..... گذشتہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولنا۔
- ۲..... موجودہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولنا۔
- ۳..... آئندہ واقعات کو جھوٹ بیان کرنا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تالیفات و تصنیفات میں یہ تینوں قسمیں جھوٹ کی موجود ہیں اور اس کثرت سے ہیں کہ کوئی شخص ان کو یکجا کرنا چاہے تو بڑی ضخیم کتاب بن جائے۔ یہاں ہم تینوں قسموں کی کچھ کچھ مثالیں لکھتے ہیں۔ جن کی تعداد انشاء اللہ تعالیٰ ایک درجن سے زائد ہوگی۔ نمونہ کے طور پر چند مثالیں یہاں درج ہیں۔

۱..... مولوی اسماعیل علی گڑھی کی تالیف کے سلسلہ میں جھوٹ

مرزا قادیانی اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں۔ ”مولوی غلام دستگیر قصوری اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کہ کاذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۹، خزائن ج ۱ ص ۳۹۳)

حالانکہ ان دونوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ مضمون نہیں لکھا۔ کتاب ”دعاوی مرزا“ میں اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والے کے لئے پانچ سو روپیہ انعام کا اعلان ہوا۔ پھر صحیفہ رحمانیہ نمبر اول مطبوعہ ۱۳۳۲ھ میں پھر صحیفہ محمدیہ نمبر ۸ مطبوعہ ۱۳۳۵ھ میں مطالبہ کیا گیا۔ مگر کسی مرزائی نے آج تک جواب نہ دیا نہ دے سکتا ہے۔

۲..... مباہلہ سے متعلق مرزا قادیانی کا سفید جھوٹ

اخبار بدر قادیان مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۰۶ء میں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: ”جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔“

حالانکہ سوا صوفی عبدالحق صاحب کے کسی سے مرزا قادیانی نے مباہلہ نہیں کیا اور صوفی صاحب اب تک زندہ ہیں۔ مرزا البتہ مر گیا۔ مگر امتیوں کی کذب پرستی قابل داد ہے کہ اپنے پیغمبر کے اس جھوٹے دعویٰ کو سچ مان کر اب تک یہی کہے جاتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین پیغام صلح مطبوعہ ۲۱ دسمبر ۱۹۱۶ء میں لکھتے ہیں۔ ”کئی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہو کر اور مباہلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگا گئے۔“

سچ ہے کاذب کے پیرو بھی کاذب ہی ہوتے ہیں۔ (یا یوں کہئے کہ خواجہ صاحب کی گواہی پر چور کا گواہ گرہ کٹ۔ کا مثل صادق آتا ہے)

۳..... ایک سانس میں تین جھوٹ

مرزا قادیانی (اربعین نمبر ۳ ص ۱۷، خزائن ج ۱ ص ۴۰۳) میں فرماتے ہیں۔ ”یہ ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی پیش گوئیاں پوری ہوتیں۔ جن میں لکھا تھا کہ سچ موعود جب ظاہر

ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے۔“

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے چھ جھوٹ بولے۔ کیونکہ تین باتیں لکھی ہیں۔ اول یہ کہ مسیح علمائے اسلام کے ہاتھ سے دکھ پائے گا۔ دوم یہ کہ وہ مسیح کو کافر کہیں گے۔ سوم یہ کہ وہ مسیح کے قتل کا فتویٰ دیں گے۔

اور ان تینوں کا قرآن میں ہونا بھی بیان کیا گیا اور حدیث میں بھی۔ حالانکہ یہ مضامین نہ قرآن میں کہیں ہیں نہ کسی حدیث میں۔ مرزا قادیانی کا خالص افتراء ہے۔ اس بیباکی کے ساتھ جھوٹ بولنا کہ قرآن جیسی متداؤل کتاب کا غلط حوالہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مرزا ہی کا کام تھا۔ خواجہ صاحب! اسی بیباک جھوٹے کو تم نبی و برگزیدہ مرسل و مامور من اللہ کہتے ہو؟

۴..... ایک سانس میں نو جھوٹ

مرزا قادیانی اپنے (رسالہ تحفہ الندوہ ص ۴، خزائن ج ۱۹ ص ۹۶) میں لکھتے ہیں۔ ”(۱) قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ (۲) رسول اللہ ﷺ نے میری گواہی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا کہ (۴) جو یہی زمانہ ہے (۵) اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے جو کہ (۶) یہی زمانہ ہے (۷) اور میرے لئے آسمان نے بھی گواہی دی اور (۸) زمین نے بھی اور (۹) کوئی نبی نہیں جو میرے لئے گواہی نہیں دے چکا۔“

اس عبارت میں نو جھوٹ ہوئے جیسا کہ ہم نے عبارت پر ہندسہ لگا دیا ہے۔ مگر سب سے زیادہ لطیف پانچواں جھوٹ ہے کہ قرآن نے ان کے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے۔ کیوں خواجہ صاحب! اس جھوٹ کو آپ یا کوئی دوسرا مرزائی سچ بنا سکتا ہے؟ قرآن میں مسیح کے آنے کا زمانہ دکھا سکتا ہے؟ کیا ایسے بے شرم بیباک دروغ گو کو تم رسول اور مرسل کہتے ہو۔ استغفر اللہ!

۵..... من گھڑت حدیث سے استدلال

مرزا قادیانی اپنی کتاب شہادت انقرآن میں لکھتے ہیں۔ ”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پتہ چلتا ہے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ: ”هذا خلیفة الله المهدی“ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے کہ جو ایسی

کتاب میں درج ہے جو صحیح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔“ (شہادۃ القرآن ص ۴۱، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷) کوئی مرزائی ہے جو اس مضمون کی ایک روایت بھی بخاری میں دکھادے؟ اور اپنے پیغمبر کی پیشانی سے اس داغ کو مٹائے؟ مگر یاد رہے کہ یہ ناممکن ہے۔

۶..... افتراء علی الرسول کا ایک نمونہ

مرزا قادیانی (نشان آسانی ص ۱۶، خزائن ج ۴ ص ۳۷۸) میں لکھتے ہیں۔ ”جاننا چاہئے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لئے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ لیکن چودھویں صدی کے لئے یعنی اس بشارت کے بارہ میں جو ایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو ان سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا۔“

خدا کی پناہ جھوٹ کی کچھ حد ہے۔ کسی حدیث میں نہ چودھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں صدی میں مہدی کے آنے کا۔ نہ چودھویں صدی کے مجدد کے بارہ میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اشارات یا بشارت ہے۔ کسی مرزائی میں ہمت ہے کہ کوئی ایک روایت اس مضمون کی پیش کر دے؟ کیوں مرزا یوں! نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹے حوالے کتابوں کے دے دے کر جاہلوں کو بہکایا کریں؟

۷..... تاریخ کے حوالہ سے تاریخی جھوٹ

چشمہ معرفت میں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: ”تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ (آنحضرت ﷺ) کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۸۶، خزائن ج ۳ ص ۲۹۹)

کیا تاریخ و سیر و حدیث کی کسی کتاب سے کوئی مرزائی ثابت کر سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے گیارہ بیٹے ہوئے؟ فوت ہو جانا تو پیچھے کی بات ہے۔ حیرت سے کہ ایسے جھوٹے و عاباز شخص کو کوئی انسان کیوں کر مان سکتا ہے۔ کراچی ہے۔

ت م س د ہ پ ز ر ا گ ن د خ و ر

۸.. ایک اور جھوٹی حدیث

مرزا قادیانی اپنے اشتہار مورخہ ۲۹ اگست ۱۹۰۷ء میں جس کی سرخی ہے۔ ”تمام مریدوں کے لئے عام ہدایت“ لکھتے ہیں کہ: ”اور مجھے معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے

کہ جب کسی شہر میں دبانازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے۔“

(تحریر: خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود موزیہ ۲۲ اگست ۱۹۰۷ء، اخبار بدر قادیان ش ۳۵ ج ۶ ص ۹)

اجد صاحب آپ تو بڑی وسیع النظری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مجتہد ہونے کے مدعی ہیں۔ خدا کے لئے اپنے پیغمبر کی اس بات کو سچا کر دیجئے؟ کسی روایت حدیث میں طاعونی مقام سے بھاگ جانے کا حکم نکال دیجئے۔ پچارے کی عزت اچھائیے۔

۹..... خدا کی شان میں جھوٹ

مرزا قادیانی (تخفہ غزنویہ ص ۵، خزائن ج ۵ ص ۵۳۵) میں فرماتے ہیں۔ ”یہ تمام دنیا کا مانا ہوا مسئلہ اور اہل اسلام اور نصاریٰ اور یہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیش گوئی بغیر شرط توبہ اور استغفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے۔“

پھر اسی رسالہ میں لکھتے ہیں کہ: ”وعید یعنی عذاب کی پیش گوئیوں کی نسبت خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ خواہ پیش گوئی میں شرط ہو یا نہ ہو تضرع اور توبہ اور خوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔“

(تخفہ غزنویہ ص ۶، خزائن ج ۵ ص ۵۳۶)

حالانکہ یہ سب کذب صریح ہے اور تمام دنیا پر افتراء ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کی سنت کہنا مرزا قادیانی کی بے دینی اور گستاخی کی روشن دلیل ہے۔ کسی مرزائی میں ہمت ہو تو کسی کتاب سے اس عقیدہ کو دکھلا دے ورنہ ”لعنة الله على الكاذبين“

قرآن صاف پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ: ”لا تحسبن الله مخلف وعده رسله“

یعنی خدا اپنے وعدہ کو خاص کر اپنے رسولوں سے خلاف نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی اس آیت کے خلاف خدا کی وعدہ خلافی کو متفق علیہ عقیدہ اور سنت اللہ کہہ رہے ہیں۔

۱۰..... خدا اور رسول کے ساتھ مفسرین پر افتراء

(انجام آتمہ ص ۳۰، خزائن ج ۱۱ ص ۳۰) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”خدا تعالیٰ نے یونس نبیؑ کو قطعی طور پر جالیوں میں بند کیا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی۔ جیسا کہ (تفسیر کبیرہ ص ۱۶۲) اور امام سیوطیؒ کی تفسیر درمنثور میں حدیث کی رو سے اس کی تصدیق موجود ہے۔“

پھر اسی (انجام آتمہ ص ۲۲، ۲۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲) میں لکھتے ہیں: ”جس حالت میں خدا اور رسول ﷺ اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیش گوئی میں گویا ہر کوئی بھی



شرط نہ ہو۔ تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہیں تو پھر اجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لئے منہ پھیرنا اگر بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔“

مرزا قادیانی نے اس عبارت میں بھی کئی جھوٹ بولے۔ خدا پر افتراء کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر افتراء کیا۔ تفسیر کبیر پر افتراء کیا۔ تفسیر درمنثور پر افتراء کیا۔ ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے کہ قطعی وعدہ چالیس روز کا تھا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۸۸) میں صاف موجود ہے کہ نزول عذاب کا وعدہ مشروط تھا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا۔

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی نکلیں اور لوگوں نے ان کو سخت پکڑا تو اس کے لئے یہ بات بنائی گئی کہ میں ہی تنہا اس جرم کا مرتکب نہیں اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہو چکی ہیں۔ خدا کی عادت ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی کرتا ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ پھر بھی اسے ٹال دیتا ہے۔ نعوذ باللہ!

کیوں خواجہ صاحب یہی مفتری کذاب آپ کا رسول و برگزیدہ مرسل ہے۔ اسی کو آپ ظلی و بروزی نبی کہتے ہیں؟ اسی کی بابت آپ مجازی طور پر رسالت کا اقرار رکھتے ہیں؟

۱۱..... قرآن مجید اور صحف سماوی پر افتراء

مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵) میں لکھتے ہیں: ”اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔“

کچھ حداس دلیری و بے باکی کی ہے؟ قرآن کا جھوٹ حوالہ بار بار دیتا ہے اور شرم نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب آپ تو مرزا قادیانی کے عاشق زار ہیں اور قرآن دانی کے بھی مدعی ہیں۔ برائے خدا قرآن میں دکھلا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون ہوگا۔ خواجہ صاحب اگر یہ مضمون قرآن میں دکھلا دو تو گھر بیٹھے تم کو وہ رقم دلوادی جائے۔ جس کے لئے تم رنگون آئے تھے۔

۱۲..... جھوٹ کے ساتھ تضاد بیانی بھی

مرزا قادیانی کی امت میں ایک بڑے نامور شخص مولوی عبدالکریم تھے۔ ان کے سرطان کا پھوڑا نکل آیا۔ مرزا قادیانی نے ان کے لئے بڑی زور شور کی دعائیں مانگیں۔ بالآخر ان کے متعلق الہام شائع کئے کہ خدا نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اخبار الحکم

قادیان کے پرچے ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء لغایت اکتوبر ۱۹۰۵ء دیکھو کہ کس قدر پیشین گوئیاں مولوی عبدالکریم کے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک پرچہ کی عبارت بلفظ یہ ہے۔

”حضرت اقدس (مرزا غلام احمد) حسب معمول تشریف لے آئے اور ایک رویا بیان کی جو بڑی ہی مبارک اور مبشر ہے۔ جس کو میں نے اس مضمون کے آخر میں درج کر دیا ہے۔ فرماتے تھے آج تک جس قدر الہامات و مبشرات ہوئے ان میں نام نہ تھا۔ لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے خود مولوی عبدالکریم صاحب کو دکھا کر صاف طور پر بشارت دی ہے۔“ (الحکم ۹ ستمبر ۱۹۰۵ء، تذکرہ ص ۵۶۵)

مگر جب مولوی عبدالکریم اسی بیماری میں مر گئے تو مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۳۲۶، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۹) میں لکھتے ہیں: ”۱۱ اکتوبر کو ہمارے ایک مخلص دوست یعنی مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اسی کارنیکل یعنی سرطان سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے لئے بھی میں نے بہت دعاء کی تھی۔ مگر ایک بھی الہام ان کے لئے تسلی بخش نہ تھا۔“

اب بتاؤ اس جھوٹ کی کچھ حد ہے؟ یہاں دو جھوٹ مرزا قادیانی کے ثابت ہوئے۔ اڈل یہ کہ مولوی عبدالکریم کی صحت پیشین گوئی کی مگر ان کو صحت نہ ہوئی۔ دوم یہ کہ مولوی عبدالکریم کی صحت کی بشارت اپنے الہامات میں شائع کرا چکے تھے اور پھر لکھا کہ ان کی صحت کے متعلق کوئی بشارت بھی نہیں ہوئی۔

۱۳..... جھوٹ اور تضاد کا دوسرا نمونہ

مرزا قادیانی (دافع البلاء ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں لکھتے ہیں: ”خدا نے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کو اس (طاعون) کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔“

مرزائیوں نے اپنے پیغمبر کی اس پیشین گوئی کو بڑے متکبرانہ لہجہ میں شائع کیا اور مرزا خود بھی حسب عادت بہت اترا یا۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرزائی نے ایک بڑا مضمون لکھا کہ یہ مرزا کی شفاعت کبریٰ کی منصب کا ثبوت ہے کہ قادیان کے تمام لوگوں کو مسلم ہوں یا غیر مسلم اپنے سایہ شفاعت میں لے لیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

مگر تمام دنیا جانتی ہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اور خوب پھیلا۔ قادیان کی کل مردم شمارن ۲۸۰۰ ہے۔ اس میں ۱۳۱۳، اموات طاعون سے ہوئیں۔ پہلے مرزائیوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ مگر ناممکن امر کی کوشش میں کون کامیاب ہو سکتا ہے۔ بالآخر اقرار کرنا پڑا۔ دیکھو اخبار بدر قادیان مورخہ ۹ دسمبر ۱۹۰۲ء، مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء، مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۲ء۔

مرزا قادیانی نے اپنے اس جھوٹ کی تاویل کی کہ وحی الہی میں قادیان کا لفظ نہ تھا قریہ کا لفظ تھا۔ دیکھو بدر مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء۔ یہ دوسرا جھوٹ مرزا قادیانی کا ہے اور سب سے زیادہ پر لطف ہے کہ خود اپنی ہی کتاب کے خلاف بیان فرما رہے ہیں۔ دافع البلاء کی عبارت اور نقل ہو چکی کہ خدا نے قادیان کا نام لے دیا۔ (جیسا کہ ترجمہ میں قادیان کے لفظ کی مرزا قادیانی نے وضاحت کی ہے) اب فرماتے ہیں خدا نے قادیان کا نام نہیں لیا تھا۔ بہر کیف مرزا قادیانی کی پیشانی سے کذب کا داغ مٹ نہیں سکتا۔ ”نصیۃ کاذبۃ خاطئۃ“

۱۳..... انگریزی عدالت میں الہام بازی سے توبہ

اپنے مخالفوں کو موت و عذاب وغیرہ کی پیشین گوئیاں کر کے ڈرانا مرزا قادیانی کی عادت میں داخل ہو گیا تھا اور اس کا سلسلہ بوجہ بے حیائی کے روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مولوی محمد حسین بنالوی مرحوم کے متعلق ایک پیشین گوئی اس قسم کی بیان فرمائی۔ اس پر مقدمہ چل گیا۔ مرزا قادیانی نے بڑی کوششیں کیں۔ مگر سب بے سود رہیں۔ آخر بڑی ذلت کے ساتھ کچہری جانا پڑا اور سب سے زیادہ ذلت یہ کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ مرزا قادیانی سے ایک اقرار نامہ لے لیا جائے کہ آئندہ ایسی حرکت کسی مسلمان یا ہندو یا عیسائی کے ساتھ نہ کریں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اقرار نامہ لکھ کر داخل کیا۔ اس اقرار نامہ میں صاف الفاظ میں یہ لکھا کہ اب میں کسی کے متعلق ایسی پیشین گوئی نہیں کروں گا۔ نہ کبھی کسی کے لئے بددعا شائع کروں گا۔ (بخوف طوالت تبصرہ سے گریز کرتے ہوئے صرف حلف نامہ نقل کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے البتہ قارئین حلف نامہ کے ہر ججز پر غور ضرور کریں کہ کیا ایسا ڈھونگی بھی نبی، مسیح، مہدی اور خواجہ کمال الدین کی زبان میں مجدد کہلانے کے قابل ہے؟)

”میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بحضور خداوند تعالیٰ حاضر جان کر یہ اقرار صالح کرتا ہوں کہ آئندہ۔۔۔“

۱..... ایسی پیش گوئی جس سے کسی شخص کی تحقیر (ذلت) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت (ذلت) سمجھی جاوے یا خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد ہو۔ شائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔

۲..... میں اس سے بھی اجتناب کروں گا۔ شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعاء کی جاوے کہ کسی شخص کو تحقیر (ذلیل) کرنے کے واسطے، جس سے ایسا نشان ظاہر ہو کہ وہ شخص مورد عتاب الہی بنے یا یہ ظاہر کرے کہ مباحثہ میں کون صادق اور کون کاذب ہے۔

۳..... ایسے الہام کی اشاعت سے بھی پرہیز کروں گا۔ جس سے کسی شخص کا حقیر (ذلیل) ہونا یا مورد عتاب الہی ہونا ظاہر ہو یا ایسے اظہار کے وجوہ پائے جاتے ہوں۔

۴..... میں اجتناب کروں گا ایسے مباحثے میں مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف گالی گلوچ کا مضمین یا نخر ریکھوں یا شائع کروں۔ جس سے اس کو درد پہنچے۔

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کروں گا۔ جیسا کہ دجال، کافر، کاذب، بطلوی میں کبھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے خلاف کچھ شائع نہ کروں گا۔ جس سے اس کو آزار پہنچے۔

۵..... میں اجتناب کروں گا مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کو مبالغہ کے لئے بلاؤں۔ اس امر کے ظاہر کرنے کے لئے کہ مباحثے میں کون صادق اور کون کاذب ہے۔ نہ میں اس میں محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کا اس بات کے لئے بلاؤں گا کہ وہ کسی کے متعلق کوئی پیشین گوئی کریں۔

۶..... میں حتی الوسع ہر ایک شخص کو جس پر میرا اثر ہو سکتا ہے اس طرح کا رند ہونے کی ترغیب دوں گا۔ جیسا کہ میں نے فقرہ نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ میں اقرار کیا ہے۔

۲۳ فروری ۱۸۹۹ء دستخط: مسٹر ڈوئی، بحروف انگریزی۔

دستخط: مرزا غلام احمد۔

دستخط: کمال الدین پلڈر۔ وکیل مرزا قادیانی۔

(تاریخ عبارت ۷۹، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۳۳)

یہ فیصلہ ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء کا ہے جو قابل دید ہے۔ سمجھدار کے لئے (بالخصوص خواجہ کمال الدین کے لئے جن کی وکالت نے مرزا قادیانی کو یہ دن دکھائے) تو یہی واقعہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر مرزا قادیانی مامور من اللہ ہوتا تو کبھی ایسا اقرار نہ کرتا۔ صاف کہہ دیتا کہ میں خدا کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں۔ کسی کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکتا۔ چاہے مجھے مار ڈالو۔

دیکھو رسول خدا ﷺ سے جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ تبلیغ نہ کیجئے اور ابوطالب نے بھی آپ کو سمجھایا۔ تو آپ نے صاف منع کر دیا کہ اے چچا! میں خدا کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں اور

اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب دوسرے میں ماہتاب رکھ دیا جائے تب بھی رک نہیں سکتا ہوں۔  
(الہدایۃ النہایۃ ج ۳ ص ۵۳، مطبوعہ بیروت)

### ۱۵..... ڈپٹی عبداللہ آتھم عیسائی کے موت کی پیشین گوئی

یہ ایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی ہے اور اس کے جھوٹے ہونے پر مرزا قادیانی کی ذلت بھی ایسی ہوئی کہ کوئی باحیا ہوتا تو پھر منہ نہ دکھاتا۔ مرزا قادیانی سے امرتسر میں عیسائیوں سے مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد ۵ جون ۱۸۹۳ء کو آپ نے اپنے حریف مسٹر عبداللہ آتھم کے متعلق یہ پیشین گوئی کی۔ جنگ مقدس میں لکھتے ہیں: ”آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ہتال سے جناب الہی میں دعاء کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بتا رہا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشین گوئی ظہور میں آوے گی بعض اندھے سو جا کھ کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔“

پھر مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روسیاء کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“

یہ عبارت مرزا قادیانی کی انہیں کے الفاظ میں ہے۔ مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اس پیشین گوئی اور اس کے پرزور الفاظ سے آتھم ڈر جائے گا اور ڈر کر مرزا قادیانی کا مرید ہو جائے گا۔ مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ پندرہ مہینہ گزر گئے اور آتھم بدستور صحیح و سالم موجود رہا۔ نہ وہ مرانہ ہاویہ میں گرا۔

عیسائیوں نے ۶ ستمبر ۱۸۹۴ء کو جب مرزا قادیانی کے پیشین گوئی کی تکذیب ہو چکی ہر جگہ جشن کئے بڑے بڑے اشتہار نکالے اور مرزا قادیانی کو خوب ہی ذلیل کیا کہ اس ذلت کو خیال کر کے آج رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ عبرت کے لئے بعض اشتہارات کی نقل حسب ذیل ہے۔ اہل لدھیانہ کی طرف سے حسب ذیل اشتہار نکلا۔

### اشعار ۱

مد ہے مہاں کو یہ آسانی	ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی
بہمائے بہ صاحب نظرے گوہر خودرا	عیسیٰ تنواں گشت بصدیق خرے چند
ارے او خود غرض خود کام مرزا	ارے منحوس نا فرجام مرزا
غلامی چھوڑ کر احمد بنا تو	رسول حق باستحکام مرزا
مسح و مہدی موعود بن کر	بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا
ہوا بحث نصاریٰ میں باآخر	میساجی کا یہ انجام مرزا
مہینے پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے	ہے آتھم زندہ اے غلام مرزا
تیری تکذیب کی شمس و قمر نے	ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا
ڈبویا قادیاں کا نام تو نے	کہیں کیا اے بدو بد نام مرزا

مرزا قادیانی نے خود اپنی تحریرات میں لکھا ہے کہ پیشین گوئی کی میعاد ختم ہونے پر مخالفوں نے بہت خوشی کی اور مرزا کی تدلیل و توبہ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔

چنانچہ (سراج منیر ص ۷، خزائن ج ۱۲ ص ۵۴) میں لکھتے ہیں: ”انہوں نے پشاور سے لے کر آلہ آباد اور ممبئی اور کلکتہ اور دوردور کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر ٹھٹھے کئے اور یہ سب مولوی یہودی صفت اور اخباروں والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔“

اب یہ تماشا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب اس طرح کھلم کھلا مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر ہوا اور ایسے زور شور کی پیشین گوئی ان کی غلط ہو گئی تو انہوں نے کس طرح اپنے جال میں پھنسے

۱۔ یہاں چند اشعار نقل کئے گئے ہیں۔ ورنہ اصل کتاب میں اس موقع پر بہت سے اشعار درج ہیں۔ جن میں سے بعض اشعار پر مرتب کتاب نے حاشیہ بھی لگایا ہے وہ تمام اشعار کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں۔

ہوئے اڈوں کو سمجھایا۔ مرزا قادیانی نے اس موقع پر کئی رنگ بدلے اور پے در پے کئی مختلف تاویلیں کیں۔ جن کو ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔  
تاویل نمبر: ۱

”جو فریق جھوٹا ہو وہ پندرہ ماہ کے اندر بسزائے موت ہاویہ میں گرایا جائے گا۔“ اس سے مراد صرف آتھم نہ تھا بلکہ تمام وہ عیسائی جو اس مباحثہ میں اس کے معاون تھے۔  
(انوار الاسلام ص ۲، خزائن ج ۹ ص ۲)

### جواب اول

خود مرزا قادیانی کی تصریح موجود ہے کہ یہ پیشین گوئی خاص آتھم کے متعلق تھی۔ دیکھو کرامات الصادقین مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”ومنہا ما وعدنی ربی اذ جادلنی رجل من المنتصرین الذین اسمہ عبداللہ اتھم..... فاذا بشرنی ربی بعد دعوتی بموتہ الی خمسة عشر اشھر“ (کرامات اکصادقین ص ۱۱، خزائن ج ۷ ص ۱۶۳)  
نیز تریاق القلوب میں لکھتے ہیں۔ ”آتھم کے موت کی جو پیشین گوئی کی گئی تھی۔ جس میں یہ شرط تھی کہ آگر آتھم پندرہ مہینہ کے میعاد میں حق کی طرف رجوع کر لیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔“  
(تریاق القلوب ص ۱۱، خزائن ج ۱۵ ص ۱۴۸)

### جواب دوم

اچھا صرف آتھم مراد نہ تھا تو اور بھی پریشانی مرزا کو لاحق ہو گئی۔ آتھم کے علاوہ تمام ان عیسائیوں کا جو شریک بحث تھے پندرہ ماہ کے اندر مر کر ہاویہ میں گرنا ثابت کرنا پڑے گا۔  
تاویل نمبر: ۲

دوسری تاویل یہ کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کر لیا۔ اس لئے نہیں مرا اور حق کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پیشین گوئی سے ڈر گیا تھا۔  
(انوار الاسلام ص ۲، خزائن ج ۹ ص ۲)

### جواب

جواب اس کا یہ کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ ڈر جائے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی الہامی عبارت کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آتھم عیسائیت کو ترک کر کے مرزائی ہو جائے۔ کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”جو

شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے۔“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مراد سچ کی ہے اس کی طرف رجوع مراد ہے۔

مرزا قادیانی نے اس بات کے ثبوت کے لئے کہ آتھم ڈر گیا اپنا پورا زور ختم کر دیا۔ بڑے بڑے اشتہار دیئے۔ آتھم کو لکھا کہ قسم کھا جاؤ کہ ڈرے نہیں تو ایک ہزار بلکہ دو ہزار بلکہ تین ہزار بلکہ چار ہزار انعام دوں گا۔ آتھم نے بجواب اس کے لکھا کہ قسم کھانا میرے مذہب میں منع ہے اور انجیل کا حوالہ دیا۔ مرزا قادیانی نے بجواب اس کے لکھا کہ عیسائیوں کے پیشواؤں نے عدالت میں قسمیں کھائی ہیں۔ آتھم نے لکھا کہ مجھے بھی عدالت میں طلب کر لو۔ عدالت کے جبر سے میں بھی قسم کھالوں گا۔ (لیکن کبھی مرزا قادیانی میں یہ جرأت نہ ہوئی)

ایک موقع پر مرزا قادیانی نے بدحواس ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ: ”آتھم نے عین جلسہ مباحثہ میں حق کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اس وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔“ (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۹ ص ۶) میں لکھتے ہیں۔ ”اس (آتھم) نے عین جلسہ مباحثہ میں ستر معزز آدمیوں کے روبرو آنحضرت ﷺ کو دجال کہنے سے رجوع کیا اور پیشین گوئی کی بنا یہی تھی کہ اس نے آنحضرت ﷺ کو دجال کہا تھا۔“

مرزا قادیانی کی حالت پر افسوس ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس نے عین جلسہ میں رجوع کر لیا تھا تو آپ نے جلسہ کے اختتام کے بعد پیشین گوئی کیوں کی؟ عجب خط ہے جس کا سر ہے نہ پیر۔

تاویل نمبر: ۳

تیسری تاویل مرزا قادیانی نے سب سے لطیف یہی کی کہ عبداللہ آتھم چونکہ میری پیشین گوئی سے ڈر گیا اور بہت گھبرایا۔ اس گھبراہٹ نے اس کی زندگی کو تلخ کر دیا۔ یہی مصیبت اور تلخی ہادیہ ہے۔ جس میں وہ گرا۔ لہذا پیشین گوئی پوری ہوگئی۔ باقی رہی موت کی پیشین گوئی تو وہ اصل الہامی عبارت میں نہیں ہے۔

مطلب یہ کہ وہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے! بغیر الہام کے کر دی تھی۔ اصل

۱۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی! آپ کا دعویٰ ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بات کہی تو خدا کے حکم سے کہی۔ اپنی جانب سے میں نے کبھی نہ کچھ کہا نہ کیا۔ (مواب الرحمن ص ۳، خزائن ج ۹ ص ۲۲۱) تو سوال یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے خدائی الہام کے بغیر اپنی جانب سے موت کا رخ کیوں لگایا؟ اور اگر آپ نے لگایا جیسا کہ امر واقعہ ہے تو آپ کا نہ یہ فعل درست نہ دعویٰ درست۔ آپ کی اس تاویل نے آپ کے جھوٹ میں دو نمبروں کا اور اضافہ کر دیا اور اسے عذر گناہ بدتر از گناہ بنا دیا۔



الفاظ مرزا قادیانی کے یہ ہیں۔ (انوار الاسلام ص ۵، خزائن ج ۹ ص ۶) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”ہاویہ میں گرائے جانا جو اصل الفاظ میں الہام ہیں۔ وہ عبد اللہ آتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دام تکمیر ہو گیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت اس کے کمال کے لئے ہے۔ جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بے شک یہ مصیبت ایک ہاویہ تھا۔ جس کو عبد اللہ آتھم نے اپنی حالت کے موافق بھگت لیا۔“

ناظرین! ذرا انصاف سے دیکھیں! کبھی تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا۔ اس لئے وہ ہاویہ میں گرنے سے بچ گیا اور کبھی فرماتے ہیں کہ وہ ہاویہ میں گرا۔ یہ بدحواسی نہیں ہے تو کیا ہے۔

مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ سزائے موت کا ذکر الہامی عبارت میں نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ الہامی عبارت میں ہو یا نہ ہو۔ آپ کی پیشین گوئی میں صاف صاف ہے اور آپ نے قسم کھا کر لکھا ہے۔ ”پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے۔ روسیہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے۔ مجھ کو پھانسی دیا جائے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔“

تاویل نمبر: ۴

چوتھی بات جو نہایت عجیب و غریب ہے یہ ہے کہ جب آتھم میعاد پیشین گوئی ختم ہونے کے کئی سال بعد یعنی ۲۷ جولائی ۱۸۹۶ء کو مر گیا تو مرزا قادیانی بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں۔ میری پیشین گوئی پوری ہو گئی۔

(حقیقت الوحی ص ۱۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۳) میں ہے کہ: ”اگر کسی کی نسبت یہ پیشین گوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینہ تک مجذوم ہو جائے گا۔ پس اگر وہ بجائے پندرہ کے بیسویں مہینہ میں مجذوم ہو جائے اور ناک اور تمام اعضاء گرجائیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کہے کہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ نفس واقعہ پر نظر چاہئے۔“

جواب

اہل انصاف دیکھیں کہ مرزا قادیانی کیا لکھ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ موت کی پیشین گوئی الہام میں تھی ہی نہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اس مدت کے بعد بھی وہ مر گیا تو موت کی پیشین

گوئی پوری ہوگئی۔ (مرزا قادیانی واقعے کی روشنی میں اپنے کلام میں جھوٹے نکلے اور اپنے فتوے کی روشنی میں مجنون اور پاگل، پاگل اور مجنون کے کلام میں تناقض ہوتا ہے)

تاویل نمبر: ۵

اس سے بھی زیادہ لطیف بات جو ایمان دار کو حیرت میں ڈال دے یہ ہے کہ مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۱۹ ص ۶) پر لکھتے ہیں کہ: ”پیشین گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کی رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سو وہ (آختم) مجھ سے پہلے مر گیا۔“

ناظرین! پیشین گوئی کے الفاظ اوپر نقل ہو چکے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں۔ اس میں پہلے پیچھے کا ذکر نہیں پندرہ مہینہ کی قید ہے جھوٹ بولے تو اتنا تو بولے۔ ”لاحول ولا قوۃ الا باللہ“

آخر میں مرزا قادیانی نے دیکھا ان تاویلات سے بات بنتی نہیں۔ لہذا آپ نے یہ مسئلہ ایجاد کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی سب پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ ﷺ کی بعض پیشین گوئیاں (خاکش بدین) غلط ہو گئیں۔ اس کا جواب انشاء اللہ آئندہ دیا جائے گا۔

خواجہ کمال الدین صاحب! اسی بے حیا جھوٹے کو آپ ”نبی“ برگزیدہ مرسل کہتے ہیں؟ اور بروزی رسالت کا منصب اس کو دیتے ہیں؟ استغفر اللہ!

۱۶..... منکوحہ آسمانی کی پیشین گوئی

یہ بھی ایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی ہے اور مرزا قادیانی کے جھوٹے اور بد سے بدتر ہونے کے لئے قطعی شہادت ہے۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مسماۃ محمدی بیگم جو مرزا احمد بیگ کی لڑکی تھی اور مرزا غلام احمد کی قریبی رشتہ دار تھی۔ جو مرزا قادیانی کو پسند آگئی اور اس کے عشق نے مرزا قادیانی کے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا کہ بے چین ہو گئے۔ اگر سیدھے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کریں تو منظوری کی امید نہیں۔ کون اپنی (نوخیز) نوجوان لڑکی (محمدی بیگم کی عمر اس وقت ۹ برس تھی) (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۶۰) کا نکاح ایک ایسے بوڑھے کے ساتھ کر دیتا (جس کی عمر ۱۸۳۹ء میں پیدائش، کے حساب سے پچاس برس کے قریب تھی) جس کے بی بی بچے بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی کذاب و دجال بھی ہے۔ لہذا جھٹ مرزا قادیانی نے (۱۸۸۸ء میں) ایک وحی تصنیف کی کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ محمدی بیگم تیرے عقد میں آئے گی اور اس کا نکاح

آسمان پر تیرے ساتھ پڑھ دیا گیا۔ اب تو دنیا میں اس نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔ اگر لڑکی کا باپ راضی ہو گیا تو بڑی خیر و برکت اس نکاح میں ہوگی اور لڑکی کے باپ کو بھی بہت فوائد ہوں گے اور اگر اس نے تمہارے ساتھ نکاح منظور نہ کیا تو لڑکی کا انجام برا ہوگا۔ جس دوسرے شخص کے ساتھ وہ بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے ڈھائی سال تک اور لڑکی کا باپ تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ اس وحی کے بعد مرزا قادیانی نے بڑے بڑے اشتہارات حسب عادت شائع کئے اور اس پیشین گوئی کو اپنی صداقت کا معیار قرار دیا اور اعلان دیا کہ یہ پیشین گوئی اگر پوری نہ ہو تو بیشک میں جھوٹا اور بد سے بدتر ہوں۔ یہ بھی لکھا کہ یہ نکاح میرے مسخ موعود ہونے کی خاص علامت ہے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔

ان اشتہارات کے بعد مخفی کوششیں بھی مرزا قادیانی نے بہت کیں۔ احمد بیگ کو بھی خط لکھے، احمد بیگ کی بہن کی لڑکی عزت بی بی مرزا قادیانی کے لڑکے فضل احمد کے نکاح میں تھی۔ اس لڑکے سے بھی خط لکھوائے۔ یہ بھی لکھا کہ اگر محمدی کا نکاح میرے ساتھ نہ ہو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ عزت بی بی کو اپنے لڑکے سے طلاق دلوا دوں گا۔ یہ سب کچھ ہوا (مرزا قادیانی نے ظلم و جبر سے اپنی بہو کو بلا کسی عذر شرعی کے طلاق دلوا بھی دی) مگر محمدی ان کے نکاح میں نہ آئی۔ احمد بیگ نے فوراً اس کا نکاح (۷ ستمبر ۱۹۹۲ء میں آئینہ کمالات اسلام، خزانہ ج ۵ ص ۲۸۰) مرزا سلطان محمد سے کر دیا۔ (جو مقام بی ضلع لاہور کارہنہ والا تھا) مرزا غلام احمد نے بہت کچھ بیچ و تاب کھایا مگر ہو کیا سکتا تھا۔ پیشین گوئی بڑی دھوم سے جھوٹی ہو گئی۔ محمدی بیگم کے نکاح کے بعد مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ وہ باکرہ ہونے کی حالت میں میرے عقد میں آئے گی۔ وہ ضرور بیوہ ہوگی اور ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ جلدی کیوں کرتے ہو۔ اگر یہ نکاح نہ ہو تو میں جھوٹا۔ مگر افسوس اور ہزار افسوس! مرزا قادیانی مر گئے اور محمدی بیگم مع اپنے شوہر مرزا سلطان محمد کے خوش و خرم موجود ہے۔ (محمدی بیگم کا ۱۹۶۰ء میں انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۴۹ء بمقام لاہور بحالت اسلام فوت ہوئے)

یہ قصہ اگر پوری تفصیل سے دیکھنا ہو تو کتاب فیصلہ آسمانی جو مونگیر سے ملے گی اور الہامات مرزا جو امتر سے ملے گا دیکھو۔ یہاں بھی چند مختصر ضروری عبارتیں مرزا قادیانی کی نقل کی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے اشتہار مرقومہ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء میں لکھتے ہیں۔ ”اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھ سے فرمایا کہ اس شخص (یعنی مرزا احمد بیگ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا اور یہ نکاح

تمہارے لئے موجب برکت اور ایک امت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸)

پھر مرزا قادیانی (ضمیر انجام آہتم ص ۵۳، خزائن ج ۱ ص ۳۳۷) میں لکھتے ہیں: ”چاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا آپس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے نکلنے نکلنے نہیں ہو جائیں گے۔ ان بیوقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔“

پھر محمدی بیگم کے نکاح ہو جانے کے بعد جب مرزا قادیانی پر اعتراض ہوا کہ محمدی بیگم دوسری جگہ کیوں بیاہی گئی تو مرزا قادیانی الحکم مورخہ ۳۰ جون میں حسب ذیل جواب دیتے ہیں۔ ”وحی الہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیاہی نہیں جائے گی۔“

پھر مرزا قادیانی نے (شہادت القرآن ص ۸۱، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶) میں یہ بھی تصریح کر دی کہ یہ پیشین گوئی دراصل چھ پیشین گوئیوں پر شامل ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔ ”ان میں وہ پیشین گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔

- ۱..... مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔
- ۲..... پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔
- ۳..... اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔
- ۴..... اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔
- ۵..... اور پھر یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔
- ۶..... پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جائے۔

مرزا قادیانی (انجام آہتم ص ۳۰، خزائن ج ۱ ص ۳۱) میں لکھتے ہیں۔ ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر میرم (یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں) اس کی انتظار

کر و اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔“  
 پھر (انجام آتھم ص ۵۲، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۸) پر لکھتے ہیں۔ ”یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی  
 دوسری جز (یعنی داماد احمد بیگ کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے  
 احمق! یہ انسان کا افتراء نہیں۔ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ  
 ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔“

لیکن جب مرزا قادیانی کی مقررہ میعاد گزر گئی اور محمدی بیگم کا شوہر نہ مرانہ کوئی بلا محمدی  
 بیگم پر آئی تو مرزا قادیانی کس صفائی سے جواب دیتے ہیں۔

(حقیقت الوحی ص ۱۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۵) میں ہے۔ ”احمد بیگ کے مرنے سے بڑا  
 خوف اس کے اقارب پر غالب آ گیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف عجز و نیاز  
 کے ساتھ خط بھی لکھے کہ دعا کرو۔ پس خدا نے ان کے اس خوف اور اس قدر عجز و نیاز کی وجہ سے  
 پیش گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔“

اور (تمہ حقیقت الوحی ص ۱۳۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰) میں لکھتے ہیں۔ ”یہ امر کہ الہام میں یہ  
 بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھایا گیا ہے یہ درست ہے۔ مگر جیسا کہ ہم  
 بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسمان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط  
 بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ ”اینتھا المرأۃ توبی توبی فان البلاء علی  
 عقبک“ پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح صحیح ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔“  
 یہ بھی لطیفہ ہے مرزا قادیانی جس شرط کا ذکر کر رہے ہیں وہ شرط اگر تھی تو بلا کے ٹل  
 جانے کے لئے کیا محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہو جانا کوئی بلا تھا۔ جو شرط کے پورا  
 کرنے سے ٹل گیا؟ یہ مرزا قادیانی کی بدحواسی نہیں تو کیا ہے۔

اس نکاح پر بڑی بخشش مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد ہوئیں۔ نور الدین  
 صاحب خلیفہ اول تو فرماتے ہیں کہ: ”میرے عقیدہ میں کچھ فرق نہیں آیا۔ قیام قیامت تک  
 محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی کا مرزا قادیانی کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا  
 تو بھی یہ پیشین گوئی پوری ہو جائے گی اور قاضی اکمل صاحب جو جماعت مرزائیہ کے ایک رکن  
 اعظم ہیں۔ (رسالہ تحفہ الاذہان ص ۲۲۳، مئی ۱۹۱۳ء) میں لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے منکوحہ آسمانی  
 کے الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور یہ خود مرزا قادیانی لکھ چکے ہیں کہ انبیاء سے وحی کے سمجھنے  
 میں غلطی ہو جاتی ہے۔“

پس آخری جواب یہی ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی غلط نکل گئی تو کوئی عیب نہیں اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہو چکیں ہیں۔ نعوذ باللہ!

کیوں خواجہ کمال الدین صاحب! اسی بے حیا کو جو اس قدر بے مکان جھوٹ بولتا ہے۔ آپ مجدد اور محدث اور مسیح موعود مہدی مسعود کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے مناظرہ کی ہمت انہی وجوہ سے نہیں کی کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ کو سچ بنانا۔ یا کوئی تاویل کرنا ان کے امکان سے باہر تھا۔

۱..... مرزا قادیانی کا اپنے قسمیہ اقرار سے جھوٹا ہونا

مرزا قادیانی کئی دفعہ اپنے قسمیہ اقراروں سے کافر، کاذب، ملعون، خائن، بے ایمان، دجال ثابت ہو چکے ہیں اور یہ سب الفاظ مرزا قادیانی ہی کے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (ضمیمہ انجام آقلم ص ۳۵۵ تا ۳۵۷، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۴ تا ۳۱۶، مورخہ ۲۲ جنوری ۱۸۸۷ء) میں لکھتے ہیں: ”پس اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے یہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے۔ یعنی خدائے تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود دفن ہو جائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئیں کاذب خیال کروں گا۔“

خواجہ کمال الدین صاحب بلکہ کل مرزائی صاحبان لاہوری ہوں یا قادیانی بتلائیں کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی پوری ہوئی؟ یا مرزا قادیانی اپنے قسمیہ اقرار سے کاذب قرار پائے اگر پیش گوئی کا پورا ہونا کوئی مرزائی دکھادے تو اسے ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔ یہاں تک سترہ جھوٹ مرزا قادیانی کے ہم نے دکھلائے اور اگر انصاف سے دیکھو تو ہر جھوٹ کے اندر کئی کئی جھوٹ شامل ہیں۔ ان سب کو شمار کرو تو تعداد بہت زیادہ ہو جائے۔ بنظر اختصار اس وقت اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا بلکہ بڑا جھوٹا ہونا تو ثابت ہو گیا۔ اب مرزائیوں کا یہ کہنا کہ جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں یا جھوٹا بھی نبی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بطلان پر

دلائل پیش کرنا فضول ہے۔ قرآن وحدیث میں جھوٹے پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ قرآن میں صاف حکم ہے کہ: ”کو نوا مع الصادقین“ سچوں کے ساتھ رہو جھوٹوں کی رفاقت ممنوع ہے۔ تو ان کی اقتداء کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک جھوٹ بولنا منہاج نبوت نہیں۔ بلکہ معیار نبوت ہو تو ایسی نبوت ان کو مبارک رہے۔ لیکن دنیا میں کوئی صاحب عقل جھوٹے کو اچھا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ نبی ورسول تو بڑی چیز ہیں۔

جھوٹ بولنا اگر عمدہ چیز ہے تو اس کا ثواب واجر عظیم مرزا قادیانی کو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں ان کا ذلیل و خوار و بے اعتبار ہونا ضروری ہے۔

دروغ ای برادر گلو زنہار

کہ کاذب بود خوار و بے اعتبار

کسی شخص کا عمر بھر میں ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو محدثین کے نزدیک اس کی ہر روایت موضوع و ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ معمولی راویوں میں تو یہ احتیاط، مگر نبی کا جھوٹا ہونا کچھ عیب نہیں۔ ”ان هذا الشی عجیب“ جس مذہب کا نبی ایسا کذاب ہو اس کے امتی کیسے ہوں گے۔

فیاں کن زگلستان من بہار مرا

مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال متعلق تو ہیں انبیاء علیہم السلام

خدا کی قسم مخلوق میں سب سے اعلیٰ رتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ خدا نے ان کو ہدایت خلق کے لئے بھیجا اور ان کے اقوال اور افعال اور احوال کو اپنے بندوں کے لئے حجت اور واجب الاقتدا قرار دیا۔ ان پر ایمان لانے کی تاکید کی اور نجات آخرت کو اسی ایمان پر منحصر کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے باوصف سید الانبیاء ہونے کے منع فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو۔ قرآن کریم نے بار بار بڑے اہتمام سے اس مقدس جماعت کی عظمت و جلالت کا عقیدہ کیا اور ان کی توہین کو کفر قرار دیا۔ پھر جو شخص اس جماعت کی توہین کرے ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے۔ کیا وہ خدا کے یہاں کسی رتبہ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نبی ورسول ہونا تو بڑی بات ہے ایسا شخص اچھا آدمی بھی نہیں کہا جاسکتا۔

مرزا غلام احمد کے متعلق اس بحث میں بھی قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے جس قدر توہین انبیاء علیہم السلام کی کی ہے۔ اس کی کچھ حد نہیں۔ نمونہ کے طور پر چند کلمات اس کے درج ذیل ہیں۔

- .....۱ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹) میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھتے ہیں: ”یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“
- .....۲ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰) میں لکھتے ہیں: ”عیسائیوں نے بہت سے حجرات آپ کے لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“
- .....۳ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) میں لکھتے ہیں: ”ممکن ہے کہ اپنی معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور بیمار کا علاج کیا ہو۔“
- .....۴ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) میں ہے: ”آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔“

فائدہ: کس قدر صریح تو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور ان کے معجزات کا کیسا صاف انکار ہے۔ نعوذ باللہ!

- .....۵ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) میں ہے: ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری (کبھی) کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدہ عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

- .....۶ مرزا قادیانی اپنی کتاب (معیار المذہب ص ۸۰، خزائن ج ۹ ص ۴۷۹) میں لکھتے ہیں: ”یسوع کے دادا صاحب داؤد نے تو سارے برے کام کئے۔ ایک بے گناہ کو شہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کرایا اور ذلالت عورت بھیج کر اس کی جو رو کو منگوا یا اور اس کو شراب پلائی اور اس سے زنا کیا اور بہت سال حرام کاری میں ضائع کیا۔“

فائدہ: جب مسلمانوں کی طرف سے مرزا قادیانی پر اعتراض ہوئے کہ مدعی اسلام ہو کر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر توہین کی اب تمہارے مرتد ہونے میں کیا شک رہا؟ تو مرزا قادیانی نے اس کا جواب یہ کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے تو یسوع کو کہا ہے۔ چنانچہ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۸، خزائن ج ۱۱ ص ۲۳۹) پر لکھتے ہیں: ”مسلمانوں کو واضح



رہے کہ خدائے تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔“

مگر افسوس! کہ مرزا قادیانی پر وہی مثل صادق آگئی کہ ”دروغ گورا حافظہ نباشد“ کیونکہ خود ہی اپنی تصانیف میں لکھ چکے ہیں کہ یسوع اور عیسیٰ دونوں نام حضرت مسیح ابن مریم ہی کے ہیں۔ (توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲) میں ہے۔ ”دوسرے مسیح بن مریم کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“

۷..... دافع انبلاء میں لکھتے ہیں: ”مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدانے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا۔ مگر حضرت مسیح کا یہ نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصہ اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“ (دافع انبلاء ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰)

فائدہ: اس عبارت میں قرآن شریف کے حوالہ نے اس ریکرٹاویل کا دروازہ بند کر دیا۔ جو بعضے مرزائی کہہ بیٹھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے عیسائیوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر ایسا لکھا ہے۔ ورنہ خود مرزا قادیانی کا ذاتی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ایسا نہ تھا۔ قرآن شریف کے حوالہ نے بتلادیا کہ یہ تقریر الزامی نہیں ہے۔

۸..... (ازالہ اوہام ص ۶، خزائن ج ۳ ص ۲۵۴) میں لکھتے ہیں: ”کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانیے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو۔ کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بوڑھی کا کام درحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں گلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔“

فائدہ: اس عبارت سے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزہ پر جو تمسخر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بے باپ ہونے کا بھی انکار ہے جو صریح تکذیب نص قرآن کی ہے۔

۹..... (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۰۳، خزائن ج ۳ ص ۲۵۵) میں لکھتے ہیں: ”کچھ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھایا ہو اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنائع ایسی ایسی چیزیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چیزیاں گل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔“

۱۰..... نیز (ازالہ اوہام ص ۲۵۲، خزائن ج ۳ ص ۲۵۶) میں ہے: ”ما سو اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز طریق عمل الترب یعنی مسریمی طریق سے بطور لہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسریم کہتے ہیں۔ ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ انسان کی روح میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جو زندوں سے صادر ہوا کرتی ہیں۔“

۱۱..... نیز (ازالہ اوہام ص ۳۰۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۵۷) میں ہے: ”اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح بن مریم باذن الہی المسیح نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گوا مسیح کے درجہ کاملہ سے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ المسیح کی لاش نے بھی وہ معجزہ دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ مگر چوروں کی لاشیں مسیح کے جسم کے ساتھ لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہو سکیں۔ یعنی وہ دو چور جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ بہر حال مسیح کی یہ تری کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمایوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔“

فائدہ: کیسی سخت تو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ اول تو ان کے معجزہ احیائے موقی کا انکار کیا اور اس کو مسریم کا عمل بتایا۔ دوم مسیح علیہ السلام کے کام کو مکروہ اور قابل نفرت کہا۔ ۱۲..... (ازالہ اوہام ص ۳۰۹، خزائن ج ۳ ص ۲۵۸) میں ہے: ”واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی

مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی اور دماغی طاقتوں کو خرچ کرتا ہے۔ اپنی ان روحانی تاثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے۔ مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کار ہا کہ قریب قریب ناکام رہے۔“

۱۳..... (اعجاز احمدی ص ۳۱۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۰) میں ہے: ”ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کا معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

فائدہ: کیسی صریح توہین حدیث رسول ﷺ کی ہے۔ ناظرین اس قول کو یاد رکھیں۔ کیونکہ آئندہ بحث نبوت میں بھی اس سے کام لینا ہے۔

۱۴..... (ازالہ اوہام ص ۵۹۶، خزائن ج ۳ ص ۱۲۶) میں ہے: ”سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہئے۔“

پھر چند سطروں کے بعد لکھتا ہے۔ ”اس قسم کے کشفوں میں خود مؤلف (یعنی مرزا) صاحب تجربہ ہے۔“

فائدہ: مرزائیوں کے نزدیک معراج ایک قسم کا کشف تھا۔ فی الواقع نہ جانا تھا نہ آنا تھا۔ اہل انصاف کے نزدیک یہ صاف انکار معراج کا ہے۔ یہ بھی قابل دید ہے کہ مرزا قادیانی اپنے کو اس معاملہ میں صاحب تجربہ کہتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اس کو کئی مرتبہ ایسی معراج ہو چکی ہے۔ پھر اس عبارت میں رسول خدا ﷺ کے جسم لطیف والطف کو کثیف کہنا کیسی سخت گستاخی ہے جو کسی ایماندار سے ہرگز ممکن نہیں۔

۱۵..... (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۴۷، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳) میں ہے: ”اگر آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موبہو منکشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جوج ماجوج کی عمیق تہ

تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو اور نہ دلہۃ الارض کی ماہیت کما ہی ہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قویٰ کے ممکن ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔“

فائدہ: مرزا قادیانی نے جب فرمایا کہ دجال سے مراد پادری یا جوج ماجوج سے انگریز۔ خرد دجال سے مراد ریل گاڑی ہے تو ان پر اعتراض ہوا کہ یہ مراد آپ کی از روئے احادیث غلط ہوئی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے عبارت مذکورہ بالا لکھی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال وغیرہ کی حقیقت سمجھنے میں حضرت محمد ﷺ سے غلطی ہوگئی۔ کیونکہ یہ چیزیں ان کے زمانہ میں غیب محض تھیں۔ کوئی نمونہ ان کا موجود نہ تھا اور میرے زمانہ میں چونکہ نمونہ موجود ہے۔ لہذا میں ان چیزوں کی اصلی حقیقت سمجھ گیا۔

اہل ایمان غور کریں کہ رسول خدا ﷺ کی کس قدر توہین ہوئی اور شریعت الہیہ کس طرح باز سچے پغلاں بن گئی۔ جب دجال وغیرہ کی حقیقت بعد غیب محض ہونے کے سمجھ میں نہ آئی تو جنت دوزخ اور عالم آخرت کے متعلق جو کچھ آپ نے خبر دی اس پر کیا وثوق رہ گیا۔ کیونکہ وہ تو غیب الغیب ہیں۔ نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق صاف طور پر لکھا ہے کہ: ”کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔“ (اعجاز احمدی ص ۲۲، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۳)

”بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت ﷺ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔“ (ازالہ ادہام ص ۴۰۰، خزائن ج ۳ ص ۳۰۷)

۱۶..... مرزا قادیانی نے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کے ساتھ صحابہ کرام کی توہین کا ثواب بھی اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیا ہے۔ چنانچہ (اعجاز احمدی ص ۸۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۷) میں ہے: ”جیسا کہ ابو ہریرہؓ جو غشی تھا اور درایت اچھا نہیں رکھتا تھا۔“

نیز (ازالہ ادہام ص ۵۹۶، خزائن ج ۳ ص ۴۲۲) میں ہے: ”حق بات یہ ہے کہ ابن مسعودؓ ایک معمولی انسان تھا۔“

نیز (اعجاز احمدی ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۴) میں ہے:

..... ”وقالوا علی الحسنین فضل نفسہ“ اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور امام حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔

”اقوال نعم واللہ ربی سیظہر“ میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خدا عنقریب ظاہر کر دے گا۔

۲..... ”وشتان ما بینی و بین حسینکم“ اور مجھ میں اور تمہارے حسین بڑا فرق ہے۔

”فانی اوید کل آن وانصر“ کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی۔

(اعجاز احمدی ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

۳..... ”اما حسین فاذا کروا دشت کربلا“ مگر حسین پر تم دشت کربلا کو یاد کر لو۔

”الیٰ هذه الايام تبكون فانظروا“ اب تک تم روتے ہو۔ پس سوچ لو۔ (ایضاً)

۴..... ”واللہ لیست فیہ منی زیادۃ“ اور بخدا اس میں مجھ سے کچھ زیادہ نہیں۔

”وعندی شہادات من اللہ فانظروا“ اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں۔

(اعجاز احمدی ص ۸۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۹۳)

۵..... ”وانی قتیل الحب لکن حسینکم“ اور میں خدا کی محبت کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین۔

”قتیل العدی فالفرق اجلی و اظہر“ دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا

(ایضاً)

اور ظاہر ہے۔

مرزا غلام احمد کا دعویٰ نبوت

قادینی گروہ تو، بہ تعلیم مرزا محمود فرزند خلیفہ مرزا قادیانی صاف صاف مرزا کے مدعی نبوت ہونے کا مقبر اور ختم نبوت کا منکر ہے۔ لہذا اس فرقہ کے سامنے ہم کو صرف یہ ثابت کر دینا کافی ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ و احادیث متواترہ کی دلالت قطعاً سے ثابت ہے کہ نبوت حضرت محمد ﷺ پر ختم ہو چکی اور آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے۔ کذاب ہے مردود ملعون ہے۔

لیکن لاہوری پارٹی جس کے رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔ اول تو نادانوں کی فریب دہی کے لئے مرزا قادیانی کے مدعی نبوت ہونے سے بالکل انکار کرتی ہے اور اگر بد قسمتی

سے کوئی واقف کار مل گیا اور یہ فریب کھل گیا تو کہنے لگتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر مجازی نبوت کا، ظلی بروزی کا، غیر مستقل نبوت کا۔ صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ جیسا کہ رنگون میں خواجہ کمال الدین سے یہ سب کچھ ظہور میں آچکا۔

لہذا اس فرقہ کے مقابلہ میں ہم کو مرزا قادیانی کے اقوال دکھانا پڑتے ہیں۔ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ چونکہ لاہوری گروہ زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمان اس کے فریب میں جلد آجاتے ہیں۔ لہذا پہلے اسی گروہ کی سرکوبی مناسب سمجھ کر مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ختم نبوت کی بحث بھی مختصر طریقہ سے انشاء اللہ تعالیٰ لکھ دی جائے گی۔

## اقوال مرزا غلام احمد

### طریق اول

..... ۱ (انجام آتھم ص ۶۲، خزائن ج ۱۱ ص ۶۲) میں ہے: ”الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔“

..... ۲ (دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) میں ہے: ”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

..... ۳ (دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں ہے: ”تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں ہے گو متر برس تک رہے۔ قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہو اور خیال ہو کہ فقط رکھی نمازوں اور دعاؤں سے یا مسیح کی پرستش سے یا گائے کے طفیل سے یا ویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول کے دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر نبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔“

فائدہ: اس قسم کے اقوال بے شمار ہیں۔ اب ہم وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ جن میں صاحب شریعت نبی ہونے کی تصریح ہے۔

۳..... (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) میں ہے: ”مجھے بتلایا گیا کہ تیری خبر قرآن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“  
 فائدہ: یہ آیت قرآن مجید کی ہے۔ اس میں حضرت محمد ﷺ کی نسبت فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مرزا کہتا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہی ہوں۔ جس سے صاف ثابت ہوا کہ مرزا ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث ہونے کا مدعی ہے۔ یہی مطلب صاحب شریعت کا ہے۔

۵..... (اربعین نمبر ۳ ص ۳۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۶) میں ہے: ”خدا وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“  
 ۶..... (اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵) میں ہے: ”اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو خود یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر ونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔“

فائدہ: دیکھئے کیسی صفائی سے صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔

## طریق دوم

اب ہم ایک دوسرے طریقہ سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبوت حقیقیہ کے مدعی ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے اس تیرہ سو برس میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اگر بقول خواجہ کمال الدین دعویٰ نبوت سے مراد ان کی مجددیت کا دعویٰ ہوتا تو ایسا نہ کہتے۔ کیونکہ مجدد تو بہت گذرے ہیں۔

۷..... (حقیقت الوحی ص ۱۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶) میں ہے: ”اور یہ بات ایک

ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطاء نہیں کی گئی۔ اگر کوئی منکر ہو تو بارشوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

### طریق سوم

اب ہم ایک تیسرے طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدعی نبوت حقیقتاً ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے کو تمام انبیاء سے حتیٰ کہ حضرت محمد ﷺ سے بھی افضل کہا۔ اگر مجازی نبوت کے مدعی ہوتے تو حقیقی انبیاء سے اپنے کو افضل نہ کہتے۔

۸..... (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) میں ہے: ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“

۹..... (حقیقت الوحی ص ۱۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) میں ہے: ”خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا۔ وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔“

۱۰..... (حقیقت الوحی ص ۱۳۹، ۱۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳) میں ہے: ”اوائل میں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح بن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“

فائدہ: اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضرت مسیح علیہ السلام پر اپنے کو فضیلت کلی دے رہے ہیں۔ لہذا اب اس کہنے کی گنجائش نہ رہی کہ فضیلت جزئی تو غیر نبی کو بھی نبی پر ہو سکتی ہے۔



..... ۱۱ (حقیقت الوحی ص ۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹) میں ہے: ”اور جب کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخراً زمانے کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ کیوں تم مسیح بن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

..... ۱۲ (تمہ حقیقت الوحی ص ۱۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴) میں ہے: ”بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔“

فائدہ: یہاں تو آنحضرت ﷺ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ مگر آئندہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی مستثنیٰ نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے معجزات آپ علیہ السلام سے بھی زیادہ بتلائے ہیں۔

..... ۱۳ (تمہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) میں ہے: ”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

..... ۱۴ (حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲) میں ہے: ”دنیا میں کئی تخت اترے پرتیرا (یعنی مرزا کا) تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔“

..... ۱۵ (استفتاء ص ۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵) میں ہے: ”واتسانی مالم یؤت اخداً من العالمین“ خدا نے جو کچھ مجھے (مرزا کو) دیا سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔

..... ۱۶ (مکتوبات احمدیہ نمبر ۴ ج ۳ ص ۴۹) میں ہے: ”آنحضرت ﷺ کے معجزات جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تین ہزار معجزہ ہیں۔ اس خدا نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک ہیں۔“

فائدہ: مرزا قادیانی نے (تحفہ گوڑیہ ص ۳۰، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳) میں بھی آنحضرت ﷺ کے معجزات کو تین ہزار بیان کیا ہے۔

..... ۱۷ (قصیدۃ اعجازیہ ص ۷۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) میں ہے:

لہ خسف القمر المنیر وان لی  
غسا القمر ان المشرق ان اتنکر

فائدہ: مرزا قادیانی نے اس شعر کا ترجمہ بھی خود کیا ہے کہ: ”اس (یعنی آنحضرت ﷺ) کے لئے چاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔“

کس قدر گستاخی کے ساتھ اپنا مقابلہ رسول خدا ﷺ کے ساتھ کر کے اپنے کو فضیلت دی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ آنحضرت ﷺ کے معجزہ شق القمر کو مرزا قادیانی چاند گہن کہتا ہے۔ خواجہ کمال الدین کہتے ہیں کہ مرزا اور ہم معجزہ شق القمر کے منکر نہیں۔ شق القمر کو چاند گہن کہنا انکار سے بدتر ہے۔ مناظرہ میں آتے تو حقیقت کھل جاتی اور بجز اللہ اب بھی کھل گئی۔

### طریق چہارم

اب ہم چوتھے طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدعی نبوت حقیقتاً ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنی خانہ ساز وحی کو قرآن شریف کے مثل قطعی اور واجب الایمان کہا۔ اگر مجازی نبوت کے مدعی ہوتے تو اپنی وحی کو حقیقی نبیوں کی وحی کا ہم رتبہ نہ کہتے۔

۱۸..... (اربعین نمبر ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۴۵۳) میں ہے: ”جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے۔ جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظلمات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں۔ جس کی حق یقین پر بناء ہے۔“

۱۹..... (حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) میں ہے: ”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے۔“

### طریق پنجم

اب ہم پانچویں طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدعی نبوت حقیقی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ نجات کو اپنے ماننے والوں میں منحصر قرار دیا۔ اگر مجازی نبوت کا مدعی ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کہتا۔ کیونکہ یہ شان حقیقی نبیوں کی ہے کہ ان کے نہ ماننے سے کافر ہو جائے اور بغیر ان کے ماننے ہوئے نجات نصیب نہ ہو۔

۲۰..... (حقیقت الوحی ج ۲ ص ۶۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۴) میں ہے: ”ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا نے عام طور پر میرے لئے آسمان سے نشان ظاہر کئے۔ پس جس شخص پر میرے مسیح موعود ہونے کے بارہ میں خدا کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے اور میرے دعویٰ پر وہ اطلاع پا چکا ہے وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے فرستادوں سے دانستہ منہ پھیرنا ایسا امر نہیں ہے کہ اس پر کوئی گرفت نہ ہو۔ اس گناہ کا ادخواہ میں نہیں۔ بلکہ ایک ہی ہے جس کی تائید کے لئے میں بھیجا گیا۔ یعنی حضرت ﷺ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ میرا مکتب نہیں۔ بلکہ اس کا نافرمان ہے جس نے آنے کی پیشین گوئی کی۔ ایسا ہی عقیدہ میرا آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے کے بارہ میں ہے کہ جس شخص کو آنحضرت ﷺ کی دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ آپ کی بعثت سے مطلع ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک آنحضرت ﷺ کی رسالت کے بارہ میں اس پر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ وہ اگر کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا سزاوار ہوگا۔“

۲۱..... (حقیقت الوحی ص ۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵) میں ہے: ”کفر دو قسم پر ہے۔ (اول) ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ (دوم) دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“

۲۲..... (اربعین نمبر ۳ ص ۲۸، خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۷) میں ہے: ”خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکلف یا مکتب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ تمہارا امام وہی ہو جو تم میں سے ہو۔“

۲۳..... (فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۸۲) میں ہے: ”سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو۔ پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر در نہ اس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرو اور اگر کوئی خاموش رہے۔ نہ تصدیق کرے نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔“

۲۴..... (فتاویٰ احمدیہ ج ۲ ص ۱۸) میں ہے: ”۱۰ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں۔ وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز

پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ فرمایا مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی۔ فرمایا ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یا وہ مصدق ہو جائیں گے یا کذب۔“

یہ چوبیس اقوال مرزا قادیانی کے ہوئے جن کے دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انصاف اور حیا کا خون کرنا ہے۔ بلکہ وہ قطعاً و یقیناً نہ صرف نبی بلکہ افضل الانبیاء ہونے کے مدعی ہیں۔

### خدائی کا دعویٰ

اب ہم کچھ اقوال ان کے وہ بھی دکھلاتے ہیں جن میں دعویٰ الوہیت اور ابن اللہ ہونے کا ہے۔

۲۵..... (حقیقت الوہی ص ۱۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) میں مرزا قادیانی نے اپنی چند وحیاں جمع کی ہیں جن میں سے ایک جملہ حسب ذیل ہے: ”انما امرک اذا اردت شیئاً ان تقول له کن فیکون“ یعنی خدا نے فرمایا کہ اے مرزا تیری یہ شان ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔  
قرآن مجید میں خدا نے یہ شان اپنی بیان فرمائی ہے۔

۲۶..... (حقیقت الوہی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹) میں ہے: ”انت منی بمنزلہ ولدی“ یعنی خدا نے فرمایا اے مرزا تو میرے لڑکے کے برابر ہے۔

۲۷..... (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳) میں ہے: ”رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہو..... ثم خلقت السماء الدنیا وقلت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح“ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینہ اللہ ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں ہی خدا ہوں..... پھر میں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا منکر ضروریات دین ہونا اس سے اوپر جو اقوال مرزا قادیانی کے نقل ہوئے ان سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ مرزا نے کھلم کھلا دین اسلام کی کس قدر مخالفت کی۔ زبان سے تو کہتا ہی ہے۔ ما مسلمانیم از فضل خدا۔ مصطفیٰ مارا امام و پیشوا۔ مگر اس کے عقائد اس کی تعلیمات اس کے اعمال سب اس کے خلاف ہیں۔ یہاں ہم نمونہ کے طور پر چند باتیں ان کی درج کرتے ہیں۔

..... خدائے تعالیٰ (معاذ اللہ) جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی اپنی خبر کو غلط کر دیتا ہے۔ اپنے نبیوں سے عذاب نازل کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ میں کوئی شرط بھی نہیں ہوتی۔ مگر وہ وعدہ ٹل جاتا ہے۔ یہ مضمون اوپر کے حوالہ جات سے ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بلکہ خود رسول خدا ﷺ کی پیشین گوئیوں کی نسبت مرزا قادیانی نے ایسا لکھا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ ”ان اللہ لا یخلف المیعاد“

.....۲ نبیوں سے وحی کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ (اوپر کے حوالہ جات دیکھو)

.....۳ نبیوں سے گناہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ (اوپر کے حوالہ جات دیکھو)

مرزا قادیانی نے حضرت مسیح اور حضرت داؤد علیہم السلام کی نسبت کیا لکھا۔ حالانکہ دین اسلام کی قطعی تعلیم ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔

.....۴ حضرت مسیح علیہ السلام کے بے باپ پیدا ہونے کا، ان کے معجزات کا،

مرزا کو قطعاً انکار ہے۔ (اوپر کے حوالہ جات دیکھو) حالانکہ یہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔

.....۵ معراج کا انکار کیا کہ وہ ایک قسم کا کشف تھا۔ معجزہ شوق القمرا کا انکار کیا کہ وہ شوق

نہ تھا بلکہ وہ چاند گہن تھا۔ مرزا قادیانی دراصل ایک طمدہ رہیہ تھا۔ اسی قسم کی تاویلات رکیکہ کر کے تمام نبیوں کے معجزات کا اس نے انکار کیا ہے۔ جن میں سے اکثر قرآن شریف میں بصراحت مذکور ہیں۔

.....۶ ملائکہ کا انکار کیا۔ آئینہ کمالات اسلام میں ہے: ”جبرائیل آسمان پر قائم

ہے۔ وہ بذات خود نازل نہیں ہوتا۔“ (آئینہ کمالات ص ۱۲۲، خزائن ج ۵ ص ۱۲۲)

توضیح المرام میں ہے: ”محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائکہ اپنے

شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ خیال بہ بداہت باطل بھی ہے۔“ (توضیح مرام ص ۲۹، خزائن ج ۳ ص ۶۶)

نیز اسی کتاب میں ہے۔ ”فرشتے اپنی اصلی مقامات سے جو ان کے لئے خدا کی طرف

سے مقرر ہیں ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔“ (توضیح مرام ص ۳۲، خزائن ج ۳ ص ۶۷)

حالانکہ قرآن شریف میں فرشتوں کا زمین پر آنا زمین سے آسمانوں پر جانا بقرع

بہت سی آیتوں میں مذکور ہے۔ شب قدر میں فرشتوں کا اترنا۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کا مسلمانوں کی

مدد کے لئے آنا، کس قدر وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ہے۔ پس ان سب باتوں کا انکار کرنا

فرشتوں کا انکار کرنا ہے۔ یہیں سے شب قدر کا انکار بھی ثابت ہو گیا۔

.....۷ حشر جسمانی اور جنت و دوزخ کا انکار۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جسم

انسانی غذا کا محتاج ہے اور جب غذا ہوگی تو پاخانہ پیشاب کی حاجت سے مفر نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنت و دوزخ لذت و تکلیف روحانی کا نام ہے۔ (دیکھو کتاب جلسۃ المذاہب)

۸..... دجال، خرد دجال، دلایۃ الارض، یا جوج ماجوج کا انکار۔

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال سے مراد چادری، خرد دجال سے مراد ریل، دلایۃ الارض سے مراد مسلمانوں کے مولوی، یا جوج ماجوج سے مراد اقوام یورپ۔

(ازالہ اوہام، خزائن ج ۳ ص ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵)

انہیں خرافات کو لکھتے لکھتے مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھ مارا کہ حضرت محمد ﷺ وحی الہی کو نہیں سمجھے۔ لہذا ان چیزوں کی مراد بیان کرنے میں ان سے عھلی ہو گئی۔

(ازالہ ص ۴۹۱، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳)

۹..... ختم نبوت کا انکار۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آیت خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نبیوں کی مہر ہیں۔ یعنی اب جس کو منصب نبوت ملے گا۔ آپ کی مہر سے ملے گا۔ یعنی وہ آپ کے قبضین میں سے ہوگا۔ دیکھو کتاب استفتاء وغیرہ۔

(حقیقت الوحی ص ۹۷، خزائن ج ۳ ص ۱۰۰)

۱۰..... تنازع یعنی دوبارہ جنم کا عقیدہ۔ دین اسلام نے اس عقیدہ کی بیخ و بنیاد اکھاڑ دی۔ مگر مرزا قادیانی بڑی دھوم سے خود اپنے ہی اندر اس عقیدہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نبوت بروزی کا لفظ جو بار بار مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے زبان و قلم پر آتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ مرزا قادیانی اپنے اندر حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت مسیح علیہم السلام حتیٰ کہ حضرت سید الانبیاء ﷺ کے بروز کے قائل ہیں۔ پھر اپنے کو کرشن اوتار بھی فرماتے ہیں۔ تریاق القلوب میں فرماتے ہیں۔

منم مسیح زماں ومنم کلیم خدا  
منم محمد واحمد کہ مجتبیٰ باشد

(تریاق القلوب، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۴)

نمونہ اور محض نمونہ کے طور پر یہ دس باتیں (ہم نے) بیان کیں اور بہت سی چھوڑ دیں۔ مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کا انکار وغیرہ وغیرہ۔

ختم نبوت کی بحث

آنحضرت ﷺ پر دور نبوت کا ختم ہو جانا ایک ایسا ضروری اور منصوص، قطعی، مسئلہ

اسلام کا ہے کہ کبھی وہم بھی نہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کا دعویٰ ابن کر ختم نبوت کا انکار کر سکے گا یا اس انکار کے بعد پھر اس منکر کو کوئی شخص مسلمان سمجھنے کی جرأت کرے گا۔

مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے پرکرو فریب ڈھٹائی سے اس ناشدنی کفر کا ارتکاب کر کے شریعت الہیہ سے دجالیت کا خطاب حاصل کر لیا اور پھر اپنے کو مسلمان کہتا اور کہلواتا ہے۔

اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اس معرکہ میں مرزائی اپنے مرشد سے بھی سبقت لے گئے۔ مرزا کا طرز عمل یہ تھا کہ ابتداء میں تو وہ دعویٰ نبوت سے برملا انکار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ: ”من یتسم رسول و نیاوردہ ام کتاب“ اور ”ہر نبوت را برو شد اختتام“ مگر اس کے بعد بتدریج اس نے نبوت کا دعویٰ شروع کیا۔ اس دعویٰ میں اگرچہ کوئی حد بلند پروازی کی باقی نہیں رہی اور ختم نبوت کا صاف انکار ہے۔ مگر پھر بھی جب کوئی ایسا موقع پیش آ جاتا ہے تو نبوت کا اقرار کر لیتا تھا۔ ختم نبوت کے معنی میں البتہ کچھ رکیم تاویلات کرتا تھا۔ اپنے دعویٰ نبوت کو بھی مجازی کہہ دیتا تھا۔ گو یہ محض اس کافر کا فریب تھا۔ لیکن پھر بھی ایک پردہ تھا۔ برائے نام سہمی۔

لیکن مرزائی صاحبان بالخصوص قادیانی پارتی اس پردہ میں بھی نہ رہی اور کھلم کھلا ختم نبوت کا انکار اور مرزا قادیانی کے نبی و رسول ہونے کا اور اس کے منکرین کے کافر ہونے کا اظہار کر رہی ہے۔

ختم نبوت کی بحث میں علمائے اسلام کی طرف سے متعدد مستقل تصانیف ہو چکی ہیں۔ خاص کر انجم لکھنؤ نمبر ۱۳ ج ۱۰ جس میں جناب (امام اہل سنت) مولانا محمد عبدالشکور صاحب نے لکھا ہے کہ خلیفہ نور الدین قادیانی نے ممدوح کے مناظرہ کے لئے مولوی سرور شاہ، مفتی محمد صادق میر قاسم علی دہلوی کو لکھنؤ بھیجا اور ان لوگوں نے زبانی مناظرہ سے گریز کر کے تحریری کی خواہش کی۔ چنانچہ ممدوح نے ایک مضمون ختم نبوت پر اور ایک حیات مسیح علیہ السلام پر لکھا جو انجم نمبر مذکور میں درج ہے۔ آج تک کسی مرزائی نے اس کا جواب نہ دیا۔ اب ہم یہاں بہت اختصار کے ساتھ ایک نئے طرز سے چند دلائل لکھتے ہیں۔ کچھ عظمیٰ اور کچھ نقلی اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ طالب حق کے لئے کافی ہوں گے۔

## ختم نبوت کی روشن دلیل

.....قرآن مجید کا اعلان عام

قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ”تبیانا لکل شیء“ فرمایا اور قرآن مجید میں جا بجا

صرف آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے کو اور آپ کی اتباع کرنے کو نجات کے لئے کافی قرار دیا۔ کہیں یہ نہ فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی اور انبیاء آئیں گے۔ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن تو قرآن، احادیث میں بھی کہیں یہ مضمون نہ فرمایا گیا۔ لہذا اگر نبوت ختم نہ مانی جائے تو یہ ایک بہت بڑا نقص قرآن وحدیث دونوں میں ماننا پڑے گا۔

۲..... احادیث اور قرآن میں آپ علیہ السلام کی متعین حیثیت

آنحضرت ﷺ کی شان قرآن کریم میں رحمۃ اللعالمین بیان کی گئی۔ لیکن اگر سلسلہ نبوت ختم نہ ہو تو معاذ اللہ یہ صفت آپ میں باقی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ اس صورت میں آدمی باوجودیکہ آپ پر ایمان رکھتا ہو۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ نجات سے محروم ہو سکتا ہے۔ بیچہ اس کے کہ اس نے انبیائے مابعد کو نہیں مانا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے نہ ماننے کے سبب سے کافر بنا ہی دیا۔

۳..... مسلمانوں کا اجماع قطعی ہے

کہ رسول خدا ﷺ کے زمانہ سے اس وقت تک ہر زمانہ اور ہر مقام کے مسلمانوں کا اس پر اجماع رہا کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکی۔ جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، دجال ہے۔ قطعاً کافر ہے اور اس اجماع کی حکایت بھی متواتر ہے۔ جس کا حجتی چاہے کتب کلام وفقہ وغیرہ دیکھے۔

۴..... عقیدہ ختم نبوت عقل سلیم کے عین مطابق ہے

سلسلہ نبوت کے آنحضرت ﷺ کے وقت تک جاری رہنے کے تین سبب ہیں۔

اول..... آپ سے پہلے کسی نبی کی نبوت عام نہ ہوتی تھی۔ ہر نبی ایک خاص قوم اور خاص بستی کے لئے ہوتا تھا۔ لہذا ضرورت تھی کہ دوسری قوم اور دوسری بستی کے لئے دوسرا نبی مبعوث ہو۔ دوم..... نبی کی وفات کے بعد ان کی شریعت میں تحریف ہو جاتی تھی۔ خدا نے کسی شریعت کے محفوظ رکھنے کا ذمہ نہ لیا تھا۔ لہذا ضرورت ہوتی تھی کہ پھر نبی بھیجا جائے اور اس کو نئی شریعت دی جائے یا شریعت سابقہ کی تحریفات کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کی جائے۔

سوم..... آپ سے پہلے کوئی نبی کامل دین لے کر نہیں آیا تھا۔ لہذا ضرورت تھی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا جائے اور دوسری شریعت اترے۔

آنحضرت ﷺ کو قرآن مجید میں ان تینوں امور سے مطمئن کر دیا گیا۔ نبوت بھی آپ



کی تمام مخلوق کے لئے عام کی گئی۔ قولہ تعالیٰ ”کافة للناس بشیراً و نذیراً“  
 آپ کی شریعت کو تحریف وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لے لی گئی۔ قولہ تعالیٰ ”انا  
 نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون“

آپ کو دین بھی کامل دیا گیا۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم“  
 لہذا عقل سلیم بھی چاہتی ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو جانا چاہئے اور عقل سلیم قطعاً یہ حکم لگاتی  
 ہے کہ اب نبی کی بعثت بے ضرورت اور فعل عبث ہے۔ ”تعالی اللہ عن ذلک“  
 اب ایک بات باقی رہ گئی کہ احکام شرعیہ کا امت میں رائج رکھنا اگر کسی حکم کا رواج  
 موقوف ہو گیا ہو اس کو از سر نو پھر رائج کرنا۔ کوئی نئی بات پیدا ہوگئی ہو اس کو ماننا تو یہ کام مجدد کا ہے۔  
 اس کے لئے نبی کی ضرورت نہیں اور آنحضرت ﷺ کو خداوند علیم و حکیم نے اس سے بھی مطمئن  
 کر دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: میری امت میں ہمیشہ مجدد ہوتے رہیں گے۔ میری امت میں ایک  
 گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔

یہاں تک تو اجماعی اور عقلی دلیلیں تھیں۔ اب آپ (قدرے تفصیل سے) دلائل  
 قرآنیہ اور احادیث نبویہ دیکھو۔  
 ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں

۵..... ”ماکان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ  
 وخاتم النبیین (احزاب)“ ﴿نہیں ہیں محمد ﷺ باپ تم میں سے کسی مرو کے ولیکن وہ اللہ کے  
 رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں﴾

فائدہ: اس آیت میں لفظ خاتم النبیین کس قدر صاف و صریح طور پر سلسلہ نبوت کے ختم  
 ہو جانے پر دلالت کرتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے خوب دل کھول کر اس کی تحریف  
 معنوی کی ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں۔ خاتم بمعنی مہر کے ہے اور مہر سند کے لئے ہوتی ہے۔ مطلب یہ  
 ہوا کہ حضرت سند الانبیاء ہیں۔ یعنی اگلے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں یا انبیائے مابعد کی سند ہیں۔  
 یعنی آپ کے بعد جو نبی ہو گا وہ آپ کا پیرو ہو گا۔

اور کبھی کہتے ہیں کہ نبیین سے مراد مستقل نبی ہیں۔ یعنی مستقل نبیوں کا آنا ختم ہو چکا۔  
 اس قسم کے خرافات بہت بکے ہیں۔ مگر یہ سب خرافات دروغ بے فروغ سے زیادہ کسی لقب کے  
 مستحق نہیں۔ کیونکہ لغت عرب ان کی تائید نہیں کرتی۔ تمام اہل لغت لکھتے ہیں کہ: ”خاتم القوم  
 بمعنی آخر القوم“ مستعمل ہوتا ہے۔

(لسان العرب ج ۱۵ ص ۵۵، مطبوعہ مصر) میں ہے۔ ”ختام القوم وخاتمہم آخرہم  
ومحمد ﷺ خاتم الانبیاء“ پھر آگے لکھتے ہیں۔ ”وخاتم النبیین ای آخرہم“ اسی  
طرح اور کتب لغت میں بھی ہے۔ دیکھو رسالہ ”خاتم النبیین“ اور رسالہ ”ختم النبوة“ جو موگیہ خانقاہ  
رحمانی سے شائع ہوئے۔

ان رسالوں کے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمام مفسرین نے طبقہ اولیٰ سے لے کر  
اس چودھویں صدی تک اس آیت کی تفسیر میں ایسا ہی لکھا ہے۔ سب نے اس آیت سے ختم نبوت  
پر استدلال کیا ہے۔ باقی رہا یہ کہ نبی سے نبی مستقل مراد ہیں۔ اول تو جب آیت میں قید مستقل کی  
نہیں تو مرزا قادیانی کو کیا حق ہے کہ اپنی طرف سے اس قید کو بڑھائے۔ دوسرے یہ کہ نبی کی دو  
قسمیں مستقل اور غیر مستقل مرزا قادیانی کی ایجاد ہیں۔ جو ہرگز کسی مسلمان کے نزویک قابل  
سماعت نہیں۔ ابھی آیات قرآن پڑھو اور ہیں۔ مگر اب میں چند احادیث لکھتا ہوں۔  
ختم نبوت احادیث کی روشنی میں

۶..... ”انہ سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلہم یزعم انہ نبی  
وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مسلم، ترمذی، ابوداؤد ج ۲ ص ۸۵۴)“ ﴿میری  
امت میں تیس جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔  
حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔﴾

۷..... ”کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی  
خلفہ نبی آخر وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء (بخاری ج ۲ ص ۵۰)“ ﴿نبی  
اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہو  
جاتا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بلکہ خلفاء ہوں گے۔﴾

۸..... ”انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی  
(بخاری ج ۲ ص ۳۰)“ ﴿اے علیؑ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبہ پر ہارون، موسیٰ  
کی طرف سے تھے۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔﴾

۹..... ”انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم (ابن ماجہ ج ۲ ص ۳۴)“  
﴿میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔﴾

۱۰..... ”لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (ترمذی ج ۲  
ص ۲۰۹)“ ﴿اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ضرور نبی ہوتے۔﴾

(ان احادیث سے بوضاحت تمام ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو منصب نبوت نہ دیا جائے گا) آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو غیر مختتم ماننا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی گرفت سے گھبرا کر مرزا قادیانی اپنے دعویٰ نبوت سے انکار کر جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ ناواقفوں کے سامنے صاف انکار کر بیٹھے ہیں کہ نہ ہم مرزا قادیانی کو نبی و رسول مانتے ہیں نہ مرزا قادیانی نے کبھی ایسا دعویٰ کیا۔ لیکن واقف کار کے سامنے یہ منافقانہ حرکت فروغ نہیں پاسکتی۔

”یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامهم“ ﴿اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں کہا۔ حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔﴾

یہ لطیفہ بھی سننے کے لائق ہے کہ مرزائیوں نے آیت قرآنی سے اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے۔ ”یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون“ ﴿اے بنی آدم آئیں گے تمہارے پاس رسول تمہارے جنس سے بیان کریں گے۔ تم سے احکام میرے پس جو لوگ تقویٰ اختیار کریں گے اور اچھے کام کریں گے۔ ان پر کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔﴾

مرزائی کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول ہمیشہ آتے رہیں گے۔ رسولوں کا آنا بند نہیں ہوا۔

جواب، اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب بنی آدم سے ہے نہ امت محمدیہ سے۔ جیسا کہ الفاظ آیت بتلا رہے ہیں۔ یہ آیت اس وقت کا قصہ بیان کر رہی ہے۔ جب کہ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور ان کی پشت سے خدا نے ان کی ذریت کو نکالا۔ اس وقت ان سے فرمایا کہ اے بنی آدم الخ پس مطلب یہ ہوا کہ بنی آدم سے روز ازل میں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم میں رسول آئیں گے۔ چنانچہ آئے۔

آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ نہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ تا قیام قیامت رسول آیا کریں گے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا یہ مطلب ہو سکے۔ مرزائیوں کا استدلال اس آیت سے روشن دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن کریم سے وہ بالکل بے گانہ ہیں۔

## حیات مسیح علیہ السلام کی بحث

اس بحث میں بھی مرزائیوں نے عجب خط کیا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور آخر میں کفر و الحاد کی باتیں بکنے لگتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر ان کے چند خرافات درج ذیل ہیں۔

### مرزائیوں کے عقلی دلائل وفات مسیح پر

#### مرزائی دلیل نمبر ۱:

مسیح علیہ السلام اگر زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ کھاتے پیتے کیا ہیں۔ اگر کچھ نہیں تو آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا آلاٰ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ“، یعنی ہم نے انسانوں کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور اگر کچھ کھاتے ہیں تو کھانا وہاں کہاں؟ اور بالفرض ہو بھی تو جب کھانا کھائیں گے تو پیشاب پاخانہ کی حاجت لازم۔ پیشاب پاخانہ کے لئے کس مقام پر جاتے ہیں؟

#### جواب

اللہ تعالیٰ خلاف عادت کرنے پر قادر ہے اور خلاف عادت ہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر کچھ نہ کھائیں۔ آیت قرآنی میں جو بیان ہے وہ ایک عام عادت کا بیان ہے۔ خدا نے خلاف عادت عامہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور خلاف عادت عامہ زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ اسی طرح خلاف عادت ان کو بغیر کھائے زندہ رکھا۔ خود قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تین سو برس تک بغیر کھائے پینے ایک غار میں سوتے رہنا مذکور ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا“ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھاتے ہوں، جنت کی غذائیں ان کو ملتی ہوں، جن میں پاخانہ پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔

مرزا قادیانی نے اصحاب کہف کے واقعہ کا جو جواب دیا ہو مجھے علم نہیں۔ مگر آخری بات کا جواب یہ دیا ہے کہ جنت کا اور حشر جسمانی کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ حالانکہ یہ انکار کفر صریح ہے۔

#### مرزائی دلیل نمبر ۲:

مسیح علیہ السلام کا اتنے دنوں تک زندہ رہنا خلاف عقل ہے۔

جواب

ہرگز خلاف عقل نہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ شاہد ہے۔

مرزائی دلیل نمبر: ۳

صبح علیہ السلام اگر زندہ ہوں اور آسمان پر ہوں تو آنحضرت ﷺ سے ان کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ آپ کی وفات ہوگئی اور آپ زمین پر ہیں۔

جواب

ہرگز یہ لازم نہیں آتا۔ آخر صبح علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ شریعت میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ زیادہ عمر والا کم عمر والے سے افضل کہا جائے۔ ورنہ ابلیس سب سے افضل ہوگا۔ ”نعوذ باللہ منہ“ علیٰ ہذا آسمان پر ہونا بھی افضلیت کی دلیل نہیں۔ فرشتے آسمان پر ہیں۔ مگر باجماع اہل اسلام انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء ﷺ ان سے افضل ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں ابلیس اور ملائکہ کے وجود شخص سے انکار کر دیا۔

مرزائی دلیل نمبر: ۴

صبح علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا ممکن نہیں۔ درمیان میں آگ کا کرہ ہے۔ اس سے کیسے پار ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں سائنس سے ثابت ہے کہ فضا کے ہوا میں زیادہ دور تک آدی نہیں چڑھ سکتا۔ اگر چڑھے تو مر جائے۔

جواب

جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں ملحدانہ خرافات ہیں۔ آنحضرت ﷺ شب معراج میں زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔

مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں معراج سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ ایک قسم کا کشف تھا۔ نہ یہ کہ آپ کہیں تشریف لے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر مرزا قادیانی کا قول نقل کر چکے ہیں۔

مرزائی دلیل نمبر: ۵

صبح علیہ السلام اگر قرب قیامت پھر دنیا میں آئیں تو ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ صبح علیہ السلام بعد نازل ہونے کے نبی ہوں گے یا نہیں۔ اگر کہو کہ نہیں تو ان کی نبوت کیوں چھینی گئی؟ کیا قصور ان سے ہوا اور اگر کہو کہ ہاں! تو آنحضرت ﷺ کے بعد نبی کیسے آیا؟

پیشک وہ نازل ہونے کے بعد نبی ہوں گے جیسے کہ تھے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے وہ شریعت موسویہ پر عمل کرتے تھے۔ اب شریعت محمدیہ پر عامل اور اس کے مبلغ ہوں گے۔ لہذا رتبہ ان کا گھٹا نہیں بلکہ بڑھ گیا۔ رہا ان کی نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہونا۔ یہ بھی محض فریب ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت نہیں ملے گی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے نہ یہ کہ اب ملی۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ ہوا۔ یہاں تک تو عقلی دلائل تھے۔ اب ذرا عقلی دلائل بھی سن لیجئے۔

### مرزائی نقلی دلیل

”یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تم کو موت دینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے عیسیٰ صلیب پر تمہاری موت نہ ہوگی بلکہ میں تم کو موت طبعی دے کر اپنے پاس بلا لوں گا۔

اس آیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی موت پر استدلال دو باتوں پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ توفی جس کا مشتق اس آیت میں ہے موت دینے کے معنی میں ہو۔ دوم یہ کہ توفی رفع یعنی اٹھانے سے پہلو ہو۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں لغت عرب سے ثابت نہیں ہوتیں۔ توفی لغت میں بمعنی موت کے نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معنی لغت میں ”پورا لے لینا“ ہیں۔ دیکھو کتب لغت مصباح، قاموس وغیرہ۔ خود قرآن کریم میں یہ لفظ موت کے سوا دوسرے معنی میں مستعمل ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تصت فی منامھا“ اللہ اٹھالیتا ہے جانوں کو بوقت ان کی موت کے اور جو نہیں مرے ان کو سونے کی حالت میں۔

یہ بحث ”صحیفہ رحمانیہ“ کے کئی نمبروں میں اور ”الحق الصریح“ وغیرہ میں بہت مدلل و مبسوط ہے۔ جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے۔

تجب ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزائی اپنے عقیدہ کے خلاف اگر کہیں صریح موت کا لفظ بھی دیکھ لیں تو تاویل! کر دیتے ہیں کہ یہاں حقیقت مرجانا مراد نہیں اور اس آیت میں صریح

! چنانچہ اگر جہاں ہم ترجمہ قرآن کا نمونہ دکھائیں گے معلوم ہوگا کہ کتنی جگہ قرآن شریف میں موت کے لفظ سے مرزائیوں نے مرجانا مراد لیا اور خود مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام میں لکھا ہے کہ امانت کے معنی حقیقی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلا دینا اور بے ہوش کرنا بھی ہے۔ (ازالہ ص ۹۳۳، خزائن ج ۳ ص ۶۲۱)

لفظ موت موجود نہیں تو بھی ضد ہے کہ توفی ہی کی موت کے معنی لے کر حقیقت مرجانا مراد لیں گے۔  
بفرض محال ہم مان بھی لیں کہ یہ لفظ یہاں موت کے معنی میں ہے تو بھی حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام کا مردہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ: اے عیسیٰ میں تم کو موت  
دینے والا ہوں۔ موت دینے کا کوئی زمانہ متعین نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ تمام اہل اسلام قائل ہیں کہ  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی۔

یعنی دوسری بات یعنی توفی کا رفع سے پہلے ہونا وہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ لغت  
عرب میں واو ترتیب کے لئے نہیں آتا۔ چند چیزیں واو کے ساتھ بیان کی جائیں تو اس کا یہ  
مطلب نہیں ہوتا کہ جو چیز پہلے بیان ہوئی اس کا وقوع بھی پہلے ہے۔ یہ تھا عمدہ نمونہ مرزائیوں کی  
خرافات کا۔

### اہل اسلام کے دلائل حیات مسیح

واضح رہے کہ اہل اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر نہیں  
چڑھائے گئے۔ بلکہ خدا نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ قریب قیامت  
پھر دنیا میں آئیں گے اور شریعت محمدی ”علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام“ کی تعلیم و ترویج  
کریں گے۔ اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔ پس اس عقیدہ میں تین چیزیں جدا جدا ہیں۔

۱..... مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا۔

۲..... مسیح علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔

۳..... دوبارہ ان کا زمین پر آنا۔

پہلی چیز تو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے اور دوسری اور تیسری اس  
وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں صحیح احادیث میں جو بقرع محدثین حد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں۔  
نہایت تفصیل و توضیح کے ساتھ مذکور ہیں۔  
نمونہ کے طور پر چند آیات و احادیث زیب رقم کی جاتی ہیں۔

### دلیل نمبر: ۱

قال اللہ تعالیٰ: ”وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته  
(نساء: ۱۵۹)“ ﴿نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ پر ان کے  
مرنے سے پہلے۔﴾

مطلب صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے مرنے سے پہلے جتنے اہل

کتاب اس وقت ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں۔ بلکہ ان کے مرنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ وقت ابھی نہیں آیا۔ اس آیت سے مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی مفہوم ہو رہا ہے اور ان کا زندہ ہونا تو صراحتاً مذکور ہی ہے۔

اس آیت میں ”بہ“ اور ”موتہ“ کی ضمیر قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کی طرف ضمیر کا پھیرنا سیاق آیت کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی طرف پھیرنا بالکل نامعقول بات ہے۔ کیونکہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ حالانکہ یہ امر مشاہدہ کے خلاف ہے۔ ہزاروں لاکھوں کتابی مر گئے اور مرتے ہیں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور اگر کہا جائے کہ عین قبض روح کے وقت ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اس وقت کا ایمان شرعاً معتبر نہیں۔ اس کو ایمان ہی نہیں کہتے۔ ہم نے اس آیت کی تقریر بہت مختصر لکھی۔ اس لئے کہ اس کی نہایت عمدہ تقریر ”الحق الصریح“ میں لکھی ہے۔ جو مولوی محمد بشیر سہوانی مرحوم نے مرزا غلام احمد کے سامنے بیان کی تھی۔ جس کے جواب سے مرزا عاجز ہو کر دہلی سے بھاگ گیا تھا۔

دلیل نمبر: ۲

”وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (النساء: ۱۵)“ ﴿نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ کو اور نہ صلیب دی ان کو لیکن مشابہ کر دیا گیا۔﴾ (عیسیٰ کے ایک دوسرا شخص) یہودیوں کے لئے اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف انکل پر چل رہے ہیں اور نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ کو بے شک بلکہ اٹھالیا عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف۔ ﴿

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل اور صلیب دونوں کی نفی کر کے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھالیا۔ زبان عرب میں لفظ ”بل“ جب نفی کے بعد آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضمون سابق جس کی نفی کی گئی اس کے خلاف مضمون ”بل“ کے بعد بیان کیا گیا ہے اور اٹھالیا قتل کے منافی جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھالینا مراد لیا جائے۔ ورنہ مرتبہ کا بلند کرنا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں۔ قتل کے منافی ہرگز نہیں۔ منافی ہونا چہ معنی قتل فی سبیل اللہ تو بلندی رتبہ کا بہترین ذریعہ ہے۔



اس موقعہ پر مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ قتل فی سبیل اللہ غیر انبیاء کے لئے بلندی رتبہ کا سبب ہے۔ مگر انبیاء کے لئے نقص ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے لئے بلندی رتبہ منافی قتل ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ قول صریح آیات قرآنیہ کے خلاف ہے۔ جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی مقتول ہوئے۔ قولہ تعالیٰ: ”وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ“ اور ”وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ (النساء: )“ مرزا قادیانی ان سب آیات اور تاریخی واقعات کے خلاف کہتا ہے کہ انبیاء کبھی مقتول نہیں ہوئے اور قتل ہونا خلاف شان نبوت ہے۔ نعوذ باللہ منہ!

دلیل نمبر: ۳

”وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران)“ ﴿کلام کریں گے عیسیٰ لوگوں سے گہوارہ میں یعنی حالت نوزائیدگی میں اور بڑی عمر میں اور نیکوں میں سے ہوں گے یعنی نبی ہوں گے۔﴾

یہ آیت اس موقع کی ہے جب حضرت مریم صدیقہ کو بشارت فرزند کی سنائی گئی تو اس فرزند ارجمند کے فضائل و مناقب بھی ان کو بتائے گئے کہ وہ کوئی معمولی لڑکانہ ہوگا۔ اس میں یہ یہ اوصاف ہوں گے۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ لہذا تین چیزیں جو آیت میں ہیں۔ ان تینوں سے اس کی فضیلت ثابت ہونی چاہئے۔ چنانچہ پہلی چیز یعنی گہوارہ میں کلام کرنا اور تیسری چیز یعنی نیکوں میں سے ہونا۔ بلاشبہ غیر معمولی فضیلت ہے۔ حالت نوزائیدگی میں کلام کرنا ایک ایسی مافوق العادت صفت ہے جس پر منکروں کو بھی تعجب تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کیسے کلام کر سکتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا“ یہ پورا واقعہ قرآن شریف میں ہے۔ ”علیٰ هذا“ ”نبی ہونا بھی ایک ایسا وصف ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے اور ہر انسان میں نہیں پایا جاتا۔ پس ضروری ہوا کہ درمیانی چیز یعنی بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کرنا بھی غیر معمولی وصف کے معنی میں لیا جائے اور اس کا غیر معمولی وصف ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ موافق عقیدہ اہل اسلام کے وہ ایک ایسی مدت دراز تک زندہ مانے جائیں کہ اس عمر تک عادتاً انسان نہ پہنچتے ہوں۔ ورنہ جو عمر ان کی بوقت رفع یا بقول مرزا یہ بوقت موت بیان کی جاتی ہے۔ اس عمر میں کلام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ بلکہ اوصاف میں شمار کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اکثر انسان اس عمر تک پہنچتے ہیں اور لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہی کیا ہوا۔ نعوذ باللہ آیت لغو ہوگئی۔ جیسا کہ ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں کہتا ہے۔

دندان تو جملہ درد بان اند  
چشمان تو زیر ابرو ہانند

یعنی تیرے دانت منہ کے اندر ہیں اور تیری آنکھیں ابرو کے نیچے ہیں۔ بھلا بتلائیے  
تعریف ہی کیا ہوئی سب کے دانت منہ میں اور سب کی آنکھیں ابرو کے نیچے ہوتی ہیں۔ مرزائی  
چاہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اس شعر کے مثل ہو جائے خدا کا کلام لغو ہو جائے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کی  
موت تو ثابت ہو جائے۔

اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک ایسی عمر دراز ثابت ہوئی کہ اس عمر تک  
پہنچنا مثل حالت نوزائیدگی میں کلام کرنے کے خلاف عادت انسانی ہو اور معجزات میں شمار کی جاسکے۔  
پھر دوبارہ ان کا نازل ہونا بھی اس سے مفہوم ہوتا ہے۔ کیونکہ فرمایا وہ لوگوں کو بولت کلام کریں گے۔  
دلیل نمبر: ۴

”وانہ لعلم للساعة فلا تمتزن بها (الزخرف: ۲۷)“ تحقیق وہ (عیسیٰ علیہ  
السلام) قیامت کی نشانی ہیں۔ لہذا تم ہرگز قیامت میں شک نہ کرو۔ ﴿  
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علامت قیامت قرار دیا اور ظاہر ہے کہ ان کی  
موت علامت قیامت نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ دوبارہ ان کا نزول پھر ہوگا اور وہ علامت قیامت  
قرار پائے گا۔ جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علامت قیامت ہونا  
بغیر ان کی حیات اور نزول کے مانے ہوئے ناممکن ہے۔ لہذا اس آیت سے حیات و نزول دونوں کا  
ثبوت ہوا۔

انہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بلا قرینہ قرآن شریف کی طرف پھیرنی  
تو اعد زبان عرب ہے اور ایسی تاویلات کا نام تحریف معنوی ہے۔ اگر ایسی تاویلات کا دروازہ کھل  
جائے تو کسی شخص کا کوئی کلام اپنے اصلی معنی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ چار آیتیں ہم نے لکھ دیں اور  
بہت مختصر ان کی تقریر کر دی۔ اب چند احادیث سنئے۔

حضرت مسیح علیہ السلام احیث کی روشنی میں

دلیل نمبر: ۵

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ  
لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر

ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة اقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته (بخاری ج ۱ ص ۴۹۰، مسلم ج ۱ ص ۸۷، ابوداؤد، ترمذی) ﴿حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے جو فیصلہ کرنے والے منصف ہوں گے۔ پھر وہ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھادیں گے اور مال بہتا پھر گا یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔﴾

پھر حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر (قرآن شریف سے اس کی سند) چاہو تو یہ آیت پڑھو: ”وان من اهل الكتاب التي آخره“ مرزا قادیانی نے اس حدیث پر ایک اعتراض یہ کیا کہ کیا ان احادیث پر اجماع ہو سکتا ہے کہ مسیح آ کر جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔ (ازالہ اوہام ص ۴۳۸، خزائن ج ۳ ص ۱۲۳)

اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ تو نے کوئی کتاب علم معانی کی نہیں پڑھی تو کیا قرآن میں بھی نہیں دیکھا کہ ”يذبح ابنائهم“ کیا اس آیت پر بھی تو یہی اعتراض کرے گا کہ فرعون اپنے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا پھرتا تھا۔ بادشاہوں کے یہ کام نہیں۔ بلکہ ان کے حکم سے جو کام کیا جائے وہ کام ان کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔

دلیل نمبر ۶:

”عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين الى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله هذه الامة (صحيح بخاوي)“ ﴿حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کے لئے قال کرتا رہے گا۔ (دشمنوں پر) قیامت تک غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ ان کا سرداران سے کہے گا کہ تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ وہ جواب دیں گے آپ نماز پڑھائیں میں مقتدی بنوں گا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے امام بنو بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے۔﴾

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان اور ان کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عزت کریں گے۔ اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کو لاؤ کہ قرآن مجید میں پیشین

گوئی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ اسے جھوٹا قرار دیں گے اور اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے۔  
 دلیل نمبر: ۷

”عن ابی ہریرۃ مرفوعاً: لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ نبی وانہ نازل رأیتموہ فاعرفوہ رجل موبوع الی الحمرة والبیاض کان راسہ یقطر وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویہلک اللہ فی زمانہ الملل ویہلک اللہ المسیح الدجال فیمکت فی الارض اربعون ثم یموت فیصلی علیہ المسلمون (ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳۸)“  
 حضرت ابو ہریرہؓ رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی ہوا اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جب تم میں نازل ہوں تو پہچان لو درمیانہ قد ہوں گے۔ رنگ سرخ و سفید ہوگا۔ دور رنگین کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔ (بدن شفاف ہوگا) گویا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ اس میں تری پہنچی نہ ہو۔ اسلام کے لئے لوگوں سے قتال کریں گے۔ صلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کریں گے۔ ان کے زمانہ میں اللہ سب دینوں کو سوا اسلام کے مٹا دے گا اور ان کے زمانہ میں اللہ مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس برس رہیں گے۔ بعد اس کے ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

فائدہ: شیخ الاسلام حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی (فتح الباری ج ۱ ص ۶۱۰، حدیث ۳۳۳۹) میں اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں: ”روی احمد و ابوداؤد باسناد صحیح“ امام احمد بن حنبل اور امام ابوداؤد نے سند صحیح اس کو روایت کیا ہے۔

دلیل نمبر: ۸

”عن ابن مسعود قال: قال رسول اللہ ﷺ لقیث لیلة اسری بی ابراهیم وموسى وعیسیٰ (علیہم السلام) فتذاکروا امر الساعة فردوا امرہم الی ابراهیم فقال لا علم لی بہا فردوا الامر الی موسی فقال لا علم لی بہا فردوا الامر الی عیسیٰ فقال اما وجبتہا فلم یعلمہا احد الا اللہ ذلك وفيما عهد الی ربی عزوجل ان الدجال خارج ومعی قضیبان فاذا رأنی ذاب کما یذوب الرصاص (مسند امام احمد ج ۱ ص ۲۷۵، مصنف ابن ابی شیبہ سنن

بھیقی) ﴿ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ جس شب کو مجھے معراج ہوئی۔ میں نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے ملاقات کی۔ پھر کچھ تہذکرہ قیامت کا ہوا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں۔ پھر سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا اس کا وقت تو کسی کو سوا اللہ کے معلوم نہیں۔ مگر جو احکام میرے پروردگار نے مجھے دیئے ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ دجال اٹھے گا اس وقت میرے پاس دو کڑیاں ہوں گی۔ جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے سیسہ پگھل جاتا ہے۔ ﴿

(واللفظ لسنہ امام احمد)

دلیل نمبر: ۹

”عن الحسن انه قال: في قوله تعالى اني متوفيك يعني وفاة المنام قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسى لم يموت وهو راجع اليكم قبل يوم القيامة (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۷۸) ﴿ حضرت امام حسن بصری سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت ”انی متوفیک“ میں توفی کے معنی خواب کے بیان کئے ہیں۔ (یعنی خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب کی حالت میں اٹھالیا) امام حسن بصری نے کہا کہ رسول خدا ﷺ نے یہودیوں سے فرمایا کہ عیسیٰ نہیں مرے اور بہ تحقیق وہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ﴿

فائدہ: یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے۔ مگر ثقہ کا مرسل مقبول ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے اور احادیث اس کی مؤید ہیں۔

دلیل نمبر: ۱۰

”عن مجمع بن جارية عن رسول الله ﷺ قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد . هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران ابن حصين ونافع بن عينة وابي برزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله ابن عمرو وسمره بن جندب والنواسة بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان (ترمذی ج ۲ ص ۴۹) ﴿ حضرت مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ابن مریم دجال کو مقام لد میں (جواب موجودہ اسرائیل کا ایرپورٹ ہے) قتل کریں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس روایت کو

دیگر حضرات نے جیسے عمران بن حصین اور نافع بن عیینہ اور حضرت ابو بزرہ اور حضرت حذیفہ بن اسید اور ابو ہریرہ اور حضرت کیسان اور حضرت عثمان بن ابی العاص اور حضرت جابر اور حضرت ابوامامہ وابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت سرہ بن جندب اور حضرت نواس بن سمان اور حضرت عمرو بن عوف اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم سے حدیثیں منقول ہیں۔ ﴿

فائدہ: یہ سولہ صحابہ ہیں جو رسول خدا ﷺ سے حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور دوبارہ زمین پر آنا روایت کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کو ان اصحاب کرام پر بڑا غصہ ہے۔ تو نہیں انبیاء کی بحث میں ہم نقل کر چکے ہیں کہ اس وریدہ دہن بے تمیز نے کیسی گستاخیاں خاصان خدا کی شان میں کی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں حد تو اترا کو پہنچ گئی ہیں۔ ابن کثیر محدث اپنی تفسیر (ج ۷ ص ۱۶۳) میں لکھتے ہیں۔ ”وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ ﷺ انه اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامة اماماً عادلاً“ ﴿یعنی متواتر حدیثیں رسول خدا ﷺ سے منقول ہیں کہ آپ نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے سردار منصف ہو کر نازل ہوں گے۔ ﴿

علامہ شوکانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتے ہیں: ”وجمیع ما سقناہ بالغ حد التواتر کمالا یخفی علی من له فضل اطلاع فتقرر بجمیع ما سقناہ فی هذا الباب ان الاحادیث الواردة فی المہدی المنتظر متواترة والاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ متواترة“ ﴿یعنی سب وہ روایتیں جو ہم نے بیان کیں حد تو اترا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جس کو مزید اطلاع کتب حدیث پر ہے۔ اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری اس تمام تقریر سے جو باب ہذا میں ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ امام مہدی کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں اور نزول عیسیٰ کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ ﴿

مرزا قادیانی نے ان بی شمار احادیث کا جواب یہ دیا ہے کہ میں صاحب وحی ہوں۔ مجھے اختیار ہے جس حدیث کو چاہوں رد کروں۔ خصوصاً جو حدیث میری وحی کے خلاف ہو۔

خدا کا شکر ہے کہ جس قدر مباحث اس رسالہ میں مقصود تھے۔ سب باحسن وجوہ پورے ہو گئے۔ حق تعالیٰ ذریعہ ہدایت بنائے آمین۔ اب بطور تکملہ کے کچھ تھوڑا سا نمونہ اس ترجمہ قرآن کا پیش کیا جاتا ہے۔ جو خواجہ کمال الدین کی پارٹی نے شائع کیا ہے۔ جس پر ان کو بڑا ناز ہے۔

مرزائیوں کے انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا نمونہ

یہ واقعہ بھی کم قابل افسوس نہیں ہے کہ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی نے مسلمان بن کر

مسلمانوں سے اپیل کی کہ انگریزی میں کوئی عمدہ ترجمہ قرآن شریف کا نہیں ہے۔ اگر مسلمان معقول رقم چندہ کی فراہم کر دیں تو ہم اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا کہ اس ترجمہ میں کوئی اختلافی بات نہ ہوگی اور مرزا یا مرزائیت کی کسی بات کو اس میں دخل نہ ہوگا۔ مسلمان مطمئن ہو گئے اور انہوں نے بڑی فراخ دلی سے چندہ دیا۔ صرف رنگون سے تقریباً سولہ ہزار روپیہ دیا گیا۔

مرزائیوں نے اس ترجمہ کو لندن میں چھپوایا اور خوب گراں قیمت پر فروخت کیا۔ خیر! یہ تو سب ہو چکا۔ لیکن جب وہ ترجمہ دیکھا گیا اور سر تا پا مرزا کی کفریات سے لبریز نکلا اور دیباچہ میں یہ تصریح بھی ملی کہ ترجمہ کرنے والے نے مرزا غلام احمد قادیانی سے ترجمہ کے مطالب کا استفادہ کیا ہے تو اب بتلائیے کہ کیسے صبر کیا جائے۔ کیا یہ صریح خیانت نہیں ہے؟ اور کیا اس خیانت کے بعد بھی اب کوئی عظیمند خواجہ کمال الدین کے اس فریب میں آسکتا ہے کہ ہم ولایت میں تبلیغ اسلام کریں گے۔ ہمیں چندہ دو۔ ہم اپنی تبلیغ میں مرزائیت کی اشاعت نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ترجمہ قرآن شریف کا بہت کوشش سے دستیاب ہوا۔ اگر پورے ترجمہ کی حالت ظاہر کی جائے تو بہت طول ہو۔ اس لئے حسب ذیل چند باتوں پر کفایت کی جاتی ہے۔

### تحریف نمبر: ۱

دیباچہ ص ۹۴ میں (سرچشمہ تحریف کا پتہ دیتے ہوئے) لکھتے ہیں۔ ”اور بالآخر موجودہ زمانے کے سب سے بڑے رہبر مرزا غلام احمد ساکن قادیان نے میرے دل کو ان سب باتوں سے منور کیا ہے جو اس ترجمہ میں سب عمدہ ہیں۔ میں نے پورا گھونٹ اس چشمہ علم سے پیا ہے جو اس بڑے مصلح، موجودہ صدی کے مجدد، مہدی اسلام اور قائم کنندہ تحریک احمدیت نے جاری کیا ہے۔“

### تحریف نمبر: ۲

(سورہ بقرہ ص ۲۶) آدم علیہ السلام زمین پر پیدا کئے گئے اور جنت میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آرام سے رکھے گئے اور شیطان نے ان کو بہکایا اور جنت سے نکالے گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطان ان کی حالت میں تبدیلی کا سبب ہوا۔ پھر وہ تکلیف میں رہنے لگے۔ مراد جنت سے زمین پر ایک باغیچہ ہے۔

ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جن تھا۔ اس سے برائی کی طاقت ظاہر کرنا مقصود ہے۔ ابلیس اور شیطان دونوں ایک ہی معنی کے واسطے آتا ہے۔ قرآن لفظ ابلیس کو اس جگہ استعمال کرتا ہے جہاں برے شخص کی برائی محدود رہے اور شیطان کا لفظ اس موقع پر استعمال کرتا ہے جہاں

برے شخص کی برائی دوسرے شخص کی برائی پر بھی اثر کرے۔ درخت جس کے کھانے سے آدم کو منع کیا گیا تھا اس سے مراد برائی ہے۔

تحریف نمبر: ۳

۱ ص ۳۴) ”اضرب بعصاك الحجر“ کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر میں لاشی مار دپانی نکلنے لگے گا۔ بلکہ مراد یہ کہ پہاڑ میں اپنی قوم کے ساتھ راستہ نکالو۔

تحریف نمبر: ۴

”ورفعنا فوقكم الطور“ مراد ان پر پہاڑ کھڑا کر دینا جو کہ مشہور ہے نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے کوئی لفظ قرآن کا اس بات کا مؤید نہیں۔ یہ بات رد کر دینے کے قابل ہے۔ پھر ۳۶۵ میں اسی قصہ کے تحت میں لکھا کہ وہ نیچے پہاڑ کے تھے۔ ایک بڑا زلزلہ آیا اور وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں الٹ کر گرنے پڑے۔

تحریف نمبر: ۵

۱ ص ۳۸) ”کونوا قردة خاسئين“ مراد بندر کی شکل بن جانا نہیں اور نہ ایسا ہوا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے اخلاق بندروں کے جیسے ہو گئے۔

تحریف نمبر: ۶

(سورہ بقرہ ص ۲۱) ”واذ قتلتم نفساً“ مراد یہ نہیں ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اس لئے گائے ذبح کر کے اس کے بعض اعضاء اس مقتول کے مارے گئے اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتلا دیا۔ یہ بات غلط ہے اس کا ثبوت نہیں۔ مراد اس قتل سے ظاہر امارا جانا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہودیوں کے ہاتھ سے۔

فائدہ: کیسا کفر صریح ہے۔ قرآن کریم تو کہے کہ: ”ماقتلوه وماصلبوه“ یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ صلیب دی اور مرزائی کہتے ہیں کہ وہ یہود کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ سچ ہے مرزا قادیانی کی تعلیم کے خلاف قرآن کی بات کیسے مان لی جائے۔

مامریدان روبسوی کعبہ چوں آرم چوں

روبسوی خانہ چٹار دارد چیرما

تحریف نمبر: ۷

(سورہ البقرہ ص ۷۱) ”ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل



احیاء۔“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچائی پر مرے اور یہ مراد لینا کہ جو کافروں کے مقابلہ میں لڑائی میں مارے گئے غلط اور حاسدانہ خیال ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے سچائی زندہ رہتی ہے۔ اس طرح سچے لوگ مومنوں کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ یعنی وہ نجات پاتے ہیں ان کو رنج و غم نہیں ہوتا۔

تحریف نمبر: ۸

(ص ۱۱۳) ”قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ“ مراد مرنے سے حقیقتاً مرنانا نہیں

بلکہ بری حالت میں رہنا پھر اچھی حالت میں ہو جانا ہے۔

تحریف نمبر: ۹

”مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ“ مراد تابوس سے دل ہے اور مما ترک سے مراد فرشتوں کا

آن لوگوں کے دل میں اچھی بات ڈالنا۔

تحریف نمبر: ۱۰

”فَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ“ مراد حقیقتاً مرجانا نہیں بلکہ اس قوم کا تنزل میں

ہونا اور بعثت سے مراد پھر ترقی ہونا۔

تحریف نمبر: ۱۱

”رَبُّ ارْنَىٰ كَيْفَ تَحْيَىٰ الْمَوْتَىٰ“ مراد موتی سے قوم تنزل میں پڑی ہوئی اور

تجلی سے مراد ترقی پر آنے والی۔ مراد یہ کہ ابراہیم نے تنزل میں پڑی ہوئی قوم کے لئے ترقی کا

سوال کیا جواب میں کہا گیا کہ چار چڑیاں پالی جائیں اور مختلف پہاڑوں پر رکھی جائیں تو وہ مالک

کے پاس بلانے سے دوڑ کر آتی ہیں۔ اسی طرح قومیں بھی اللہ کو مالک سمجھیں گی تو وہ ترقی پر

آ جائیں گی اور چار چڑیوں کو مار کر کھڑے کر کے پہاڑ پر رکھنا پھر ان کو بلایا تو زندہ ہو کر چلی آئیں۔

یہ سب غلط ہے۔

تحریف نمبر: ۱۲

(ص ۱۵۱) ”وَجَدَا عِنْدَهَا رِزْقًا“ مراد اس سے کوئی فوق العادت بات نہیں ہے۔

پجاری لوگ تحفہ لایا کرتے تھے۔ خدا کی مہربانی سے وہ تحائف حضرت مریم پاتی تھیں۔ اس لئے

خدا کی طرف نسبت کر دی۔

فائدہ: پھر معلوم نہیں حضرت زکریا نے کیوں تعجب سے پوچھا کہ ”یا مریم انی لك

هذا“ اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟

## تحریف نمبر: ۱۳

(ص ۱۵۵) ”ویکلم الناس فی المهد وکھلا“ ان کابات کرنا دونوں حالت میں یہ کوئی معجزہ نہیں۔ بچہ گہوارہ میں بولتا ہے اور بوڑھے بھی بولتے ہی رہتے ہیں۔ مراد خوش خبری سے یہ ہے کہ وہ لڑکا تندرست ہوگا اور جلدی بچپن میں نہیں مرے گا۔

فائدہ: اگر یہی مراد ہے تو پھر قوم کے لوگوں نے کیوں تعجب و انکار سے کہا تھا کہ: ”کیف نکلم من کان فی المهد صبیباً (سورہ مریم: )“ یعنی ہم کس طرح ایسے بچہ سے کلام کریں جو گہوارہ میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام سے مراد مطلق آواز نہیں ہے۔ جیسا کہ مترجم مرزائی نے لکھا اور بے معنی آواز کو کلام کہتے بھی نہیں۔ پھر نوزائیدہ بچہ تو سوارونے کے کسی قسم کی آواز بھی منہ سے نہیں نکالتا۔

## تحریف نمبر: ۱۴

(ص ۱۵۶) ”قالت انسی یکون لی ولد“ یہ مریم کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ نہیں لگتا کہ قانون قدرت کے خلاف بغیر مرد کے حمل رہا ہو۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ مریم کے دوسری اولاد بھی تھیں۔ جن کو کوئی گمان نہیں کرتا کہ قانون قدرت کے خلاف ان کا حمل رہا ہو۔

## تحریف نمبر: ۱۵

(ص ۱۵۶) ”انسی اخلق لکم من الطین“ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے مراد لفظی معنی نہیں ہیں۔ وہ مٹی سے چڑیا نہیں بناتے تھے۔ مراد چڑیا سے وہ شخص ہے جو روحانی حصوں میں بلند ہوتا ہے اور زمین میں نہیں اترتا۔ یعنی لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو زمین پر رہتے ہیں اور تعلقات کشتی سے بلند نہیں ہوتے اور دوسرے ایسے ہیں جو روحانی مقامات میں بلند ہو جاتے ہیں۔

## تحریف نمبر: ۱۶

(ص ۱۵۷) ”وابری الاکمه والابرص واحی الموتی“ مراد روحانی امراض سے اچھا کرنا ہے یہ نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے۔

## تحریف نمبر: ۱۷

”انسی متوفیک ورافعک“ مراد، مار دینا اور عزت بخشنا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو آسمان پر اٹھالیا۔ مطلب یہ کہ وہ مرچکے ہیں۔ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے۔ پھر (ص ۶۳۶) میں لکھا ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے اترنے کے بعد مع قبیلہ بھاگ کر

کشمیر میں چلے آئے تھے یہیں رہے اور یہیں مرے۔

### تحریف نمبر: ۱۸

(ص ۱۶۸) ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم“ مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انسانوں کی طرح فانی ہیں اور اگر مراد آدم سے خاص لئے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ جس طرح آدم خاک سے پیدا کئے گئے پھر چنے گئے اور صاف کئے گئے۔ اسی طرح عیسیٰ بھی خاک سے پیدا کئے گئے اور چنا جانا بھی آدم کی طرح تھا۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی ثبوت نہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کئے گئے تھے اور یہ کہیں سے ثابت نہیں۔

### تحریف نمبر: ۱۹

(ص ۵۲۱) ”سبحان الذی اسرئ“ رات کو مکہ سے چلے گئے مدینہ کی طرف اور مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد جو بننے والی تھی یا خاص مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔ مراد ہجرت ہے۔ یروشلیم بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو نعمت اسرائیلی پیغمبروں کو ملی تھی وہ آپ کو بھی ملے گی۔ مع پاک زمین کے۔ یا برتری و بلندی اسلام مراد ہے۔

### تحریف نمبر: ۲۰

(ص ۵۵۲) معراج میں اختلاف ہے بڑی جماعت جسمانی کی قائل ہے اور عائشہ و معاویہ روحانی کے قائل ہیں۔ انہیں کی بات معتبر ہے۔ پہلی بات قابل التفات نہیں۔  
فائدہ: بالکل غلط معراج جسمانی کا کوئی منکر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ و حضرت معاویہ کے انکار کی روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔

### تحریف نمبر: ۲۱

(ص ۱۰۲۲) ”وانشق القمر“ چاند کے دو ٹکڑے ہونا طبیعیات کی رو سے غلط ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ چاند کو گہن لگا۔ آدھا گہن سے غائب ہو گیا آدھا باقی رہا۔ یا مراد یہ ہے کہ بات ظاہر ہو گئی اور عربوں کی قوت ٹوٹ گئی۔

یہ تھا نمونہ اس ترجمہ قرآن کا جس کو خواجہ کمال الدین اب شائع کرتے پھرتے ہیں اور پھر اس پر یہ دعویٰ ہے کہ میں مرزائیت کی اشاعت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا لوگوں کو فریب دینا اس فرقہ کا شیوہ ہے۔ کیوں نہ ہو ان کے پیغمبر کی سنت ہے۔

اس ترجمہ قرآن کو دیکھو علاوہ اس کے اس میں مرزائیت کے کفریات تمام موجود ہیں۔

خود قرآن کریم کے ساتھ کیسا تمسخر کیا گیا ہے اور اس کے الفاظ کو کیسا بگاڑا گیا ہے۔ مسلمانوں سے روپیہ لے کر ان کے گلے پر چھری رکھی گئی۔ خدا بہترین منتقم ہے۔  
خاتمہ

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سب مباحث ختم ہو گئے۔ اب ہم اس بیان کو خاتمہ کلام بناتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام علماء نے بالاتفاق مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے قبعین کے متعلق فتویٰ دیا ہے کہ یہ لوگ قطعاً کافر ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی اسلامی معاملہ جائز نہیں نہ ان کے ساتھ مناکحت درست ہے۔ نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ نہ ان کو اپنی مسجدوں میں نماز کی اجازت دینی چاہئے۔ نہ ان کے مردہ کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دینی چاہئے۔ علماء کرام کے یہ فتویٰ تفصیل داراگر کسی کو دیکھنا ہوں تو رسالہ ”القول الصحیح فی مکائد المسیح“ جو مطبع قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور سے طے گا اور رسالہ ”استنکاف المسلمین عن مخالطة المرزائیین“ جو انجمن حفظ المسلمین امرتسر سے طے گا مطالعہ کریں۔ ہم یہاں صرف نام ان علماء کے نقل کرتے ہیں جنہوں نے امور مذکورہ بالا پر دستخط کئے ہیں اور فتوے دیئے ہیں۔  
آگرہ

(۱) جناب مولوی محمد حمام صاحب امام جامع مسجد آگرہ۔ (۲) جناب مولوی سید عبداللطیف صاحب مدرس مدرسہ عالیہ جامع مسجد آگرہ۔ (۳) جناب مولوی دیدار علی صاحب مفتی جامع مسجد آگرہ۔

الور

(۴) جناب مولوی محمد عماد الدین صاحب سنبھلی۔ (۵) جناب مولوی محمد ابوالبرکات صاحب الوری۔

امرتسر

(۶) جناب مولوی غلام مصطفیٰ صاحب۔ (۷) جناب مولوی محمد جمال صاحب امام دتولی مسجد کوچہ سہی۔ (۸) جناب مولوی عبدالغفور صاحب غزنوی۔ (۹) محمد حسین صاحب مدرس مدرسہ سلفیہ غزنویہ۔ (۱۰) جناب مولوی ابوالسحاق نیک محمد صاحب مدرس مدرسہ غزنویہ۔ (۱۱) جناب مولوی تاج الدین صاحب مدرس بی این ہائی سکول۔ (۱۲) جناب مولوی سید عطاء اللہ

شاہ صاحب بخاری۔ (۱۳) جناب مولوی سلطان محمد صاحب۔ (۱۴) جناب مولوی سلام الدین صاحب۔ (۱۵) جناب مولوی ابوتراب محمد عبدالحق صاحب۔ (۱۶) جناب مولوی شمس الحق صاحب۔ (۱۷) جناب مولوی محمد داؤد صاحب غزنوی۔ (۱۸) جناب مولوی نور احمد صاحب پروری۔ (۱۹) جناب مولوی غلام محمد صاحب مولوی فاضل، منشی فاضل مدرس اول دینیات اسلامیہ ہائی سکول۔ (۲۰) جناب مولوی محمد نور عالم صاحب مولوی فاضل منشی فاضل مدرس عربی اسلامیہ ہائی سکول۔ (۲۱) جناب مولوی محمد علی صاحب۔ (۲۲) جناب مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اخبار اہل حدیث۔

آرہ

(۲۳) جناب مولوی ابوطاہر صاحب مدرس اول مدرسہ محمدیہ۔ (۲۴) جناب مولوی محمد طاہر صاحب۔ (۲۵) جناب مولوی محمد مجیب الرحمن درہنگوی۔

آلہ آباد

(۲۶) جناب مولوی ریاست حسین صاحب سابق مہتمم مدرسہ سجانئیہ۔ (۲۷) جناب مولوی محمد الدین احمد صاحب۔ (۲۸) جناب مولوی ولی محمد صاحب مدرس مدرسہ سجانئیہ۔ (۲۹) جناب مولوی ابو محمد عبدالجید صاحب مدرس سجانئیہ۔ (۳۰) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب مدرس مدرسہ سجانئیہ۔ (۳۱) جناب مولوی سید محمد صاحب اعظم گڑھی۔ (۳۲) جناب مولوی حسین صاحب منڈاروی۔ (۳۳) جناب مولوی نذیر احمد صاحب۔

بمبئی

(۳۴) جناب مولوی محمد سلیم صاحب صدر مدرس مدرسہ ہاشمیہ۔ (۳۵) جناب مولوی دین محمد صاحب مدرس مدرسہ ہاشمیہ۔ (۳۶) جناب مولوی ظہیر الدین صاحب خطیب مدرس مدرسہ نظامیہ۔ (۳۷) جناب مولوی عبدالجید صاحب سوامالی مدرس مدرسہ نظامیہ۔ (۳۸) جناب مولوی سیف الدین صاحب مدرس مدرسہ نظامیہ۔ (۳۹) جناب مولوی قاضی غلام احمد صاحب تلیاری مدرس مدرسہ جامع مسجد۔ (۴۰) جناب مولوی عبدالمعتم صاحب باعظمت خطیب جامع مسجد۔

بدایوں

(۴۱) جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب۔ (۴۲) جناب مولوی محمد قدیر الحسن۔ (۴۳) جناب مولوی محمد حافظ الحسن صاحب مدرس مدرسہ محمدیہ۔ (۴۴) جناب مولوی احمد الدین

صاحب مدرس مدرسہ شمس العلوم۔ (۴۵) جناب مولوی شمس الدین صاحب قادری فریدی۔  
 (۴۶) جناب مولوی محمد عبدالحمید صاحب۔ (۴۷) جناب مولوی حسین احمد مدرس مدرسہ اسلامیہ۔  
 (۴۸) جناب مولوی واحد حسین صاحب۔ (۴۹) جناب مولوی عبدالرحیم صاحب قادری۔  
 (۵۰) جناب مولوی محمد عبدالماجد صاحب مہتمم مدرسہ شمس العلوم۔ (۵۱) جناب مولوی فضل الرحمن  
 صاحب ولایتی۔ (۵۲) جناب مولوی عبدالستار صاحب۔  
 بلند شہر

(۵۳) جناب مولوی محمد مبارک حسین صاحب مدرس مدرسہ قاسم العلوم خورجہ ضلع بلند  
 شہر۔

بنارس

(۵۴) جناب مولوی محمد ابوالقاسم صاحب مدرس مدرسہ عربیہ۔ (۵۵) جناب مولوی  
 محمد شیر خان مدرس۔ (۵۶) جناب مولوی حکیم محمد حسین خاں صاحب۔ (۵۷) جناب مولوی محمد  
 عبداللہ صاحب کانپوری۔ (۵۸) جناب مولوی محمد حیات احمد صاحب۔ (۵۹) جناب مولوی حکیم  
 عبدالحمید صاحب۔

بھوپال

(۶۰) جناب مولوی محمد یحییٰ صاحب مفتی ریاست (جو بالفعل ملک محروسہ بھوپال کے  
 قاضی شریعت ہیں)

پشاور

(۶۱) جناب مولوی محمد عبدالرحمن صاحب ہزاروی۔ (۶۲) جناب مولوی مفتی  
 عبدالرحیم صاحب پشاوری۔ (۶۳) جناب مولوی محمود صاحب۔ (۶۴) جناب مولیٰ عبدالواجد  
 صاحب۔ (۶۵) جناب مولوی محمد صاحب خان پوری۔ (۶۶) جناب مولوی محمد رمضان صاحب  
 پشاوری۔ (۶۷) جناب مولوی حافظ عبداللہ صاحب نقشبندی۔ (۶۸) جناب مولوی عبدالکریم  
 صاحب پشاوری۔

جہلم

(۶۹) جناب مولوی محمد کرم الدین صاحب بھین ضلع جہلم۔ (۷۰) جناب مولوی نور  
 حسین صاحب بادشہانی ضلع جہلم۔ (۷۱) جناب مولوی محمد فیض الحسن صاحب بھین ضلع جہلم۔

- (۷۲) جناب مولوی محمد کفایت اللہ صاحب مدرس مفتی مدرسہ امینیہ۔ (۷۳) جناب مولوی سید ابوالحسن صاحب۔ (۷۴) جناب مولوی احمد صاحب مدرس مدرسہ حاجی علی جان۔ (۷۵) جناب مولوی محمد عبید اللہ صاحب مدرس مدرسہ دارالہدیٰ۔ (۷۶) جناب مولوی احمد اللہ صاحب مدرس مدرسہ مسجد حاجی علی علیجان۔ (۷۷) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب مدرس مدرسہ دارالہدیٰ۔ (۷۸) جناب مولوی عبدالستار صاحب کلا نوری مفتی مدرسہ دارالکتاب والنتیہ۔ (۷۹) جناب مولوی عبدالعزیز صاحب۔ (۸۰) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب۔ (۸۱) جناب مولوی عبدالسلام صاحب۔ (۸۲) جناب مولوی ابوتراب عبدالوہاب صاحب۔ (۸۳) جناب مولوی ابوزبیر محمد یونس صاحب پرتا بگدھی مدرس مدرسہ حاجی علی جان۔ (۸۴) جناب مولوی محمد قاسم صاحب مدرسہ مدرسہ امینیہ۔ (۸۵) جناب مولوی ضیاء الحق صاحب مدرس مدرسہ امینیہ۔ (۸۶) جناب مولوی انظار حسین صاحب مدرس امینیہ۔ (۸۷) جناب مولوی محمد امین صاحب مدرس مدرسہ امینیہ۔ (۸۸) جناب مولوی عبدالغفور صاحب مدرس مدرسہ امینیہ۔ (۸۹) جناب مولوی عبدالمنان صاحب مدرس مدرسہ فتح پوری۔ (۹۰) جناب مولوی سیف الرحمن صاحب مدرس مدرسہ فتح پوری۔ (۹۱) جناب مولوی محمد عالم صاحب مدرس مدرسہ فتح پوری۔ (۹۲) جناب مولوی قطب الدین صاحب مدرس مدرسہ فتح پوری۔ (۹۳) جناب مولوی محمد پر دل صاحب صدر مدرس مدرسہ نعمانیہ۔ (۹۴) جناب مولوی حکیم ابراہیم صاحب مفتی مدرسہ حسینیہ۔

دیوبند

- (۹۵) جناب مولوی محمد سہول صاحب مدرس دارالعلوم۔ (۹۶) جناب مولانا محمود الحسن صاحب صدر المدرسین۔ (۹۷) جناب مولوی محمد حسن صاحب۔ (۹۸) جناب مولوی شبیر صاحب۔ (۹۹) جناب مولوی محمد انور شاہ صاحب کشمیری۔ (۱۰۰) جناب مولوی سراج احمد صاحب۔ (۱۰۱) جناب مولوی مرتضیٰ حسن صاحب۔ (۱۰۲) جناب مولوی گل محمد خان صاحب۔ (۱۰۳) جناب مولوی عبدالسیح صاحب۔ (۱۰۴) مولوی محمد علی اظہر صاحب بلیاوی۔ (۱۰۵) مولوی نور حسن شاہ صاحب۔ (۱۰۶) جناب مولوی احسان اللہ خان صاحب۔ (۱۰۷) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب پونوی۔ (۱۰۸) جناب مولوی نصیر الدین صاحب کوہاٹی۔ (۱۰۹) جناب مولوی اورلیس صاحب۔ (۱۱۰) جناب مولوی عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم۔

- (۱۱۱) جناب مولوی ابراہیم صاحب بلیاوی۔ (۱۱۲) جناب مولوی سید حسن صاحب۔  
 (۱۱۳) جناب مولوی نبیہ حسن صاحب۔ (۱۱۴) جناب مولوی احمد حسن صاحب کیرانوی۔  
 (۱۱۵) جناب مولوی اعجاز علی صاحب۔ (۱۱۶) جناب مولوی محمد شفیع صاحب لدھیانوی۔  
 (۱۱۷) جناب مولوی عبدالماجد صاحب درہنگوی۔ (۱۱۸) جناب مولوی عبدالوہاب صاحب  
 کوہاٹی۔ (۱۱۹) جناب مولوی علی صغیر صاحب اعظم گڑھی۔ (۱۲۰) جناب مولوی محمد اسماعیل  
 صاحب بارہ بنگوی۔ (۱۲۱) جناب مولوی محمد جان صاحب قزاقی روسی۔ (۱۲۲) جناب مولوی محمد  
 عبید اللہ صاحب مولوی فاضل سیالکوٹی۔ (۱۲۳) جناب مولوی غلام رسول صاحب ملتانی۔  
 (۱۲۴) جناب مولوی ابراہیم صاحب میانوالی۔ (۱۲۵) جناب مولوی باز محمد صاحب متوطن ڈیرہ  
 اسماعیل خان۔ (۱۲۶) جناب مولوی ادیس صاحب کمرلائی۔ (۱۲۷) جناب مولوی عزیز الرحمن  
 صاحب نظام پوری۔ (۱۲۸) جناب مولوی محمد شفیق صاحب پنجابی۔ (۱۲۹) جناب مولوی محمد رفیق  
 صاحب رئیس الحق صاحب بہاولی۔ (۱۳۰) جناب مولوی قسیم الدین صاحب مین سنگی۔  
 (۱۳۱) جناب مولوی عبدالکیم صاحب نواکھالی۔ (۱۳۲) جناب مولوی محمد منیر صاحب چاٹ  
 گامی۔ (۱۳۳) جناب مولوی محمد یحییٰ صاحب درہنگوی۔ (۱۳۴) جناب مولوی محمد قربان صاحب  
 بخاری۔ (۱۳۵) جناب مولوی رضا صاحب منی پوری۔ (۱۳۶) جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب  
 نواکھالی۔ (۱۳۷) جناب مولوی طفیل احمد صاحب شیرکوٹی۔ (۱۳۸) جناب مولوی محمد ابراہیم  
 صاحب بردوانی۔ (۱۳۹) جناب مولوی عزیز اللہ صاحب نواکھالی۔ (۱۴۰) جناب مولوی نذیر  
 حسین صاحب امر وہی۔ (۱۴۱) جناب مولوی محمد رمضان صاحب شاہپوری۔ (۱۴۲) جناب  
 مولوی منصور علی صاحب مصنف فتح المبین۔ (۱۴۳) جناب مولوی سید شریف صاحب ہزاروی۔  
 (۱۴۴) جناب مولوی سعادت علی صاحب گینوی۔ (۱۴۵) جناب مولوی عبداللہ صاحب بنوی۔  
 (۱۴۶) جناب مولوی محمد بہرام صاحب ہزاروی۔ (۱۴۷) جناب مولوی محمد خالد صاحب بصری  
 عربی۔ (۱۴۸) جناب مولوی سلطان محمود صاحب کوٹلہ شیخان ضلع گجرات۔ (۱۴۹) جناب مولوی  
 غلام مصطفیٰ صاحب راولپنڈی۔ (۱۵۰) جناب مولوی عیسیٰ خان صاحب پشاور۔ (۱۵۱) جناب  
 مولوی محمد صدیق صاحب شاہ پوری۔ (۱۵۲) جناب مولوی محمد امیر صاحب مظفر نگری۔  
 (۱۵۳) جناب مولوی محمد احمد صاحب اعظم گڑھی۔ (۱۵۴) جناب مولوی محمد عبدالحفیظ صاحب  
 درہنگوی۔ (۱۵۵) جناب مولوی حامد اللہ صاحب ملتانی۔ (۱۵۶) جناب مولوی محمد عبدالجید



- صاحب بریالی۔ (۱۵۷) جناب مولوی محمد عبدالرحمن صاحب در بھنگوی۔ (۱۵۸) جناب مولوی محمد عتیق اللہ صاحب مظفر پوری۔ (۱۵۹) جناب مولوی محمد عبدالرحمن صاحب میمن سنگی۔ (۱۶۰) جناب مولوی نور محمد صاحب میانوالی۔ (۱۶۱) جناب مولوی عبدالحمید صاحب پشاور۔ (۱۶۲) جناب مولوی شائق صاحب عثمانی۔

ڈھاکہ

- (۱۶۳) جناب مولوی ابوالفضل محمد حفیظ اللہ صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ ڈھاکہ۔ (۱۶۴) جناب مولوی محمد مصصام الدین صاحب مدرس۔ (۱۶۵) جناب مولوی ابو محمود محمد عبدالرحمن صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ رحمانیہ حمادیہ۔ (۱۶۶) جناب مولوی ابو جعفر اختر الدین صاحب مدرس۔ (۱۶۷) جناب مولوی عبدالغنی صاحب مدرس۔

راولپنڈی

- (۱۶۸) جناب مولوی عبدالاحد صاحب خانپوری۔ (۱۶۹) جناب مولوی عبداللہ صاحب مدرس مدرسہ سنیہ۔ (۱۷۰) جناب مولوی سید علی اکبر صاحب متصل جامع مسجد۔ (۱۷۱) جناب مولوی محمد مسیح صاحب مکرانی۔ (۱۷۲) جناب مولوی محمد مجید صاحب امام الجمعہ۔ (۱۷۳) جناب مولوی محمد عصام الدین صاحب مدرس مدرسہ احیاء العلوم۔ (۱۷۴) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب ابن مولوی محمد ہدایت اللہ صاحب امام مسجد اہل حدیث۔ (۱۷۵) جناب مولوی پیر فقیر شاہ صاحب۔

سہارنپور

- (۱۷۶) جناب مولوی عنایت الہی مہتمم مدرسہ مظاہر علوم۔ (۱۷۷) جناب مولانا خلیل احمد صاحب۔ (۱۷۸) جناب مولوی ثابت علی صاحب۔ (۱۷۹) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب۔ (۱۸۰) جناب مولوی عبداللطیف صاحب۔ (۱۸۱) جناب مولوی عبدالوحید صاحب سنبھلی۔ (۱۸۲) جناب مولوی ممتاز علی صاحب سیرٹھی۔ (۱۸۳) جناب مولوی منظور احمد صاحب۔ (۱۸۴) جناب مولوی محمد ادریس صاحب۔ (۱۸۵) جناب مولوی عبدالقوی صاحب۔ (۱۸۶) جناب مولوی محمد فاضل صاحب۔ (۱۸۷) جناب مولوی سید عالم صاحب سیرٹھی۔ (۱۸۸) جناب مولوی علم الدین صاحب۔ (۱۸۹) جناب مولوی غلام حبیب صاحب پشاور۔ (۱۹۰) جناب مولوی عبدالکریم صاحب نوگاوی۔ (۱۹۱) جناب مولوی فصیح الدین صاحب

سہارنپوری۔ (۱۹۲) جناب مولوی محمد روشن الدین صاحب محمد پوری۔ (۱۹۳) جناب مولوی محمد نور الدین صاحب۔ (۱۹۴) جناب مولوی دلیل الرحمن صاحب بلوچستانی۔ (۱۹۵) جناب مولوی ظریف احمد صاحب مظفرنگری۔ (۱۹۶) جناب مولوی حبیب اللہ صاحب۔

رائے پور ضلع سہارنپور

(۱۹۷) جناب مولوی نور محمد صاحب لدھیانوی۔ (۱۹۸) جناب مولوی شاہ عبدالقادر صاحب شاہ پوری۔ (۱۹۹) جناب مولوی مقبول سبحانی صاحب کشمیری۔ (۲۰۰) جناب مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری۔ (۲۰۱) جناب مولوی خدا بخش صاحب فیروز پوری۔ (۲۰۲) جناب مولوی محمد سراج الحق صاحب۔ (۲۰۳) جناب مولوی محمد صادق صاحب شاہ پوری۔ (۲۰۴) جناب مولوی احمد شاہ صاحب امام جامع مسجد۔ (۲۰۵) جناب مولوی اللہ بخش صاحب بہاول نگر۔ (۲۰۶) جناب مولانا اشرف علی صاحب تھانہ بھون ضلع سہارنپور۔

سیالکوٹ

(۲۰۷) جناب مولوی ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلی لوہاران۔ (۲۰۸) جناب مولوی ابوالیاس محمد امام الدین صاحب کوٹلی لوہاران۔ (۲۰۹) جناب مولوی عبدالقادر محمد عبداللہ صاحب امام جامع مسجد کوٹلی۔ (۲۱۰) جناب مولوی سید میر حسن کوٹلی لوہاران۔ (۲۱۱) جناب مولوی سید فتح علی شاہ صاحب کھر وٹہ سیدان۔

شاہجہانپور

(۲۱۲) جناب مولوی محمد امتیاز احمد صاحب مدرس اول مدرسہ سعیدیہ۔ (۲۱۳) جناب مولوی امید علی صاحب مدرس دوم۔ (۲۱۴) جناب مولوی عبدالحمید صاحب پہانوی۔ (۲۱۵) جناب مولوی عبدالحمید صاحب پہانوی۔ (۲۱۶) جناب مولوی عبدالخالق صاحب مدرس مدرسہ عین العظم۔

کلکتہ

(۲۱۷) جناب مولوی عبدالنور حب مدرس بؤل مدرسہ دارالہدیٰ۔ (۲۱۸) جناب مولوی افاض الدین صاحب۔ (۲۱۹) جناب مولوی ابوالحسن محمد عباس صاحب۔ (۲۲۰) جناب مولوی محمد سلیمان صاحب مدرس مدرسہ دارالکتاب والنتہ شمس العلماء۔ (۲۲۱) جناب مولوی مفتی محمد عبداللہ صاحب صدر مدرس مدرسہ عالیہ۔ (۲۲۲) جناب مولوی احمد سعید صاحب سہارنپوری۔

- (۲۲۳) جناب مولوی عبدالرحیم صاحب۔ (۲۲۴) جناب مولوی محمد یحییٰ صاحب۔  
 (۲۲۵) جناب مولوی محمد یحییٰ صاحب مدرس دوم مدرسہ عالیہ۔ (۲۲۶) جناب مولوی محمد مظہر علی  
 صاحب۔ (۲۲۷) جناب مولوی عبدالصمد صاحب اسلام آبادی شمس العلماء۔ (۲۲۸) جناب  
 مولوی صفی اللہ صاحب مدرس۔ (۲۲۹) جناب مولوی عبدالواحد صاحب مدرس دوم مدرسہ  
 دارالہدیٰ۔ (۲۳۰) جناب مولوی محمد زبیر صاحب۔ (۲۳۱) جناب مولوی ضیاء الرحمن صاحب مسجد  
 اہل حدیث۔ (۲۳۲) جناب مولوی ابوالبرکات محمد عبدالرؤف صاحب دانا پوری۔  
 (۲۳۳) جناب مولوی عبدالاحد صاحب۔ (۲۳۴) جناب مولوی ظہور احمد مدرس جماعت سینئر  
 مدرسہ عالیہ ہوگی۔

گوجرانوالہ

- (۲۳۵) جناب مولوی حافظ محمد الدین صاحب مدرس مسجد حافظ عبدالمنان۔  
 (۲۳۶) جناب مولوی عبداللہ صاحب عرف غلام نبی۔ (۲۳۷) جناب مولوی محی الدین صاحب  
 نظام آبادی۔ (۲۳۸) جناب مولوی عمر الدین صاحب۔ (۲۳۹) جناب مولوی عبدالغنی صاحب۔  
 (۲۴۰) جناب مولوی احمد علی صاحب بن غلام حسن صاحب۔

گجرات (پنجاب)

- (۲۴۱) جناب مولوی شیخ عبداللہ صاحب ملکہ۔ (۲۴۲) جناب مولوی عبید اللہ صاحب

ملکہ۔

گورداسپور

- (۲۴۳) جناب مولوی عبدالحق صاحب دیناگری۔ (۲۴۴) جناب مولوی محمد فاضل  
 صاحب ابن مولوی محمد اعظم صاحب فتح گڑھ ضلع گورداسپور۔ (۲۴۵) جناب مولوی محمد عبداللہ  
 صاحب فتح گڑھ۔

لاہور

- (۲۴۶) جناب مولوی نور بخش صاحب ایم۔ اے ناظم انجمن نعمانیہ۔

لکھنؤ

- (۲۴۷) جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب مدرس اعلیٰ ندوۃ العلماء۔ (۲۴۸) جناب  
 مولوی محمد شبلی صاحب مدرس دوم دارالعلوم ندوۃ۔ (۲۴۹) جناب مولوی عبدالودود صاحب مدرس

ندوہ۔ (۲۵۰) جناب مولوی امیر علی صاحب مہتمم دارالعلوم ندوہ۔ (۲۵۱) جناب مولوی حیدر شاہ صاحب فقیہ دوم دارالعلوم ندوہ۔ (۲۵۲) جناب مولوی عبدالہادی صاحب فرنگی محلی۔ (۲۵۳) جناب مولوی فتح اللہ صاحب مدرس اوّل انجمن اصلاح المسلمین۔ (۲۵۴) جناب مولوی عبدالکریم صاحب قریشی علوی فقیہ اوّل دارالعلوم ندوہ۔

لودھیانہ

(۲۵۵) جناب مولوی علی محمد صاحب مدرس مدرسہ حسینہ۔ (۲۵۶) جناب مولوی رحمت العلی مدرس مدرسہ غزنویہ۔ (۲۵۷) جناب مولوی عبداللہ صاحب مدرس مدرسہ غزنویہ۔ (۲۵۸) جناب مولوی نور محمد صاحب۔ (۲۵۹) جناب مولوی محمد الدین صاحب مہتمم مدرسہ بستان الاسلام۔ (۲۶۰) جناب مولوی محمد آفاق صاحب۔ (۲۶۱) جناب مولوی عبدالواحد صاحب۔ (۲۶۲) جناب مولوی عبدالرشید صاحب۔ (۲۶۳) جناب مولوی نظام الدین صاحب۔ (۲۶۴) جناب مولوی نظام اللہ صاحب۔ (۲۶۵) جناب مولوی میاں جی رحمت اللہ صاحب امام مسجد چٹان۔ (۲۶۶) جناب مولوی حبیب الرحمن صاحب۔

مونگیر

(۲۶۷) جناب مولوی محمد عمر صاحب مدرس اوّل مدرسہ انجمن حمایت اسلام۔ (۲۶۸) جناب مولوی حکیم محمد یعقوب صاحب۔ (۲۶۹) جناب مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی۔ (۲۷۰) جناب مولوی محمد عبدالرحمن ہیڈ مولوی ضلع سکول۔ (۲۷۱) جناب مولوی محبوب علی صاحب مدرس دوم ضلع سکول۔

ملتان

(۲۷۲) جناب مولوی عبدالحق ملتانوی۔ (۲۷۳) جناب مولوی خدا بخش صاحب۔ (۲۷۴) جناب مولوی محمد صاحب۔

مراد آباد

(۲۷۵) جناب مولوی محمود حسن صاحب مدرس اوّل مدرسہ شاہی مسجد۔ (۲۷۶) جناب مولوی فخر الدین صاحب مدرس دوم مدرسہ شاہی مسجد۔ (۲۷۷) جناب مولوی ولایت احمد صاحب مدرس مدرسہ شاہی مسجد۔ (۲۷۸) جناب مولوی رضوان علی صاحب مدرس مدرسہ شاہی مسجد۔ (۲۷۹) جناب مولوی کبیر الدین صاحب۔ (۲۸۰) جناب مولوی علی نظر

صاحب۔ (۲۸۱) جناب مولوی ابوالمظفر عبدالرشید صاحب بلند شہری۔ (۲۸۲) جناب مولوی احمد حسن صاحب مدرس دینیات ہیوٹ مسلم سکول۔ (۲۸۳) جناب مولوی ابو حامد محمد نصر اللہ صاحب۔ (۲۸۴) جناب مولوی فرخ بیگ صاحب۔ (۲۸۵) جناب مولوی غلام احمد صاحب۔

ہوشیار پور

(۲۸۶) جناب مولوی غلام محمد صاحب فاضل ہوشیار پور۔ (۲۸۷) جناب مولوی احمد علی صاحب نور محلی۔

حکومت وقت کی رائے

مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونا اس درجہ ظاہر ہو گیا کہ علمائے کرام نے اگر فتویٰ دیئے تو کچھ عجیب نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ سلطنت وقت کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ فرقہ دین اسلام سے خارج ہے اور اس بناء پر اس قسم کے کئی فیصلے ہوئے کہ مرزائیوں کو کوئی حق مسلمانوں کی مساجد میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں کسی قسم کا حق ہے۔ چنانچہ اس مقام پر ایک فیصلہ جو اخبار، دی اڑیا لٹک مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۱۹ء میں چھپا ہے۔ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

مقدمہ قادیانی

مسلمانان اڑیسہ! اب دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک تو سنیوں کی یعنی بکے مسلمانوں کی جماعت ہے۔ دوسری قادیانیوں کی جو پیر و مسائل مرزا غلام احمد ساکن ضلع گورداسپور پنجاب کے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں میں اختلاف بہ نسبت استحقاق استعمال مسجد و قبرستان کے شروع ہوا۔ مسٹر اورینڈ سابق کلکٹر نے باہم صلح کر دینے کی کوشش کی مگر یہ لوگ راضی نہ ہوئے۔ تکرار بڑھتا گیا اور پھر جیسا قبل سے ہی اندیشہ تھا مقدمہ کی نوبت پہنچی قادیانیوں کے چلکے ہوئے اور ضمانت ہوئی۔ سنیوں پر ان کے مقبولہ قبرستان سے ایک قادیانی عورت کی ناش کو جو وہاں مدفون تھی اکھاڑ کر پھینک دینے کا مقدمہ چلایا گیا۔ جسٹریٹ نے سنیوں کی سزا مطابق دفعات ۲۹۷، ۳۷۷ کے کی اس پر شیشن جج کے یہاں اپیل ہوئی۔ جنہوں نے مدعا علیہم کو بے قصور سمجھا اور رہا کر دیا۔

۱۔ مرزا قادیانی بجائے اس کے باشندگان اڑیسہ یا اسی کے ہم معنی اور کوئی لفظ لکھتے تو اچھا تھا۔ کیونکہ قادیانی کسی طرح دائر اسلام میں داخل نہیں ہیں۔

سینوں کی طرف سے عدالت اپیل میں مسٹر داس نے کام کیا اور معلوم ہوا ہے کہ بغیر فیس کے پوری ہمدردی اور محنت کے ساتھ کام کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ جس میں مسٹر داس نے بے فیس کے کام کیا ہے۔ مثالیں موجود ہیں کہ مسٹر داس نے فریق کی طرف سے جو اپنے مذہبی جائز حقوق کے مطالبہ کے لئے لڑتے ہوں۔ متواتر بہت دنوں تک بے فیس کے پوری محنت کے ساتھ کام کیا اور اس کے بالکل لحاظ نہ کیا کہ فریقین کس مذہب اور ملت کے ہیں۔

اس مقدمہ میں مسٹر داس نے مسلمانوں کی طرف سے کام کیا۔ سینوں کے ساتھ ساتھ مسٹر داس ان کی اس بلند حوصلگی پر جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے مبارک باد دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان وکلاء کے لئے ایک سبق ہے۔ اگر مسٹر داس کے اس ایثار سے ان لوگوں نے سبق حاصل نہ کیا تو کسی پند و نصائح سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔

رائے عدالت

فوج داری اپیل نمبر ۱۳، ۱۹۱۹ء

اپیل از فیصلہ بابو۔ آر کے، داس سب ڈویژنل مجسٹریٹ  
مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۱۹ء، فضل الرحمن وغیرہ۔

اپیلانٹ بنام سرکار بہادر۔

رہسائڈنٹ مسٹر ایم ایس داس سی آئی اے کیل جانب اپیلانٹ باؤڈی پی داس گپتا وکیل سرکار۔

فیصلہ

لائق سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے ان گیارہ مجرموں کی سزا مطابق دفعات ۲۹۷، ۱۳۷، ۱۳۱ تعزیرات ہند کے کی ہے اور از روئے دفعہ اول قید سخت واسطے دو ماہ و مبلغ پچاس پچاس روپیہ فی کس جرمانہ کا حکم صادر کیا ہے اور موافق دفعہ مابعد کے ایک ماہ قید سخت کا اضافہ کیا ہے۔ ہر دو فریق کے وکلاء نے پورا دن بحث میں لیا اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اگر صرف ان ضروری ایڈووکیٹس (مباحث) پر جس پر میں روشنی ڈالتا ہوں بحث کی ہوتی تو بہتر تھا۔

مدعیان کا مقدمہ جیسا کہ شہادت سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے چند افراد نے اپنی جماعت میں سے ایک شخص کی بی بی کو سینوں کے قبرستان میں مدفون کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ قبرستان کے متصل ایک مکان پر گئے۔ جہاں سینوں کی ایک جماعت نے جس میں اپیلانٹ بھی شریک تھے قادیانیوں پر حملہ کیا۔ دوران ہنگامہ میں دو قادیانیوں کو صدمہ پہنچا۔ ایک کی ناک پرائینٹ کی چوٹ لگی اور دوسرے پر لٹھی کی ضرب پڑی۔ اپیلانٹ نے ناش کو قبر سے نکال کر اس مکان میں ڈال دیا۔

مقدمہ بوقت تجویز اطلاع اوّل سے جداگانہ ہے۔ اطلاع اوّل میں یہ درج پایا ہے کہ سنی آئے اور تجھیز میں مزاحمت کی قادیانی قبرستان سے بھاگے۔ سنیوں نے تعاقب کیا۔ قادیانی اس قریب والے مکان میں پناہ گزین ہوئے اور جب قادیانی باہر آئے تو دیکھا کہ ناش کو قبرستان سے لاکر سنیوں نے اس مکان میں ڈال دیا ہے۔

مقدمہ بوقت تجویز اطلاع اوّل سے جداگانہ ہے۔ اطلاع اوّل میں یہ درج پایا ہے کہ سنی آئے اور تجھیز میں مزاحمت کی، قادیانی قبرستان سے بھاگے۔ سنیوں نے تعاقب کیا۔ قادیانی اس قریب والے مکان میں پناہ گزین ہوئے اور جب قادیانی باہر آئے تو دیکھا کہ ناش کو قبرستان سے لاکر سنیوں نے اس مکان میں ڈال دیا ہے۔ اطلاع اوّل میں کوئی تذکرہ اس بات کا نہیں ہے کہ ناش دفن ہو چکی تھی۔ یہ قرین قیاس ہے کہ ناش دفن کے لئے قبر کے پاس رکھی گئی تھی۔

دونوں قصوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قبر سے ناش نکالنے کا الزام بعد کی بناوٹ ہے۔ لائق مجسٹریٹ نے شہادت کی ناقابل وثوق حالت پر رائے زنی کی ہے اور یہ پتہ چلنا مشکل ہے کہ واقعہ کیا ہوا۔ بہر کیف صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سنی بغرض روکنے دفن اس عورت کے مجتمع ہوئے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کوئی جرم بھی ہے؟

مجرموں کا یہ جواب ہے کہ دفن اس وجہ سے نہیں روکا گیا کہ متوفی قادیانی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ وہ حرامی تھی۔ یعنی ناجائز شادی کی اولاد تھی۔

یہ نسبت جرم دفعہ ۱۴۲ لائق مجسٹریٹ نے ارادہ مشترک نہیں بیان کیا ہے۔ وہ اپنے فیصلہ میں رقمطراز ہیں کہ دفن کو روکنا ہی ارادہ مشترک تھا اور ان کی یہ رائے معلوم ہوتی ہے کہ دفعہ ۱۴۱ کے مطابق یہ عمدہ اور کافی ارادہ مشترک ہے۔ ان کی یہ بھی رائے ہے کہ اپلانٹ کے بیان تحریری و طرز صفائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی نقصان ارادہ مشترک چھوٹنے سے نہیں ہوا ہو۔ میرے خیال میں بیان تحریری و طرز صفائی متضاد نتیجے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر جرم صحیح طریقہ سے قائم کیا جاتا تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہئے تھا کہ مجرموں کا ارادہ مشترک اپنا حق یا فرضی حق جو ان (قادیانیوں) کو مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کرنے سے باز رکھنے کا حاصل ہے جتلا تھا۔

اگر چارج (مباحث) اس طریقہ سے قائم کیا گیا ہوتا تو مجرمان اس بناء پر اس کی تردید کرتے کہ ان کو (قادیانیوں کو) مسلمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ دفن کرنے سے باز رکھنے کا حق حاصل ہے اور یہ کہ انہوں نے صرف قادیانیوں کو ان کے فرضی حق کو جتلانے کی کوشش سے باز

رکھا ہے۔ چارج غلط قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرموں کی توجہ اس طرف بالکل نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے صرف اسی بات کی تردید کرنی کافی سمجھی کہ انہوں نے ایک حرامی کے ذن کو روکا ہے۔ یہ ایک صفائی ہے جو چارج کہ جس طرح سے قائم ہوا ہے اور ارادہ مشترک کو، جو لائق مجسٹریٹ نے بیان کیا ہے بالکل مطابق ہے۔ میں نے بھی مجسٹریٹ کے فیصلہ کے ابتدائی پادریوں کی تھلید صحیح چارج کے عنوان تک پہنچنے میں کی ہے۔ جس میں کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ سنیوں اور قادیانیوں کے باہمی جھگڑے کا ہے۔ کہ آیا قادیانی مستحق اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں ذن کرنے کے ہیں۔ لیکن سنیوں کی شہادت سے پتہ نہیں چلتا کہ مجرموں کی مخالفت کی یہی وجہ تھی۔ گواہان کے بیان سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مجرموں نے اس بناء پر مزاحمت کی کہ قادیانیوں کو کوئی حق قبرستان میں ذن کرنے کا نہیں تھا۔ یہ بالکل نہیں بیان کیا جاتا کہ مجرموں نے آیا قادیانی یا حرامی ہونے کی وجہ سے روکا تو پھر مجرموں کو کیونکر پتہ چلتا کہ وہ لوگ حق کو جتانے کی وجہ سے (جو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے) مجرم قرار دیئے جاتے ہیں۔

”قادیانی“ مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف فرقہ ہے اور پکے مسلمان اپنے قبرستان کا قادیانیوں کے لئے استعمال کیا جانا پسند نہیں کرتے اور وہ ان کو ذات، برادری سے خارج خیال کرتے ہیں۔ (رپورٹ مردم شماری ج ۱ پارہ ۶۵۵) صرف چند سال ہوئے کہ یہ فرقہ اڑیسہ میں ظاہر ہوا ہے۔ مدعیوں کے گواہ نمبر ۲ کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانیوں اور پکے مسلمانوں کا اختلاف گذشتہ جنوری سے پہلے نمایاں نہیں ہوا۔

قادیانیوں کے مسلمانوں کے قبرستان کے استعمال کرنے کے مستحق ہونے کی شہادت کو ان وجوہات کے ساتھ غور کرنا چاہئے اور وہ شہادت کیا ہے۔ عام طور پر صرف یہ ایک دعویٰ ہے کہ قادیانیوں نے اس قبرستان کو اب تک استعمال کیا ہے۔ اس قسم کی شہادت بیرون مقدمہ ہے۔ صرف سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بحیثیت قادیانی کے استعمال کیا ہے یا نہیں۔ مدعیوں کا گواہ نمبر ۵ بیان کرتا ہے کہ قادیانی و سنی اس قبرستان کو استعمال کرتے ہیں۔ گواہ نمبر ۸ بھی یہی کہتا ہے۔ دوسرے دو گواہ یہ کہتے ہیں کہ متونی کی ایک لڑکی تیرہ سالہ دو ماہ قبل اس واقعہ کے اس میں ذن ہوئی ہے۔

حاصل کلام تمام شہادتوں کا یہی ہے کہ قادیانی مستحق استعمال کرنے اس قبرستان کے ہیں اور وکیل سرکار کہتے ہیں کہ اس شہادت کی تردید نہیں ہوئی ہے۔ مگر ان کا ایسا کہنا تعصب کی بناء پر ہے۔ اگر جرم صحیح طور پر قائم کیا جاتا تو مجرموں کو ضرور معلوم ہوا ہوتا کہ اس شہادت کی تردید کرنی



ضروری ہے۔ بوجہات صدر میں اس شہادت کو قابل وثوق نہیں سمجھتا اور تجویز کرتا ہوں کہ مدعیان اس کے ثابت کرنے میں کہ قادیانی مستحق اس قبرستان کے استعمال کے ہیں ناکام رہے۔

اس لئے جہاں تک مدعیوں کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مجرمان ذفن کے روکنے میں حق بجانب نہیں تھے۔ وہ لوگ کسی حق کے جتانے میں کوشاں نہیں تھے۔ بلکہ اپنے حق کے قائم رکھنے میں اور اس لئے مدعیان جرم کے کسی جز کو دفعہ ۱۴۱ کے مطابق ٹھہرانے میں ناکام رہے۔ اس لئے سزا مطابق ۱۴۷ کے قائم نہیں رہ سکتی۔ دفعہ ۲۹۷ کے بارے میں قبل بھی لکھ چکا ہوں کہ حقیقت میں لاش اکھاڑی نہیں گئی۔ مجرموں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ناش کو قبرستان سے باہر کر دیا یہ مانتے ہوئے کہ جس پر میں مجبور ہوں کہ قادیانیوں کو کوئی حق اس قبرستان کو استعمال کرنے کا نہیں تھا۔ میں یہ تجویز نہیں کر سکتا ہوں کہ واقعات جو پیدا ہوئے۔ جرم مطابق دفعہ ۲۹۷ کے ہو سکتے ہیں۔ اس لئے میں مجرموں کو رہا کرتا ہوں۔

هذا آخر الكلام فى هذا المقام والحمد لله تعالى والصلوة على النبى

واله تتوالى!

### اشعار

ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی  
عیسیٰ تنواں گشت بتصدیق خرچند

مد ہے مہائل کو یہ آسانی  
جمائے بصاحب نظرے گوہر خودرا

۱

ارے منحوس نافرجام مرزا  
رسول حق باستحکام مرزا  
بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا  
سیخائی کا یہ انجام مرزا  
ہے آتھم زندہ اے ظلام مرزا  
ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا  
کہیں کیا اے بد وبدنام مرزا  
جو تھا شیطان کا الہام مرزا  
بظاہر اس میں ہے آرام مرزا

ارے او خود غرض خود کام مرزا  
غلامی چھوڑ کر احمد بنا تو  
مسح و مہدی موعود بن کر  
ہوا بحث نصاریٰ میں باخر  
مہینے پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے  
تیری تکذیب کی شمس و قمر نے  
ڈبویا قادیاں کا نام تو نے  
کہاں ہے اب وہ تیری پیش گوئی  
اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مرو

ترا اعزاز اور اکرام مرزا  
 دیا تھا تجھ کو سخت الزام مرزا  
 یہ اس شوخی کا ہے انعام مرزا  
 ندامت کا نہ پیتا جام مرزا  
 سیہ رو ہوگا پیش عام مرزا  
 کہ ہو جائے تجھے سرسام مرزا  
 رعایہ کا نہیں یہ کام مرزا  
 پڑا کہلا نبی تام مرزا  
 اور اک ہجڑوں کا بے اندام مرزا  
 ہے کاذب خارج از اسلام مرزا  
 سلف کو دے رہے دشنام مرزا  
 ترے وہ ٹل گئے احلام مرزا  
 کبھی ایسے بھی تھے ایام مرزا  
 کھلے تیرے چھپے اصنام مرزا  
 یہی سعدی کا ہے پیغام مرزا

بشیر آیا تھا کیا کم کر گیا تھا  
 کیا تھا اس نے تجھ کو زندہ درگور  
 لیکن تو نہ آیا باز پھر بھی مرزا  
 نہ کہتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو  
 گلے میں اب ترے رسا پڑے گا  
 سزا بھی کم سے کم اتنی تو ہوگی  
 ہے سولی اور پھانسی کار سرکار  
 مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا  
 کہ اک بھائی ہے مرشد بھگیوں کا  
 کہا اسلامیوں نے خلف پا کر  
 تو ہے اک انبیائے بعث میں سے  
 زمین و آسمان قائم ہیں اب تک  
 براہین سے مٹھے تو نے مسلمان  
 بھگتد کہ چھپ کر فتح و توضیح  
 در توبہ ہے وا ہو جا مسلمان

۱۔ یہ اشارہ ہے مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کی طرف جو انہوں نے اپنے اشتہار  
 مرقومہ ۱۸/۱۸ اپریل ۱۸۸۲ء میں کی تھی کہ: ”خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا  
 جائے گا۔ جس کا نام عموائل اور بشیر بھی ہے۔ اس لڑکے کے اوصاف مرزا قادیانی نے کئی سطروں  
 میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ صاحب شکوہ اور عظمت و دولت ہوگا۔ مسکمی نفس اور روح  
 الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ علوم ظاہری  
 و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یکم اگست ۱۸۸۷ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ وہ لڑکا میرے  
 یہاں پیدا ہو گیا اور اس پر بڑی تحدی مخالفوں کو کی۔ مگر وہ لڑکا سولہ برس کی عمر میں مر گیا اور مرزا کا  
 کذب سب پر ظاہر ہو گیا۔ تو یکم دسمبر ۱۸۸۸ء کو مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا جس کا نام  
 ”حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر“ رکھا۔ اس رسالہ میں خود اپنی شائع کردہ تحریر کے خلاف بڑی  
 بیباکی سے مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں نے یہ ہرز نہیں لکھا کہ وہ فرزند موعود بھی لڑکا ہے۔ اس  
 دلیری سے جھوٹ بولنا حقیقتاً مرزا قادیانی ہی کا حصہ تھا۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱)

نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی  
یہ ریل جو تیرا خر چھٹی ستمبر کی  
تیرے مریدوں میں محشر چھٹی ستمبر کی  
کہ جینا ہو گیا دو بھر چھٹی ستمبر کی  
مرید اعرج واعور چھٹی ستمبر کی  
یہ کہتی پھرتی تھی گھر گھر چھٹی ستمبر کی  
ملاحظہ کا وہ رہبر چھٹی ستمبر کی  
مہبلہ کا اثر گر چھٹی ستمبر کی

غضب تھی تجھ پر سنگر چھٹی ستمبر کی  
ہے کادیانی ہی جھوٹا مرا نہیں آتھم  
ذلیل و خوار ندامت چھپا رہی تھی کہ تھا  
یہ لودھانہ میں مرزائیوں کی حالت تھی  
سوا برس کے تھے امیدوار سب مایوس  
سج مہدی کا ذب نے منہ کی کھائی خوب  
ہے روسیہ مثل میل مسیلم واسود  
یہ کادیانی کی تذلیل کے لئے تھی نہ تھا

### عیسائیوں کا ایک اشتہار بھی ملاحظہ ہو

سارے الہام بھول جائیں گے  
پھر فرشتے کبھی نہ آئیں گے

ایسی مرزا کی گت بنائیں گے  
خاتمہ ہوگا اب نبوت کا

### رسول قادیانی کو پھر الہام ہوا

لعین و بے حیا شیطان ثانی  
بڑھاپے میں ہے یہ جوش جوانی  
یہ کہہ کر تیری مر جائے نانی  
یہی ہے اب مصمم دل میں ٹھانی

ارے سن وہ رسول قادیانی  
نہ باز آیا تو کچھ بکنے سے اب بھی  
نچاوے رچھ کو جیسے قلندر  
نچاویں تجھ کو بھی اک ناچ ایسا

توڑ ہی ڈالیں گے وہ نازک کلائی آپ کی  
بات یہ کب چھپ سکے جاب چھپائی آپ کی

ہنچہ آتھم سے ہے مشکل رہائی آپ کی  
آتھم اب زندہ ہیں آکر دیکھ لو آنکھوں سے خود

۱۔ اشارہ ہے مرزا قادیانی کے اس قول کی طرف کہ اس نے لکھا ہے کہ خرد جال -

ریل گاڑی ہے۔

بات اب بنتی نہیں کوئی بنائے بنائے آپ کی  
 کون مانے ہے بھلا یہ کن ادائی آپ کی  
 بات سچی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی  
 کر رہا بیشک ہے شیطان رہنمائی آپ کی  
 اس کو کب منظور ہے ایک دم جدائی آپ کی  
 رات دن کرتا وہی ہے پیشوائی آپ کی  
 کس بلا میں اس نے دیکھو جان پھنسلے آپ کی  
 دیکھو کیسی ناک میں ہے جان آئی آپ کی  
 آبرو سب خاک میں کیسی ملائی آپ کی  
 کس لئے کرتا نہیں مشکل کشائی آپ کی  
 جو گلی کوچوں میں کرتے تھے بڑائی آپ کی  
 ڈوم کنجر دھریئے کنجرے قصائی آپ کی  
 جانتے ہیں ہم یہ ساری پارسائی آپ کی  
 کام کس آئے گی یہ دولت کمائی آپ کی  
 سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی  
 فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی  
 کر ہی ڈالے گا حجامت اب تو نائی آپ کی  
 اب بھی تاب ہو اسی میں ہے بھلائی آپ کی  
 ہاتھ کب آئے گا یہ مہلت گنوائی آپ کی  
 راہ حق اور زندگی سے ہے لڑائی آپ کی  
 ہو گئی اب بھی مسیح سے گرضائی آپ کی  
 بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے

کچھ کرو شرم و حیا تاویل کا اب کام کیا  
 جھوٹ کوچ اور سچ کو جھوٹ بتلانا صریح  
 جھوٹ ہیں باطل ہیں دعویٰ قادیانی کے بھی  
 ہو گیا ثابت ہے سب اقوال بد سے آپ کے  
 اپنے پنجہ سے نہیں دیتا تمہیں شیطان نجات  
 تم ہو اس کے اور اب وہ ہے تمہارا یار غار  
 ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار  
 ہر طرف سے لعنت و پھنکار اور وحکار ہے  
 خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا  
 ہے کہاں اب وہ خدا جس کا تمہیں الہام تھا  
 اب بتاؤ ہیں کہاں سب آپ کے پیرو مرید  
 کرتے ہیں تعظیم جھک جھک کر تو حاصل اس سے کیا  
 آپ نے خلقت کے ٹھگنے کا نکالا ہے یہ ڈھنگ  
 کچھ کرو خوف خدا کیا حشر میں دو گے جواب  
 ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر  
 کر کے من کا لگدھے پر کیوں نہیں ہوئے سوار  
 داڑھی سر اور مونچھ کا پچتا بڑا دشوار ہے  
 آپ کے دعوں کو باطل کر دیا حق نے تمام  
 اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے  
 سخت گمراہ ہو نہیں سمجھے مسیح کی شان کو  
 خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہو گے سرخرو  
 اب دام مکر اور کس جا بچھائیے

تمت بالخیر!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلَدُ التَّحْقِيقِ فِي تَرْغِيبِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ  
وَتَرْهِيْبِ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْغَيْرِ

صورت محمدیہ

فروغیہ

(بطش الصادقین بطاغوت المارقین)

ازافادات (حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی)

ترتیب (مولانا حافظ عبدالسلام لکھنوی)

## مرزائیت کی موت

جملہ مرزائیوں کو واضح ہو کہ میں نے ستمبر ۱۹۲۸ء کے العدل میں ایک مکتوب مفتوح بنام مرزا محمود احمد قادیانی شائع کیا تھا کہ میں مرزا کے انعامی اشتہار دربارہ لفظ تونی کی دوسری شق کے مطابق ثابت کر دوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو بہیت کذائی و صورت مجموعی اپنے قبضہ میں لے لینے کے ہیں۔ آپ میرے ساتھ منصفانہ شرائط طے کرنے کے بعد فیصلہ کر لیں۔ لیکن مرزائیت کے علمبردار نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر مرزائی مولویوں کو مناظروں میں فیصلہ کی دعوت دی گئی۔ مگر صدائے برنخواست مارچ ۱۹۳۲ء کے رسالہ شمس الاسلام بھیرہ میں مکرر بعنوان ”اتمام حجت“ اس مضمون کو مشتہر کیا گیا۔ لیکن مرزائیوں کی طرف سے کوئی آمادگی نہ ہوئی۔

العدل و شمس الاسلام کے پرچے بذریعہ جٹری خلیفہ قادیان کے پاس بھیجے گئے۔ پھر بھی انہیں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہوا۔ حق کا رعب ان کے دل پر مسلط ہو چکا ہے۔ لہذا ان میں جرأت نہیں ہے کہ اس فیصلہ پر آمادہ ہوں۔ بھیرہ کے مناظرہ کے موقع پر اسی عنوان سے اشتہار شائع کیا گیا تھا۔ مگر مرزائی مولویوں کو حوصلہ نہ ہوا۔ جملہ مرزائیوں کو لازم ہے کہ اپنے خلیفہ کو اس فیصلہ پر آمادہ کریں۔ ورنہ سمجھ لیں کہ مرزائیت مرگئی۔ لہذا اس کی تجہیز و تکفین کر کے میرے ہاتھ پر توبہ کر لیں۔ حجت تمام ہو چکی۔ خدا کے حضور میں تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اگر تمہارے مولوی اس فیصلہ پر آمادہ ہوں تو فوراً اپنے خلیفہ سے اپنی نیابت کی تصدیق حاصل کریں اور خلیفہ صاحب لکھ دیں کہ ان علماء کا ساختہ پر داختہ میرا ساختہ پر داختہ ہے۔ ان کی فتح میری فتح اور ان کی شکست میری شکست ہے۔

خلیفہ صاحب اور ان کے حواری محض دفع الوقتی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ مرزائیوں کا فرض ہے کہ اپنا پورا زور ان پر ڈالیں۔ جو مرزائی فیصلہ کرنا چاہے۔ سب سے پہلے سند نیابت حاصل کرے۔ بعد ازاں ثالث اور دیگر شرائط کا فیصلہ کرنے پر آمادگی ظاہر کرے۔ ”وما علینا الا البلاغ“  
ابوالقاسم محمد حسین عفی عنہ مولوی فاضل کولتار ضلع گوجرانوالہ

مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۳۲ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

حامداً ومصلياً ومسلماً

حق جل شانہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ دجالی فتنہ تہمتی قادیانی کا جو پنجاب سے شروع ہو کر نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے مقامات کے لئے بلائے ناگمانی بن گیا۔ اس کو آخری منزل تک پہنچانے کا سامان بھی پنجاب ہی میں رونما ہوا۔

آج کل ایک مقدمہ مسلمانوں اور غلمہ یوں کے درمیان میں بمقام ریاست بہاولپور چل رہا ہے۔ جس کے سلسلہ میں باصرار حضرت مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ، جامعہ عباسیہ بہاولپور حضرت والدی الماجد مولانا محمد عبدالشکور صاحب دام ظلہم العالی مادامت الایام واللیالیٰ کو بہاولپور تشریف لے جانا پڑا۔ اس سفر میں یہ حقیر کمترین بھی ہمرکاب تھا۔ یکم ۱۳۵۱ھ سے ۱۲/۱۲ جب تک پورے بارہ دن بہاولپور میں قیام رہا۔ واپسی کے بعد دل میں آیا کہ اس مقدمہ کے حالات مع دوسرے فوائد کے برادران اسلامی کے سامنے پیش کئے جائیں۔ لہذا اس رسالہ کی تالیف عمل میں آئی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ برادران دینی کو آگاہی حاصل ہو اور سب مقدمہ کی کامیابی کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعاء کریں۔ ”بیسدہ الخیر وهو علی کل شیء قدير“

اس رسالہ کو چار فصلوں اور ایک خاتمہ پر تقسیم کرتا ہوں تاکہ ہر مضمون جدا جدا رہے اور پڑھنے میں سہولت ہو۔

فصل اول..... میں برادران اسلامی کے لئے چند ضروری ہدایات ہیں۔

فصل دوم..... میں مقدمہ مذکورہ کے واقعات ہیں۔

فصل سوم..... میں فرقہ غلمہ کی مختصر تاریخ ہے۔

فصل چہارم..... میں بطور نمونہ کے مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق چند ضروری معلومات ہیں۔

خاتمہ..... میں ریاست بہاولپور کے کچھ مسرت انگیز چشم دید حالات ہیں۔

فصل اول..... برادران اسلامی کے لئے چند ضروری ہدایات

ہدایت اول

مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا۔ ان وجالوں میں سے جن کی خبر سید المرسلین خاتم

انہیں ﷺ نے دی تھی کہ: ”میرے بعد تمیں دجال کذاب ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

اس دجال کے پیرو اپنے کو احمدی کہلانے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور یہ شوق ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہوا اور ہور ہا ہے۔ مسلمان اپنی نادانی و غفلت سے ان کو احمدی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو احمدی کہنے میں تین گناہ ہیں اور نہایت سخت گناہ ہیں۔

اول..... یہ کہ احمدیہ کہنا گویا اس دجال کے اس افتراء کی تصدیق کرنا ہے جو وہ اپنی کتابوں میں لکھ گیا ہے کہ: ”مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد“ کا مصداق میں ہوں۔

دوم..... یہ کہ احمدی کہنے میں اس امر کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نسبت سید الانبیاء ﷺ کے نام مبارک احمد کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ ایک دجال باغی کی امت کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کرنا کس قدر توہین آپ کی ہے۔

سوم..... یہ کہ آج سے بہت پہلے یہ لفظ احمدی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے متوسلین کا مخصوص لقب رہ چکا ہے۔ اس سلسلہ قدسیہ کے اکابر اس لقب کو بطور شعار کے اپنے لئے استعمال فرماتے رہے۔ ان حضرات کی مہروں میں یہ لقب کندہ ہے۔ مثلاً غلام علی احمدی، احمد سعید احمدی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ پس اس فرقہ کو احمدی کہنا گویا ان اکابر امت کی ایک امتیازی لقب کا غصب کرنا ہے۔

لہذا مسلمانوں کو ہوش میں رہنا چاہئے۔ مشہور نام اس گمراہ فرقہ کا مرزائی ہے۔ لیکن یہ لوگ اس نام سے چڑتے ہیں اور خواہ مخواہ مسلمان ان کی دلداری کرنا چاہتے ہیں۔ تو بقول حضرت مولانا سید محمد علی صاحب مونگیریؒ جدید عیسائی، کہیں کیونکہ ان کا مقتدا عیسیٰ ہونے کا مدعی تھا اور اس سے بھی بہتر نام اس فقہ کا ”علمدی“ ہے۔ جو حضرت والدی العلام ادام اللہ تعالیٰ اظہ العالی نے تجویز فرمایا اور حضرت مونگیریؒ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور ان کے خدام برابر اس نام کا استعمال مطبوعہ وغیر مطبوعہ تحریروں و تقریروں میں کر رہے ہیں۔ غلام احمد کے نام میں دو جز ہیں۔ دونوں کی طرف نسبت اس نام میں آگئی اور بقاعدہ عربیت یہ طریق نسبت کثیر الاستعمال ہے۔ جیسے عبد شمس کی طرف عبشی عبدالدار کی طرف عبد الدار کی طرف عبثی وغیرہ وغیرہ۔

ہدایت دوم

جس طرح ایک مسلمان کو کافر کہنا بدترین جرم ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا



بھی بڑا گناہ ہے۔ آیات قرآنیہ سے دونوں گناہ ایک درجہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ رہا یہ کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا چاہئے۔ جیسا کہ ہمارے امام اعظم امام ابوحنیفہؒ سے منقول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے وہ اہل قبلہ ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبلہ کی ملت میں جس قدر چیزیں قطعی طور پر ضروریات دین میں ہیں۔ ان سب کو ماننا ہو۔ (دیکھو شرح فقہ اکبر علامہ علی قاری مکیؒ) مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین متفق علیہ ضروریات دین کا انکار کرنے کے سبب سے ہرگز اہل قبلہ نہیں ہیں اور ان کو باوجود ان کی کفریات کے علم کے کافر نہ کہنا یقیناً سخت ترین گناہ ہے۔

### ہدایت سوم

کافر دو قسم کے ہیں۔ ایک کافر اصلی جو ابتدا ہی سے کافر ہو۔ دوسرے مرتد جو کلمہ اسلام پڑھنے اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کرے۔ قرآن مجید میں ہم کو کافر اصلی کے ساتھ بشرطیکہ وہ ہمارے دین میں مزاحمت نہ کرے نیک سلوک کرنے اور انسانی اخلاق برتنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر مرتد کے ساتھ انسانی اخلاق کو برتنا قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ سو اس صورت کے کہ کوئی مسلمان حالت اکراہ میں یعنی کسی ایسی مجبوری میں پھنس گیا ہو کہ مرتد کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کرنے سے اس کو مفر نہ ہو۔ مگر یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ مجبوری محض فرضی و خیالی ہے یا اصلی و واقعی۔

### ہدایت چہارم

کسی مسلمان کو اگر کسی غلمدی سے مذہبی مباحثہ کی نوبت پیش آ جائے تو جلد سے جلد فیصلہ کر دینے والی اور نہایت آسانی سے اس بحث کو ختم کر دینے والی صورت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اس کے جھوٹ دکھلائے جائیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو گالیاں اس نے دی ہیں اور ان کی جو توہین اس نے کی ہے۔ اس کو پیش کر دیا جائے۔ اس موضوع کے شروع ہوتے ہی بڑے سے بڑا احیادار غلمدی بھی مبہوت ہو جاتا ہے۔

کسی دوسری بحث میں اس قدر جلد صحیح نتیجہ نہیں نکلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات کی بحث یا ختم نبوت کی بحث اگر ہو بھی تو بعد اس بحث کے ہونی چاہئے۔

### ہدایت پنجم

آج کل بعض انگریزی تعلیم یافتہ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنی مذہبی معلومات سے

بالکل نا آشنا ہیں۔ مگر اپنے کو ہمہ دان سمجھ کر ہر چیز میں دخل بنتے ہیں۔ وہ غلمد یوں کا نظام دیکھ کر یورپ وغیرہ میں ان کے خود ساختہ تبلیغی کارنامے سن کر ان کے مداح بن جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا دھوکا ہے۔ زہر جب دیا جاتا ہے تو شیرینی میں ملا کر دیا جاتا ہے۔ غلمد یوں کے تبلیغی کارناموں اور نام نہاد اسلامی خدمتوں کو اگر بہ نظر تحقیق دیکھا جائے تو اوّل تو ایک پروپیگنڈے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ پھر اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے بھی ہیں تو اس اسلام کی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے تعلیم دیا، نہ اس اسلام کی جس کے معلم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ رہا نظام جماعت اگر پسند ہے تو خود تم کیوں اپنا نظام درست نہیں کرتے۔ پھر ہندوؤں کا نظام ان سے بدرجہا فائق ہے۔ ان کی مدح سرائی کیوں نہیں کرتے۔

ہدایت ششم

جس مقام پر غلمدیت کا کچھ بھی چرچا ہو وہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ جو علمائے اسلام اس بحث میں مہارت رکھتے ہیں ان کے وعظ کرائیں یا علمائے اسلام کی جو عمدہ کتابیں غلمد یوں کے رد میں ہیں۔ ان کی اشاعت کریں۔ جیسے خانقاہ رحمانی موگیر (صوبہ بہار) کی کتابیں یا ادارہ العلوم دیوبند کی کتابیں۔ وغیر ذلک!

## فصل دوم..... مقدمہ بہاولپور کے واقعات

یہ مقدمہ تقریباً چھ سال سے چل رہا ہے۔ ابتداء یوں ہوئی کہ بہاولپور کے مضامین میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں۔ جن کا نام الہی بخش ہے۔ انہوں نے اپنی دختر کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کیا۔ ابھی رخصتی کی نوبت نہ آئی تھی کہ وہ شخص مرتد ہو کر غلمدی بن گیا۔ مولوی الہی بخش صاحب نے عدالت میں دعویٰ فسخ نکاح کا دائر کیا۔ بعض روشن دماغ افسران ریاست نے برٹش گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس دعویٰ کو خارج کر دیا۔ یعنی نکاح کو ناقابل فسخ قرار دیا۔ مولوی الہی بخش صاحب نے ریاست کی عدالت بالا میں اپیل کی۔ وہاں بھی شنوائی نہ ہوئی۔ بالا خرد بار معلیٰ میں جو ریاست کی آخری عدالت اور خاص فرمانروائے بہاولپور دام بالا قبیلہ والسرور کی پکھری ہے۔ فریاد کی گئی اور مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور ہمیشہ سے یہ بات طے شدہ چلی آرہی ہے کہ نکاح و طلاق وغیرہ کے مقدمات کا شرع مقدس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ نئی بات کیوں ہو رہی ہے۔

دربارِ معلیٰ نے مسلمانوں کے اس متفقہ اور جائز احتجاج کو قبول فرما کر حکم دیا کہ یقیناً اس مقدمہ کا فیصلہ شریعت الہیہ کے مطابق ہونا چاہئے اور فریقین کو موقع دینا چاہئے کہ وہ اپنے اپنے مشہور اور مستند علماء کی مذہبی شہادت عدالت میں پیش کریں۔ چنانچہ وہ مقدمہ پھر ابتدائی عدالت میں واپس آیا اور بحکم سرکار، شریعت کے مطابق مقدمہ کی تحقیقات شروع ہوئی اور فریقین کو عدالت نے نوٹس دیا کہ اپنے اپنے علماء کو عدالت میں پیش کر کے شرعی دلائل بیان کرائیں۔ یہاں تک مقدمہ کو پہنچتے پہنچتے کئی سال ہو گئے اور اب یہ مقدمہ بجائے شخصی معاملہ کے قومی حیثیت میں آ گیا۔ (اور آنا ہی چاہئے تھا) انجمن مؤید الاسلام بہاولپور نے اس کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔

حضرت شیخ الجامعہ نے جو ریاست کے مذہبی امور کے گویا صدر الصدور ہیں۔ مشاہیر علمائے اسلام کو جو فرقہ غلطیہ کے اباطیل سے کافی واقفیت رکھتے تھے۔ اس اہم مذہبی خدمت کی دعوت بھیجی۔ حضرت والدی الماجد امت برکاتہم کے نام بھی موصوف کا دعوت نامہ پہنچا۔ مگر چونکہ آپ اب سفر کرنے سے فی الجملہ معذور ہیں اور ان دنوں مزاج مبارک بھی ناساز تھا۔ اس لئے تشریف نہ لے جاسکے۔ لیکن دوسرے اکابر و امثال پہنچ گئے اور چھ حضرات نے عدالت کے سامنے یکے بعد دیگرے شہادت دی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب صدر المدرسین مدرسہ امدادیہ مراد آباد، حضرت مولانا نجم الدین صاحب پروفیسر اور نیشنل کالج لاہور، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب مولوی فاضل پنجاب یونیورسٹی ساکن کولوتار و ضلع گوجرانوالہ۔

ان حضرات کی شہادتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے قبعین کافرو مرتد ہیں۔ ان کے ساتھ مناکحت حرام ہے اور بعد نکاح اگر کوئی شخص مرزائی ہو جائے۔ (والعیاذ باللہ منہ) تو وہ نکاح بغیر قضائے قاضی فسخ ہو جاتا ہے اور اس کی منکوحہ کو دوسری جگہ نکاح کر لینا درست ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر مرتد ہونے کے پانچ وجوہ بیان کئے گئے۔

اول..... اس نے اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کیا۔

دوم..... اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔

سوم..... اس نے حضرت انبیاء علیہم السلام کی حتیٰ کہ حضرت سید الانبیاء ﷺ کی شان میں سخت گستاخیاں کیں۔

چہارم..... اس نے ضروریات دین کا مثل حشر جسمانی وغیرہ کے انکار کیا۔  
پنجم..... اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو اس کو نہیں مانتے کا فر کہا۔

ان پانچوں وجوہ کا ثبوت دجال مذکور کی کتابوں سے اور ان کا کفر ہونا کتاب و سنت و اقوال و فتاویٰ اکابر امت سے ثابت کیا گیا۔ کتابوں کی عبارتیں پیش کی گئیں۔ ان تمام شہادتوں کو عدالت نے حرف بحرف قلم بند کیا۔ پھر فریق مخالف کو حق دیا کہ وہ ان مذہبی مقدس گواہوں پر بے دھڑک جرح کرے۔ یہ تمام شہادتیں مع جرح کے آٹھ نو دن میں ختم ہوئیں۔

ان شہادتوں سے پہلے مدعا علیہ یعنی مرتد غمدی کا بیان عدالت لے چکی تھی۔ جس نے بہت صفائی کے ساتھ یہ بیان دیا تھا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور خدا کا نبی مانتا ہوں۔ مثل ان انبیاء کے جو ہو چکے ہیں۔

علمائے اسلام ادا م اللہ دامت برکاتہم کی شہادتوں کے بعد عدالت نے مقدمہ کی پیشی بڑھادی اور آئندہ پیشی ڈھائی مہینہ کے بعد یعنی ۵ نومبر ۱۹۳۲ء سے مقرر فرمائی۔ حضرت شیخ الجامعہ نے حضرت والدی الما جدم فیضہم کو ان تمام واقعات کی اطلاع دے کر پھر مزید اصرار فرمایا کہ مرزائی مولویوں کی شہادت سننے اور ان پر جرح کرنے کے لئے آپ کا تشریف لانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ممدوح کیم رجب المرجب ۱۳۵۱ھ مطابق کیم نومبر ۱۹۳۲ء کو رونق افروز بہادپور ہوئے۔

غمدیوں نے اپنی طرف سے پہلا گواہ جلال الدین ٹمس کو قرار دیا۔ جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دمشق و مصر وغیرہ وغیرہ میں رہ کر اس نے عربی پڑھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس فرقہ کا سب سے زیادہ مستند عالم یہی ہے۔

ڈھائی مہینہ کی طویل مدت میں خاص قادیان کے اندر پاپائے قادیان اور امت غمدیہ کے دوسرے کہنے مشق لوگوں کے متفقہ مشورہ اور جاناکا محنت کے ساتھ شہادت مرتب کی گئی۔ فل سیکپ سائز کے کاغذ پر لکھی گئی۔ غمدی مذکور یہ لکھا ہوا ضخیم دفتر لئے ہوئے حاضر عدالت ہوئے اور اسی کو دیکھ دیکھ کر پڑھنا شروع کیا اور پورے سات دن تک اس سبق خوانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ روزانہ دس بجے دن سے ڈھائی بجے تک یہ شہادت ہوتی تھی۔ ہمارے علمائے کرام بھی بڑی پابندی سے کچھری تشریف لے جاتے تھے اور باجائز عدالت دو آدمی ہمارے اس شہادت کو حرف بحرف قلمبند کرتے تھے۔ باوجودیکہ یہ شہادت اس قدر محنت اور اتنی مدت میں تیار

کی گئی تھی۔ مگر الفاظ اور معانی کا بے ربط و بے محل ہونا عبارت کا اکثر مقامات میں خبط ہونا تطویل لاطائل اور مکرر الفاظ کا بے فائدہ بار بار لانا عربی الفاظ اور اعراب تو درکنار معمولی فارسی عبارت مثلاً مولانا جامی کے عقائد نامہ کے اشعار کا غلط پڑھنا یہ اور اس کے مثل اور بہت سی چیزیں بتا رہی تھیں کہ اس مقدمہ نے تمام غلمدیوں کو بدحواس کر دیا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ شہادت بڑے معرکہ کی شہادت تھی اور پاپائے قادیان موسیو بشیر صاحب خلیفۃ الدجال کی پوری طاقت اس میں ختم ہوئی۔ لیکن حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دینا کسی کے امکان میں ہوتا تو دین اسلام دنیا سے کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ ایک سال کامل اگر مرزا اور مرزائیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا تو بھی اس کے کفریات کی حقیقت اتنی منکشف نہ ہوتی۔ جتنی کہ اس ہفت روزہ شہادت سے منکشف ہوئی۔ سچ ہے زبان اور قلم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ”فتبارک اللہ احسن الخالقین“

سچ صاحب نے جن کے اجلاس میں یہ مقدمہ ہے پہلے ہی حکم سنا دیا تھا کہ اس وقت نومبر کو میں اس مقدمہ کی سماعت کروں گا۔ اس کے بعد سال تمام کی وجہ سے مجھے دوسرے سرکاری کاموں کا انصرام کرنا ہے۔ جلال الدین شمس غلمدی نے جب اپنی شہادت ۱۲ نومبر ۱۹۳۲ء مطابق ۱۲/۱۲/۱۳۵۱ھ بروز شنبہ بوقت ڈیڑھ بجے دن کے ختم کر دی تو سچ صاحب نے ہمارے علمائے کرام سے پوچھا کہ آپ حضرات کو اس شہادت پر کچھ جرح کرنا ہے۔ ہمازی طرف سے کہا گیا کہ ہم جرح کے لئے تیار ہیں اور کم سے کم پندرہ دن جرح کریں گے اور ہماری جرح میں انشاء اللہ ایسے ضروری امور ہوں گے کہ مقدمہ زیر بحث کا پورا انکشاف ہو جائے گا اور عدالت کو اصل حقیقت کے سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں بہت سہولت ہوگی۔ کچھ رد و کد کے بعد عدالت نے اس کو منظور کر لیا۔ مگر ساتھ ہی یہ حکم سنایا کہ اب اس مقدمہ کی پیشی مارچ میں ہوگی۔ اتنی مدت طویلہ کا انتظار اکثر حضرات کو بہت شاق گذرا اور عدالت کو اس طرف توجہ بھی دلائی گئی مگر سچ صاحب نے اپنی عدم الفرستی کا عذر فرمایا۔ غرض کہ مقدمہ اب مارچ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا اور علمائے اسلام کی طرف سے پندرہ دن کامل بحول اللہ تعالیٰ وقوتہ جرح ہوگی اور انشاء اللہ ثم انشاء اللہ اس زلزلہ اکلن منشور ربانی کا منظر دنیا کے سامنے آجائے گا۔ ”فان نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین“

دو لطف انگیز کارروائیاں

..... ابتدائے مقدمہ میں عدالت سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ فریقین میں سے

کسی کی طرف سے کوئی وکیل بیرسٹر نہ ہوگا۔ مگر غلمد یوں نے اپنی شہادت کے وقت اس قرارداد کے خلاف ایک غلمدی بیرسٹر صاحب کو لاہور سے بلایا جو بار بار خواہ مخواہ عدالت کو قانونی بحثوں میں جا ویچا الجھاتا تھا۔ بالفاظ دیگر اصل بحث کو مغالطات کے پردہ میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ عدالت کے روکنے پر بھی نہ رکتا تھا۔ ایک روز اس نے عدالت کی شان کے خلاف بھی کچھ باتیں کیں۔ جن پر بالآخر اس نے معافی مانگ لی۔

۲..... غلمدی صاحبان نے ملتان میں انگریزی عدالت میں مولوی الہی بخش صاحب پدر دختر مذکورہ کو ضلع ملتان کا ساکن ۱ قرار دے کر استغاثہ دائر کر دیا کہ لڑکی کو رخصت کر دیا جائے اور دستی سمن لے کر عدالت بہاولپور میں پیشی مقدمہ کے وقت مولوی الہی بخش صاحب پر تعمیل کرا دی۔ مطلب یہ تھا کہ مولوی الہی بخش کو انگریزی عدالت میں الجھا کر بہاولپور کے مقدمہ کو خورد برد کر دیں۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ یہ کیدان کارایگان ہو جائے گا ملتان میں ایک طرف ڈگری بھی اگر غلمد یوں کو مل جائے تو انگریزی عدالت کی ڈگری کا اجراء بہاولپور میں نہیں ہو سکتا۔

## فصل سوم..... فرقہ غلمد یہ کی مختصر تاریخ

فرقہ غلمد یہ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبہ کادیان ضلع گورداسپور کا رہنے والا تھا۔ شہر امرتسر سے شمال مشرق کو جو ریلوے لائن جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا اسٹیشن بنالہ ہے۔ بنالہ سے گیارہ میل کے فصل پر کادیان ہے اور اب کئی سال ہوئے بنالہ سے کادیان کو ریلوے لائن بن گئی ہے۔ راقم الحروف نے کادیان کو دیکھا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے وطن کے نام کو بھی دجل و فریب سے خالی نہیں رکھا۔ یعنی اس کو قادیان ۱ مشہور کیا اور اس نام کے مشہور کرنے میں بڑی بڑی کوششیں کرنا پڑیں۔ روپیہ بھی صرف ہوا رشوتوں کی داد و سند بھی ہوئی۔

۱۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مولوی الہی بخش صاحب ریاست بہاولپور کے ساکن ہیں۔ مگر غلمد یوں کے مذہب میں جھوٹ بولنا ان کے متنبی کی سنت ہے۔

۲۔ کادیان پنجابی میں کیوڑے کو کہتے ہیں۔ اس ہستی میں چونکہ کیوڑا فروش لوگ رہتے تھے۔ اس واسطے اس کو کادیان کہنے لگے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے سرکاری کاغذات میں ڈاکخانہ کی مہر میں اس کو قادیان لکھوایا اور کہا کہ یہ لفظ داراصل قاضیان سے ہے۔ یہ کہ مرزا قادیانی کی عالی نسب شخص سمجھا جائے۔ اس کے باپ دادا قاضی تھے نہ کادی فروش۔

مرزا غلام احمد قادیانی مذکور ۱۲۶۱ھ مطابق ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوا اور ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۲۰ھ مطابق ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو مرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ طبابت کا پیشہ کرتے تھے اور کچھ مختصری زمینداری بھی تھی۔ مرزا قادیانی نے ابتدائی عمر میں فارسی اور کچھ عربی پڑھی۔ کتب درسیہ تمام نہیں ہونے پائیں کہ فکر معاش نے پریشان کر دیا۔ تحصیل علم چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں سرگردان ہونا پڑا۔ مرزا قادیانی کا ابتدائی زمانہ نہایت گمنامی اور تنگدستی میں گذرا۔ جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب استثناء میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی مفلسی اور پریشان حالی کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ میرے باب دادا انہیں سختیوں میں مر گئے۔

خدا جانے کس طرح اور کس کس کی چوکھٹ پر جبہ فرستائی کے بعد سیالکوٹ کی کچھری میں پندرہ روپیہ ماہوار کی نوکری مل گئی۔ مگر اس قلیل رقم میں فراغت کے ساتھ بسر نہ ہو سکی۔ چنانچہ اب یہ فکر دامتکبر ہوئی کہ مختاری کا قانون پاس کر کے مختاری کا پیشہ شروع کریں۔ بڑی محنت سے قانون انگریزی یاد کیا۔ مگر امتحان میں ناکامی کا داغ پیشانی پر لگا۔

چالاکی تو فطرت میں تھی ہی۔ لہذا مختاری کے امتحان میں ناکام ہونے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اپنے معاش کے لئے تجویز کیا۔ یعنی اشتہار بازی اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے شہرت حاصل کرنے اور اس شہرت کو ذریعہ معاش بنانے کے درپے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے آریوں کے مقابلہ میں اشتہار بازی کی۔ بڑے بڑے اشتہار نہایت آب و تاب سے ہزاروں کی تعداد میں شائع کئے۔ راقم کی نظر سے مرزا قادیانی کے کئی ابتدائی اشتہارات گذر چکے ہیں۔ ایک اشتہار پر ۲ مارچ ۱۸۷۸ء کی تاریخ ہے۔

جب اس طریقہ سے ایک حد تک شہرت حاصل ہو چکی تو ایک کتاب براہین احمدیہ آریوں کے مقابلہ میں تصنیف کی اور اس کے لئے بڑے بڑے اشتہارات نکالے۔ مسلمانوں سے چندہ لیا اور خوب لیا۔ ہزاروں روپیہ اس بہانہ سے وصول کر لیا اور کچھ فراغت و اطمینان سے دن بسر ہونے لگے۔ غالباً مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی وقت سے اپنے دماغ میں یہ خیالات قائم کر لئے تھے کہ بتدریج مجددیت پھر مسیحیت پھر نبوت رسالت کے دعویٰ کرنا چاہئے۔ اگر یہ دعویٰ چل گئے تو پھر کیا ہے اچھی خاصی بادشاہت کا لطف آجائے گا اور اگر نہ چلے تو اب کون سی عزت حاصل ہے۔ جس کے چلے جانے کا خوف ہو۔ بنیاد ان دعویوں کی ان کے ابتدائی اشتہارات میں بھی کچھ کچھ موجود ہے۔ خوش قسمتی سے مرزا غلام احمد قادیانی کو اسی ابتدائی زمانہ میں کچھ دنوں سرسید، احمد خان علی گڑھی کی صحبت بھی نصیب ہو گئی اور ان کے آزاد خیالات نے مرزا قادیانی کے لئے اس

کے مجوزہ راستہ کو کچھ بہل کر دیا۔ اس زمانہ میں مر سید یہ مسئلہ اختراع کر چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ کوئی انسان اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ انگریزی دان طبقہ اس مسئلہ سے مانوس ہو چکا تھا۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آغاز مقصد کے لئے اسی مسئلہ کو منتخب کر لیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتداء اسی پر بڑا زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ بڑے بڑے۔ اشتہار بھی شائع کئے۔ علاوہ عقلی استبعادات اور خانہ ساز الہامات کے کئی آیات قرآنیہ اور کئی عدیثوں کو بھی دور از کار تاویلات کا لباس پہنا کر اپنے استدلال میں پیش کیا۔ علمائے اسلام کو مباحثہ کے لئے چیلنج دیئے اور کئی مقام پر مباحثہ بھی کیا۔ سب سے بڑا مباحثہ جو اس مسئلہ پر ہوا وہ بمقام دہلی جناب مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی مرحوم سے تھا۔ جس میں مرزا قادیانی نے بالآخر اپنی عاجزی و مغلوبیت دیکھ کر یہ بہانہ کیا کہ میرے گھر سے تار آیا ہے۔ میرے خسر بیمار ہیں اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ کہہ کر رافرا اختیار کی۔ روئیداد اس مباحثہ کی چھپ گئی ہے۔ جس کا نام ”الحق الصریح فی اثبات حیاة المسیح“ ہے۔

یہ مسئلہ چونکہ انگریزی دانوں کے مذاق کے مطابق تھا۔ اس طبقہ کی توجہ آپ کی طرف زیادہ مبذول ہوئی اور مقصود بھی یہی تھا کہ یہ دولت مند اور ذخیل حکومت طبقہ متوجہ ہو۔ آج بھی غلمدیوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کو ابتداء میں خوش قسمتی سے کچھ شیعہ علماء کی صحبت بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ایک صاحب جو شیعہ مذہب کے عالم تھے۔ مدتوں آپ کے استاد بھی رہے۔ اس ذریعہ سے آپ کو شیعوں کے مسئلہ امامت پر کافی اطلاع حاصل ہوئی اور ختم نبوت کے انکار کا راستہ آپ کے لئے بہل ہو گیا اور آپ کے ذہن رسا نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ کس طرح ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کے لئے کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔

موقع پا کر مرزا قادیانی نے پہلے اپنے کو ایک روشن ضمیر صوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دلال مقرر کئے کہ امیروں کو ترغیب دے کر مرید کر آئیں۔ ریاست مینڈھوا ضلع علی گڑھ کے ایک واقعہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر مثل مسیح ہونے کا پھر مہدی

۱۔ جناب مولوی امیر شاہ خان صاحب ساکن مینڈھو جنگلی وفات کو چند سال ہوئے۔ معمر آدمی تھے۔ قبل غدر کے بزرگوں کے ملنے والے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد نے خود مجھ سے کہا تھا کہ رئیس مینڈھو کو میرا مرید کرادیتجئے۔ جناب مولوی امیر شاہ خان صاحب کے بیان کئے ہوئے واقعات کتاب: بیر الروایات میں ہیں جو خانقاہ اشرفیہ سے ستائع ہوئی۔



ہونے کا ادا کیا۔ مریم بھی بنے اور ابن مریم بھی بنے۔ اس کے بعد ختم نبوت کا انکار کر کے نبی بن گئے۔ کچھ دنوں اپنے کو ظلی و بروزی نبی کہتے رہے اور ۱۹۰۱ء کے بعد اپنے کو حقیقی نبی و رسول صاحب شریعت فرمانے لگے۔ اپنے کو تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل قرار دیا اور اپنے نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور ان کو طرح طرح کی گالیاں دیں اور آخر آخر میں کرشن ہونے کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ بلکہ انصاف ہے کہ مرزا قادیانی نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ کوئی رتبہ مرزا قادیانی سے چھوٹے نہیں پایا۔

ان مختلف دعویوں میں مرزا نے عجیب عجیب رنگ بدلے ہیں اور عجیب و جمل سے کام لیا ہے اور ایسی ترکیب رکھی ہے۔ اگر کہیں کسی وقت کسی دعویٰ سے کچھ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو فوراً اس سے انکار کر جائیں۔ مرزا اور مرزائیوں کی کتابوں کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد اس وجہ کا راز کھلتا ہے اور پھر کوئی بڑے سے بڑا چالاک مرزائی بھی تاویل کر کے بچ نہیں سکتا۔

غرضیکہ ان ترکیبوں سے مرزا کو خوب شہرت حاصل ہوئی اور سادہ لوحوں کو خوب شکار کیا خوب دولت حاصل کی اور خوب عیش کیا۔ عمدہ عمدہ غذائیں نفیس نفیس لباس جو کبھی اس کے باپ دادا کو بھی نصیب نہ ہوئے تھے۔ استعمال کرتا رہا اور اپنی اولاد کے لئے دولت دنیا کا بڑا ذخیرہ جمع کر گیا۔ یہ سب کچھ تو ہو چکا مگر اب وہ ہے اور دارالجزاء ہے۔ جہاں نہ اشتہار بازی کام آ سکتی ہے نہ دجل و فریب کے دعویٰ نہ حکومت انگلشیہ کی سرپرستی ان کو عذاب الہی سے نجات دلا سکتی ہے نہ مسلمانوں کی بدخواہی اور دشنام دہی سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

مرزا غلام احمد کے بعد اس کا دوست حکیم نور الدین خلیفہ ہوا اور مرزا قادیانی کی فریب کاریوں میں زندگی کے آخری دن بسر کرنے کے بعد وہ بھی چل بسا۔ اب آج کل مرزا قادیانی کا خلیفہ دوم اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود ہے۔ جو پورا مصداق اس مثل مشہور کا ہے۔ ”اگر پدر تو اند پسر تمام کند“

اپنے باپ کے مشن کو ترقی دینے اور گورنمنٹ برطانیہ کی حمایت حاصل کرنے کی ہتدبیروں کو اپنے باپ سے بہتر جانتا ہے۔ مگر بایں ہمہ، دروغ کو کہاں تک فروغ ہو سکتا ہے۔ اب غلمدیت رو بہ تنزل ہے اور باوجودیکہ اس دور فتن میں جو فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن غلمدیت پر فنا کے آثار طاری ہو چکے ہیں۔ خلیفہ دوم کے زمانہ میں غلمدیوں میں باہم سخت افتراق پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت تک ان میں پانچ فرقے مستقل پیدا ہو چکے ہیں۔

فرقہ اول، قادیانی پارٹی جس کا مقتداء خود خلیفہ دوم مرزا محمود ہے۔ فرقہ دوم، لاہوری پارٹی جس کا امام مسٹر محمد علی اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہے۔ فرقہ سوم، ظہیری پارٹی جس کا پیشوا ظہیر الدین اروپی ساکن گوجرانوالہ ہے۔ فرقہ چہارم، تھارپوری پارٹی جس کا گرو عبداللہ تھارپوری ہے۔ فرقہ پنجم، سمبڑیالی پارٹی جس کا مقتداء محمد سعید سمبڑیالی ہے۔ سمبڑیالی ایک گاؤں ضلع سیالکوٹ کے پاس ہے۔ یہ شخص اسی گاؤں کا باشندہ ہے۔

ان پانچوں فرقوں میں بڑے فرقے دو ہی ہیں۔ قادیانی اور لاہوری۔ ان دونوں کے افتراق کی بنیاد یوں پڑی کہ حکیم نور الدین کے بعد مسٹر محمد علی چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنایا جاؤں اور کچھ لوگ علمی قابلیت کے سبب سے ان کے طرفدار بھی تھے۔ مگر مرزا محمود کے سامنے ان کی نہ چلی اور باہم سخت رنجش پڑ گئی۔ عقائد کے اعتبار سے ان دونوں فرقوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو کچھ فرق بظاہر نظر آتا ہے وہ عقلمندوں کی نظر میں جنگ زرگری سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ بہر حال ان پانچوں فرقوں کے اختلاف کا بیان حسب ذیل ہے۔

### قادیانی پارٹی

برملا اعلان کے ساتھ کہتی ہے کہ مرزا حقیقی طور پر نبی تھا۔ جیسے اور انبیاء ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کا یا اس کی وحی کا نہ ماننے والا ویسا ہی قطعی کافر ہے۔ جیسے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا اور قرآن مجید کا نہ ماننے والا۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو چھپانا اور انکار ختم نبوت پر پردہ ڈالنا پسند نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ مرزا کی تعلیمات پر صحیح طور سے ہمارا ہی عمل ہے۔

### لاہوری پارٹی

کہتی ہے کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور مرزا قادیانی نے جن الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان سب الفاظ کی دوراز کار تاویلات کر کے یہ پارٹی حقیقت حال کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کو اپنا مقتداء، پیشوا، مجدد وقت، محدث، مسیح موعود سب کچھ مانتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات پر ہم ہی لوگ قائم ہیں۔ مگر انصاف یہ ہے کہ اس معاملہ میں قادیانی پارٹی برسر حق ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی تعلیمات پر اسی کا عمل ہے۔

لاہوری پارٹی واصل بڑی پالیسی سے کام لے رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان دعویٰ نبوت سے بھڑکتے ہیں اور ایسے متوحش ہوتے ہیں کہ پھر کسی طرح ان کے شکار کی امید نہیں کی جاسکتی اور ظاہر ہے کہ چند غیرہ جو کچھ وصول ہو سکتا ہے۔ وہ یا تو مسلمانوں سے وصول ہو سکتا

ہے۔ یا غلندیوں سے، غلندی تو موسیو بشیر الدین محمود کے زیر اثر ہیں۔ اب جو کچھ توقع ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہے۔ اس لئے لاہوری پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے اور مرزا کو نبی نہ ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ چنانچہ اسی پالیسی سے وہ بہت کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سادہ لوح مسلمان جس قدر جلد ان کے فریب میں آجاتے ہیں۔ قادیانی پارٹی کے قریب میں نہیں آتے۔ خواجہ کمال الدین کے پورے یورپ کے سفر اور ان سفروں کے پیش قرار اخراجات سب مسلمانوں ہی کے چندہ سے پورے ہو رہے ہیں۔ مسٹر محمد علی صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن مجید مسلمانوں ہی کے روپیہ سے یورپ میں طبع ہوا۔ یکمشت سولہ ہزار روپیہ تو تاجران ۱۔ رنگون ہی کا دیا ہوا ہے۔

قادیانی پارٹی اس مصلحت کی پروا اس وجہ سے نہیں کرتی کہ اس کے امام موسیو بشیر کو اپنے باپ کے ترکہ نے پورے طور پر مستغنی کر دیا ہے اور غلندیوں کا دولت مند طبقہ اکثر اس کے ساتھ اور مرزا قادیانی کے مقرر کئے ہوئے اصول کے مطابق ماہوار چندوں کے دینے میں سرگرم ہے۔ اس پارٹی کے پاس اس قدر دولت ہے کہ شاید کہ والیان ملک ہی ہوں گے جو دولت میں اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ابھی چند سال ہوئے کہ موسیو بشیر نے یورپ ۲ کے سفر میں لاکھ روپیہ صرف کر دیا اور خزانے کا ایک کونہ بھی خالی نہیں ہوا۔

### ظہیری پلیدی

مرزا قادیانی کو نبی و رسول سے بالاتر یعنی خدا کا مظہر اور اپنے اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔ جن میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔ اس پارٹی کا ایک

۱۔ تاجران رنگون کہ جب یہ معلوم ہوا کہ جس انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے لئے سولہ ہزار روپیہ ان سے لیا گیا تھا۔ اس میں مرزا سیت کی تبلیغ کی گئی ہے اور ترجمہ کے حاشیہ میں مرزا قادیانی کی تعلیمات درج کی گئی ہیں۔ تو تاجران رنگون نے ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو بذریعہ مطبوعہ نوٹس خواجہ کمال الدین سے جو ان دنوں رنگون میں مقیم تھے۔ اپنے روپیہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مگر روپیہ کا واپس کرنا کارے دار۔

۲۔ یورپ کے سفر میں موسیو بشیر صاحب کوٹل مسیح کا خطاب انگریزوں سے ملا، مقصود یہ تھا کہ انگریز خلیفہ مسیح کہیں۔ مگر ان کی زبان سے ٹل مسیح نکلا اور وہی مشہور ہو گیا۔ دیکھو اخبار زمیندار کے فائل۔

عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس فرقہ کا امام یعنی ظہیر الدین اروپی یوسف موعود ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ میرے بعد یوسف آئے گا۔ بس اسے یوں ہی سمجھ لو کہ خدا ہی اترا ہے۔ ظہیر الدین کہتا ہے وہ یوسف میں ہوں اور میں ہی خدا کا مظہر ہوں۔ اس پارٹی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہئے۔ کیونکہ قادیان مکہ ہے۔ وہاں خدا کے ایک رسول (یعنی مرزا) نے جنم لیا تھا۔

### تیماپوری پارٹی

بھی مرزا قادیانی کو نبی و رسول مانتی ہے۔ مگر اس کا پیشوا عبداللہ تیمارپوری مرزا سے بھی سبقت لے گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے خود اپنے بازو سے الہام ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی کتاب تفسیر آسمانی میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کا مرتکب قرار دیا ہے۔ (معاذ اللہ منہ)

### سمبر یاالی پارٹی

ان سب سے سابق القدم ہے۔ محمد سعید جو اس کا پیشوا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے قمر الانبیاء فرمایا اور کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نئی شریعت ملی تھی۔ وہ شریعت محمدیہ کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے۔ مگر اس کا موقع پورے طور پر انہیں نہیں ملا۔ یہ شخص جو اصلاحات شریعت محمدیہ کی اب تک پیش کر چکا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ شراب حلال ہے۔ اپنی رشتہ داری میں مثلاً خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں کی لڑکی سے نکاح حرام ہے۔ ختنہ حرام ہے۔ وغیر ذلک من الخرافات!

ان پارٹیوں کے علاوہ شخصی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کی برکات سے جو لوگ رونما ہو رہے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک شخص غالباً ضلع گوجرانوالہ ضلع کارہنہ والا ہے۔ جس نے اپنا نام ”رجل یسعی“ رکھا ہے اور اس نام کے رکھتے ہی اس نے اپنا گھر بستی کے کنارہ بنا لیا ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے منارۃ آس بنا لیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ”وجاء من اقصیٰ المدینۃ رجل یسعی (یسین)“ میں ہی مراد ہوں۔ میرا نام ”رجل یسعی“ ہے۔ یہ شخص ایک بڑا ٹوپ پہنتا ہے۔ جس میں صرف آنکھیں اور ناک

۱۔ جس طرح اس نے ریش کو جو عربی زبان میں بمعنی زینت ہے۔ فارسی کا لفظ قرار دے کر داڑھی کے معنی میں لے لیا۔ اسی طرح رجل یسعی کو نام بتا رہا ہے۔ حالانکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ بسے کے کنارہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔

وغیرہ کھلی رہتی ہے اور داڑھی چھپی رہتی ہے۔ کہتا ہے کہ داڑھی کا چھپانا فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ”لباسا یواری سوا تکم و ریشا“ یعنی ایسا لباس جو ریش یعنی داڑھی کو چھپائے۔

خلاصہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دین اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا کر دیا کہ اب اس رخنہ سے بے تعداد مفسد رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سب کا نصب العین یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو حضرت رحمۃ اللعالمین کے ظل رحمت سے نکال دیا جائے۔ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کی امت پر رحم فرمائے اور اس بلاء کو جلد دفع فرمادے اور سرور انبیاء ﷺ کی غلامی کا طوق گردن سے جدا نہ کرے۔ آمین ثم آمین!

ہر گز این رشتہ را خلل مرسد  
تا بہ حشرم مہار بینی باد

## فصل چہارم..... مرزا غلام احمد کے متعلق چند ضروری معلومات

مرزا قادیانی نے جو فتنے دین میں پیدا کئے اور ضروریات دین کا جس طرح انکار کر کے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم کے ساتھ تمسخر کیا اور الحاد و زندقہ کو پھیلا یا ان سب باتوں کو اگر نمونہ کے طور پر بھی بیان کیا جائے تو یہ رسالہ ایک بڑی کتاب بن جائے۔ لہذا یہاں اس کے صرف تین اوصاف بیان کئے جاتے ہیں۔ اول! یہ کہ وہ بڑا کذاب تھا۔ دوم! یہ کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں بہت کیں۔ سوم! یہ کہ اس نے نبی و رسول بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔

### مرزا قادیانی کا کذاب ہونا

دنیا میں ہمیشہ تمام اہل مذاہب بلکہ لامذہبوں نے بھی جھوٹ کو بدترین عیب سمجھا ہے۔ سوا غلمدیوں اور شیعوں کے کسی نے جھوٹے شخص کو نبی یا پیشوائے واجب الطاعت نہیں مانا۔ مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ایسا ناقابل انکار واقعہ ہے کہ خود اس کے جانثاروں کو بھی ماننا پڑا۔ چنانچہ قادیان سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے۔ جس کا نام ”نبی کی پہچان“ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں دس سے زیادہ جھوٹی ثابت نہیں ہوئیں۔ ان لوگوں کے نزدیک دس باتوں کا جھوٹ ہو جانا کوئی عیب نہیں۔ مگر افسوس کہ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اگر اور علمائے کرام کی تعینفات سے قطع نظر کر کے صرف ان کتب و رسائل کو دیکھا جائے جو خانقاہ رحمانی موگیہ سے شائع ہو چکے ہیں تو دس جھوٹ کہنے والے کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے۔

سنو! فیصلہ آسمانی حصہ اول مع تتمہ میں ۱۵۹ حرز کے فریب اور جھوٹ دکھائے گئے ہیں۔ فیصلہ آسمانی حصہ دوم میں ۴۲، مسیح کا ذب میں دو درجن یعنی ۲۴، ہدیہ عثمانیہ میں ۱۷۔ کل میزان چار سو چھیالیس ہوئی۔ صحیفہ رحمانیہ اور صحیفہ محمدیہ کے متعدد نمبروں میں جو جھوٹ مرزا قادیانی کے دکھائے گئے ہیں ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔

جھوٹ کی یہ کثرت دیکھ کر بعض غلمد یوں کو مثل مولوی عبدالماجد بھاکپوری کے منہاج نبوت تصنیف کرنی پڑی۔ جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا تمام نبیوں کا شیوہ رہا ہے۔ گویا کذب خاصہ نبوت ہے۔ (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ) اس منہاج نبوت کی بنیاد خود مرزا قادیانی اپنے ہاتھ سے رکھ گیا تھا۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے معلوم ہوگا۔

مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولنے میں ایسا مشاق تھا کہ شاید ہی کوئی امکانی جھوٹ اس سے چھوٹا ہو۔ عقلاً جھوٹ کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ گذشتہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولنا موجودہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولنا آئندہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولنا یعنی جھوٹی پیشین گوئیاں بیان کرنا مرزا قادیانی کے کلام میں یہ تینوں قسمیں جھوٹ کی بکثرت موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (اربعین نمبر ۲ ص ۹، خزائن ج ۱ ص ۳۹۴) میں لکھتا ہے۔ ”مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری اور مولوی اسماعیل صاحب علی گڑھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سچ کے سامنے مرجائے گا۔“ حالانکہ ان دونوں نے اپنی کتاب میں یہ مضمون نہیں لکھا۔ کتاب دعاوے مرزا میں اس جھوٹ کو سچ کرنے والے کے لئے مبلغ پانچ سو روپیہ نقد انعام کا اعلان ہوا۔ پھر صحیفہ رحمانیہ نمبر اول مطبوعہ ۱۳۳۲ھ میں پھر صحیفہ محمدیہ نمبر ۸ مطبوعہ ۱۳۳۵ھ میں مطالبہ کیا گیا۔ مگر کسی غلمدی نے آج تک انعام حاصل کرنے کی جرأت نہ کی اور نہ اب کر سکتا ہے۔

..... ۲ (اخبار بدر قادیان ج ۲ ص ۵۲، ۵، مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۰۶ء) میں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: ”جتنے لوگ مبالغہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے۔ سب ہلاک ہوئے۔“ حالانکہ سوا صوفی عبدالحق صاحب کے کسی سے مرزا قادیانی نے مبالغہ کیا ہی نہیں اور صوفی صاحب مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔ غلمد یوں کی کذب پرستی قابل آفرین ہے کہ اپنے پیغمبر کے اس جھوٹ کو اب تک گارہے ہیں۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین پیغام صلح مورخہ ۲۱ دسمبر ۱۹۱۶ء میں لکھتے ہیں کہ: ”کئی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہو کر اور مبالغہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگا گئے۔“ سچ ہے کاذب کے پیر و بھی کاذب ہی ہوتی ہیں۔

۳..... مرزا (اربعین نمبر ۳ ص ۱۷، خزائن ج ۱۷ ص ۴۰۴) میں لکھتا ہے کہ: ”یہ ضرور تھا کہ قرآن کریم وحدیث کی پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں یہ لکھا تھا کہ مسیح جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا اٹھائے گا۔ وہ اسے کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے۔“

اس عبارت میں چھ جھوٹ ہیں۔ کیونکہ تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک، یہ کہ مسیح علمائے اسلام کے ہاتھوں دکھا اٹھائے گا۔ دوسرے، یہ کہ علمائے اسلام مسیح کو کافر کہیں گے۔ تیسرے، یہ کہ علمائے اسلام مسیح کے قتل کا فتویٰ دیں گے اور ان تینوں باتوں میں سے ہر ایک کے لئے قرآن مجید کا حوالہ بھی دیا اور حدیث کا بھی۔ حالانکہ یہ مضامین نہ قرآن مجید میں ہیں نہ احادیث میں۔ بہاولپور کے مقدمہ میں جلال الدین شمس غلمدی نے بھی اپنی شہادت میں یہ جھوٹ بولا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جرح میں پوری حقیقت کھل جائے گی۔

۴..... مرزا اپنے رسالہ (تختہ الندوہ ص ۴، خزائن ج ۱۹ ص ۹۶) میں لکھتا ہے کہ: ”(۱) قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ (۲) رسول اللہ ﷺ نے میری گواہی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ (۴) جو یہی زمانہ ہے اور (۵) قرآن نے بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ (۶) جو یہی زمانہ ہے اور (۷) میرے لئے آسمان نے بھی گواہی دی اور (۸) زمین نے بھی اور (۹) کوئی نبی نہیں جو میرے لئے گواہی نہیں دے چکا۔“

اس عبارت میں نو جھوٹ ہیں۔ ہر جھوٹ پر ہندسہ لگا دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ پر لطف پانچواں جھوٹ ہے کہ قرآن نے مرزا قادیانی کے آنے کا زمانہ متعین کیا ہے۔ کیا کوئی غلمدی اس جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے۔

۵..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (شہادۃ القرآن ص ۴۱، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷) میں لکھتا ہے کہ: ”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفہ کی نسبت کی خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: ”هذا خلیفۃ اللہ المہدی“ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں ہے۔“

ہے کوئی غلمدی جو اس مضمون کی ایک روایت بھی صحیح بخاری میں دکھا کر اپنے پیغمبر کی

پیشانی سے اس داغ کو مٹائے۔

۶..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (نشان آسمانی ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۳۷۸) میں لکھتا ہے کہ: ”جاننا چاہئے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ حدیث صحیح ہو چکی ہے کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لئے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ لیکن چودھویں صدی کے لئے یعنی اس بشارت کے بارہ میں جو ایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو ان سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا۔“

خدا کی پناہ اس جھوٹ کی کوئی حد ہے۔ کسی حدیث میں نہ چودھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں صدی میں مہدی کے آنے کا، نہ چودھویں صدی کے مجدد کے بارہ میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اشارات یا بشارت ہے۔ کیا کسی غلمدی میں ہمت ہے کہ کوئی ایک روایت اس مضمون کی کسی کتاب میں دکھلا دے۔

کیوں غلمدیو! نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جھوٹے حوالے کتابوں کے دے دے کر جاہلوں کو بہکایا کریں۔

۷..... (چشمہ معرفت ص ۲۸۶، خزائن ج ۲۳ ص ۲۹۹) میں مرزا نے لکھا ہے کہ: ”ہمارے نبی کریم ﷺ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔“

کیا تاریخ و سیر یا حدیث کی کسی کتاب میں کوئی غلمدی دکھا سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے گیارہ بیٹے ہوئے فوت ہو جانا تو بیچھے کی بات ہے۔

۸..... مرزا قادیانی اپنے اشتہار مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۷ء میں جس کی سرخی ہے۔ ”عام مریدوں کی ہدایت“ لکھتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں۔

کیا کوئی غلمدی کسی روایت، حدیث میں وبائی مقام سے بھاگ جانے کا حکم دکھا کر اپنے پیغمبر کو دروغ گوئی کی ذلت و خواری سے بچا سکتا ہے۔

۹..... مرزا قادیانی (تحدہ غزنویہ ص ۵۶، خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۵) میں لکھتا ہے: ”یہ تمام دنیا کا جانا ہوا مسئلہ اور اہل اسلام اور نصاریٰ و یہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیشین گوئی بغیر شرط و توبہ اور استغفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے۔“



پھر اسی رسالہ (تخفہ نو یہ ص ۶، خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۶) میں لکھتا ہے: ”وَعِدِیْ عَذَابِ کِیْ بِشِیْنِ گُوْنِیْ کِیْ نَبَسْتِ خَدَائِیْ تَعَالٰی کِیْ یٰہِیْ سَنْتِ ہِے کَہْ خَوَہْ پِشِیْنِ گُوْنِیْ مِیْنِ شَرْطِ ہُو یَا نَہْ ہُو تَضَرِّخْ اَوْرِ تَوْبَہْ اَوْرِ خَوْفِ کِیْ وَجِہْ سَے نَال دِیْتَا ہِے۔“

حالانکہ یہ سب کذب صریح ہے اور تمام دنیا پر افتراء ہے اور اس کو خدائے تعالیٰ کی سنت کہنا مرزا قادیانی کی بے دینی اور گستاخی کی روشن دلیل ہے۔ کیا کوئی غلمدی کسی کتاب سے اس عقیدہ کو دکھلا کر مرزا قادیانی کو دروغ گوئی کی لعنت سے بچا سکتا ہے۔

قرآن مجید پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ: ”لَا تَحْسِبَنَّ اللّٰهَ مَخْلَفَ وَعْدَہٗ رَسُلَہٗ“ یعنی خدا اپنا وعدہ (خصوصاً) اپنے رسولوں سے خلاف نہیں کرتا۔ مگر مرزا قادیانی اس قرآنی اعلان کے خلاف خدا کی وحدہ خلتی کو متفق علیہ عقیدہ اور سنت اللہ کہہ رہا ہے۔

۱۰..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (انجام آقلم ص ۳۰، خزائن ج ۱۱ ص ۳۰) میں لکھتا ہے کہ: ”خَدَائِیْ تَعَالٰی نَے یُوْسُفِیْ نَبِیْ کُو قَطْعِیْ طَوْرِ پَر چالیس دن تک عذاب نازل کرنے کا وعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا۔ جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی۔ جیسا کہ تفسیر کبیر ص ۱۶۴ اور امام سیوطی کی تفسیر درمنثور میں احادیث صحیحہ کی رو سے اس کی تصدیق موجود ہے۔“

پھر اسی (انجام آقلم ص ۳۲، ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲، ۳۱) میں ہے کہ: ”جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کے شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشین گوئی میں بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس اجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لئے منہ پھیرنا اگر بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔“

اس عبارت میں چھ عدد جھوٹ و افتراء ہیں۔ خدا پر افتراء، رسول یعنی آنحضرت ﷺ پر افتراء، حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر افتراء، تفسیر کبیر پر افتراء، تفسیر درمنثور پر افتراء، اجماعی عقیدہ کہہ کر تمام امت پر افتراء، ہرگز ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے کہ قطعی وعدہ چالیس روز کا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۸۸) میں صاف موجود ہے کہ نزول عذاب کا وعدہ مشروط تھا کہ اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب آئے گا اور ہرگز ہرگز کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں بچنے ہو سکتا ہے کہ خدا کا وعدہ اور پھر وہ بھی قطعی مثل جاتا ہے۔

مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین گوئیوں پر جب گرفت ہوئی تو اس نے یہ بات بتائی کہ تنہا میں ہی جھوٹا نہیں ہوں۔ بلکہ اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہو چکی ہیں۔ خدا کی عادت یہی ہے

کہ عذاب کی پیشین گوئی کہ جو اگرچہ وہ مشروط بھی نہ ہو ٹال دیا کرتا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

.....۱۱..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵) میں لکھتا ہے:

”اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔“

کچھ حد اس بیباکی کی ہے کہ قرآن شریف کا جھوٹا حوالہ دیتے ہوئے بھی شرم نہیں کرتا۔ ہے کوئی غلمدی جو قرآن شریف میں یہ مضمون دکھلا کر اپنے پیغمبر کو کذب کی رو سیاہی سے بچالے۔

.....۱۲..... غلمدیوں میں ایک بڑا نامور شخص مولوی عبدالکریم تھا۔ اس کے سرطان کا

پھوڑا نکل آیا۔ مرزا قادیانی نے اس کے لئے بڑی دعائیں مانگیں اور اپنے الہام شائع کئے کہ خدا نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ وہ شفا پائیں گے۔ اخبار الحکم قادیان کے پرچے ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء لغایت اکتوبر ۱۹۰۵ء دیکھو کہ کس قدر پیشین گوئیاں مولوی عبدالکریم کے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک پرچہ کی عبارت بلفظ یہ ہے۔ ”حضرت اقدس (یعنی مرزا غلام احمد) حسب معمول تشریف لائے اور ایک رو یا بیان کی جو بڑی ہی مبارک اور مبشر ہے۔ جس کو میں نے اس مضمون کے آخر میں درج کر دیا ہے۔ فرماتے تھے۔ آج تک جس قدر الہامات و مبشرات ہوئے۔ ان میں نام نہ تھا۔ لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے خود مولوی عبدالکریم صاحب کو دکھا کر صاف طور پر بشارت دی ہے۔ (الحکم ج ۹ ش ۳۲ ص ۲، مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء)

مگر جب مولوی عبدالکریم اسی بیماری میں مر گئے تو مرزا قادیانی نے (حقیقت الہی ص ۳۲۶، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۹) میں لکھا کہ: ”۱۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء کو ہمارے ایک مخلص دوست مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اسی بیماری کا رنیکل یعنی سرطان سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے لئے بھی میں نے دعاء کی تھی۔ مگر ایک بھی الہام ان کے لئے تسلی بخش نہ تھا۔“

یہاں دو جھوٹ مرزا قادیانی نے بولے۔ اول! یہ کہ مولوی عبدالکریم کے صحت کی جھوٹی پیشین گوئی کی دوم! یہ کہ مولوی عبدالکریم کی صحت کے متعلق اپنا الہام شائع کر چکے تھے اور اس کو صاف طور پر بشارت کہہ چکے تھے۔ مگر اب کہتے ہیں کہ کوئی تسلی بخش الہام تھا ہی نہیں۔

.....۱۳..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (دافع البلاء ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں لکھتا

ہے: ”خدا نے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کو اس (طاعون) کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔“

غلمدیوں نے اپنے پیغمبر کی اس پیشین گوئی کو نہایت متکبرانہ لہجہ میں شائع کیا اور مرزا قادیانی خود بھی حسب عادت بہت اترایا۔ مولوی عبدالکریم مذکور الصدر نے بھی ایک بڑا مضمون اس پر لکھا اور لکھا کہ یہ مرزا قادیانی کے لئے شفاعت کبریٰ کے منصب کا ثبوت ہے کہ قادیان کے تمام لوگوں کو مسلم ہوں یا غیر مسلم اپنے سایہ شفاعت میں لے لیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر تمام دنیا جانتی ہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اور خوب پھیلا۔ قادیان کی کل مردم شماری اس وقت ۲۸۰۰ تھی۔ جس میں سے ۱۳۱۳، موتیں طاعون سے ہوئیں۔ پہلے تو غلمدیوں نے اس واقعہ کے چھپانے کی کوشش کی۔ مگر بالآخر اقرار کرنا پڑا۔

(اخبار بدر قادیان ج ۱ اش ۸ ص ۵۸، مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۰۲ء، مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء، مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۲ء) مرزا قادیانی نے اپنے اس جھوٹ کی یہ تاویل کی کہ وحی الہی میں قادیان کا لفظ نہ تھا۔ قریہ کا لفظ تھا۔ دیکھو اخبار (بدر ج ۱ اش ۶ ص ۶، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء) یہ دوسرا جھوٹ مرزا قادیانی کا ہوا کہ خود ہی دافع البلاء میں لکھا کہ خدائے قادیان کا نام لے دیا اور اب کہتا ہے کہ وحی میں قادیان کا نام نہ تھا۔

۱۳..... ڈپٹی عبداللہ آتھم عیسائی کی موت کی پیشین گوئی! جو ایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی تھی اور اس کے جھوٹے ہونے پر مرزا قادیانی کی ذلت بھی ایسی ہوئی کہ کوئی باحیا ہوتا تو پھر منہ نہ دکھاتا۔

۱۔ اپنے مخالفوں کو موت و عذاب وغیرہ کی پیشین گوئیاں کر کے ڈرانا مرزا قادیانی کی عادت میں داخل ہو گیا تھا اور اس کا سلسلہ بوجہ بے حیائی کے روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مولوی محمد حسین بنا لوی مرحوم کے متعلق ایک پیشین گوئی اسی قسم کی بیان فرمائی۔ اس پر مقدمہ چل گیا۔ مرزا قادیانی نے بڑی کوششیں کیں۔ مگر سب بے سود رہیں۔ آخر بڑی ذلت کے ساتھ کچھری جانا پڑا اور سب سے زیادہ ذلت یہ کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ مرزا قادیانی سے ایک اقرار نامہ لے لیا جائے کہ آئندہ ایسی حرکت کسی مسلمان یا ہندو یا عیسائی کے ساتھ نہ کریں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اقرار نامہ لکھ کر داخل کیا۔ اس اقرار نامہ میں صاف الفاظ میں لکھا کہ اب میں کسی کے متعلق ایسی پیشین گوئی نہیں کروں گا۔ نہ کبھی کسی کے لئے بد دعاء شائع کروں گا۔ یہ فیصلہ ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء کا ہے۔ قابل دید ہے سمجھدار کے لئے تو یہی واقعہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر مرزا قادیانی مامور من اللہ ہوتا تو کبھی ایسا اقرار نہ کرتا۔ صاف کہہ دیتا کہ میں خدا کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں کسی کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکتا۔ چاہے مجھے مار ڈالو۔ دیکھو رسول خدا ﷺ سے جب کفار مکہ نے کہا آپ ﷺ تلخ نہ کیجئے اور ابوطالب نے بھی آپ ﷺ کو سمجھایا تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ اے چچا میں خدا کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں اور اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب دوسرے میں ماہتاب رکھ دیا جائے تب بھی چھوڑ نہیں سکتا۔

مرزا قادیانی نے امرتسر میں عیسائیوں سے مباحثہ کے بعد ۱۸۹۲ء کو اپنے حریف مسٹر عبداللہ آتھم کے متعلق یہ پیشین گوئی کی۔ (جنگ مقدس ص ۱۸۸، خزائن ج ۶ ص ۲۹۲، ۲۹۳) میں لکھتے ہیں کہ: ”آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور اجتہاد سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہیں دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سو جا کھے کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔“

پھر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“ (جنگ مقدس ص ۱۸۸، خزائن ج ۶ ص ۲۹۲، ۲۹۳)

یہ عبارت مرزا قادیانی کی انہیں کے الفاظ میں ہے۔ مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اس پیشین گوئی اور اس کے پر زور الفاظ سے آتھم ڈر جائے گا اور ڈر کر مرزا قادیانی کا مرید ہو جائے گا۔ مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ پندرہ مہینہ گزر گئے اور آتھم بدستور صحیح و سالم موجود رہا، نہ وہ مرا، نہ ہاویہ میں گرا۔

عیسائیوں نے ۶ ستمبر ۱۸۹۳ء کو جب مرزا قادیانی کے پیشین گوئی کی تکذیب ہو چکی۔ ہر جگہ جشن کئے بڑے بڑے اشتہارات نکالے اور مرزا قادیانی کو خوب ہی ذلیل کیا کہ اس ذلت کو خیال کر کے آج روٹنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عبرت کے لئے بعض اشتہارات کی نقل حسب ذیل ہے۔ اہل لودھیانہ کی طرف سے حسب ذیل اشتہار نکلا۔

## قول صائب

مد ہے مہائل کو یہ آسمانی  
بنمائی بہ صاحب نظرے گوہر خود را  
ارے او خود غرض خود کام مرزا  
غلامی چھوڑ کر احمد بنا تو  
مسح و مہدی موعود بن کر  
ہوا بحث نصاریٰ میں باختر  
میبینے پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے  
ترمی تکذیب کی شمس و قمر نے  
ڈبویا قادیان کا نام تو نے  
کہاں ہے اب وہ تیزی پیش گوئی  
اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مرتو  
بشیر! آیا تھا کیا کم کر گیا تھا  
کیا تھا اس نے تجھ کو زندہ درگور

ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی  
عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند  
ارے منحوس نافر جام مرزا  
رسول حق باستحکام مرزا  
بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا  
سیجائی کا یہ انجام مرزا  
ہے آتھم زندہ اے ظلام مرزا  
ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا  
کہیں کیا اے بدو بدنام مرزا  
جو تھا شیطان کا الہام مرزا  
بظاہر اس میں ہے آرام مرزا  
ترا اعزاز اور اکرام مرزا  
دیا تھا تجھ کو سخت الزام مرزا

۱۔ یہ اشارہ ہے مرزا کی اس پیشین گوئی کی طرف جو انہوں نے اپنے اشتہار مرقومہ (۱۸ اپریل ۱۸۸۶ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱) میں کی تھی کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ جس کا نام عموائل اور بشیر بھی ہے۔ اس لڑکے کے اوصاف مرزا قادیانی نے کئی سطروں میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ صاحب شکوہ اور عظمت و دولت ہوگا۔ سخی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو پیاریوں سے صاف کرے گا۔ سخت ذہین و فہیم ہوگا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ گویا کہ خدا آسمان سے اتر زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ تو میں اس سے برکت پائیں گی۔ وغیرہ وغیرہ۔ (۷ اگست ۱۸۸۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۳۱) کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ وہ لڑکا میرے یہاں پیدا ہو گیا اور اس پر بڑی توحیدی مخالفتوں کو کی۔ مگر جب وہ لڑکا سولہ ماہ کی عمر میں مر گیا اور مرزا قادیانی کا کذب سب پر ظاہر ہو گیا تو (یکم دسمبر ۱۸۸۸ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۶۵) کو مرزا قادیانی نے ایک رسالہ شائع کیا۔ جس کا نام ”حقانی تقریر واقعہ وقات بشیر“ رکھا۔ اس رسالہ میں خود اپنی شائع کردہ تحریرات کے خلاف بڑی بیباکی سے مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں نے یہ ہرگز نہیں لکھا کہ وہ فرزند موعود ہی لڑکا ہے۔ اس دلیری سے جموٹ بولنا تھا کہ مرزا قادیانی ہی کا حصہ تھا۔

یہ اس ہونسی کا ہے انعام مرزا  
 ندامت کا نہ پیتا جام مرزا  
 سپہ رو ہوگا پیش عام مرزا  
 کہ نہ جاوے تجھے سرسام مرزا  
 رعایا کا نہیں یہ کام مرزا  
 پڑا کہلا نبی تام مرزا  
 اور اک ہجڑوں کا بے اندام مرزا  
 ہے کاذب خارج از اسلام مرزا  
 سلف کو دے رہا دشنام مرزا  
 ترے وہ ٹل گئے احلام مرزا  
 کبھی ایسے بھی تھے ایام مرزا  
 کھلے تیرے چھپے اصنام مرزا  
 یہی سحری کا ہے پیغام مرزا

لیکن تو نہ آیا باز پھر بھی  
 نہ کہتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو  
 گلے میں اب ترے رسا پڑے گا  
 سزا بھی کم سے کم اتنی تو ہوگی  
 ہے سولی اور پھانسی کار سرکار  
 مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا  
 کہ اک بھائی ہے مرشد بھگیوں کا  
 کہا سلامیوں نے خلف پا کر  
 تو ہے اک انبیائے بعثت میں سے  
 زمین و آسمان قائم ہیں اب تک  
 براہین سے لھگے تو نے مسلمان  
 بجز اللہ کہ چھپ کر فتح و توضیح  
 در توبہ ہے واہو جا مسلمان

### ایضاد دیگر

نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی  
 یہ گونج اٹھا امرتسر چھٹی ستمبر کی  
 یہ ریل ہے تیرا خرا چھٹی ستمبر کی  
 ترے مریدوں پہ محشر چھٹی ستمبر کی  
 کہ جینا ہو گیا دو بھر چھٹی ستمبر کی  
 مرید اعرج و اعور چھٹی ستمبر کی  
 یہ کہتی پھرتی تھی گھر گھر چھٹی ستمبر کی  
 ملاحظہ کا وہ رہبر چھٹی ستمبر کی  
 مہلبہ کا اثر گر چھٹی ستمبر کی

غضب بھی تجھ پر شکر چھٹی ستمبر کی  
 ہے کادیانی ہی جھوٹا مرا نہیں آتھم  
 ترے حریف کو فیروز پور سے لائی  
 ذلیل و خوار ندامت چھپا رہی تھی کہ تھا  
 یہ لودھیانہ میں مرزائیوں کی حالت تھی  
 سوا برس کے تھے امیدوار سب مایوس  
 مسیح دہدی کاذب نے منسکی کھائی خوب  
 ہے روسیاء مثل مسیح واسود  
 یہ کادیانی کی تذلیل کے لئے بھی نہ تھا

۱۔ اشارہ ہے مرزا قادیانی کے اس قول کی طرف کہ اس نے لکھا ہے کہ خردجال سے مراد

ریل ہے۔

## عیسائیوں کا ایک اشتہار بھی ملاحظہ ہو

ایسی مرزا کی گت بنائیں گے  
خاتمہ ہوگا اب نبوت کا  
ارے سن او رسول قادیانی  
نہ باز آیا تو کبھی بکنے سے اب بھی  
نچاوے ریچھ کو جیسے قلندر  
نچاویں تجھ کو بھی اک ناچ ایسا

سارے الہام بھول جائیں گے  
پھر فرشتے کبھی نہ آئیں گے  
لعین وبے حیاء شیطان ثانی  
بڑھاپے میں ہے یہ جوش جوانی  
یہ کہہ کہہ کر تری مر جاوے ثانی  
یہی ہے اب مسمم دل میں ٹھانی

## رسول قادیانی کو پھر الہام ہوا

توڑ ہی ڈالیں گے وہ نازک کلائی آپ کی  
بات یہ کب چھپ سکے گی اب چھپائی آپ کی  
بات اب بنتی نہیں کوئی بنائی آپ کی  
کون مانے ہے بھلا یہ کج ادائی آپ کی  
بات سچی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی  
کر رہا بیشک ہے شیطان رہنمائی آپ کی  
اس کو کب منظور ہے اک دم جدائی آپ کی  
رات دن کرتا وہی ہے پیشوائی آپ کی  
کس بلا میں اس نے دیکھو جان پھنسی آپ کی  
دیکھو کیسی ناک میں اب جان آئی آپ کی  
آبرو سب خاک میں کیسی ملائی آپ کی  
کس لئے کرتا نہیں مشکل کشائی آپ کی  
جو گلی کوچوں میں کرتے تھے بڑائی آپ کی  
ڈوم کجھر دھریئے کجھرے قصائی آپ کی  
جانتے ہیں ہم یہ ساری پارسائی آپ کی

بچہ آتھم سے مشکل ہے رہائی آپ کی  
آتھم اب زندہ ہیں آکر دیکھ لو آنکھوں سے خود  
کچھ کرو شرم و حیا تاویل کا اب کام کیا  
جھوٹ کوچ اور سچ کو جھوٹ بتلانا صریح  
جھوٹ ہیں باطل ہیں دعویٰ قادیانی کے سبھی  
ہو گیا ثابت ہے سب اقوال بد سے آپ کے  
اپنے پنجہ سے نہیں شیطان تمہیں دیتا نجات  
تم ہو اس کے اور اب وہ ہے تمہارا یار غار  
ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار  
ہر طرف سے لعنت اور پھنکار اور دھکار ہے  
خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا  
ہے کہاں اب وہ خدا جس کا تمہیں الہام تھا  
اب بتاؤ ہیں کہاں وہ آپ کے پیر و مرید  
کرتے ہیں تعظیم جھک جھک کر تو حاصل اس سے کیا  
آپ نے خلقت کے ٹھگنے کا نکالا ہے بیڈھنگ

کچھ کرو خوفِ خدا کیا حشر کو دو گے جواب  
 ڈھیٹ اور بے شرم بھی ہوتے ہیں عالم میں مگر  
 کر کے منہ کا اگدھے پر کیوں نہیں ہوتے سوار  
 داڑھی سر او موچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے  
 آپ کے دعویٰ کو باطل کر دیا حق نے تمام  
 اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے  
 سخت گمراہ ہو نہیں سمجھے مسیح کی شان کو  
 خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہو گے سرخرو  
 اب دام مکر اور کسی جا بچھائیے  
 بس ہو چکی نماز مصلیٰ اٹھائیے  
 مرزا قادیانی نے خود بھی اپنی تحریرات میں لکھا ہے کہ پیشین گوئی کی معیاد ختم ہونے پر  
 مخالفوں نے بہت خوشی کی اور مرزا قادیانی کی تذلیل و توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ چنانچہ  
 (سراج منیر ص ۷، خزائن ج ۱۲ ص ۵۴) میں لکھتے ہیں۔ ”انہوں نے پشاور سے لے کر اللہ آباد اور بمبئی  
 اور کلکتہ اور دور دور کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر ٹھٹھے کئے اور یہ  
 سب مولوی یہودی صفت اور اخباروں والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ ملاتے ہوئے تھے۔“  
 اب یہ تماشا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب اس طرح کھلم کھلا مرزا قادیانی کا جھوٹ  
 ظاہر ہوا اور ایسے زور و شور کی پیش گوئی ان کی غلط ہو گئی تو انہوں نے کس طرح اپنے جال میں پھنسے  
 ہوئے لوگوں کو سمجھایا۔ مرزا قادیانی نے اس موقع پر کئی رنگ بدلے اور پے در پے کئی مختلف  
 تاویلیں کیں جن کو ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلی تاویل

”یہ ہے کہ جو فریق جھوٹا ہو وہ پندرہ ماہ کے اندر بسزائے موت ہاویہ میں گرایا جائے گا۔  
 اس سے مراد صرف آتھم نہ تھا بلکہ تمام وہ عیسائی جو اس مباحثہ میں اس کے معاون تھے۔“

(انوار الاسلام ص ۲، خزائن ج ۹ ص ۲)

جواب اول..... یہ کہ خود مرزا قادیانی کی تصریح موجود ہے کہ یہ پیشین گوئی  
 خاص آتھم کے متعلق تھی۔ (کرامات الصادقین اخیر ص ۱۶۳) میں مرزا قادیانی لکھتے  
 ہیں۔ ”ومنہا ما وعدنی ربی ان جسد لنی رجل من المتنصرین الذی اسمہ



عبداللہ آتہم الی ان قال فاذا بشرنی ربی بعد دعوتی بموتہ الی خمسة عشر  
شہر“ نیز (ثریق القلوب ص ۱۱، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۸) میں لکھتے ہیں۔ ”آتھم کے موت کی جو پیشین  
گوئی تھی۔ جس میں شرط یہ تھی کہ اگر آتھم پندرہ مہینے کی میعاد میں حق کی طرف رجوع کر لیں گے تو  
موت سے بچ جائیں گے۔“

دوسرا جواب..... یہ کہ اچھا صرف آتھم مراد نہ تھا تو اور بھی پریشانی مرزا کو لاحق  
ہوگئی۔ آتھم کے علاوہ تمام ان عیسائیوں کا جو شریک بحث تھے پندرہ ماہ کے اندر مر کر ہاویہ میں گرنا  
ثابت کرنا پڑے گا۔

### دوسری تاویل

یہ کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کر لیا۔ اس لئے نہیں مراد اور حق کی طرف رجوع نہ  
کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پیشین گوئی سے ڈر گیا تھا۔ (انوار الاسلام ص ۵، خزائن ج ۹ ص ۵)  
جواب..... اس کا یہ ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ  
ڈر جائے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی الہامی عبارت کا سیاق و سباق صاف بتلا رہا ہے کہ حق کی طرف  
رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آتھم عیسائیت کو ترک کر کے مرزائی ہو جاوے۔ کیونکہ مرزا قادیانی  
لکھتے ہیں۔ ”جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے۔“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مراد سچ کی  
ہے اسی کی طرف رجوع مراد ہے۔

مرزا قادیانی نے اس بات کے ثبوت کے لئے کہ آتھم ڈر گیا تھا۔ اپنا پورا زور ختم  
کر دیا۔ بڑے بڑے اشتہار دیئے۔ آتھم کو لکھا کہ تم قسم کھا جاؤ کہ ڈرے نہیں۔ تو ایک ہزار بلکہ دو  
ہزار بلکہ تین ہزار بلکہ چار ہزار انعام دوں گا۔ آتھم نے بجواب اس کے لکھا کہ قسم کھانا میرے  
مذہب میں منع ہے اور انجیل کا حوالہ دیا۔ مرزا قادیانی نے بجواب اس کے لکھا کہ عیسائیوں کے  
پیشواؤں نے عدالت میں قسمیں کھائی ہیں۔ آتھم نے لکھا کہ مجھے بھی عدالت میں طلب کر لے  
عدالت کے جبر سے میں بھی قسم کھا لوں گا۔

ایک موقع پر مرزا قادیانی نے بدحواس ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ آتھم نے عین جلسہ مباحثہ  
میں حق کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اس وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ (کشتی نور ص ۶، خزائن  
ج ۱۹ ص ۶) میں لکھتے ہیں۔ ”اس (آتھم) نے عین جلسہ میں متر معزز آدمیوں کے رویہ  
آنحضرت ﷺ کو دجال کہنے سے رجوع کیا اور پیشین گوئی کی بناء یہی تھی کہ اس نے

آنحضرت ﷺ کو دجال کیا تھا۔“

مرزا قادیانی کی حالت پر افسوس ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس نے عین جلسہ میں رجوع کر لیا تھا تو آپ نے جلسہ کے اختتام کے بعد پیشین گوئی کیوں کی، عجب خبط ہے جس کا سر نہ پیر۔

تیسری تاویل

مرزا قادیانی نے سب سے لطیف یہ کی کہ عبداللہ آتھم چونکہ میری پیشین گوئی سے ڈر گیا اور بہت گھبرایا۔ اس گھبراہٹ نے اس کی زندگی تلخ کر دی۔ یہی مصیبت اور تلخی ہاویہ ہے۔ جس میں وہ گرا۔ لہذا پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ باقی رہی موت کی پیشین گوئی تو وہ اصل الہامی عبارت میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ میں نے اپنی طرف سے بغیر الہام کر دی تھی۔ اصل الفاظ مرزا قادیانی کے یہ ہیں۔ (انوار الاسلام ص ۲، خزائن ج ۹ ص ۲) میں لکھتے ہیں۔ ”ہاویہ میں گرائے جانا جو اصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللہ آتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کا دامنگیر ہو گیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت اس کے کمال کے لئے ہے۔ جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بیشک یہ مصیبت ایک ہاویہ تھا۔ جس کو عبداللہ آتھم نے اپنی حالت کے موافق بھگت لیا۔“

ناظرین کرام! ذرا انصاف سے دیکھیں کبھی تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا۔ اس لئے وہ ہاویہ میں گرنے سے بچ گیا اور کبھی فرماتے ہیں کہ وہ ہاویہ میں گرا، یہ بدحواسی نہیں ہے تو کیا ہے؟

مرزا قادیانی کا یہ لکھنا سزائے موت کا ذکر الہامی عبارت میں نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ الہامی عبارت میں ہو آپ کی پیشین گوئی میں صاف صاف ہے اور آپ نے قسم کھا کر لکھا ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیا کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے۔ مجھ کو پھانسی دیا جائے۔ ہر ایک باہگے کے لئے تیار ہوں۔ اللہ جلشانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور کرے گا۔

چوتھی بات جو نہایت عجیب و غریب ہے یہ ہے کہ جب آتھم میعاد پیشین گوئی ختم

ہونے کے کئی سال بعد یعنی ۲۷ جولائی ۱۸۹۶ء کو مرگیا تو مرزا قادیانی بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں۔ میری پیشین گوئی پوری ہوگئی اور (حقیقت الوحی ص ۱۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۳) میں ہے۔ ”اگر کسی کی نسبت یہ پیشین گوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینہ تک مجذوم ہو جائے گا۔ پس اگر وہ بجائے پندرہ مہینے کے بیسویں مہینہ میں مجذوم ہو جائے اور ناک اور تمام اعضاء گر جائیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کہے کہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ نفس واقعہ پر نظر چاہئے۔“ اہل انصاف دیکھیں کہ مرزا قادیانی کیا لکھ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ موت کی پیشین گوئی الہام میں تھی ہی نہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اس مدت کے بعد بھی وہ مرگیا تو موت کی پیشین گوئی پوری ہوگئی۔

اس سے بھی زیادہ لطیف بات جو ایماندار کو حیرت میں ڈال دے یہ ہے کہ مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۱۹ ص ۶) میں لکھتے ہیں کہ: ”پیشین گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کی رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سو وہ آتھم مجھ سے پہلے مر گیا۔“ ناظرین پیشین گوئی کے الفاظ اور نقل ہو چکے۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں اس میں پہلے پیچھے کا ذکر نہیں پندرہ مہینہ کی موت قید ہے۔ جھوٹ بولے تو اتنا تو نہ بولے۔“ لا حول ولا قوۃ الا باللہ!

۱۵..... منکوٰۃ آسمانی کی جھوٹی پیشین گوئی جو ایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی تھی اور مرزا قادیانی کے جھوٹے اور بد سے بدتر ہونے کے لئے لقطعی شہادت ہے۔ منکوٰۃ آسمانی کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ مگر یہاں پوری تفصیل سے نہیں لکھا جاسکتا۔ مختصر یہ ہے کہ مسماۃ محمدی بیگم دختر مرزا احمد بیگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی قریمی رشتہ دار تھی۔ مرزا کو اس کے ساتھ عشق و محبت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ سودا جسہ سر میں سماتا ہے۔ اس کی جو حالت ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ سیدھے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کی جاتی تو منظوری کی امید نہ تھی۔ کون اپنی نوجوان لڑکی کا نکاح ایک ایسے بوڑھے کے ساتھ کرویتا جس کے بی بی بیچے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہی کذاب و دجال بھی ہو۔

لہذا مرزا قادیانی نے ایک وحی تصنیف کی کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ محمدی بیگم تیرے عقد میں آئے گی اور اس کا نکاح آسمان پر تیرے ساتھ پڑھ دیا گیا۔ اب تو دنیا میں اس نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔ اگر لڑکی کا باپ اس نکاح پر آمادہ ہو گیا تو بڑی خیر و برکت لڑکی اور اس کے باپ دونوں کے لئے ہوگی۔ ورنہ دونوں کا انجام برا ہوگا۔ جس شخص کے ساتھ وہ بیابانی جائے گی وہ شخص نکاح کے دن سے ڈھائی سال تک اور لڑکی کا باپ تین سال تک مر جائے گا۔

اپنی اس وحی کو مرزا قادیانی نے حسب عادت بڑے بڑے اشتہارات میں شائع کیا اور اس پیشین گوئی کو اپنی صداقت کا معیار قرار دیا اور اعلان دیا کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ تو بے شک میں جھوٹا اور بد سے بدتر ہوں اور یہ نکاح میرے مسیح موعود ہونے کی خاص علامت ہے۔ ان اشتہارات کے بعد مخفی کوششیں بھی مرزا قادیانی نے بہت کیں۔ مسماۃ مذکورہ کے باپ احمد بیگ کے بہن کی لڑکی عزت بی بی مرزا قادیانی کے لڑکے فضل احمد کے نکاح میں تھی مرزا قادیانی نے اپنے لڑکے سے بھی خط لکھوائے اور خود بھی لکھے۔ ایک خط میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ عزت بی بی کو اپنے لڑکے سے طلاق دلوادوں گا۔ غرضیکہ تدبیر اور کوشش میں مرزا قادیانی نے کمی نہیں کی۔ مگر قسمت سیدھی نہ تھی۔ احمد بیگ نے فوراً اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے کر دیا۔ مرزا غلام احمد نے بہت کچھ بیچ و تاب کھایا۔ مگر ہوسکتا تھا پیشین گوئی بڑی دھوم سے جھوٹی ہوگئی۔

جب محمدی بیگم کا نکاح دوسرے شخص سے ہو گیا تو مرزا قادیانی نے بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ وہ باکرہ ہونے کی حالت میں میرے عقد میں آئے گی۔ وہ ضرور بیوہ ہوگی اور ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ جلدی کیوں کرتے ہو۔ اگر یہ نکاح نہ ہو تو میں جھوٹا۔ جھوٹے مدعی نبوت کو خدا اسی طرح ذلیل کرتا ہے۔ مرزا قادیانی مر گیا اور محمدی بیگم سے اس کا نکاح نہ ہوا اور محمدی بیگم مع اپنے شوہر مرزا سلطان محمد کے خوش و خرم و موجود ہے۔ (نوٹ: محمدی بیگم ۲۱ نومبر ۱۹۶۶ء کو لاہور میں وفات پانگیں۔ مرتب)

اب اس قصہ کے متعلق چند مختصر ضروری عبارتیں مرزا کی نقل کی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے اشتہار مرقومہ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء) میں لکھتا ہے۔ ”اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھ سے فرمایا کہ اس شخص (یعنی مرزا احمد بیگ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور تم ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسری شخص سے یہ ایسا جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی ۱ سال تک

۱۔ ایسی زبردست پیشین گوئی کا (جس میں ایسی قریب کی مدت معین کر کے اس طرح کسی کی موت اور اس کی اولاد کی بربادی و تباہی اس طرح صاف صاف بیان کی گئی ہو) پورا نہ ہونا محض قدرت خداوندی ہے۔

اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔“

پھر مرزا قادیانی (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷) میں لکھتا ہے۔ ”چاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی لہ بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ باتیں یوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے گلڑے گلڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔“

پھر محمدی بیگم کا دوسرے شخص کے ساتھ نکاح ہونے پر جب مرزا قادیانی کی گرفت کی گئی تو اس نے الحکم مورخہ ۳۰ جون میں حسب ذیل جواب دیا۔ ”وہی الہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیاہی نہیں جائے گی۔“

پھر مرزا قادیانی نے (شہادۃ القرآن ص ۸۱، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶) میں یہ بھی تصریح کر دی کہ یہ پیشین گوئی دراصل چھ پیشین گوئیوں پر شامل ہے۔ عبارت اس کی بلفظ یہ ہے۔ ”ان میں وہ پیشین گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔“

۱..... مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

۲..... پھر اس کا داماد اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

۳..... پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔

۴..... پھر یہ کہ وہ دختر بھی تانکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی فوت نہ ہو۔

۵..... پھر یہ کہ عاجز بھی ان تمام واقعات سے پورے نہ ہونے تک فوت نہ ہو۔

۶..... پھر کہ اس عاجز سے نکاح ہو جائے۔“

پھر مرزا قادیانی (انجام آتھم ص ۳۰، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱) لکھتا ہے۔ ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ (یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں) اس کی

۱! یہاں سے اخیر عبارت تک سب الفاظ دیکھتے جاؤ مرزا قادیانی کی شرافت و تہذیب

کا عمدہ نمونہ ہے

انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔“  
 پھر (انجام آتم ص ۵۴، خزائن ج ۱۱ ص ۵۵) میں لکھتا ہے: ”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی  
 دوسرے جز (یعنی داماد احمد بیگ کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ احمقو!  
 یہ انسان کا افتراء نہیں نہ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔  
 وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔“

لیکن جب مقررہ میعاد گذر گئی اور محمدی بیگم کا شوہر نہ مرانہ کوئی بلا محمدی بیگم پر آئی تو کس  
 دلیری کے ساتھ (حقیقت الوہی ص ۱۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۵) میں لکھتا ہے۔ ”احمد بیگ کے مرنے  
 سے بڑا خوف اس کے اقارب پر غالب آ گیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف  
 عجز و نیاز کے خط بھی لکھے کہ دعاء کرو۔ بس خدا نے ان کے اس خوف، اور اس قدر عجز و نیاز کی وجہ  
 سے پیشین گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔“

اور (تمہ حقیقت الوہی ص ۱۳۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰) میں لکھتا ہے۔ ”یہ امر کہ الہام میں یہ  
 بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے۔ مگر جیسا کہ ہم  
 بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسمان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی  
 تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ ”ایتھا المرأة توبی توبی فان البلاء علی  
 عقبک“ پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔“

یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی نے جس شرط کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ  
 شرط تھی بھی تو بلا کے ٹل جانے کے لئے تھی۔ کیا محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ کوئی بلا تھا تو  
 جو شرط کے پورا کر دینے سے ٹل گیا۔ مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد اس کے خلیفہ اول  
 نور الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے عقیدہ میں کچھ فرق نہیں آیا۔ قیام قیامت محمدی بیگم کی  
 اولاد میں سے کسی کا مرزا قادیانی کی اولاد کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ تب بھی یہ پیشین گوئی  
 پوری ہو جائے گی۔“ قاضی اکمل جو غلغلہ یوں کے رکن اعظم ہیں۔ اپنے رسالہ تشہید الاذہان میں مئی  
 ۱۹۱۳ء کے ص ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ: ”مرزا قادیانی سے منکوحہ آسانی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی اور  
 یہ بات خود مرزا قادیانی لکھ چکے ہیں کہ انبیاء سے وحی کے سمجھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔“

۱۶..... مرزا غلام احمد قادیانی قسمیہ اقراروں سے کئی دفعہ کافر، کاذب، ملعون،

خائن، بے ایمان، دجال ثابت ہو چکا ہے اور سب الفاظ خود مرزا قادیانی کے ہیں۔ جو اس نے

اپنے اوپر چسپاں کئے ہیں۔ یہاں بطور نمونہ کے ایک واقعہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔  
 مرزا قادیانی (ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۰، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۳) میں لکھتا ہے: ”پس اگر ان  
 سات سال میں میری طرف سے خدائے تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر  
 نہ ہوں اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے دینوں پر  
 میری ذریعہ سے ظہور میں نہ آدے۔ یعنی خدائے تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے  
 جس سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے  
 اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ  
 میں اپنے تئیں کاذب خیال کروں گا۔“

کیا کوئی غلمدی یہ کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور ادیان  
 باطلہ پر موت طاری ہوگئی۔ ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ عیسائیت کا  
 باطل معبود فنا ہو گیا اور دنیا اور رنگ پر آگئی۔ اگر یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں تو مرزا قادیانی اپنے  
 قسمیہ اقرار سے جھوٹا ہوا یا نہیں۔

یہاں تک سولہ جھوٹ مرزا قادیانی کے ہم نے بیان کئے۔ لیکن انصاف سے دیکھا  
 جائے تو ہر جھوٹ کے اندر کئی کئی جھوٹ شامل ہیں۔ بھلا اتنا بڑا جھوٹا کذاب شرعاً عرفاً کسی طرح  
 بھی اچھا آدمی کہا جاسکتا ہے۔ نبی و رسول ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔  
 مرزا کا حضرات انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنا گالی دینا  
 ہر شخص جانتا ہے کہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی توہین کرنا اس کو گالی دینا سخت  
 معصیت ہے اور اس کا مرتکب ہرگز اچھی نظر سے دیکھنے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ حضرات  
 انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنا ان کو گالی دینا جو قطعاً کفر ہے اور اس کفر کا مرتکب کسی مہذب انسان  
 کی نظر میں انسان بھی نہیں قرار پاسکتا۔

قرآن مجید نے بار بار بڑے اہتمام سے انبیاء علیہم السلام کی عظمت و جلالت کا  
 عقیدہ تعلیم کیا ہے اور مسلمانوں کو سب پر ایمان لانے اور سب کو یکساں واجب التحظیم سمجھنے کی  
 تاکید فرمائی ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق جس طرح اس کے دروغ گوئیوں سے قطعی فیصلہ ہوتا  
 ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی فیصلہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس نے نہایت کمینہ پن سے بازاری الفاظ میں

انبیاء علیہم السلام کو گالیاں دی ہیں اور ان کی توہین کی ہے۔ نمونہ کے طور پر چند کلمات اس کے حسب ذیل ہیں۔

۱..... (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹) میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھتا ہے۔ ”یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“

۲..... ”عیسائیوں نے بہت سے معجزات آپ کے لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

۳..... ”ممکن ہے کہ اپنی معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور بیماری کا علاج کیا ہو۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مذکور ہیں۔ اندھوں کو اچھا کر دینے کا تذکرہ بھی کئی آیتوں میں ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور یہ کہ معمولی تدبیر سے کسی (اندھے کو نہیں) شب کو رو اچھا کیا ہوگا۔ اول درجہ کی بے ایمانی نہیں تو کیا ہے۔ عیسائیوں کے الزام دینے کے لئے یہ عنوان بیان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یوں ہونا چاہئے تھا کہ بائبل کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ موجودہ عنوان کو الزامی کہنا انصاف کا خون کرنا ہے۔ خود مرزا قادیانی بھی اپنے ان کفریات کو الزامی نہیں قرار دیتا۔

۴..... نیز (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) میں ہے۔ ”آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا۔“

۵..... نیز اسی صفحہ میں ہے۔ ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورت میں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری (کبھی) کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

۶..... مرزا قادیانی کی کتاب (معیار المذہب ص ۲۰، خزائن ج ۹ ص ۳۷۹) میں ہے۔ یسوع کے دادا صاحب داؤد نے تو سارے برے کام کئے۔ ایک بیگناہ کو شہوت رانی کے



لئے فریب سے قتل کرایا اور دلالہ عورت بھیج کر اس کی جو رد کو منگوا یا اور اس کو شراب پلائی اور اس سے زنا کیا اور بہت سا مال زنا کاری میں ضائع کیا۔

ف..... جب مسلمانوں نے مرزا پر سخت سرزنش کی تو کہنے لگا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے تو یسوع کو کہا ہے۔ (ضمیمہ انجام آہم ص ۹، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۳) پر لکھتا ہے۔ ”مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدائے تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔“

مگر افسوس کہ مرزا قادیانی پر وہی مثل صادق آگئی کہ دروغ گور حافظہ نباشد کیونکہ خود ہی اپنی تصانیف میں لکھ چکے ہیں کہ یسوع اور عیسیٰ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔ (توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲) ”دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“

۷..... (دافع البلاء ص آخری ج ۱۸ ص ۲۲۰) میں لکھتا ہے۔ ”مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدائے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا۔ مگر مسیح کا نام یہ نہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“

ف..... اس عبارت میں قرآن شریف کے حوالے سے اس نام معقول تاویل کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو بعض غلمدی کہہ بیٹھتے ہیں کہ عیسائیوں کے الزام دینے کے لئے عیسائیوں کے مقابل ہمیں مرزا قادیانی نے ایسا لکھا ہے۔ عیسائیوں کو الزام دینے کے لئے بجائے قرآن مجید کے بائبل کا حوالہ چاہئے تھا۔

۸..... (توضیح المرام ص ۶، خزائن ج ۳ ص ۲۵۳) میں لکھتا ہے۔ ”کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی ہو۔ جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے کسی پھونکنے مارنے سے کسی طور پر ایسا پرواز کرنا ہو جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو۔ کیونکہ حضرت مسیح بن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت ایسا کام

ہے۔ جس میں کلون کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کے صنعتوں کے ایجاد کرتے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔“ اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ جو معجزا پنا کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بے باپ ہونے کا بھی انکار ہے۔ جو صریح تکذیب قرآن مجید کے ہے۔

۹..... (ازالہ اوہام ص ۳۰۴، خزائن ج ۳ ص ۲۵۵) میں لکھتا ہے۔ ”کچھ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھایا ہو اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنایع ایسی چڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ کل کے ذریعہ سے بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی ہیں۔“

۱۰..... (ازالہ اوہام ص ۳۰۵، خزائن ج ۳ ص ۲۵۶) میں ہے۔ ”ما سوا اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز طریق عمل الترب یعنی مسمریزی طریق سے بطور لہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں۔ ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے مانند دکھاتے ہیں۔ انسان کی روح میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہی ڈال سکتے ہیں تب جماد سے بعض حرکات صادر ہوتے ہیں۔“

۱۱..... (ازالہ اوہام ص ۳۰۵، خزائن ج ۳ ص ۲۵۸) میں ہے۔ ”اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح بن مریم باذن الہی المسیح نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گو المسیح کے درجہ کاملہ سے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ المسیح کی لاش نے بھی وہ معجزہ دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا مگر چوروں کی لاشیں مسیح کے جسم کے لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہو سکیں۔ یعنی وہ دو چور جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ بہر حال مسیح کی یہ تربی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جیسا عام الناس خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو کمزور اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔“

۱۲..... (ازالہ اوہام ص ۳۰۹، خزائن ج ۳ ص ۲۵۸) میں ہے۔ ”واضح ہو کہ اس عمل

جسمانی میں ایک نہایت بڑا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تئیں اس مشغولی میں اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی اور دماغی طاقتوں کو خرچ کرتا ہے۔ وہ اپنی ان روحانی تاثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے۔ اس کے ہاتھ سے بہت کم اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے ہیں۔ مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم رکھنے کے بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔“

۱۳..... (ازالہ اوہام ص ۳۱۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰) میں ہے۔ ”ہم اس کے جواب میں خدائے تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائید کے طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

ف..... کیسی صریح تو ہیں آنحضرت ﷺ کی ہے کہ آپ کی حدیثوں کو جب کہ وہ مرزا کی وحی کے خلاف ہوں۔ ردی کی طرح پھینکنے کو کہہ رہا ہے۔ اس توہین کو یاد رکھنا چاہئے۔ اس سے آگے کام لینا ہے۔

۱۴..... نیز (ازالہ اوہام ص ۵۹۶، خزائن ج ۳ ص ۲۷۳) میں ہے۔ ”سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہئے۔“ پھر چند سطروں کے بعد لکھتا ہے۔ ”اس قسم کے کشفوں میں خود مؤلف (یعنی مرزا) صاحب تجربہ ہے۔“

ف..... غمندیوں کے نزدیک معراج ایک قسم کا کشف تھا۔ فی الواقع نہ جانا تھا نہ آنا۔ اہل انصاف کے نزدیک یہ صاف انکار معراج کا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے کو صاحب تجربہ کہہ کر یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کو بارہا معراج ہو چکی ہے۔

عبارت مذکورہ میں سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑی توہین یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء ﷺ کے جسم لطیف والطف کو اس بے دین نے کثیف کہہ کر اپنا نامہ اعمال کثیف کیا ہے۔

۱۵..... نیز (ازالہ اوہام ص ۲۷، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۲۷۳) میں ہے۔ ”اگر

آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موبہ مکتشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی کیفیت کھلی ہوئی ہو اور نہ یا جوج ماجوج کے عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو اور نہ دلایۃ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صورت مشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفسیم بذریعہ انسانی توئی کے ممکن ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔“

ف ..... مرزا قادیانی نے جب ارشاد کیا کہ دجال سے مراد پادری، یا جوج ماجوج سے انگریز، خرد دجال سے مراد ریل گاڑی ہے تو ان پر اعتراض ہوایہ مراد آپ کی از روئے احادیث غلط ہوئی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی فرما رہے ہیں۔ ان چیزوں کی پوری حقیقت آنحضرت ﷺ پر مکتشف نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ نے ان چیزوں کو جیسا غلط سمجھا تھا ویسا ہی غلط بیان کر دیا۔ لہذا میرے بیان سے ان کی حدیثوں کا تطابق نہیں ہو سکتا۔

۱۶ ..... (اعجاز احمدی ص ۳۴، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۳) میں لکھتا ہے۔ ”کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔“

۱۷ ..... (ازالہ اوہام ص ۴۰، خزائن ج ۳ ص ۳۰۷) میں ہے۔ ”بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت ﷺ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصلی حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔“

ف ..... مرزا قادیانی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی توہین صحابہ کرام اور دوسرے بزرگان دین اسلام کی توہین سے اپنا دامن رکنین کیا ہے بطور نمونہ ملاحظہ ہو۔

۱۸ ..... (اعجاز احمدی ص ۵۲، خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۷) میں ہے۔ ”جیسا کہ ابو ہریرہؓ جو غبی تھا اور روایت اچھا نہیں رکھتا تھا۔“

۱۹ ..... (ازالہ ص ۵۹۶، خزائن ج ۳ ص ۴۲۲) میں ہے۔ ”حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔“

۲۰ ..... (اعجاز احمدی ص ۵۲، خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۴) میں یہ عربی اشعار مع ترجمہ حضرات حسینؓ کی نسبت میں۔

وقالوا علی الحسنین فضل نفسہ  
اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسین  
سے اپنے تئیں اچھا سمجھا  
اقول نعم واللہ ربی سیظہر  
میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خدا عنقریب ظاہر کر  
دے گا

وشتان ما بینی و بین حسینکم  
اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے  
فانسی اؤید کل آن وانصر  
کیونکہ مجھ تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد ہی ہے  
الیٰ هذه الایام تبکون فانظروا  
اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو  
(اعجاز احمدی ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

ووالله لیست فیہ منی زیادة  
اور بخدا اس میں مجھ سے کچھ زیادہ نہیں  
وانسی قتیل الحب لکن حسینکم  
اور میں خدا کی محبت کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین  
وعندی شہادات من الله فانظروا  
اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں پس تم دیکھ لو  
قتیل العدی والفرق اجلی واظهر  
دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا کھلا ظاہر ہے  
(اعجاز احمدی ص ۸۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۹۳)

### مرزا قادیانی کا ادعائے نبوت و نزول وحی شریعت

غلام یوں میں گو قادیانی پارٹی مرزا قادیانی کے فرزند و خلیفہ موسیٰ بشیر کی تعلیم کی بناء پر صاف طریقہ سے مرزا قادیانی کو نبی کہتی ہے اور مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت کو تسلیم کرنے لگی ہے۔ مگر صاحب شریعت نبی ہونے اور اس کا ادعا کرنے کو چھپاتی ہے اور لاہوری پارٹی تو قطعاً اپنے مصالح کی بناء پر مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرتی ہے اور اس کے ادعائے نبوت کو پردہ راز میں رکھنے کی ناکام کوشش میں سرگرم ہے۔ لہذا اس وقت مرزا قادیانی کی تصنیفات سے دعویٰ نبوت کے متعلق مرزا قادیانی کے اقوال جو نقل کئے جاتے ہیں وہ ان دنوں پارٹیوں کا دجل معلوم کرنے کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ بکار آمد ہوں گے۔ ملاحظہ کیجئے:

..... ۱ (انجام آقہم ص ۶۲، خزائن ج ۱۱ ص ۶۲) میں ہے۔ ”الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔“

..... ۲ (دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) میں ہے۔ ”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

..... ۳ (دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰) میں ہے۔ ”تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو متر برس تک

رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدائے تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار اور خیال ہو کہ فقط رسمی نمازوں اور دعاؤں سے یا مسیح کی پرستش سے یا ویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول کے یہ بلا دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔“

ف..... اس قسم کے اقوال مرزا کے بہت ہیں۔ اب وہ اقوال اس کے ملاحظہ ہوں جن میں صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔

۴..... (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) میں ہے۔ ”مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔“ ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الدین کلہ“

ف..... یہ آیت قرآن مجید کی ہے۔ جب معاذ اللہ مرزا قادیانی اس کا مصداق ہو تو دین حق کے ساتھ اس کا مبعوث ہونا صاحب شریعت ہونا نہیں تو کیا ہے۔

۵..... (اربعین نمبر ۳ ص ۳۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۶) میں ہے۔ ”خدا وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“

۶..... (اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵) میں ہے۔ ”اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اوّل تو دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر ونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رد سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔“

ف..... اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ جن میں صاحب شریعت ہونے کی تصریح تو نہیں ہے۔ مگر جو لوگ اس کے دعویٰ کو مجددیت یا محدثیت پر نالنا چاہتے ہیں۔ جیسے لاہوری پارٹی ان کا صاف ابطال ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

..... ۷ (حقیقت الوہی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶) میں ہے۔ ”اور یہ بات ایک طے شدہ امر ہے کہ جس قدر خدائے تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطاء نہیں کی گئی۔ اگر کوئی منکر ہو تو بارشوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال واقطاب اس امت میں گذر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے لوگ تمام اس نام کے مستحق نہیں۔“

ف..... اب مرزا قادیانی کے وہ اقوال ملاحظہ ہوں جن میں اس نے اپنے کو تمام انبیاء حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔

..... ۸ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) میں ہے۔ ”خدائے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس کا نام غلام احمد رکھا۔“

..... ۹ (حقیقت الوہی ص ۱۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) میں ہے۔ ”خدائے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلاتا۔“

..... ۱۰ (حقیقت الوہی ص ۱۳۹، ۱۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) میں ہے۔ ”اوائل میں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقررین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا۔“

ف..... اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے مرزا قادیانی اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت جزئی دیتا تھا۔ مگر بعد میں فضیلت کلی دینے لگا۔

..... ۱۱ (تحریر حقیقت الوہی ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴) میں ہے۔ ”بلکہ خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ

سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستانے ہمارے نبی ﷺ کے باقی انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔“

ف ..... آئندہ چل کر آنحضرت ﷺ کا استثناء بھی جاتا رہا۔

۱۲ ..... (حقیقت الہی ص ۱۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۹) میں ہے۔ ”اور جب کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانے کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی دوسوہ ہے کہ کیوں تم مسیح بن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

۱۳ ..... (تحریر حقیقت الہی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) میں ہے۔ ”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچے ہیں۔“

۱۴ ..... (حقیقت الہی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲) میں ہے۔ ”تمام دنیا میں کئی تخت اترے پر تیرا (یعنی مرزا قادیانی کا) تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔“

۱۵ ..... (استلاء ص ۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵) میں ہے۔ ”واتانسی مالم یؤت احد من العالمین“ خدا نے جو کچھ مجھے دیا سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔

۱۶ ..... (مکتوبات احمدیہ نمبر ۳ ج ۳ ص ۴۹) میں ہے۔ ”آنحضرت ﷺ کے معجزات جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں۔ وہ تین ہزار معجزہ ہیں۔ اس خدا نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ ہیں۔“

ف ..... مرزا قادیانی نے (تحد کولڈویہ ص ۴۰، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳) میں بھی آنحضرت ﷺ کے معجزات کو تین ہزار بیان کیا ہے۔

۱۷ ..... (اعجاز احمدی ص ۷۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) میں یہ شعر ہے جس کا اردو ترجمہ بھی خود مرزا قادیانی کا کیا ہوا۔

لہ خسف المقر المنیر وان لی

غسا القمران العشرقان اتنکر

ترجمہ: اس کے لئے (یعنی آنحضرت ﷺ کے لئے) چاند کا خسوف ظاہر ہوا اور

میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔



ف..... کس قدر گستاخی سرور انبیاء ﷺ کی شان میں ہے۔ اول تو اپنا تقابل ان کے ساتھ پھر اپنی فوقیت کا اظہار۔ اس شعر میں معجزہ شق القمر کو مرزا قادیانی نے چاند گہن کہا ہے۔  
”نعوذ باللہ من هذه الکفریات“

۱۸..... (اربعین نمبر ۳ ص ۱۹، خزائن ج ۷ ص ۳۵۳) میں ہے۔ ”جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے۔ جیسا کہ توریت و انجیل و قرآن کریم پر تو کیا۔ انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظلمات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں گا۔ جس کی حق یقین پر بناء ہے۔“

۱۹..... (حقیقت الوہی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) میں ہے۔ ”میں خدائے تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے۔“

۲۰..... مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو مثل اور انبیاء علیہم السلام کے نہ ماننے والوں کے کافر قرار دیا ہے۔ (حقیقت الوہی ص ۱۷۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۳) میں لکھتا ہے۔ ”ہاں میں یہ کہتا ہوں چونکہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا نے عام طور پر میرے لئے آسمان سے نشان ظاہر کئے۔ پس جس شخص پر میرے مسیح موعود ہونے کے بارے میں خدا کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے اور میرے دعویٰ پر وہ اطلاع پا چکا ہے۔ وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے فرستادوں سے وائستہ منہ پھیرنا ایسا امر نہیں ہے کہ اس پر کوئی گرفت نہ ہو۔ اس گناہ کا دادخواہ میں نہیں بلکہ ایک وہی ہے جس کی تائید کے لئے میں بھیجا گیا یعنی حضرت ﷺ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ میرا مذہب نہیں بلکہ اس کا فرمان ہے جس نے میرے آنے کی پیشین گوئی کی۔ ایسا ہی عقیدہ میرا آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے کے بارے میں ہے کہ جس شخص کو آنحضرت ﷺ کی دعوت پہنچ گئی ہے اور وہ آپ کی بعثت سے مطلع ہو چکا ہے اور خدائے تعالیٰ کے نزدیک آنحضرت ﷺ کی رسالت کے بارے میں اس پر اتمام حجت ہو چکا وہ اگر کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کے لئے جہنم کا سزاوار ہوگا۔“

۲۱..... (حقیقت الوہی ص ۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵) میں ہے۔ ”ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے

کے بارہ میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“

۲۲..... (اربعین نمبر ۳ ص ۲۸ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۱۷۷) میں ہے۔ ”خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے اوپر حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکلف یا مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ تمہارا امام وہی ہو جو تم میں سے ہو۔“

۲۳..... (فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۸۲) میں ہے۔ ”سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف بناؤ۔ پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے نماز ضائع نہ کرو اور اگر کوئی خاموش رہے نہ تصدیق کرے نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔“

۲۴..... (فتاویٰ احمدیہ ج ۲ ص ۱۸) میں ہے۔ ”۱۰/ ستمبر ۱۹۰۱ء کو سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں۔ وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ فرمایا مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور ﷺ کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی فرمایا ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یا وہ مصدق ہو جائیں گے یا مکذب۔“

یہ چوبیس اقوال مرزا قادیانی کے جو دعویٰ نبوت کے متعلق نقل کئے گئے بہت کافی ہیں۔ اگرچہ نسبت ان اقوال کے جوہم نے نقل نہیں کئے یہ مقدار بہت کم ہے۔

مرزا قادیانی کی وحیان بھی بجائے خود عیب و غریب چیز ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے عجائب خانہ میں رکھنے کے قابل ہیں۔ مثلاً مرزا قادیانی کا وہ رویا کہ ”خدا نے اپنی قوت رجولیت مرزا پر استعمال کی۔“ (اسلامی قربانی) اور مثلاً (حقیقت الوحی ص ۲۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) میں یہ وحی ہے کہ: ”انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون“ یعنی خدا نے فرمایا کہ اے مرزا تیری یہ شان ہے کہ تو جس چیز کو چاہے کہہ دے کہ ہو جاوے ہو جاتی ہے۔

اور مثلاً (حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹) میں یہ وحی ہے کہ: ”انت منی بمنزلة ولدی“ یعنی خدا نے فرمایا کہ اے مرزا تو میرے لڑکے کی برابر ہے۔

اور مثلاً (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳) میں یہ رویا کہ: ”رایتنی فی

المنام عين الله وتيقنت اننى هو فخلقت السموات والارض وقلت انازينا السماء الدنيا بمصابيح“ یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بحیثہ اللہ ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ پھر میں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی۔

### ایک ضروری فیصلہ

مرزا قادیانی کے اقوال ہر معاملہ میں اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ جیسا کہ موقع ہو وہی بات بنائی جاسکے۔ بڑی وجہ اس اختلاف کی اس کی وجاہت ہے اور کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے دعوؤں میں بتدریج ترقی کی ہے۔ جیسا کہ فصل سوم میں بیان ہو چکا۔

ادعائے نبوت میں بھی اس کے اقوال متضاد ہیں۔ کہیں تو صاف انکار اپنی نبوت کا ہے اور آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار ہے اور کہیں دعویٰ نبوت کا تو ہے۔ مگر صاحب شریعت نبی ہونے کا انکار ہے اور کہیں صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی ادعاء ہے۔

لاہوری پارٹی مرزا قادیانی کے ان اقوال کو پیش کرتی ہے۔ جن میں نبوت کا انکار ہے اور دوسرے اقوال کو چھپاتی ہے یا دور از کار تاویلات کرتی ہے اور قادیانی پارٹی بھی جہاں دیکھتی ہے کہ دعویٰ نبوت سے مسلمان بھڑک جائیں گے۔ وہاں انہیں اقوال کو پیش کر دیتی ہے کہ مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ۔

من عیستم رسول دنیاوردہ ام کتاب

یا ان اقوال کو پیش کر دیتی ہے جن میں نبوت کا دعویٰ تو ہے مگر صاحب شریعت ہونے کی نفی ہے۔ لہذا اس مقام پر اس کا محققانہ فیصلہ خود مرزا قادیانی کے فرزند اور خلیفہ موسیو بشیر کی زبان سے درج کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد پھر کسی غلمدی کو چون دچرا کی یا کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی اور چونکہ وہ فیصلہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا لاہوری پارٹی بھی اس کے آگے سرنگوں ہے۔

سنو! موسیو بشیر اپنی کتاب (حقیقت المنہجہ ص ۱۲۰، ۱۲۱) میں بجواب محمد علی لاہوری لکھتا

ہے۔ ”چونکہ میں نے مسیح موعود کی کتب میں سے وہ حوالے جن سے آپ کی نبوت کے خلاف استدلال کیا جاتا ہے اور نقل کر دیئے ہیں اور ان کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک ۱۹۰۱ء سے پہلے کے اور ایک ۱۹۰۱ء کے بعد کے اس لئے ہر ایک شخص بہ آسانی معلوم کر سکتا ہے کہ جن کتب میں آپ نے اپنے نبی ہونے سے صریح الفاظ میں انکار کیا ہے اور اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور

محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے۔ وہ سب کے سب بلا استثناء ۱۹۰۱ء سے پہلے کی کتب ہیں اور یہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ تریاق القلوب بھی انہیں کتب میں سے ہے اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہ ناقص اور نہ نبوت محمدیہ اور نہ صاف الفاظ میں کہیں لکھا ہے کہ میں نبی نہیں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میں شریعت لانے والا نبی اور براہ راست نبوت پانے والا نبی نہیں ہوں۔ ہاں ایسا نبی ضرور ہوں۔ جس نے نبوت کا فیضان بواسطہ آنحضرت ﷺ پایا ہے۔

اس اختلاف سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں حضرت مسیح موعود نے اپنے عقیدہ میں ایک تبدیلی ضروری کی ہے۔ یعنی پہلے اپنی نبوت کو محمدیہ قرار دیتے تھے۔ لیکن بعد میں اس کا نام نبوت ہی رکھتے ہیں اور نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ شریعت جدیدہ لانے اور براہ راست نبوت پانے کا انکار کرتے ہیں۔

پھر اس کے بعد بفاصلہ دس سطور لکھتا ہے۔ ”اور چونکہ تریاق القلوب کے زمانہ تک آپ نے اپنے کو مسیح سے کلی طور پر افضل ہونے کا انکار کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا مسئلہ آپ پر ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں کھلا ہے اور چونکہ ایک غلطی کا ازالہ ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا ہے۔ جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ء ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان میں برزخ کے طور پر حدفاضل ہے۔ پس ایک طرف آپ کی کتابوں سے اس امر کے ثابت ہونے سے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے آپ نے نبی کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے اور دوسری طرف حقیقت الوحی سے یہ ثابت ہونے سے کہ آپ نے تریاق القلوب کے بعد نبوت کے متعلق عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔“

اس عبارت میں بھی اگرچہ دجل و فریب بہت کچھ ہے۔ مثلاً یہ کہ عقائد میں تبدیلی اور نسخ کو جائز رکھا ہے۔ حالانکہ عقلاً و نقلاً انبیاء علیہم السلام کے عقائد میں ہرگز تبدیلی نہیں ہوتی کہ لے یہ بھی دجل ہے کہ یہاں مطلق شریعت لانے کی نفی ہے اور آگے چل کر شریعت جدیدہ لانے کی نفی جس سے شریعت غیر جدیدہ لانے کا اقرار ہوتا ہے اور کتاب الزبیین میں اس کی صاف تصریح بھی ہے۔ جیسا کہ اوپر مقبول ہوا۔

پہلے ایک چیز کا عقیدہ ہو اس کے بعد اس کے ضد کا عقیدہ قائم ہو جائے۔ نیز عقائد میں تسخیح بھی نہیں ہوتا۔ تسخیح صرف اعمال میں ہوتا ہے۔

مگر باایں ہمہ اس بات کا قطعی اور واقعی فیصلہ ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کے اقوال جو لوگ پیش کر کے مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ کر دجالی کر رہے ہیں۔

## خاتمہ

### ریاست بہاولپور کے کچھ مسرت انگیز چشم دید حالات

۱..... بہاولپور ایک قدیم اسلامی ریاست ہے۔ مسلمانوں کے دور اقبال کی ایک یادگار ہے۔ پنجاب کا آخری حصہ ہے۔ سرحد صوبہ سندھ سے ملی ہوئی ہے۔ علاقہ اکثر ریگستان اور غیر آباد ہے۔ ورنہ سرکار نظام کے سوا اور تمام ہندوستانی ریاستوں سے اس کی مالی حالت فائق ہوتی۔

۲..... ریاست میں ماشاء اللہ دینداری کا بہت چرچا ہے۔ جمعہ کے دن تعطیل ہوتی ہے۔ سرکاری دفاتر بند رہتے ہیں۔ اتوار کے دن تمام کچھریان اور سرکاری دفاتر کھلے رہتے ہیں۔ جامع مسجد کے قریب ہم لوگوں کا قیام تھا۔ پانچوں وقت بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ نماز ہوتی تھی۔ فرمانروائے بہاولپور شہر سے فاصلہ پر رہتے ہیں۔ لیکن جب کبھی جمعہ میں آجاتے ہیں تو خطبہ بھی خود ہی پڑھتے اور امامت نماز بھی خود ہی فرماتے ہیں۔

۳..... ریاست بہاولپور کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مقام ان مفتوحات میں سے ہے جو صحابہ کرامؓ کے عہد میں ہوئی تھیں۔ صحابہ کرامؓ کے قدم متبرکہ سے یہ سرزمین منور ہو چکی ہے اور مقام اچ شریف میں جو ریاست کے علاقہ میں ایک مشہور بستی ہے وہ حضرات مدفون بھی ہیں۔ اس وقت ان کی قبروں کا کچھ نشان نہیں ملتا۔ مگر جو نورانیت اس سرزمین میں ہے اور جو دینداری اور برکت ہے وہ روشن دلیل اس کی ہے۔

۴..... اس سرزمین میں اہل عرب کے درود کی شہادت کھجور کے درخت دے رہے ہیں۔ جنگل کے جنگل کھجوروں کے ہیں۔ کوئی مکان ایسا نہیں جس میں دو تین درخت کھجور کے نہ ہوں۔ یہ کھجوریں شکل اور ذائقہ میں عرب کے کھجوروں سے قریب ہیں اور سال بھر تک دکھ کر کھائی جاتی ہیں۔

۵..... سرزمین بہاولپور کے دینداری کا ایک عمدہ نمونہ جس نے ہم لوگوں کو بہاولپور پہنچنے ہی خوش کیا وہ رمضان مبارک کے احترام کے لئے ایک سرکاری اعلان تھا جو دیواروں پر چسپاں تھا۔

جس کی چند کاہلیاں وہاں سے حاصل کر کے میں اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس کی نقل بلفظہ حسب ذیل ہے۔  
نقل اعلان سرکاری ریاست بہاولپور، بابت احترام رمضان المبارک

حرم رمضان المبارک کے قائم رکھنے کے لئے ہر سال دربار سے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان احکام کی پوری پابندی نہیں ہوتی۔ اس لئے بطور قانون مختص الامریہ قرار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان (مرد باعورت) اقل بالغ بمابہ رمضان دن کے وقت بلا عذر شرعی اعلانیہ کوئی چیز کھاتا ہو یا پیتا ہو یا حقہ نوشی وغیرہ کرتا ہو یا پایا جائے، یا کوئی مسلمان نان بابائی، فالودہ فروش، حلوائی، شیر فروش، سوڈا لیمونیز فروش، شربت فروش، چھابڑے والا، تنور والا دن کے وقت، اعلانیہ کاروبار فروخت یا تیاری اشیاء خوردنی کرے۔ الا ایسے اوقات میں جس سے پایا جاتا ہے کہ افطار روزہ کے واسطے تیاری مقصود ہے تو ہر اہل کار پولیس کو جس کا درجہ سارجنٹ سے کم نہ ہو۔ اختیار ہوگا کہ ایسے شخص یا اشخاص کو بلا وارنٹ اپنی حراست میں لائے اور عدالت مجسٹریٹ مقامی میں پیش کرے۔ جہاں سے بشرط ثبوت جرم سزا قید محض تا سہ یوم یا سزائے جرمانہ تک کی دی جائے گی۔ ایسی سزائے قید پر قواعد عوضانہ جاری نہ ہوں گے۔

۶..... آج کل غلمد یوں کے متعلق عام طور پر مسلمانوں کا جوش نہایت قابل ستائش ہے۔ قریب قریب روزانہ اسی موضوع پر وعظ ہوتے رہتے ہیں اور وعظوں میں اجتماع بھی خوب ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس فرقہ کے متعلق معلومات بھی خوب ہو گئی ہیں۔

۷..... غلمد یوں نے دوسرے مقامات کی طرح بہاولپور میں بھی سیرۃ النبی کے جلسے بڑی کوشش سے کئے اور عوام کی دلچسپی کے سامان بھی بہت فراہم کئے۔ مگر ایک متنفس مسلمان تماشا دیکھنے کی نیت سے بھی ان کے جلسہ میں نہ گیا۔ سوان حکام کے جو انتظام وہاں متعین تھے۔

۸..... مسلمانوں کی بیداری اور جوش کو قائم رکھنے کے لئے پے درپے اشتہارات بھی خوب تقسیم ہوئے۔ ہر اشتہار کے ایک جانب تو غلمد یوں کے مذکورہ بالا جلسہ سیرت کی مضرتوں کا بیان ہے کہ اس پردہ میں کس طرح گنہ گری کی تحریک کی جاتی ہے اور دوسری جانب مرزا غلام احمد کے متعلق بہت کارآمد معلومات ہیں۔ مثلاً ایک اشتہار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو گالیاں مرزا قادیانی نے دی ہیں ان کی داویوں اہد نانیوں کو زنا کار کہا ہے۔ ان کا بیان ہے اور ایک اشتہار میں مرزا قادیانی سے پہلے جو دجال مدعیان نبوت گذرے ہیں ان کا تذکرہ ہے اور ایک اشتہار میں خلیفہ قادیانی کے تین چٹوئی اس کی کتابوں سے نقل کئے ہیں۔ مثلاً یہ غیر احمدی بچہ کا جنازہ مت پڑھو۔ غیر احمدی ہندو اور عیسائیوں کی طرح کافر ہیں۔ غیر احمدیوں سے رشتہ ناطنہ چاہئے اور ایک

اشتہار میں مرزا قادیانی کی چند وحیاں ہیں۔ جن میں مسلمانوں کی تکفیر اور اپنی بڑائی کا گیت گایا ہے۔ راقم الحروف آٹھ دس اشتہار اپنے ہمراہ لایا ہے۔

۹..... شہر بہاولپور میں ایک مجلس مشاعرہ کی ہوتی ہے اور اب اس میں بجائے وہی تباہی اشعار کے غلمد یوں کے رد کے مضامین نظم کئے جاتے ہیں اور روزانہ کوئی عمدہ نئی نظم جامع مسجد کے مشرقی دروازہ پر چسپاں کی جاتی ہے۔ اس قسم کی کئی دلچسپ نظموں کی نقل راقم الحروف اپنے ہمراہ لایا ہے۔

۱۰..... ریاست میں کچھ شیعہ بھی ہیں۔ حکومت کی طرف سے تو دنیاوی امور میں شیعہ سنی ہندو عیسائی کا کوئی امتیاز نہیں۔ حتیٰ کہ غلمد یوں کو بھی سیرۃ النبی کے فرضی نام سے جلے کرنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن عام طور پر مسلمان جس طرح غلمد یوں کو دین اسلام کا مخالف جانتے ہیں۔ اسی طرح شیعوں کو بھی۔

خدا کا کرنا یہ کہ انہیں شیعوں میں ایک سید صاحب (نوٹ: حضرت مولانا سید محمد علی شاہ صاحب ساکن چلی راجن ضلع بہاولپور مراد ہیں۔ جن کا تذکرہ راقم کی کتاب ”فراق یاراں“ میں تفصیل سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ مرتب) کو توفیق ملی اور وہ سنی ہو گئے۔ چونکہ ذی علم بھی ہیں۔ اس لئے ان سے بہت ہدایت ہو رہی ہے۔ ”بارک اللہ علینا وعلیہ“ ایسے تبدیل مذہب کے اسباب اور ہدایت کے واقعات وہ خود ہی لکھ کر انشاء اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جو انجم میں شائع ہوں گے۔ ”هذا آخر الکلام والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ الہ وصحبہ اجمعین“

لکھنؤ میں غلمد یوں کی پریشانی اور بے چینی

عجب تماشا ہے۔ مقدمہ ہو بہاولپور میں اور بے چین ہوں لکھنؤ کے غلمدی۔

مرزا قادیانی کے خلیفہ اول نور الدین! کے وقت سے اب تک غلمد یوں کو لکھنؤ میں

۱۔ عددۃ العلماء کے ایک جلسہ میں موسیو بیشر پاپائے قادیان لکھنؤ آئے۔ ان کو مناظرہ کی دعوت دی گئی۔ لیکن انہوں نے نکتہ نہ کی۔ مگر یہاں سے جا کر نور الدین کے سامنے اپنے فرار کار و ناروئے۔ انہوں نے مفتی محمد صادق ایڈیٹر اخبار بدر اور مفتی سرور شاہ اور میر قاسم علی دہلوی کو حضرت والد ماجد دامت برکاتہم سے مناظرہ کے لئے لکھنؤ بھیجا۔ اخبار بدر میں اعلان بھی ہوا مگر لکھنؤ پہنچ کر ان تینوں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہم کو زبانی مناظرے سے منع کیا ہے۔ لہذا ہم مناظرہ نہ کریں گے۔ یہ ذلت کچھ کم نہ تھی کہ اخبار میں اعلان دے کر اس طرح کر دفر سے آئے اور یوں بھاگے۔

جو ذلت آمیز شکستوں پر شکستیں نصیب ہوتی رہیں۔ کیا وہ کبھی فراموش ہو سکتی ہیں۔ خصوصاً حملہ کنیش گنج کا واقعہ کہ پادری جو الاسنگھ کی انجمن جو یان معرفت میں جب مولانا عبدالکریم صاحب مرحوم صدر المدرسین ندوۃ العلماء کے بعد حضرت والدی الماجد دامت برکاتہم نے غلمد یوں کے مناظرہ کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیا تو غلمدی لوگ میدان بحث سے جس طرح بدحواس ہو کر بھاگے تھے اس کے دیکھنے والے سینکڑوں موجود ہیں۔

غلمد یوں کی ایک انجمن بھی لکھنؤ میں مدتوں سے قائم ہے۔ مگر بیچاروں کی کوئی نہیں سنتا۔ کوئی مسلمان حضرت رحمۃ اللعالمین ﷺ کے ظل رحمت سے جدا ہو کر جدید عیسائی بننا منظور نہیں کرتا۔ تین چار پنجابی اور ایک ریلوے گارڈ صاحب جو پہلے سے اس بلا میں گرفتار ہو چکے تھے۔ بس یہاں یہی چند نفر غلمدی ہیں۔ کوئی نیا شخص دام میں نہیں پھنستا۔ ”والحمد لله على ذلك“

غرضکہ لکھنؤ میں غلمدیت کی تحریک بہت دنوں سے مردہ ہو چکی تھی اور اب تو بفضلہ تعالیٰ ہر جگہ اس پر مردنی طاری ہو رہی ہے۔ اس حالت پر لکھنؤ کے غلمدی صاحبان اگر کسی امر میں پیش قدمی کریں تو سو اس کے کیا کہا جائے کہ۔

بے حیا باش دہرچہ خواہی کن

واقعہ یہ ہے کہ آخر شعبان میں جو مواعظ حضرت والدی الماجد دامت برکاتہم کے تقریب استقبال ماہ مبارک ہوئے۔ جن میں نہایت اختصار کے ساتھ مقدمہ بہاؤ پور کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا گیا۔ کیونکہ مسلمان بہت مشتاق و منتظر تھے۔ تو غلمد یوں نے دخل در معقولات کے طور پر ایک شخص کے ذریعہ سے کچھ سوالات پیش کر دیئے۔ حضرت ممدوح نے اولاً ان کے جواب سے اعراض کیا اور فرمایا کہ ہماری اس محفل کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مگر جب پھر بار بار ان کا اصرار ہوا تو آپ نے جواباً ان باتوں کو ضروری تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا۔ جن کو پہلے ترک کر دیا تھا۔

مواعظ کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ مگر غلمد یوں کی بے چینی نہ ختم ہوئی اور انجمن غلمد یہ کی طرف سے پانچ صفحہ کا ایک پمفلٹ یا اشتہار شائع ہوا۔ جس کا عنوان یہ ہے۔ ”جناب مولوی عبدالشکور صاحب کے اعتراضات اور نئی کے جوابات“ جو اب تو ایک بات کا بھی نہیں دیا ہاں کچھ بے بہاؤ کفریات ضرور لکھی ہیں۔ جن میں اکثر باتیں وہ ہیں جو غلمد یوں کے علامہ نے بہاؤ پور کی عدالت عالیہ میں پیش کی ہیں اور ہماری طرف سے ان پر جرح کرنے کے لئے عدالت نے مارچ



کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ غالباً مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو یہاں پیش کر کے قبل از وقت جرح کو معلوم کریں۔ اس کے جواب میں ہمیں صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ مارچ کے مہینہ کا انتظار کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ تصحیح ہو جائے گی۔ ایسے صبح بقریب!

لیکن اس وقت ہم بقدر ضرورت اس اشتہار کی حقیقت بھی ظاہر کئے دیتے ہیں۔ سنئے۔

..... آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے جن علمائے اسلام کے حوالے دیئے ہیں۔ معاذ اللہ وہ بھی اس کفر میں غلمدیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سب افتراء ہے۔ جس کا انکشاف انشاء اللہ جرح میں ہوگا۔

اسی سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی غلمدیوں نے خوب لکھا کہ: ”یہی روشن (یعنی نبوت کی روشنی) کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی کے وجود میں ظاہر ہوئی اور کبھی حضرت مجدد الف ثانی کے وجود میں اور کبھی شیخ معین الدین چشتی میں عیاں ہوئی اور کبھی قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر نمایاں ہوئی۔“ اتنی اٹھی! انحصاً!

اس کا جواب یہ ہے کہ در کفر ہم ثابت نہ زنا راز رسوا کن خود مرزا قادیانی (حقیقت الہی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶) میں لکھتا ہے کہ: ”تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطاء نہیں کی گئی۔“

۲..... لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کبھی اپنے کو آنحضرت ﷺ پر افضلیت نہیں دی اور اس کی تائید میں کچھ اقوال مرزا قادیانی کے نقل کئے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کے ان اقوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جن کی بناء پر یہ الزام قائم ہوا ہے۔ مثلاً (مکتوبات احمدیہ نمبر ۳ ج ۳ ص ۴۹) میں یہ قول کہ آنحضرت ﷺ کے معجزات تین ہزار تھے اور میرے تین لاکھ اور مثلاً (اعجاز احمدی ص ۷۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) کا وہ شعر جس میں مرزا قادیانی نے اپنا اور آنحضرت ﷺ کا تقابل کرتے ہوئے لکھا کہ اس کے لئے چاند میں گہن لگا اور میرے لئے چاند سورج دونوں میں۔

لہ خسف القمر المنیر وان لی

غسا المقران المشرقان اتنکر

۳..... اس الزام کا بھی انکار کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں۔ مگر یہاں بھی وہی کارروائی کی ہے کہ مرزا قادیانی کے ان اقوال کا جواب نہیں

دیا۔ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور تانیوں کو زنا کار لکھا ہے اور بحوالہ قرآن ان کے پارسائی اور پرہیزگاری کا انکار کیا ہے۔ نیز اپنے کوان پر فضیلت دی ہے۔ یہ سب اقوال اس رسالہ میں موجود ہیں نکال کر دیکھو۔

۴..... اس اشتہار میں مرزا قادیانی کی زور بخو گویوں کو عمدہ صفت بنانے کے لئے یہ کفر بھی لکھا ہے کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں وعید کے متعلق ٹل جایا کرتی ہیں اور اس کے ثبوت میں مکتوبات امام ربانی اور تکمیل الایمان شیخ دہلوی کا حوالہ دیا ہے۔ جو اب یہ ہے کہ ان حوالوں کے متعلق تو مقدمہ بہاولپور کی جرح کا انتظار کیا جائے۔ مگر اتنا اس وقت بھی سن لو کہ خدا اور رسول کی کوئی پیشین گوئی خواہ وعدہ کے متعلق ہو یا وعید کے۔ ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ جو اس کا قائل ہو وہ کافر کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ”ان اللہ لا یخلف المیعاد“ اور ”من اصدق من اللہ قیلاً“ اس مضمون کی آیات بہت ہیں۔

اور قطع نظر اس سے مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں تو وعید کے علاوہ بھی جھوٹی ہوئیں۔ مثلاً محمدی بیگم کے نکاح کی پیشین گوئی اس کے والد یا شوہر کے مرجانے کی پیشین گوئی کو وعید کہو گے۔ مگر نفس نکاح کی پیشین گوئی تو وعید نہ تھی۔

۵..... آخر میں شیعوں کو خوش کرنے کے لئے یہ بھی لکھ دیا کہ مرزا قادیانی نے حضرت امام حسینؑ کی تحقیر نہیں کی۔ مگر یہاں بھی وہی کارروائی ہے کہ مرزا قادیانی کے ان اقوال کا مطلق جواب نہ دیا جن سے یہ الزام قائم ہوا ہے۔ مثلاً (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۷۷) میں مرزا قادیانی کا یہ قول کہ: ”صد حسین است در گریبانم“ یعنی سو حسین میری گریبان میں ہیں اور مثلاً قصیدہ اعجازیہ کے وہ اشعار جو رسالہ ہذا میں منقول ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے صاف طور پر اپنے کو امام حسینؑ سے افضل کہا اور ان سے تقابل کرتے ہوئے کہا کہ میں عشق الہی کا مقتول ہوں اور وہ دشمنوں کا مقتول تھا۔ مجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔

یہ تھی کائنات غلہ یوں کے اشتہار کی۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ اس حرکت بے معنی سے سوا ذلت کے تم کو کیا حاصل ہوا۔ مگر ان کا عمل تو اس پر ہے کہ۔

بذنام اگر ہوں گئے تو کیا نام نہ ہوگا

نقطہ والسلام علی من اتبع الهدی!



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَوْلَانَا حَافِظُ حَکِیْمِ عَبْدِ الشُّکُورِ حَقْفِی مِرْزَا پُورِی

تحفہ حنفیہ

برائے

فرزِ عالمیہ

(مولانا حافظ حکیم عبدالشکور حنفی مرزا پوری)

بسم الله الرحمن الرحيم!

”الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد خاتم

النبیین وعلى اله واصحابه اجمعین . اما بعد“

مدت ہوئی کسی مرزائی نے ایک رسالہ (مسلمانوں کا اس زمانہ کا امام کون ہے) لکھا تھا۔ مگر مولوی عبدالحلیم صاحب سوداگر چرم (اشرف منزل، کرنیل گنج کانپور) نے ۱۳۵۳ھ، بمطابق ۱۹۲۶ء میں اس کا جواب (راہ حق متعلقہ ردقادیان) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ کو دکھلا کر طبع و شائع کرایا۔ جو مرزائیوں تک بھی پہنچا اور ان میں سے حافظ عبدالجید صاحب مرزائی (امیر جماعت مرزائی کوہ منصور) نے مولوی صاحب موصوف کے پاس دو خط اور دو رسالے (ایک قول الحق، دوسرا رسول کریم اور آپ کی تعلیم) پھر ۱۳۳۵ھ، مطابق ۱۹۲۸ء میں راہ حق کا مطبوعہ جواب بنام (نور ہدایت) روانہ کیا۔ اسی اثناء میں شرکت جلسہ کے لئے میرا جانا کانپور ہوا تو یہ قصہ معلوم ہوا۔ مولوی صاحب موصوف کو عدیم الفرست دیکھ کر مذکور الصدر خطوط و رسائل بغرض جواب میں اپنے ساتھ لایا۔ جس کی اطلاع مولوی صاحب موصوف نے حافظ صاحب مذکور کو بھی کر دی۔ اب جواب کے لئے مولوی صاحب کا تقاضا شروع ہوا۔ مگر میں نے اس لئے تاخیر کی کہ مرزائیوں کی طرف سے حافظ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس پر ہمارے متعدد علماء اپنی اکثر کتابوں میں کافی بحث کر چکے ہیں۔ اسی عرصہ میں توفیق خدا، حافظ صاحب کی شاید اس پر نظر پڑ جائے اور ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہی بس ہے۔ لیکن افسوس نہ یہ ہوا، نہ حافظ صاحب نے ملک کی موجودہ نامناسب فضاء کا خیال کیا اور کیا تو یہ کہ مرزائی اخبار الفضل قادیان ج ۸۵، ماہ ۷ اگست ۱۹۳۰ء میں مولوی صاحب کے نام کھلی چٹھی شائع کی۔ جسے مولوی صاحب نے ستمبر ۱۹۳۰ء میں میرے پاس بھیج کر سخت تقاضا کیا کہ جواب لکھو یا خطوط و رسائل واپس کرو۔ اخبار کھولا تو ص ۸ پر وہ چٹھی نظر پڑی جس کا حاصل یہ ہے کہ نور ہدایت کو بھیجے ہوئے دو برس ہوئے۔ نہ آپ نے جواب دیا۔ نہ مولوی عبدالشکور صاحب مرزا پوری ایڈیٹر انجم لکھنوی نے توجہ کی۔ نہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے خط اور رجسٹری شدہ کتاب وصول کر کے جواب کی تکلیف کی، مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کی بھی شکایت کی ہے کہ ان کو بھی کتاب بھیجی۔ مگر جواب نہیں دیا۔ الغرض جب نوبت یہاں تک پہنچی تو مجبوراً مجھے جواب لکھنا پڑا۔ و ماتوفیقی الا باللہ!

۱۔ ایڈیٹر انجم جناب مولانا محمد عبدالشکور صاحب لکھنوی ہیں۔ نہ کہ خاکسار عبدالشکور مرزا پوری۔ پھر حافظ صاحب نے غلطی سے یا نہ معلوم کس خیال سے دونوں کو ایک بنا دیا ہے۔

مولوی صاحب نے اپنے رسالہ (راہ حق ص ۳۶) میں اول یہ کیا ہے کہ مرزائی کے رسالہ مسلمانوں کا اس زمانہ کا امام کون ہے“ کے قابل جواب ضروری مضامین کا آٹھ نمبروں میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ پھر ہر ایک کا نمبر دار جواب باصواب لکھا ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحب کے پاس دو خط بھی بھیجے تھے۔ حافظ صاحب نے نور ہدایت میں راہ حق کا رد کرنے اور ہر دو خط کا بھی جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حافظ صاحب نے مولوی صاحب کے پاس جو دو خط اور دو رسالے لے بھیجے تھے۔ جس میں مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق جو کچھ درج ہے تقریباً وہ سب باتیں کم و بیش اجمالاً یا تفصیلاً نور ہدایت میں زیر بحث آگئی ہیں۔ اس لئے میرے خیال میں ہر دو خط و رسالہ کا الگ جواب لکھنے کے بجائے صرف نور ہدایت پر بحث کرنی کافی ہے۔

میری تحریر میں مولوی صاحب سے مراد مولوی عبدالحلیم صاحب کانپوری مؤلف راہ حق اور حافظ صاحب سے مراد جناب حافظ سید عبدالحلیم صاحب مرزائی مصنف نور ہدایت ہیں۔ کیونکہ اول الذکر کو تو میں خود جانتا ہوں کہ مولوی ہیں اور آخر الذکر کو گو میں نہیں جانتا ہوں تاہم وہ لکھتے ہیں کہ: ”مجھے لوگ حافظ صاحب کہہ مخاطب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ میں خدا کے فضل سے قرآن کریم کا حافظ ہوں۔ لیکن عموماً بالخصوص پنجاب میں حافظ اندھے کو بھی کہتے ہیں۔ سو میری مثال بھی ایسی ہی ہے۔“

تاثرین! ساہقا جو کچھ لکھا گیا وہ طرفین کے ابتدائی تحریری مناظرانہ تعلق کا مشترکہ قصہ تھا۔ پھر مولوی صاحب کی کتاب راہ حق کا اجمالی خاکہ پیش کیا گیا۔ اب حافظ صاحب کی کتاب نور ہدایت کا بھی حال سن لیجئے۔ اس کے لئے مجھے خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حافظ صاحب آپ ہی فرماتے ہیں کہ: ”کتاب نور ہدایت میں آپ صاحبان مختلفہ اقسام کی غلطیاں پائیں گے۔ مضامین کی ترتیب میں بھی بے قاعدگیاں نظر آئیں گی۔ ان غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ عالم ہوں اور نہ ہی میدان تصنیف کا شہسوار۔ بلکہ ایک تجارت پیشہ آدمی ہوں۔ بعض میرے واقف کار جو میری علمی قابلیت سے واقف ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو ان کو

۱۔ ہر دو رسالہ دراصل مرزائیوں کے خلیفہ آج ثانی کے دو لیکچر ہیں۔ ایک کا نام قول الحق ہے جو ۳ مارچ ۱۹۲۳ء کو غیر مرزائیوں کے جلسہ قادیان کے اعتراضات کے جواب میں ان کی مسجد اقصیٰ میں ہوا تھا۔ دوسرے کا نام رسول کریم اور آپ کی تعلیم ہے اور لکھا ہے کہ ۲۸ ستمبر ۱۹۲۳ء کو بزبان انگریزی لندن میں دیا گیا تھا۔

حیرت ہوئی کہ یہ بے علم اور بیوقوف آدمی کیا کتاب لکھے گا۔ اس سے زیادہ بے علمی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب میں نے کچھ مضمون نور ہدایت کا لکھ کر مخدومی مکرئی جناب سید محمد اسحاق صاحب مولوی فاضل بغرض اصلاح دکھایا تو موصوف نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ لیکن ایک غلطی کی طرف زبردستی کہ ایک مضمون پر میں نے ابجد کے قاعدہ سے نمبر لگا دیئے تھے جو میری سادگی سے اس طرح لگ گئے۔ اب، ث، ث، حالانکہ یوں چاہئے تھا، اب، ج، د، ہیں۔ دیکھ کر بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں۔ مجھ پر عالم، وجد طاری ہو گیا اور بے اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلا کہ اس پاک ذات نے مجھ جیسے بیوقوف انسان سے جو ابجد کے قاعدہ سے بھی واقف نہ ہو ایسا اچھا مضمون لکھوایا جس کی تعریف ایک ایسے بزرگ عالم و فاضل نے کی جو احمدی جماعت میں کیا بلحاظ علم و فہم اور کیا بلحاظ تقدس بزرگی ایک بے نظیر انسان ہے۔“

(نور ہدایت ص ۲۰)

”مگر میرے اندر یہ خلیجان باقی رہا کہ معاذ اللہ میر صاحب نے کہیں میری دل شکنی کا خیال کر کے تعریف نہ کر دی ہو۔ چونکہ خاص مصلحتوں کے ماتحت خدائے تعالیٰ نے یہ مبارک کام میرے ہاتھوں سے کرانا تھا۔ اس لئے میرا دل مضبوط کرنے کے لئے مجھ ناچیز پر یہ انعام فرمایا کہ بذریعہ اپنے رسول پاک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میری تسلی و تسفی فرمائی کہ ۲۷ فروری ۱۹۲۸ء کی شب کو میں نے حضرت مسیح موعود کو خواب میں دیکھا۔ تبسم آ میر لہجہ میں خاکسار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ تمہارے مضمون سے ہم بہت خوش ہوئے اور تمہارا آیت ”والذین آمنوا بالباطل وکفر وابل اللہ اولئک ہم الخسرون“ کا فلاں مقام پر چسپاں کرنا تو ہمیں بے حد پسند آیا۔ ایک اور اس سے پہلے غالباً جنوری ۱۹۲۸ء کے اخیر میں بشارت ہوئی تھی۔ جب کہ نور ہدایت لکھنے کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس عاجز نے خواب میں دیکھا کہ مخدومی مکرئی جناب ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ایک مقام پر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے خاتمہ بالخیر کے لئے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہا تم کو چاہئے کہ مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ میں نے دوبارہ کہا تو پھر یہی جواب دیا۔ اس مکرر خشک جواب سے میں نہایت ناخوش غصہ کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جھٹ میر صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ مصافحہ کے لئے بڑھادیئے۔ مجھے مصافحہ کرنا پڑا۔ اگرچہ دل میں ناراضی تھی۔ لیکن مصافحہ کرتے وقت کچھ عجیب قسم کا سرور حاصل ہو رہا تھا۔ اس سرور کے ذمہ میں نور ہدایت میں دیکھ رہا ہوں۔ الغرض بعد از مصافحہ میں آپ کے پاس سے چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ غضب ہو گیا تو ایسے مقدس انسان سے ناراض ہو کر آیا۔ جس کی یہی سنت ہے۔ آنکھ کھل گئی سو چتا رہا کہ تعبیر کیا ہے۔ یکا یک حضرت مسیح موعود کے یہ اشعار

زبان پر جاری ہو گئے۔ جاری ہونا تھا کہ فوراً منجانب اللہ تفہیم ہوئی کہ رات میر صاحب نہ تھے۔  
بلکہ ان کی شکل میں وہی پاک ذات تھی جس کا نام اللہ ہے۔“ (نور ہدایت ص ۲۱، ۲۲)

”اس مقدس خواب کے بعد ہی خدائے تعالیٰ نے مجھے نور ہدایت لکھنے کی توفیق عطاء فرمائی اور میرا یقین ہے کہ خدا نے مجھ سے جو عطا فرمایا ہے سب اسی کی برکت ہے۔ ہاں اس کتاب کی تکمیل میں دعاؤں کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ شاید اس قدر دعائیں کسی اور کتاب کے لئے نہ کی گئی ہوں گی۔“ (نور ہدایت ص ۲۳)

”یہ دعائیں اور بشارتیں تو خدا کی طرف سے ایک اسباب کی صورت میں عطاء ہوئی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ہوئیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے خدا نے مجھ جیسے نالائق اور گنہگار انسان سے یہ معجزانہ کتاب نور ہدایت لکھوائی ہے کہ مصنف ردقادیان کا ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ مجھے خود علوم عربیہ و قرآن وحدیث کی باقاعدہ سند حاصل ہے۔

دوسری بات اس نے یہ لکھی تھی کہ مرزا قادیانی جو بانی سلسلہ تھے کماحقہ عربی زبان اور اس کے محاورات اور حتیٰ کہ پوری صرف و نحو بھی نہیں جانتے تھے تو پھر بھلا ان کے مقلدین کیا جانیں گے۔ اس کے اس متکبرانہ دعویٰ سے اور حضرت مسیح موعود کی ہتک سے وہ عزیز الجبار المتکبر اس سے اور اس کے مددگاروں سے سخت ناراض ہو گیا اور اپنے وعید اور وعدہ کے مطابق اس قادر مطلق خدا نے مجھ مشت خاک کو ان سوراؤں کے مقابلہ پر کھڑا کر کے ان کو ذلیل کیا اور میری مدد کی اور ساتھی ان مدعیان علم کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم سے ملنے یا ہمارا مقرب بننے کے لئے صرف و نحو کی ضرورت نہیں۔ پس خدا کے فضل سے میری کتاب نور ہدایت بھی مولویانہ ہتھکنڈوں اور صرف و نحو کے گورکھ ہندوؤں سے پاک ہے۔ احمدی بزرگوں اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صاحبان بھی اس نور ہدایت کو معمولی کتاب نہ تصور فرمائیں۔ بلکہ اس کو حضرت مسیح موعود کی صداقت کا ایک زبردست نشان سمجھیں۔“ (نور ہدایت ص ۲۳، ۲۵)

”حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور تمام ان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری غریبانہ درخواست پر نور ہدایت کی کامیابی کے لئے دعا فرمائی اور جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں مجھ کو اس کار خیر کے متعلق امداد دی۔“ (نور ہدایت ص ۲۶)

اللہ اللہ حافظ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں نے ان کی مدد کی۔ نیز ان سبھوں نے حتیٰ کہ خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی اتنی دعائیں کیں کہ کسی کتاب کے لئے نہ ہوئیں۔ بینظیر انسان نے پسند کی۔ اصلاح دہی، خود مسیح موعود نے بشارت دی، مقدس

انسان کی شکل میں مسیح موعود، خلیفہ المسیح ثانی کی طرح اللہ کی زیارت ہوئی۔ بلکہ اللہ نے مصافحہ بھی کیا۔ بھلا جس کتاب کی یہ شان اور اس کے لئے یہ سامان ہو اس کتاب ہی کو غیر معمولی اور معجزانہ نہیں بلکہ اس کے مصنف کو بھی نبی و رسول نہیں تو کم از کم اس کے لگ بھگ ضرور ہونا چاہئے۔ شاید اسی لئے مرزا قادیانی کی طرح امی ہو کر حافظ صاحب نے بھی مدعیان علم سوراؤں کے مقابلہ میں ایسا اچھا مضمون لکھ دیا جس میں (مختلف اقسام کی غلطیاں، مضامین، کی ترتیب میں بھی بے قاعدگیوں) کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا مولویانہ پھٹکنڈوں (باتوں) اور صرف ونحو کے گورکھ دھندوں (قاعدوں) سے پاک ہونا کیا کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ غرض ایسی امدادوں، اصلاحوں، دعاؤں، بشارتوں، تائیدوں، تعریفوں اور خدا کی زیارت و مصافحہ کے اثر و برکت یا بالفاظ دیگر عرش تافرش روحانیت و جسمانیات کی صرف طاقت کی بدولت حافظ صاحب کو نور ہدایت غلط، بے ترتیب، مولویانہ باتوں سے خالی صرف نحوی قاعدوں سے پاک کتب عدم سے عرصہ شہود میں آئی جو علاوہ ٹائٹل ۱۸۴ صفحہ کی کتاب ہے۔ جس میں طول فضول بہت زیادہ ہے۔ صفحہ دو تک فہرست، چھبیس تک دیباچہ، ایک سواڑ سٹھ تک اصل کتاب میں حافظ صاحب کے خیال کے مطابق مولوی صاحب کے راہ حق نیز دو خط کا جواب اور ایک سو چوراسی تک خاتمہ ہے۔ اصل کتاب میں بھی ایک صفحہ پر صرف نور ہدایت اور ایک صفحہ پر محض یہ صفحہ ضرورتاً خالی چھوڑنا پڑا۔ درج ہے غلطیوں اور ترتیب مضمون کی بے قاعدگیوں کا عجیب حال ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ قلمی خط کا جواب بذریعہ قلمی خط اور مطبوعہ رسالہ کا جواب بذریعہ مطبوعہ کتاب دیتے، نیز مولوی صاحب کی طرح نمبر وار بااصول چلتے۔ اس میں حافظ صاحب کو بھی آسانی تھی۔ مجھے بھی سہولت ہوتی۔ مگر حافظ صاحب نے شاید خلاف معجزہ سمجھ کر اپنی غیر معمولی معجزانہ کتاب میں ایسا نہیں کیا۔ ہاں کتاب میں جو مسیح موعود کی صداقت کا زبردست نشان ہے۔ مختلف اقسام کی غلطیوں اور ترتیب مضامین کی بے قاعدگیوں سے چار چاند البتہ لگا دیا ہے۔ نہ یقین آئے تو نمونہ کچھ ملاحظہ فرمائیے۔

## مختلف اقسام کی غلطیاں

### دیباچہ کی غلطیاں

..... ۱۔ مولوی صاحب کی کتاب کا نام راہ حق ہے۔ چنانچہ کتاب پر بخط جلی راہ حق اس کے نیچے بخط خفی متعلقہ اور اس کے نیچے قدرے جلی رد قادیان لکھا ہوا ہے۔ ہاں ہم حافظ صاحب اس کا نام رد قادیان فرض کر کے ص ۹ پر جوش غضب میں لکھتے ہیں کہ: ”جناب مولوی



صاحب نے اپنے رسالہ کا نام ردقادیان رکھا ہے۔ کیا قادیان نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ اگر میں اپنی کتاب کا نام بجائے نور ہدایت کے ردکا پور رکھ دوں کہ ردقادیان کا مصنف کانپور کارنے والا ہے یا کوئی جناب سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خلاف کوئی رسالہ لکھ کر اس کا نام رد علی پور رکھ دے۔ یا جناب مولوی احمد رضا نمان صاحب بریلوی کے خلاف ان کے کفر نامہ کا جواب لکھ کر اس کا نام رد بریلی رکھ دے تو کیا یہ بات علم و عقل کے مطابق ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک مامور من اللہ کی بیجا مخالفت سے ان (یعنی مولوی صاحب) لوگوں کی فطرتیں اور روحانی صورتیں مسخ ہو گئی ہیں اور ان کا علم و عقل، فہم و تقویٰ، دین و ایمان سب کچھ سلب ہو چکا ہے۔“

لیکن راہ حق کا خواہ مخواہ ردقادیان! نام فرض کر کے ناحق اعتراض کرنے پر اب حافظ صاحب سے کون پوچھے کہ یہ کس کی روحانی صورت مسخ ہو گئی۔ کس کا علم و عقل، فہم و تقویٰ اور دین ایمان سلب ہو چکا ہے۔

۲..... حافظ صاحب نے مولوی صاحب کے پاس رسالہ قول الحق بھیجا تھا۔

مولوی صاحب نے ان کو خط میں لکھا تھا کہ اس کا جواب لکھوں گا۔ اس پر حافظ صاحب ص ۲۸، ۲۹ میں فرماتے ہیں کہ قول الحق کا جواب بجز قول الباطل اور کیا ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس! حافظ صاحب نے جواب لکھتے وقت خود خیال نہ فرمایا کہ راہ حق کا جواب بجز راہ باطل اور کیا ہو سکتا ہے۔

۳..... حافظ صاحب شاکر ہیں کہ مولوی صاحب نے اپنے خطوط اور رسالہ راہ حق میں مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو گالیاں دی ہیں اور ص ۴ پر ۲۶ گالیاں دکھا کر ص ۵ میں فخریہ لکھتے ہیں کہ (احمدی جماعت کے لوگ گالیوں کے بدلے گالیاں نہیں دیا کرتے) لیکن آگے چل کر شائد حافظ صاحب اپنا یہ مقولہ بھول گئے۔ یعنی اتنی گالیاں دیں کہ اگر بقید ص و سطر لکھ کر شمار کی جائیں تو سو گالیوں سے کم طویل فہرست نہ ہوگی جن میں سے مثلاً بعض یہ ہیں: بدنام کنندہ، دریدہ

۱۔ اصل لفظ قادیان ہے۔ اہل پنجاب اب یہی قادیان ہی کہتے ہیں۔ پنجابی زبان میں کاوی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی کیوڑہ فروش لوگ رہتے تھے۔ مرزا قادیانی نے اس صحیح وجہ تسمیہ کو چھوڑ کر یہ غلط بیان کیا ہے کہ اصل لفظ قاضیان ہے۔ مرزا قادیانی نے بہت کوشش کی اور روپیہ صرف کر کے سرکاری کاغذات میں قادیان لکھوایا۔ اپنے اشتہاروں، رسالوں اور کتابوں کے ذریعہ شہرت دی۔ اب ان کی جماعت دانستہ اور دوسرے بھی اکثر نادانستہ قادیان کہتے ہیں۔ مرزائی لوگ قادیان کو دارالامان بلکہ ارض حرم بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ حافظ صاحب نے ص ۸۱ میں ارض حرم قادیان محترم کا لفظ استعمال کیا ہے۔

دہن، مثل دیانند و شر دہانند و لیکھر ام وراجپال، یہودی صفت، مسلوب انعم و انشم و اتش و اتقوی والدین والا یران، مسخ شدہ فطرت و روحانی صورت، گدھا، بندر، سور، ناری، جنمی، چوہڑ، کافر، بدترین خلأق، کھلاڑی، فتنہ پرداز، مفقود الروحانیت، ذلیل، ناخدا ترہیں، بے انصاف وغیرہ۔ یہ صرف ص ۲۶ تک کی گالیاں ہیں۔ اسی سے قیاس کر لیا جائے کہ آگے ص ۸۴ تک اور کتنی گالیاں دی ہوں گی۔

۴..... کتاب راہ حق پر جیسا کہ دستور ہے نہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدظلہ نے کوئی تقریظ لکھی۔ نہ کتاب میں چھپی۔ ہاں شاید خط میں مولوی صاحب کو لکھا تھا۔ اسی کا حوالہ مولوی صاحب نے اعتراض میں دیا کہ (یہ بھی تحریر فرمایا کہ میں نے حرفا دیکھا بہت ارفع پایا) ظاہر ہے کہ اولاً تو مولوی صاحب نے گالی نہیں دی۔ ثانیاً بخیاں حافظ صاحب اگر دی تو مولانا موصوف نے مضمون کو نافع فرمایا نہ کہ گالی کو۔ ورنہ خود مولانا موصوف کی یہ تحریر و تقریر اس سے یقیناً پاک نہ ہوتی۔ مگر حافظ صاحب ص ۱۶۶ میں فرماتے ہیں کہ جب ان کا مرید ایک بے گناہ شخص کو اپنی کتاب رو قادیان میں گالیاں دیتا ہے تو جناب حکیم الامتہ اس کی تائید فرماتے ہیں ہاں بہت ہی ٹھیک کیا ہے۔

۵..... گالی کا شکوہ کرتے ہوئے مولوی صاحب اور حضرت مولانا کے متعلق لکھتے ہیں کہ (مرید صاحب کے دعویٰ علیت اور جناب پیر صاحب کی شان قدوسیت کو دیکھ کر میں تو نہایت حیران ہوں کہ خدایا یہ تو اپنے آپ کو قرآن وحدیث کا عالم اور عامل بتاتے ہیں۔ لیکن ان ہردو پیر صاحب اور مرید صاحب نے قرآن وحدیث کا کیا اچھا نمونہ دکھایا ہے۔) حالانکہ نہ مولوی صاحب نے گالی دی نہ مولانا صاحب نے تائید کی۔ باایں ہمہ اگر یہ امخلاف قرآن وحدیث اور شان قدوسیت ہے تو مرزائیوں نے جو اپنی تحریر و تقریر میں گالیاں دیں۔ مرزا قادیانی اور ان کے خلفاء و علماء نے اس کی تائید و حمایت کی۔ خود مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں اتنی گالیاں دیں جس کی ہر تیب حروف چھی لوگوں نے صاعقہ آسمانی وغیرہ میں فہرست شائع کی۔ آریوں اور شیعوں پر ان کو ترجیح دی۔ ابھی دنیا کو یاد ہے۔ کیا حافظ صاحب یہ سب بھول گئے۔ کیا یہ قرآن وحدیث کے مطابق اور مرزا قادیانی کی مجددیت، مہدویت، مسیحیت، نبوت، رسالت، جامعیت الہیت وغیرہ کے شایان شان ہے؟۔

۶..... حضرت مولانا کو مخاطب کر کے حافظ صاحب لکھتے ہیں (جناب مولانا حکیم الامت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مطمئن رہیں۔ ایک ایک گالی کے بالعوض ہزاروں سعید

الفطرت لوگ۔ حضرت مسیح موعود پر ایمان لائیں گے اور گالیاں دینے والوں پر ہزاروں ہزار لعنتیں برسائیں گے) اگر یہ سچ ہے تو حافظ صاحب یقیناً اپنے مرزا قادیانی کی گالیوں کو بھی باہرکت خیال فرما کر غیر مرزائی سعید الفطرت لوگوں کو بھی وہی ہزاروں ہزار برتاؤ کی اجازت دیں گے۔ دیدہ پایدا!

۷..... اسی شکوہ گالی کے سلسلہ میں حافظ صاحب نے مشکوٰۃ سے دو حدیث نقل کر

کے۔ اول ترجمہ پھر اس کی تفسیر کی ہے۔ ترجمہ ۱۔ حدیث اول عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت پر بالکل ویسے ہی حالات آئیں گے جس طرح کے حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے نمونہ پر تیار کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے علانیہ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی ضرور کوئی ہوگا جو ایسا ہی کرے گا اور بنی اسرائیل کے بہتر (۷۲) فرقے ہو گئے تھے۔ مگر میری امت کے بہتر (۷۳) فرقے ہوں گے۔ جن میں سے ایک فرقہ کے سوا باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اس پر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ناجی فرقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس صفت اور حال پر ہوگا۔ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

ترجمہ حدیث دوم..... حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر جلد ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور باقی کچھ نہ رہے گا۔ قرآن رسم کے طور پر رہے گا۔ مگر حقیقت نہ رہے گی۔ ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی۔ لیکن ہدایت و روحانیت سے بالکل اجڑی ہوئی ہوں گی۔ ان کے علماء تمام ان لوگوں سے بدتر ہوں جو روئے زمین پر آسمان کے نیچے ہوں گے۔ فتنہ انہی کے یہاں سے پیدا ہوگا اور انہی کی طرف عود کرے گا۔

حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ (ان ہر دو حدیثوں کے متعلق تمام علمائے متقدمین و مفسرین اور مجددین رحمہم اللہ علیہم اجمعین بالاتفاق یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ حدیثیں حضرت مسیح موعود کے زمانہ کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق ہیں۔ ص ۱۱) حالانکہ یہ دعویٰ اتفاق اور حصر معنی ہذا قطعاً غلط ہے۔ حافظ صاحب کی اسی جرات پر حیرت ہے۔

۸..... ہر دو حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں (حضور ﷺ) نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو مسیح موعود کے زمانہ میں ہوں گے وہ کامل طور پر یہودی صفت ہوں گے) خود

۱۔ یہ ہر دو ترجمہ خود حافظ صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ حدیث کو سامنے رکھ کر ترجمہ بھی قابل دید بلکہ لائق داد ہے۔

حافظ صاحب کا ترجمہ موجود ہے۔ دیکھو اس میں نہ مسیح موعود کا ذکر ہے نہ ان کے وقت کے علماء کا اشارہ۔ مگر حافظ صاحب ہیں کہ خلاف حدیث، خانہ ساز تفسیر کر کے نہ معلوم حدیث کے کس لفظ یا جملہ کے ماتحت خواہ مخواہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود قرار دے کر زمانہ حال کے علماء بالخصوص مؤلف راہ حق اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو یہودی صفت کہنے پر آمادہ ہیں۔

۹..... نیز حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ (واضح رہے کہ اس حدیث ۳۷ فرقوں والی کا جو تعلق ہے وہ صرف ان لوگوں سے ہے کہ جو حضرت مسیح موعود کی بعثت کے بعد ہوئے ہیں اور مسیح موعود کی آمد سے پہلے پہلے جو گذر چکے ہیں اس کے اثر سے بالکل مستثنیٰ ہیں) حالانکہ حافظ صاحب کی پیش کردہ حدیث میں اس کا اشارہ تک نہیں ہے۔

۱۰..... اور لکھتے ہیں کہ (بالخصوص فرقہ حنفیہ سے جن کو اپنے ناجی ہونے پر بڑا ناز ہے اور گویا وہ اپنے زعم میں جنت کے واحد ٹھیکدار ہیں یہ پوچھتا ہوں کہ جب صرف آپ کے فرقہ کے لوگ ناجی ہوئے تو جس قدر ۲ فرقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے نزدیک ناری ہیں یا نہیں) حالانکہ فرقہ حنفیہ کا یہ نہ خیال ہے اور نہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی ناجی ہیں۔ مگر حافظ صاحب ہیں کہ اپنی طرف سے اول ایک دعویٰ فرض کرتے ہیں۔ پھر اسے حنفیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ازاں بعد ان پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کا مطلق خیال نہیں فرماتے کہ یہ اپنے ہی اختراعی اور فرضی دعویٰ پر اعتراض ہے۔

۱۱..... گالی کا شکوہ کرتے ہوئے یہ لکھ کر کہ (ہر ایک صرف گالیوں سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیشک اس وقت مصلح کی ایک خاص ضرورت ہے) پھر مرزا قادیانی کو مصلح مسیح موعود وغیرہ مان کر نیز ان کو حدیث مذکور کا مصداق اور اس وقت کے جملہ غیر مرزائی (اہل اسلام) کو یہودی صفت قرار دے کر حافظ صاحب ص ۱۱ پر لکھتے ہیں کہ: ”اب اگر مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے مخالفین یہ کہیں کہ چونکہ ابھی مسیح موعود نہیں آیا۔ لہذا ہم لوگ ان حدیثوں کے مصداق نہیں ہو سکتے تو میرے نزدیک اس وقت یہ بحث فضول ۳ ہے۔ صرف یہ دیکھنا کافی ہے

۱۔ ہاں یہ دعویٰ ضرور ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ناجی ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ مگر اس پر اعتراض کیا؟

۲۔ مگر حیرت ہے کہ مرزا قادیانی و دیگر مرزائی خود حافظ صاحب دنیا بھر کو گالی دے کر نہ معلوم کس کی صفت کے منظر بننے ہیں۔ افسوس!

۳۔ یہی تو اصل بحث ہے پھر فضول نہیں ہے؟

کہ جو باتیں ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ اس زمانہ کے علاوہ لوگوں اور مولویوں میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو لازماً ماننا پڑے گا کہ مسیح موعود بھی آچکا اور وہ مرزا قادیانی ہی ہیں۔ ہاں اگر یہ اوصاف جو حدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں اور ان لوگوں میں موجود نہیں تو پھر بیشک ان لوگوں کا یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ ابھی مسیح موعود نہیں آیا۔“

مگر اولاً تو یہ بتانا ہی۔ بے بنیاد ہے کہ پیش کردہ حدیث صرف عہد مسیح موعود کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ثانیاً یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ احادیث صحیحہ پیش کی جاتی ہیں جس میں خود امام مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صفات و علامات مذکور ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آؤ دیکھیں یہ صفات و علامات اگر مرزا قادیانی میں موجود ہیں تو وہ صادق ہیں ورنہ انہیں کاذب جانو، تو فوراً مرزائیوں کے تیور بدل جاتے ہیں اور لغت، محاورات عرب، ظاہر الفاظ، سیاق و سباق کے خلاف اپنے حسب نشاء خانہ ساز تاویل بلکہ تحریف کرنے لگتے ہیں۔ خیر اب حافظ صاحب کی صداقت دیکھنی ہے۔ حدیث مذکور میں تو وہ قیل ہو گئے۔ حدیث مسلم کا جہاں حوالہ دیں گے وہاں اسی کے بیان کردہ صفات سے دیکھوں گا کہ مرزا قادیانی بدین صفت موصوف ہیں یا نہیں۔ کاش اس وقت حافظ صاحب اپنی اسی بات پر قائم رہتے۔

۱۲..... حافظ صاحب جو شان مقام میں ص ۵ پر لکھتے ہیں کہ: ”ہمارے نزدیک آپ کی اور آپ کے ہم خیال لوگوں کی وہی پوزیشن ہے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک جناب سوامی دیانند جی مہاراج اور سوامی شردھانند جی اور پنڈت لیکھرام جی اور مہاشہ راجپال جی صاحبان وغیرہ کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے نزدیک حضرت مسیح موعود کو گالیاں دینا اس لئے جائز ہیں کہ آپ کے نزدیک حضرت مرزا قادیانی معاذ اللہ کاذب ہیں تو پھر مہاشہ راجپال جی وغیرہ کے نزدیک بھی تو بانی اسلام علیہ التحیۃ والسلام کی وہی پوزیشن ہے جو آپ لوگوں کے نزدیک بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ہے۔ پس اگر وہ حضور سرور کائنات ﷺ کی شان والا میں گستاخیاں اور بدزبانیاں کرتے ہیں تو مسلمان کیوں چیختے ہیں۔ اگر فی الحقیقت مخالفین اسلام کا یہ طرز عمل برا اور غیر شریفانہ ہے۔ (ہاں ضرور ہے) اور اگر مسلمانوں کا گلہ و شکوہ درست اور بجا ہے (ہاں بالکل بجا ہے) تو پھر آپ لوگوں کا حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق یہ نازیبا اور غیر شریفانہ سلوک کب روا ہے۔“

مگر حافظ صاحب نہ معلوم کیوں یہ بھول جاتے ہیں یا تجاہل عارفانہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور مرزائی خود حافظ صاحب جو گالیاں دیتے ہیں مرزا قادیانی کے گالیوں کی طویل فہرست تک شائع ہو گئی ہے کہ بحق اسلام و اہل اسلام، شیعوں اور آریوں سے بدزبانی میں

مرزا قادیانی کا نمبر اول ہے۔ کیا مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے اس شریفانہ طرز عمل کو دیکھ کر ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام  
تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا

دور کیوں جائے خود اپنی اسی عبارت میں ملاحظہ فرمائیے۔ نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے سنئے۔

اولاً..... میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ جملہ اہل اسلام بالخصوص مصنف راہ حق اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب آپ کے مرزا قادیانی کو دجال، کذاب، کافر، مرتد وغیرہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ جسے آپ گالی کہتے ہیں اور یہ آپ کو بھی تسلیم ہے کہ منکر نبی متنبی (جھوٹا نبی) اور اس کے قبیحین شرعاً کافر ہیں۔ کاذب ہیں گمراہ ہیں۔ بدوین ہیں۔ ناری ہیں اور آپ کو اس سے بھی انکار نہیں کہ مرزا قادیانی نبی ہیں۔ رسول ہیں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ (حضرت مرزا قادیانی مسیح موعود مہدی مسعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور صحابہ کرام کے قائم مقام مرزا قادیانی کے صحابہ ہیں۔ میں ان ۲۷ فرقے والوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ایسا فرقہ ہے جس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ ص ۱۵) حتیٰ کہ آپ نے ص ۱۸۴ میں مرزا قادیانی کو جامع النبیین تک لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کی تصانیف بھی صراحتاً شاہد ہیں کہ انہوں نے نبی، رسول بلکہ افضل الانبیاء، اکمل الرسل حتیٰ کہ شریک خدا ہونے تک کا دعویٰ کیا ہے۔ قرآن حدیث پر ایمان ہونے کا بھی آپ کو اقرار ہے۔ پس دیکھنا چاہئے کہ قرآن و حدیث کے رو سے مرزا قادیانی کیا ثابت ہوتے ہیں۔ اگر دجال، کذاب، کافر، مرتد ثابت ہوں تو ایسا کہنے والوں کا آپ کو شریک ہونا چاہئے۔ نہ یہ کہ الٹی شکایت، اچھا اب آئے ہم آپ دونوں مرزا قادیانی کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں۔

الف..... قرآن شریف: ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین“ ﴿محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اور آخر الانبیاء ہیں﴾

”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“ ﴿نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اسی کی قوم کی زبان میں﴾

ب..... حدیث شریف: ”انا اخر الانبیاء وانتم اخر الامم (ابن

﴿میں آخر الانبیاء ہوں اور تم آخر الامم ہو۔﴾

”انہ سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ (ترمذی و ابوداؤد)“ ﴿بیشک میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔ ہر ایک ان میں کا مدعی ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالانکہ میں آخر الانبیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر ہوگا جو ان کی مخالفت کرے گا۔ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔﴾

”وفی روایۃ البخاری دجالون کذابون“ ﴿بخاری میں ہے دجال (بڑا فریبی) کذاب (بڑے جھوٹے) ہوں گے۔﴾

ہر دو آیت و حدیث سے امور ذیل صراحتاً ثابت ہیں۔

اول ..... نبی پر خدا اسی زبان میں وحی کرتا ہے جو اس کے قوم کی زبان ہوتی ہے۔

دوم ..... نبی عربی فداہ ابی و امی ﷺ آخر الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کونکہ مرزا قادیانی (تمہ حقیقت الوحی ص ۷، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۸) میں اور ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ وحی والہام کا جو معنی خود صاحب وحی والہام بیان کرے وہی صحیح ہے۔ پس حضور ﷺ کے ”انا اخر الانبیاء“ فرمانے سے صاف معلوم ہو گیا کہ خاتم النبیین کا معنی بس آخر النبیین ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی (انجام آختم ص ۲۸، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸) میں لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا؟

سوم ..... حضور ﷺ کے بعد جو آپ کا امتی کہلا کر دعویٰ نبوت کرے وہ دجال ہے کذاب ہے۔ ایسوں کی تعداد تیس ہوگی۔ (کنز العمال ج ۷ ص ۱۰۷) میں احمد و طبرانی سے روایت ہے کہ ۲۷ ہوں گے جن میں ۴ عورتیں ہوں گی۔

چہارم ..... ہمیشہ امت محمدی کی ایک برسر حق جماعت، دجال، کذاب کی مخالف ہو کر دین حق کی حامی ہوگی۔

پنجم ..... حضور ﷺ نے اپنی نبوت کے بعد والے مدعی نبوت پر خود اپنی زبان فیض ترجمان سے لفظ دجال اور کذاب کا اطلاق فرمایا۔ چنانچہ اپنے وقت کے مدعی نبوت مسیلمہ کو آپ ہی نے کذاب کہا جو ہمیشہ کے لئے اس کے نام کا جزء لاینفک ہو گیا۔ اس طرح قولاً عملاً آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جھوٹے نبی کو دجال، کذاب سمجھو اور کہو۔

اب انصاف سے دیکھا جائے مرزا قادیانی قوم کے مغل ہیں۔ پنجابی ہیں مگر ان پر الہام ان کے قوم کے خلاف زبان میں ہوا جو قطعاً نص صریح کے خلاف اور ان کے تکذیب کی بین شہادت ہے۔ وہ اپنے کو حضور ﷺ کا امتی کہتے ہیں۔ پھر دعویٰ نبوت و رسالت بھی کرتے ہیں۔ جو حسب ارشاد حضور ﷺ، مرزا قادیانی کے دجل و کذب کی یقینی علامت ہے۔ خود مرزا قادیانی کو بھی اس کا اقرار ہے۔ چنانچہ ان کے دعویٰ نبوت و رسالت پر جب علمائے اسلام نے فتویٰ کفر و ارتداد دیا تو مرزا قادیانی نے جواب میں اشتہار دیا جس میں لکھا کہ: ”سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔“ (دعوت عمل ص ۲۳)

مولوی محمد علی امیر جماعت مرزائی لاہور یہ مرزا قادیانی کے اپنے دعویٰ نبوت و رسالت پر خود ان کا ہی فتویٰ کذب و کفر ہے۔ حضور ﷺ کی ہدایت اور مرزا قادیانی کے فتوے کے موافق اہل سنت و جماعت نے ان کی مخالفت کی اور مرزا قادیانی کو دجال، کذاب، کافر مرتد کہا۔ تو فرمائیے یہ عین شریعت کی تعمیل ہوئی نہ کہ گالی۔

بائیں ہمہ حافظ صاحب یہ کہتے ہیں کہ: ”اگر حضرت مرزا قادیانی نے معاذ اللہ ان کے خیال میں نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے گنہگار ہیں۔ ان گالیاں دینے والوں کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے۔ جو ان کو گالیاں دینے کی ضرورت پیش آئی۔“ (نور ہدایت ص ۱۶)

سبحان اللہ! مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والے جملہ غیر مرزائی (اہل اسلام) کی تکفیر کی، دجال اکبر، امام مہدی، حضرت عیسیٰ، وابتہ الارض، خرد جال وغیرہ علامات قیامت اور قیامت، ملائکہ، انبیاء، کتاب اللہ، خدا کے متعلق حضور ﷺ کے تعلیم کردہ مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا۔ صحابہ کرام، کی شان میں گستاخی کی، انبیاء خصوصاً حضور ﷺ کی توہین و تنقیص و تکذیب کی۔ اپنے الہام کے سامنے قرآن و حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ قمر الانبیاء، ابن اللہ اور شریک اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ سب کچھ کیا مگر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کا کچھ بگاڑا ہی نہیں۔ چہ خوش! اگر مرزا قادیانی کی طرف سے یہ سب و شتم نہیں افتراء و بہتان نہیں۔ کذب و فریب نہیں، شرک و کفر نہیں تو پھر معلوم نہیں دین اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ارتداد کے لئے اور کس سامان کی ضرورت ہے اور دنیا میں دجال، کذاب، مفتری، مردود، ملعون، کافر، مرتد کس کو کہا جائے گا؟

حافظ صاحب! کچھ تو انصاف کیجئے۔ خود مرزا قادیانی کا اقرار دیکھئے۔ ابھی ان کا مقولہ



بحوالہ اور نقل کر چکا ہوں کہ حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کے بعد دوسرا مدعی نبوت و رسالت کا ذب ہے، کافر ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے بالمقابل آخری فیصلہ میں علانیہ کہا اور دعا کی کہ اگر میں مفسد، مفتری، کذاب، دجال ہوں تو مولوی ثناء اللہ سے پہلے مر جاؤں۔ پیر مہر علی شاہ کے مقابلہ میں اشتہار دیا کہ ان سے مناظرہ کے لئے لاہور نہ جاؤں تو کاذب، مردود، ملعون ہوں۔ ۵ نومبر ۱۸۹۹ء کو بڑا دو ورقہ اشتہار شائع کیا۔ جس میں یہ دعاء تھی کہ خدا جنوری ۱۹۰۰ء سے آخر دسمبر ۱۹۰۲ء تک میرے لئے نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ پھر لکھا کہ میری یہ دعاء قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود، ملعون، کافر، بیدین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔

(نور ہدایت ص ۳)

(حماۃ البشری ص ۷۹) میں تصریح کی کہ یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں۔ (تہیہ اعجازیہ ص ۵۸، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷۰) کے ایک شعر میں لکھا ہے کہ میں اشرا الناس (بدترین انسان) ہوں گا۔ اگر اہانت کرنے والے اپنی اہانت نہیں دیکھ لیں گے۔

فرمائیے حافظ صاحب! جب مرزا قادیانی نے حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کے بعد آپ کے نزدیک بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا۔ آپ کے فریق مخالف اہل اسلام کی تحقیق میں مرزا قادیانی، مولوی ثناء اللہ سے پہلے مر گئے۔ پھر مہر علی شاہ سے مناظرہ کے لئے لاہور نہ گئے۔ مذکورہ میعاد میں خدا نے انسانی طاقت سے بالاتر نشان نہیں دکھلایا۔ اہانت کرنے والے مثلاً ڈاکٹر عبدالحکیم خان، مولوی عبدالحق غزنوی وغیرہ نے مرزا قادیانی کے سامنے جرم اہانت کی سزا نہیں پائی تو ہم اہل اسلام خصوصاً مولوی عبدالحکیم صاحب کانپور یا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کس کو اشرا الناس، دجال، بیدین، خائن، کاذب، کافر، مردود، مفسد، مفتری اور مرتد کہتے جائیں۔

اچھا حافظ صاحب! یہ بھی جانے دیجئے اور اب آپ ہی اپنے دین و ایمان سے کہتے کیا مرزائیوں نے رسالہ نبی کی پہچان مطبوعہ قادیان میں نہیں لکھا کہ مرزا قادیانی کی دس پیشین گوئیاں جھوٹی ہوئیں۔ کیا کمائی یا لاہوری مرزائی پارٹی نے نہیں اقرار کیا کہ مرزا قادیانی کی سو پیشین گوئیوں میں ساٹھ جھوٹی ہوئیں۔ (اخبار اہل حدیث ۱۹ محرم الحرام ۱۳۳۷ھ ج ۱۵ نمبر ۵۱، از اخبار الفضل مورخہ ۱۸ اکتوبر)

ہاں یہ دوسری بات ہے کہ آپ قسم کھا کر یہی کہتے جائیں۔ ”حضرت مرزا قادیانی کی ایک بھی پیشین گوئی نہیں جو خدائے تعالیٰ سے علم پاکر کی گئی ہو اور وہ غلط یا جھوٹی ہوئی ہو۔“

(نور ہدایت ص ۱۸۴)

بلکہ یہاں تک فرمائیں کہ اب اگر خدا نخواستہ حضرت مرزا قادیانی کی تمام پیشین گوئیاں بھی غلط یا جھوٹی ہوں تو بفضل خدا ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ (نور ہدایت ص ۱۷۶)

مگر اس کو کیا کیجئے گا کہ آپ کی بد قسمتی سے مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کے لئے اپنی پیشین گوئیوں کو معیار قرار دیا ہے۔ جس میں سے ایک کا بھی جھوٹا ہونا کافی ہے نہ کہ بقول مرزائی فی صدی دس بلکہ ساٹھ جھوٹی ہوئیں۔ لہذا خود مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اپنے جھوٹا ماننے اور کہنے پر دنیا کو مجبور کر دیا ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پس آپ ناحق خفا ہو کر شکوہ، شکایت کرتے ہیں۔

جانیا..... آپ نے لکھنے کو تو یہ لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک غیر مرزائی مسلمانوں کی وہی حیثیت (صاف کیوں نہیں کہتے کہ آریوں کی طرح ہم مسلمان بھی واجب القتل ہیں) ہے جو دیانند، شردھانند، لیکھر ام، زاجپال کی ہے اور یہ خیال نہ فرمایا کہ آریہ تو مطلقاً نبوت و رسالت ہی کے منکر ہیں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام سے حضور ﷺ تک جتنے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں۔ سب کی توہین و تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان نبوت و رسالت کے قائل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور ﷺ تک جملہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ دین اسلام کو برحق، کامل، ناسخ الادیان اور قیامت تک کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم بیشک مرزا قادیانی کو کاذب سمجھتے ہیں۔ مگر دین اسلام کے ماتحت جسے بظاہر آپ بھی حق کہتے ہیں مگر آریہ نہ صرف مرزا قادیانی کی بلکہ جملہ انبیاء کی اپنے اس دین کے ماتحت تکذیب کرتے ہیں۔ جسے ہم آپ دونوں بالاتفاق باطل مانتے ہیں۔ پس آپ کا آریوں اور مسلمانوں کو یوں متحد الحیثیت قرار دینا ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟

جانا..... آپ تو حضور ﷺ سے محبت کرنے اور ان پر ایمان رکھنے میں ہم مسلمانوں کو ناقص، اپنے مرزائیوں کو کامل کہتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ کیسے لکھتے بنا کہ آریہ، حضور کی شان میں گستاخی و بدزبانی کرتے ہیں تو مسلمان کیوں چیخنے ہیں۔ کیا ایمان اور محبت کا بھی مقتضی ہے۔ آپ مدعی ہیں کہ روحانیت ہم میں ہے۔ اسلام کے حامی و مبلغ ہم ہیں۔ فرمائیے کیا روحانیت کی بھی علامت ہے۔ اسلام کے حامی و مبلغ کی بھی شان ہے۔ کیا آپ کے قمر الانبیاء جامع النبیین نے آپ کو بھی تعلیم دی ہے۔ افسوس!

کفر کی رغبت بھی ہے دل میں بتوں کی چاہ بھی کہتے جاتے ہیں مگر منہ سے معاذ اللہ بھی

رابعاً..... آپ نے گالی کی بڑی شکایت کی ہے۔ اس کا ایک جواب مرزا قادیانی کی زبانی بھی سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ بلکہ ایسی بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو۔ محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب و شتم فقط ایک مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے۔“

(ازالہ الادہام ص ۱۳، خزائن ج ۳ ص ۱۰۹)

جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امر واقعی ہے اور ایک امر غیر واقعی۔ پھر امر غیر واقعی کے استعمال کی دو حیثیت ہیں۔ ایک بغرض آزار رسانی اور ایک بلاغرض آزار رسانی۔ ان میں سے دشنام، سب و شتم یا گالی صرف امر غیر واقعی بغرض آزار رسانی کا نام ہے۔ پس مرزا قادیانی کو ہمارے علماء جو دجال، کذاب، کافر، مرتد کہتے ہیں وہ صرف امر واقعی کا اظہار ہے نہ کہ دشنام دہی، ہاں مرزا قادیانی اپنی تعریف کے مطابق خود البتہ گالی دیا کرتے تھے۔ جس کے وہ آپ ہی معترف ہیں کہ: ”ومن اور الکلمات در رسانند در غضب آوردم والفاظ دل آزار کفتم تا باشد کہ او برائے جنگ من بر خیزد“

(انجام آختم ص ۲۳۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۳۵)

اور سخت الفاظ استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اخفتہ دل اس سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ ہندوؤں کی قوم کو سخت الفاظ سے چھیڑنا نہایت ضروری ہے۔ (ازالہ الادہام ص ۸۷) اس سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی امر غیر واقعی کو دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کرنے کو ضرور ہی نہیں جانتے تھے بلکہ استعمال بھی کیا کرتے تھے اور جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ بکثرت ہیں۔ بہ ترتیب حروف حتمی جن کی طویل فہرست، کتاب عصائے موسیٰ سے صاحب عشرہ کاملہ نے نقل کی ہے۔ ان میں سے مثلاً بعض یہ ہیں۔

۱۔ حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی جرم نہیں۔ (نور ہدایت ص ۷۴)

۲۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں: (۱) مرزا قادیانی جھوٹ بولتے تھے۔

(۲) جھوٹ سے دوسروں کو آزار پہنچاتے تھے۔ (۳) اسی دروغ یا گالی کا لازمی نتیجہ تھا یا ہوا کہ

عیسائی، اگر یہ جواباً بانی اسلام کی شان میں گستاخی و بدزبانی کرنے لگے جس طرح مرزا قادیانی الزاماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلواتیں سنانے لگے تھے جس کا اقرار اور اس پر فخر حافظ صاحب نے بھی ص ۳۶، ۳۷ میں کیا ہے۔

”بدذات فرقہ مولویاں، جنگل کے وحشی، پلید، اوباش، بدچلن، بیوقوف، ثعلب (لومڑی) چوہڑے، چمار، حمار (گدھا)، خنزیر (سور) سے زیادہ پلید، خفاش، (چمگاڑ) ڈوموں کی طرح مسخرہ، سگ بچگان، شریر، مکار، کتے، کینہ، مردار خوار مولویوں، نمک حرام، نابکار قوم، ہندو زادہ وغیرہ۔“

(نور ہدایت ص ۱۲۷-۱۲۹)

لظم میں مولوی سعد اللہ لودھیانوی کو سگ دیوانہ، خرداران کے استاد کو دوغلا، نمرود، شداد، مسخر، منہ پھشا اوباش وغیرہ۔

(نور ہدایت ص ۱۳۰)

اپنے مخالف غیر مرزائی مسلمانوں کو ذریتۃ البغایا یعنی چھنال عورتوں کی اولاد۔

(آئینہ کمالات ص ۵۳۷، خزائن ج ۵ ص ۵۳۷)

دیکھا حافظ صاحب! گالی اسے کہتے ہیں جب نبی کا یہ حال ہے۔ اس کی امت کا کیا کہنا۔

چوکھراز کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان

حیرت ہے مسلمان امر واقعی کا اظہار کریں تو مرزا قادیانی فوراً جوش غضب میں لظم

فرمائیں کہ۔

بدتر ہر ایک بد سے ہے جو بد زبان ہے

جس دل میں ہے نجاست بیت الخلاء وہی ہے

(عشرہ کاملہ ص ۱۲۶)

اور خود مرزا قادیانی بدترین امر غیر واقعی سے ایذا پہنچائیں تو مرزائی شربت کے گھونٹ

کی طرح پی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔

خامسا..... اچھا حافظ صاحب آئے اب ہم اپ ہی کی زبان سے قول فیصل سناتے

ہیں۔ سنئے مسیح موعود کے ہم آپ دونوں قائل ہیں۔ مصداق میں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ

حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ ہم

کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ دجال اکبر کا زمین

سے خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر کچھ دنوں زندہ رہ کر وفات

فرمائیں گے۔ مگر یہ واقعات چونکہ ابھی نہیں ہوئے۔ لہذا ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ

ہم نے اپنی زندگی میں دجال کو بھی سمجھ اس کی صفات کے دیکھا اور فضل خدا سے حضرت مسیح

(مرزا قادیانی) کو بھی ان کے کارناموں کے ساتھ دیکھا۔ آخری بات یہ ہے کہ دجال کو نیزہ کی انی

سے قتل ہوتے بھی دیکھا۔

پھر قتل ہوتے پر خود ہی حاشیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کی وفات ہی دراصل قتل دجال کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اس کی تفصیل میں آپ نے بات بنانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ مگر بے سود۔ (اور دوسرا مطلب آپ کے دل کا مطلب ہے آپ کے الفاظ کا نہیں۔)

دیکھا حافظ صاحب! حق بر زبان جاری۔ اس کو کہتے ہیں فرمائیے! وفات مسیح اور قتل دجال ہر دو لفظ کے مترادف ہم معنی ہونے کے اس کے سوا اور کیا معنی ہیں کہ مرزا قادیانی ہی دجال تھے جو قتل ہوئے۔ جس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا۔ مرزا قادیانی کا مولوی صاحب یا مولانا اشرف علی صاحب یا دیگر اہل اسلام و علماء اسلام اگر دجال کہیں تو آپ نفا ہوتے ہیں کہ یہ نازیبا اور غیر شریفانہ سلوک ہے اور گھما پھرا کر آپ دجال کہیں تو وہی سلوک زیبا۔ شریفانہ اور حق بجانب ہے۔ بہتر ہے، بیش بادایں کارا تو اید و مردان جنیں کنند۔

۱۳..... حافظ صاحب نے اپنے نبی مرزا قادیانی کے اصحاب کو ص ۱۵ میں حضور ﷺ کے صحابہ کرام کے قائم مقام، اور ص ۱۳۷ میں مرزا قادیانی کے خلیفہ اول حکیم نور الدین صاحب کو ابو بکر ثانی، ص ۸۸ میں خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود ولد مرزا غلام احمد کو حضرت عمر اقرار دیا ہے۔ یعنی اسی طرح بالفاظ دیگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور ﷺ کی صحبت کا جو اثر تھا وہی اثر مرزا قادیانی کی صحبت کا تھا اور جس طرح حضور ﷺ کی صحبت کے اثر سے متاثر ہو کر آپ کے صحابہ قرآن میں قابل مدح اور امت کے پیشوا قرار پائے۔ مرزا قادیانی کے اصحاب بھی ویسے ہی ہیں۔ لیکن حافظ صاحب یہ نہ معلوم کیوں بھوگ گئے کہ: ”مرزائیوں کی نسبت خود مرزا قادیانی نے ان کی درندگی، وحوش طبعی، بدتہذیبی، بدکلامی، سب و شتم اور فحش گوئی کا ذکر شہادت القرآن کے آخری اشتہار میں کیا ہے اور حکیم نور الدین کی رائے لکھی ہے کہ یہ لوگ یہاں (قادیان) اگر بجائے درست ہونے کے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں ذرہ بھی پاس دلچاظ نہیں رکھتے۔ لہذا یہ سالانہ جلسہ بند کیجئے اور مریدوں کا اس طرح جمع ہونا بند فرمائیے۔ پھر انہیں کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ میری جماعت موسیٰ کی جماعت سے ہزاروں درجہ بڑھ کر ہے۔ ان میں صحابہ کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔“ (رسالہ اسحاح الدجال ص ۴۲، معنفذ اکبر عبد الحکیم خان سابق مرید مرزا قادیانی) ۱۳..... حافظ صاحب دوسروں کو فرماتے ہیں کہ: ”غیر احمدی لوگوں میں روحانیت (نور ہدایت ص ۲۳)

مفقود ہو چکی ہے۔“

۱۔ کمال تو جب ہے کہ یہ ترتیب منقطع نہ ہو۔ دیکھنا ہے مرزا قادیانی کا کون لوارہ حسین اور خلیفہ یزید بنتا ہے۔

حالانکہ اصحاب مرزا کا ناگفتنی حال وہ تھا جو ابھی مذکور ہوا۔ خود صحابہ مرزا ہو کر اپنے متعلق اور قریب ہی لکھ چکے ہیں کہ خدا سے مصافحہ کر کے خواب کے بعد یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ قریباً بیس سال کے عرصہ سے تو احمدیت میں داخل ہے۔ لیکن افسوس خدائے تعالیٰ کے ساتھ اب تک تیرا ذرہ بھی تعلق نہیں ہوا۔ جب تعلق نہیں تو خاتمہ بالخیر کیونکر ہوگا۔ (نور ہدایت ص ۲۲، ۲۳)

۱۵..... حافظ صاحب کی پیش کردہ مذکورہ حدیث میں جس فقہ کی خبر ہے۔ حافظ صاحب کے نزدیک اس کا مصداق مرزا قادیانی کے مخالف علماء اسلام ہیں۔ ان کے مذہبی اختلاف کی شکایت کرتے ہیں کہ: ”ذرا ذرا سی بات پر آپس میں کفر بازی، فتویٰ بازی ہونے کے علاوہ دنیا میں کوئی بازی ایسی نہیں ہے۔ جس کے یہ لوگ کھلاڑی نہ ہوں۔ صبح کو ایک فتویٰ قرآن و حدیث کے نام سے جاری کیا جاتا ہے اور شام کو ہی اس کے خلاف دوسرا فتویٰ جاری ہوتا ہے۔“ (نور ہدایت ص ۱۹)

مگر اپنے مرزا قادیانی کے اختلاف بیانیوں اور مرزائیوں کے فرقہ بندیوں کو نہ معلوم کیوں بھول جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اختلاف بیانیاں تو اس کثرت سے ہیں کہ اس کی تفصیل کے لئے مستقل رسالہ کی ضرورت ہے۔ مرزائیوں کے فرقہ بندی کا اجمالی حال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اور ایسی قلیل مدت میں اتنے فرقے ہو گئے۔ اول محمودی، جس کے پیشوا مرزا بشیر الدین محمود ولد مرزا غلام احمد قادیانی خلیفہ ثانی ہیں۔ دوم لاہوری، اس کے امام مسٹر محمد علی اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔ سوم ظہیری، اس کے مقتدا ظہیر الدین اردو پی ساکن گوجرانوالہ ہیں۔ چہارم تھاپوری۔ اس کے بانی عبداللہ تھاپوری ہیں۔ پنجم سمزیالی، اس کے سرغنہ محمد سعید ساکن سمزیال تحصیل ڈبکہ ضلع سیالکوٹ ہیں۔ سنا ہے کہ بعض شاخیں رنگون میں بھی ہیں اور ان سمجھوں میں باہم آسان وزمین کا اختلاف ہے۔

غرض حافظ صاحب باوجود اپنے یہاں کے اس شدید اختلاف اور بدترین گالیوں کے علماء اسلام پر پھر بھی تھوڑے نہیں بڑے مہربان ہیں۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم کسی موقع پر تم کو یہودی صفت کہہ دیں تو یہ ہماری بڑی مہربانی ہے۔ (نور ہدایت ص ۱۸)

میری طرف سے اس مہربانی کا شکر یہ بھی قبول ہو۔

بیا ساقیا من چہاے کنم  
تو دشنام ده من دعایے کنم

ناظرین! یہ تو دیباچہ کی پندرہ غلطیاں تھیں۔ اب کتاب کی بھی کچھ غلطیاں ملاحظہ ہوں۔

## کتاب کی غلطیاں

۱۶..... مولوی صاحب نے حافظ صاحب کو خط میں لکھا تھا کہ مرزا قادیانی کے کذاب اور مفتری ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے کو نبی و رسول کہتے ہیں۔ حالانکہ نبوت و رسالت حضور ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ حافظ صاحب کے جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے دلیل میں آ یہ ختم نبوت اور حدیث لانی بعدی لکھا تھا۔ لیکن حافظ صاحب پھر بھی نہایت بھولے پن سے لکھتے ہیں کہ: ”آپ کی یہ خود ساختہ دلیل ختم نبوت کے متعلق بالکل غلط ہے۔ اس کو دلیل نہیں کہتے۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے۔ افسوس دلیل اور دعویٰ میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو قرآن حدیث سے ثبوت پیش کریں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ حدیث میں لانی بعدی اور قرآن میں خاتم النبیین آیا ہے۔ آپ کے مصنوعی دعویٰ کو کوئی تقویٰ نہیں پہنچا سکتا۔“ (نور ہدایت ص ۲۹)

حافظ صاحب کی سینہ زوری دیکھئے۔ مولوی صاحب تو دعویٰ کی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں اور حافظ صاحب اس دلیل کو دعویٰ کہہ کر اٹلے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ، دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ قرآن و حدیث پیش کرنے پر اسے ناکافی بھی کہتے ہیں اور پھر اسی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کی یہ حالت واقعی قابل رحم و دعا ہے۔

۱۷..... حافظ صاحب مولوی صاحب کو لکھتے ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب رد قادیان میں بطور سرقہ دہی بے سرو پا، بیہودہ اور فرسودہ باتیں جو آپ کے بھائی بند مولوی اپنی گندی کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ جن کا جواب ہمارے سلسلہ کی طرف سے یا رہا دیا جا چکا ہے۔ نقل کر کے اپنے نام سے شائع کر دیا ہے۔ یہ کوئی آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ جس کا مقابلہ سوائے آریوں اور عیسائیوں کے کوئی بھلا مانس نہیں کر سکتا۔ (نور ہدایت ص ۲۲)

مگر حافظ صاحب اپنی کتاب نور ہدایت میں خود اپنا کچھ ذاتی کمال نہیں دکھاتے اور وہی کرتے ہیں جس کا التزام مولوی صاحب کو دیتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھلا مانس مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ ہی مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ: ”اپنے واجب الاحترام پیر و مرشد (مولانا اشرف علی صاحب) کو بھی بدنام کیا۔“ مگر خود اسی حرکت سے اپنے قمر الانبیاء جامع النبیین مرزا غلام احمد قادیانی۔ نبی کی جو عزت افزائی کی اس کی خبر ہی نہیں۔

۱۸..... مولوی صاحب نے راہ حق ص ۱۸ میں لکھا تھا کہ (مرزا قادیانی) اور سنئے پھر کہتے ہیں: ”لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست

بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع ہیں۔“

(دافع البلاء، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

اسے خوب غور سے دیکھئے۔ اس میں وہ ایک نبی کے مقابلہ اور قرآن کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں: ”یسوع (حضرت عیسیٰ) کے وادا صاحب داد دے تو: ۱..... سارے بڑے کام کئے ۲..... ایک بے گناہ کو اپنی شہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کرایا۔ ۳..... اور دلالہ بھیج کر اس کی جو رو کو منگوایا۔ ۴..... اور اس کو شراب پلائی۔ ۵..... اور اس سے زنا کیا۔ ۶..... اور بہت سا مال زنا کاری میں ضائع کیا۔“

(معیار الہد ہب ص ۸، خزائن ج ۹ ص ۳۸۳)

لیکن اب مرزا قادیانی کی صداقت کا زبردست نشان یا معیار صاحب کا معجزہ دیکھئے کہ حافظ صاحب نے غلطی سے درمیانی عبارت کو بجائے دافع البلاء کے معیار الہد ہب کی عبارت سے متعلق سمجھ کر اپنا تین صفحہ سیاہ کر ڈالا اور اول صرف درمیانی و معیار الہد ہب کی عبارت راہ حق سے نقل کی۔ پھر مرزا قادیانی کی معیار الہد ہب سے طویل عبارت درج کی اور وجاہت اس کا نام ہے کہ کہہ کر دوبارہ راہ حق والی درمیانی عبارت لکھ کر ناظرین سے فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی (اس تمام عبارت میں نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نہ ہی یہ تمام باتیں قرآن کریم کے حوالہ سے آپ نے لکھی ہیں۔ یعنی حافظ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے بحوالہ معیار الہد ہب جھوٹ لکھا کہ مرزا قادیانی نے ایک نبی کے مقابلہ اور قرآن کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی) اور ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ صرف حافظ صاحب کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے نہ کہ مولوی صاحب کی تحریر کا۔ پس حافظ صاحب نے مولوی صاحب کو جس جرم کا مرتکب سمجھ کر ان کو یہودی صفت، بدترین خلاق، شیطان، دجال فرمایا ہے اب اس جرم کے مجرم خود حافظ صاحب ہی نکلے۔ دیکھیں حافظ صاحب اپنے متعلق بھی یہی شیریں الفاظ استعمال فرماتے ہیں یا نہیں۔

۱۹..... حافظ صاحب اپنے مرزا قادیانی کی امامت کے ثبوت میں ص ۵۴، ۵۵

میں فرماتے ہیں کہ (حضور ﷺ نے فرمایا انا مکم منکم کہ وہی (مرزا قادیانی) تمہارا ہادی اور امام ہوگا اور وہ تم میں سے ہی ہوگا۔ کہیں پھر سے نہیں آئے گا۔ ملخصاً) خیر اس سے مرزا قادیانی کی امامت



کا ثبوت تو معلوم ہے۔ اس وقت کہنا یہ ہے کہ چونکہ حافظ صاحب کا مقصود مرزا قادیانی کو امام مہدی ثابت کرتا ہے۔ لہذا یہاں منکم کا ترجمہ تم میں سے ہی ہوگا کیا، لیکن یہی منکم جب قرآن کی آیت اولی الامر منکم میں بادشاہ کی اطاعت کے متعلق بھی آیا تو عیسائیوں کی عزت و احترام کو مد نظر رکھ کر ص ۱۳۱، ۱۳۰ فرمایا کہ غیر احمدی علماء اور ان کے قبحین و معتقدین منافق ہیں۔ ان کا دل انگریزوں کی اطاعت کرنے کو نہیں چاہتا نہ کریں۔ لیکن قرآن کی آڑ لے کر اسلام اور قرآن کو کیوں بدنام کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے بادشاہ ہو اس کی اطاعت کرو اگر کافر بادشاہ ہو تو ہرگز اس کی اطاعت نہ کرو۔ ملخصاً۔ یہی حال ہے تو خدا نخواستہ کوئی مرزائی بادشاہ ہوئے تو فوراً رجعت قہقری کر کے امامت کی طرح اسی منکم سے اس کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت کرنے لگیں گے۔

۲۰..... حافظ فرماتے ہیں کہ غیر مرزائی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ حضرت نبی کریم ﷺ آخری نبی ہیں۔ اس لئے اب کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا اور اس عقیدہ پر یہاں تک تشدد کے ساتھ قائم ہیں کہ بقول ان کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کو بھی امانت خانہ میں رکھوا کر آئیں گے۔ اس خوف سے کہ میں اپنی نبوت ساتھ لے گیا تو کہیں مہر نبوت نہ ٹوٹ جائے۔ (نور ہدایت ص ۴۱)

حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا صرف یہ عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ آخر النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نہ نبی کی ضرورت ہے نہ کسی کو نبوت ملے گی۔ مگر یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور ﷺ سے پہلے جو نبی ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی نہ آئے۔ گایان کا آنا منافی ختم نبوت ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سابق نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے۔ یا دوبارہ وہ آئیں گے تو نبوت کرنے آئیں گے۔

۲۱..... نیز لکھتے ہیں۔ ”حضرت رسول کریم ﷺ نے اپنے سے بعد میں آنے والوں کو اس طرح تصدیق کی اب میرے بعد وہی نبی ہوگا جو میرا کامل قبیح ہوگا۔“ (نور ہدایت ص ۴۱) حالانکہ حضور ﷺ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا۔

۱۔ ہر مرزا قادیانی! مرزائیوں کو مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہتے ہوئے اپنی امت کو حکم دیتے ہیں کہ چاہئے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ (تحد کلازویہ ص ۱۸) کیا حافظ صاحب اپنے مرزا قادیانی کے ”تم میں سے ہو“ پھر بھی یہی اعتراض اور طعن کریں گے؟

۲۔ جیسا لاہوری مرزائی کہتے اور لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی پرانا نبی بھی نہ آئے گا۔

۲۲..... اور پھر بلا فصل فرماتے ہیں کہ: ”حضور نے فرمایا اگر کوئی مدعی نبوت اپنا دعویٰ اس رنگ میں پیش کرے کہ مجھ کو محمد کی نبوت سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی محمد کی شریعت پر میرے دین کا انحصار ہے۔ میں نے جو کچھ پایا بلا واسطہ براہ راست خدا سے پایا تو سمجھ لینا کہ اس قسم کا مدعی کذاب اور مفتری ہے۔“

حالانکہ حضور ﷺ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ میرا کامل تتبع تو نبی اور بالکل غیر تتبع کذاب و مفتری ہوگا۔ ہاں یہ البتہ فرمایا ہے کہ جو میرا امتی بن کر اپنے کو نبی کہے وہ کذاب و دجال ہے۔ جس کا یہ لازمی نتیجہ ظاہر ہے کہ غیر امتی مدعی نبوت بدرجہ اولیٰ دجال و کذاب ہوگا۔ اب مرزا قادیانی تتبع ہوں یا غیر تتبع۔ ہر صورت میں نبی بن کر شرعاً دوسروں سے اپنے کو خود کذاب و مفتری کہلاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کو اس زد سے بچانے کے لئے معلوم نہیں کہاں سے لکھ دیا کہ صرف بالکل غیر تتبع مدعی نبوت کذاب و مفتری ہے۔

۲۳..... نمبر ۲۲، ۲۱ کی منقولہ عبارت سے حافظ صاحب کا یہ دعویٰ صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضور ﷺ کے کامل تتبع نبی ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نمبر ۲۲ والی عبارت کے مصداق ہیں۔ جسے لکھتے وقت حافظ صاحب شاید اپنے مرزا قادیانی کے وہ الہامات بھول گئے جن سے ویسا ہی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ لازم آتا ہے۔ جیسا کہ کذاب و مفتری ہونے والا حافظ صاحب نے لکھا ہے۔ ”کیونکہ شریعت نام ہے تعلیم محمدی کا جو قرآن اور حدیث میں بتامہ موجود ہے۔ مرزا قادیانی قرآن کے متعلق اس کی تفسیر کے معیار صحت پر بحث کرتے ہوئے ساتواں معیار لکھتے ہیں کہ دولایت اور مکاشفات محدثین ہیں اور یہ معیار گویا سب معیاروں پر حاوی ہے۔“

اور حدیث کی بابت فرماتے ہیں۔ ”جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔“

”حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔“

(اعجاز احمدی ص ۲۹، جزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹)

۱ اور (توضیح المرام ص ۳۷، ۳۸) میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح کشف، الہام و خواب اولیاء انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بعض دفعہ فساق، فجار بدکار کو بھی صحیح الہام سچا خواب ہوتا ہے۔

”جو حدیث میری وحی کے خلاف ہو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے قابل ہے۔“

(شہادت القرآن ملخصاً، خزائن ج ۶ ص ۳۱۲)

حافظ صاحب! دیکھئے مرزا قادیانی کس صفائی سے قرآن و حدیث کو اپنے خواب، کشف، الہام، وحی کے ماتحت قرار دے کر تعلیم محمدی کو کس خوبصورتی سے منسوخ یا اپنی تعلیم مرزائی کے تابع بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر ”قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ“ (ضمیر حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۸) کی وحی ہوئی ہے۔ لیجئے اب تو کوئی کسریاتی نہیں رہی۔

۲۳ ..... (نور ہدایت ص ۵۰، ۴۹) میں لکھتے ہیں کہ: ”یہ مولوی صاحبان خود قرآن

کریم کی رو سے حضرت داؤد کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اپنی فوج کے سپاہی کی عورت کو کونٹھے پر نہاتے ہوئے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے اور انہوں نے مکر و فریب سے اس کے خاوند اور یا کولڑائی پر بھیج کر قتل کروا دیا اور پھر اس غریب کی عورت پر قبضہ کر لیا۔“

دیکھئے اس عبارت میں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مولوی صاحبان قرآن کے رو سے ایسا مانتے ہیں۔ مگر اس کے بعد ہی اس کا ثبوت یوں دیتے ہیں کہ: ”اس قصہ کی اگر کسی کو پوری تفصیل دیکھنی منظور ہو تو ان مولویوں کی تفسیروں کو نکال کر دیکھ لے۔ میں مولوی صاحب کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ حضرت داؤد کی نسبت ایسی گندی اور شرمناک باتیں آپ کی تفسیروں میں حتیٰ کہ قرآن شریف کے حاشیوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔“ بھلا غور تو کیجئے۔ کجا قرآن اور کجا تفسیر و حاشیہ پھر محققین نے تفسیروں میں جو ایسی روایتوں کو داخل اسرائیلیات کر کے ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ حافظ صاحب اس کا نام تک نہیں لیتے اور زبردستی اس روایت سے تمام مولویوں کو التزام دیتے ہیں۔

یہ الزام دراصل قصہ طلب ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے عزیزوں میں محمدی بیگم نامی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ سن رسیدہ مرزا قادیانی کا اپنا یہ الہامی بیان ہے کہ اس لڑکی سے آسمان پر میرا نکاح ہو گیا۔ اب وہ زمین پر باکرہ یا فلاں مدت میں بیوہ ہو کر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اس سے اولاد ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہ ہو تو میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں۔ پھر اسی اثناء میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لانے کی خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی انتہائی دنیاوی تدبیریں بھی کیں۔

مگر اللہ کی شان کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی محمدی بیگم نہ مرزا قادیانی کی زوجیت میں آئی۔ نہ بیوہ ہوئی۔ خود مرزا قادیانی مر گئے اور وہ لڑکی اپنے سابق شوہر کے پاس خوش و خرم صاحب اولاد

موجود رہی۔ مخالفین نے اس الہام یا پیشین گوئی کے جھوٹے ہونے پر مرزا قادیانی ہی کے فیصلہ کے مطابق ان کی تکذیب کی۔ لیکن مرزائی،

نکاح آسمانی ہو مگر بیوی نہ ہاتھ آئے

رہے گی حسرت دیدار تا روز جزا باقی

پر بجائے نادم ہونے کے نہایت استقلال اور دلیری سے ہنوز اسی کی تصدیق و تائید کر

رہے ہیں کہ

این کرامت دلی باچہ عجب

گر بشاید گفت باران باشد

۱۸ اسی تکذیب مرزا کے جوش انتقام میں بے محل حافظ صاحب مذکورہ غلط الزام کے بعد

مولوی صاحب کو بڑے غصہ میں فرماتے ہیں۔ ”کیا اسی برتے پر محمدی بیگم والا اعتراض کیا کرتے ہو۔“

(نور ہدایت ص ۵۰)

اور اس حیلہ سے بذریعہ غلط روایت حضرت داؤد علیہ السلام کو صلواتیں سنا کر اپنے دل کا

بخار نکالتے ہیں اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے الٹے مولوی صاحب سے کہتے ہیں خدا کے لئے کچھ تو شرم ماؤ۔

۲۵..... (نور ہدایت ص ۵۴) میں لکھتے ہیں۔ ”جناب مولوی صاحب شاید آپ یا

آپ کے بھائی بند کہیں کہ تمہارے امن کے شہزادہ غلام احمد سے ہمیں تو نقصان کے سوا کوئی فائدہ

نہ پہنچا۔ ہاں صاحب آپ کے نقصان کا ہمیں بھی افسوس ہے کہ یہ امن کا شہزادہ تمہاری اس دیرینہ

آرزو کو پورا نہ کر سکا۔ جس کی امید ابن مریم سے تھی کہ وہ آ کر مال دے گا۔ رہا فائدہ سو یہ اس امن

کے شہزادہ پر ایمان لانے والوں ہی کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ زمانہ حاضرہ ہی میں دیکھ لو۔

مسلمانوں کی کوئی جماعت تمام جھگڑوں سے امن میں ہے تو وہ صرف غلام احمد مسیح موعود ہی کی

جماعت ہے۔“ لیکن یہ لکھتے وقت حافظ صاحب نے نہ ان جھگڑوں کو نام بتایا۔ جس سے

صرف مرزائی امن میں ہیں۔ نہ انہیں اطاعت نصاریٰ کو ضروری سمجھتا اور اس پر فخر کرنا یاد رہا، نہ ان

کو بھی خیال رہا کہ دنیا نے اسلام، مرزائیوں کی تکذیب و تکفیر کر رہی ہے۔ انہیں کے دوسرے

مرزائی فرتے لاہوری، ظہیری وغیرہ خم ٹھوک کر مد مقابل ہیں۔ خود انہیں کی جماعت سے لوگ

مرزائیت سے تائب ہو ہو کر مرزائیت کے خانگی ناگفتنی راز ہائے نہانی کو طشت از بام کر رہے

ہیں۔ کیا اخبار مبالغہ کی خبر نہیں؟ حافظ صاحب نے بڑی غلطی کی۔ ورنہ اگر اسی کا نام امن ہے تو ایسا

امن تو دوسروں کو بلا مسیح موعود کے حاصل ہے۔

۲۶..... قرآن شہد ہے کہ اہل عرب امی تھے اور حضور ﷺ بھی امی تھے۔ دوسروں کا امی ہونا باعتبار علوم و فنون اور معارف ربانیہ کے اضافی تھا۔ لیکن حضور ﷺ کا امی ہونا حقیقی تھا کہ عرب میں قدر قلیل جن چیزوں کی تعلیم و تعلم کا معمولی رواج تھا آپ اس سے بھی پاک تھے۔

اب حافظ صاحب کی سنئے۔ (نور ہدایت ص ۵۷) میں فرماتے ہیں کہ: ”حضور ﷺ کی طرح مرزا قادیانی بھی امی تھے۔“ حالانکہ یہ بالاکمل غلط ہے۔ مرزا قادیانی کے والد مرزا غلام مرتضیٰ زمیندار ارطیب تھے۔ مرزا قادیانی نے اردو، فارسی، عربی کی تعلیم پائی تھی۔ ان کے استاد مولوی گل شاہ شیعہ تھے۔ مرزا قادیانی نے مختاری کا بھی امتحان دیا مگر بد قسمتی سے فیل ہو گئے۔ (تاریخ مرزا ص ۴) ساری عمر مطالعہ کتب اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ رہا۔ مرزا قادیانی دیگر ذہنوں کی طرح اگر دعویٰ امیت بھی کرتے تو ان کا کوئی کیا کر لیتا۔ لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے شاید نہ اپنے امی ہونے کا دعویٰ کیا نہ اس کا ان پر الہام ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے خود بھی تسلیم کیا ہے (از اللہ اوہام ص ۸۱، خزائن ج ۳ ص ۵۴۲) کہ وہ فضل احمد وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ پھر حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کو امی نہ معلوم کیوں کہا۔ اگر اس لئے کہا کہ بہ خیال حافظ صاحب، مرزا قادیانی حضور ﷺ کے بروز کامل تھے۔ (ص ۵۷) نتیجہ کامل تھے اور اسی لئے مرزا قادیانی محمد تھے۔ (۷۸) نبی تھے۔ (۴۱) امی تھے۔ (ص ۵۷، ۷۳، ۷۸) تو اس قاعدہ کے مطابق حافظ صاحب کو اولاً ہر متبع کامل و فتانی الرسول امتی کو محمد نبی امی کہنا چاہئے۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ کے ہر مطیع کامل، فتانی اللہ بندہ کو اللہ اور صفات الوہیت سے موصوف ماننا چاہئے۔ ورنہ ان کو اپنی غلطی تسلیم کر کے دعویٰ امیت مرزا سے دست بردار ہو کر مرزائیت سے انہیں توبہ کرنا لازم ہے۔

۲۷..... حافظ صاحب نے عبارت مذکورہ میں مرزا قادیانی کے امی ہونے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ وہ حضور ﷺ کے بروز کامل تھے۔ مگر (نور ہدایت ص ۷۳) میں لکھتے ہیں کہ: ”حضرت رسول کریم ﷺ کی طرح انہوں (مرزا قادیانی) نے بھی امی کا لقب مصدقین اور مکذبین دونوں سے پایا۔“ غور فرمائیے کجا امیت کی وجہ بروزیت اور کجا مصدقین و مکذبین کا عطیہ۔

۲۸..... دیکھیے، مذکورہ عبارت میں صاف لکھا ہے کہ: ”حضور ﷺ کو امی کا لقب مصدقین و مکذبین نے دیا۔“ جو قطعاً غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ خود خدا نے دیا جس پر قرآن شہاد ہے۔ یہ کہنا بھی کہ حضور ﷺ کو امی کا لقب مکذبین نے دیا۔ کتنی بڑی جسارت

ہے۔ حضور ﷺ تعلیم یافتہ ہوتے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تو گو مکرین کو اس اہتمام کی گنجائش ہوتی کہ پڑھے لکھے تھے۔ خود بنا لیا ہوگا۔ تاہم قرآن جیسا معجزہ ہے ویسا ہی معجزہ ہوتا۔ لیکن ای ہونے کی صورت میں تو اس وہم کی بھی گنجائش نہ رہی اور اعجاز قرآن بدرجہ اولیٰ قابل تسلیم قرار پایا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس امر کو قرآن میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ ”ما کنتم تتلوا من قبلہ من کتب ولا تخطہ بيمينک اذا لارتاب المبتلون“ تم نہیں پڑھتے تھے (اے نبی) اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے اس کو اپنے دست راست سے۔ ورنہ اہل باطل شک کرتے۔

کہنے کو تو مکرین نے کہا۔ ”لو نشاء لقلنا مثل هذا“ کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کا مثل بنا سکتے ہیں۔ لیکن ”لیس هذا قول البشر“ کے سوا کچھ نہ کہہ سکے۔ آخر اعجاز قرآن کے مقابلہ میں عاجز اور حیران ہو کر حضور ﷺ کی ذات بابرکات پر ندامت مٹانے کو لگے بہتان اور افتراء پردازی کرنے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ: ”کذلک نصرنا لایات ولیقولوا درست“ ﴿اس طرح ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔﴾ (تا کا فر متخیر ہوں) اور کہیں کہ پڑھا ہے تو نے۔ ﴿

غرض زمانہ نزول قرآن کے عرب مکرین نے بطور تجاہل عارفانہ اور بعد کے مکرین نے جیسے عیسائی آریہ وغیرہ بطور یقین حضور ﷺ کو غیر امی اور قرآن کو ان کی تصنیف خیال کیا ہے۔ نہ کہ آپ کو امی کا لقب دیا ہے۔

۳۰..... حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کو امی بنا کر ان کا یہ معجزہ لکھا ہے کہ: ”اس علمی زمانہ میں مدعیان علیت پر اتمام حجت کے لئے خدا نے مرزا قادیانی کو کئی ایک زبردست علمی معجزات بھی دیئے۔ چنانچہ انہوں نے باوجود امی ہونے کے عربی زبان میں خطبہ الہامیہ دیا۔ کثرت سے نظم و نثر میں کتابیں لکھیں۔ بعض کتابوں پر جواب دیئے کی صورت میں انعام بھی مقرر کئے اور دنیا بھر کے عالموں کو چیلنج دیا کہ عالم ہو تو جواب لکھو۔ سب کا نہیں تو چھوٹی ہی کتاب کا سہی۔ تنہا نہیں تو سب مل کر لکھو۔ جواب درست ہونے پر دس ہزار روپیہ انعام لو اور قرآن کی طرح تمدی بھی کی۔“ ”فءا تو ا بمثلہ ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي“ مگر کوئی مرد میدان بن کر مقابل لگے ہوا۔ سب ایسے دم بخود ہوئے گویا دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ ہاں بعض نے اپنی نغمت مٹانے کے لئے قرآن کی غلطیاں نکالنے والے مخالفین کی طرح کچھ غلطیاں نکالیں۔ جن کا منہ توڑا جواب دیا گیا۔“ (نور ہدایت ص ۵۷۵-۵۷۶)

بعض انعامی کتابوں سے غالباً حافظ صاحب کی مراد مرزا قادیانی کی دو کتابیں اعجاز المسیح اور اعجاز احمدی ہے۔ مگر خطبہ الہامیہ کے سوا اسکا نام نہیں لیتے۔ کچھ تو ہے جس کی پروہ داری ہے اس کا واقعہ یہ ہے۔

اول ..... مرزا قادیانی نے مورخہ ۲۲:۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء کو پنجاب کے مشہور بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ سجادہ نشین گوڑہ شریف سے مناظرہ کا اشتہار دیا کہ وہ معہ دیگر علماء لاہور آ کر میرے ساتھ پابندی شرائط مخصوصہ فصیح و بلیغ عربی میں قرآن کی چالیس آیات یا اس قدر سورہ کی تفسیر لکھیں۔ فریقین کو ۷ گھنٹہ سے زیادہ وقت نہ ملے۔ ہر دو تحریرات ۲۰ ورق سے کم نہ ہوں۔ اس کو ۳ بے تعلق علماء دیکھ کر حلفاً جس کو فصیح و بلیغ کہہ دیں گے وہ فریق سچا اور دوسرا جھوٹا ہوگا۔ ہر دو فریق کی تحریروں میں جتنی غلطیاں ہوں گی وہ اس فریق کے سہو نسیان پر نہیں بلکہ اس کی واقعی نادانی و جہالت پر محمول ہوں گی۔ مرزا قادیانی نے اشتہار میں یہ بھی لکھا کہ اگر میں پیر صاحب اور علماء کے مقابلہ پر لاہور نہ جاؤں تو پھر میں مردود، ملعون، جھوٹا ہوں۔ پیر صاحب نے تمام شرطیں منظور کر لیں۔ مناظرہ کے لئے اگست ۱۹۰۰ء کی ۲۵ تاریخ مقرر ہوئی۔ پیر صاحب ۲۲ اگست کو معہ علماء و معززین اسلام لاہور پہنچے۔ ۲۹ اگست تک مقیم رہے۔ مگر مرزا قادیانی کو نہ آقا آخرنہ آئے۔ باتفاق حاضرین جلسہ قرار پایا کہ مرزا قادیانی ہرگز قابل خطاب نہیں۔ ۱۰ شہرناک دروٹلوئی سے اپنی دوکانداری چلانا چاہتے ہیں۔ اس لئے آئندہ کوئی اہل اسلام مرزا صاحب یا ان کی حواریوں کی کسی تحریر کی پروانہ کریں۔ جلسہ کی روئیداد شائع ہوئی۔ مرزا قادیانی نے اپنی اسی رسوائی و ذلت کی شہرت کو مٹانے کے لئے خاص طور پر پیر صاحب کے باقاعدہ تحدی کے ساتھ اعجاز المسیح لکھا۔ ۱۷ جنوری ۱۹۰۲ء کے قادیانی اخبار الحکم ص ۵ میں مذکور ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ رسالہ ستروں میں بجائے چار جز کے ساڑھے بارہ جز میں لکھ کر طبع کرا کر شائع کیا۔ ۲۳ فروری ۱۹۰۱ء کو پیر صاحب کے پاس بذریعہ جشری روانہ کیا گیا کہ بس ستروں میں جواب دیں۔ لطف یہ کہ اس میعاد کی آخری تاریخ ۲۵ فروری ۱۹۰۱ء قرار دی۔

دوم ..... ۵ نومبر ۱۸۹۹ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ میں نے خدا سے دعاء کی ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو آخر ستمبر ۱۹۰۲ء تک کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ اگر میری یہ دعاء قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود، ملعون، کافر، بیدین، خائن ہوں۔ جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ مگر کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ مدت ختم ہونے میں صرف ایک مہینہ باقی تھا کہ اسی ۱۹۰۲ء میں موضع مدضلع امرتسر میں مولوی ثناء اللہ صاحب مدیر اہل حدیث امرتسر نے مناظرہ میں مرزا سیوں کو

سخت شکست دی۔ جس کی کیفیت ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء کے ضمیمہ صفحہ ہند میں شائع ہوئی۔ مرزا قادیانی نے اس بدترین ذلت کو دیکھ کر فوراً رسالہ اعجاز احمدی کا اشتہار دیا کہ: ”اگر مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اتنی ہی ضخامت کا رسالہ اردو عربی نظم میں جیسا میں نے بنایا ہے۔ پانچ روز میں بنا دے تو میں دس ہزار روپیہ انہیں انعام دوں گا۔ اگر وہ اس کے جواب سے عاجز رہے تو سمجھ لیا جائے کہ یہی قصیدہ وہ نشان ہے جس کے ظہور کے لئے میں نے وعاء کی تھی کہ تین سال کے اندر اس کا ظہور ہو۔ اس رسالہ میں یہ پیشین گوئی بھی کی کہ مولوی ثناء اللہ قادیان میں میرے پاس تمام پیشین گوئیوں کی جانچ کے لئے ہرگز نہیں آئیں گے اور اس رسالہ کے مطبوعہ جواب کی معیاد تین روز تھی۔ جو دس دسمبر ۱۹۰۲ء کو ختم ہو چکی۔“

ناظرین! یہ ہے۔ رسالہ اعجاز المسح اور رسالہ اعجاز احمدی کا شان نزول پھر حافظ صاحب نے معلوم نہیں کیوں یہ غلط بات لکھ دی کہ مرزا قادیانی نے باوجود امی ہونے کے یہ کتاب لکھ کر دنیا بھر کے عالموں کو چیلنج دیا۔

۳۱..... حافظ صاحب نے یہ تو لکھا کہ دنیا بھر کے عالموں کو چیلنج دیا۔ (حالانکہ صرف پیر صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب کو چیلنج دیا تھا) لیکن مدت جواب اور اس مدت کی اڈل و آخر تاریخ شاید غلطی سے لکھنا بھول گئے۔ خیر اب سہی۔

۳۲..... معجزہ نبوت کی علامت ہے نہ کہ قابلیت علم ظاہر کی نشانی مگر حافظ صاحب کے الفاظ (مدعیان علیت، عالموں کو چیلنج، عالم ہو تو جواب دو۔ دس ہزار روپیہ انعام لو) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کے قائل ہیں جو قطعاً غلط ہے۔

۳۳..... حافظ صاحب نے بالکل غلط لکھا کہ کوئی مقابل نہ ہوا۔ سب دم بخود ہو گئے۔ گویا دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کیا حافظ صاحب کو علم نہیں جو ۱۳ اگست ۱۹۰۰ء کے سراج الاخبار ص ۶ میں علامہ فیض ۱ مرحوم کی چٹھی شائع ہوئی تھی۔ مرحوم نے لاہور والے مناظرہ کی تاریخ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء سے پہلے پانچ اگست ۱۹۰۰ء کو مرزا قادیانی کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہر ایک مناسب شرط پر عربی و نظم و نثر لکھنے کو تیار ہوں۔ تاریخ کا تقرر آپ ہی کر دیجئے اور مجھے اطلاع دیجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں۔ لیکن مرزا قادیانی نے جواب کے نام سانس تک نہ لی۔

۱ یعنی ابوالفیض مولوی محمد حسن صاحب فیض ساکن بھیں ضلع جہلم تحصیل چکوال، مدرس دارالعلوم نعمانیہ لاہور۔



کیا آپ کو علامہ مرحوم کے اس اعلان کی خبر نہیں جو ۲۲ مئی ۱۹۰۲ء کے اخبار مذکورہ میں شائع ہوا تھا کہ میں ۱۳ فروری ۱۹۰۲ء کو مسجد حکیم حسام الدین سیالکوٹ میں مرزا قادیانی سے ملا جہاں وہ معہ حواریین رونق افروز تھے۔ ان کی خدمت میں اپنا غیر منقوط عربی قصیدہ (اس قصیدہ کے کچھ اشعار رسالہ رسائل اعجازیہ مطبوعہ مطبع رحمانیہ موگیس ۳۱ میں بھی منقول ہیں) پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ کو الہام ہوتا ہے تو مجھے آپ کی تصدیق الہام کے لئے یہی کافی ہے کہ اس قصیدہ کا مطلب حاضرین مجلس کو واضح سنا دیں۔ مرزا قادیانی دیر تک چپکے دیکھتے رہے۔ مگر انکو اس کی عبارت بھی نہ آئی جو خوشخط عربی میں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ایک فاضل حواری کو دیا جو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اس کا ہم کو پتہ نہیں ملتا۔ آپ ترجمہ کر کے دیں۔ آخر میں میں مرزا قادیانی کو اشتہار دیتا ہوں کہ اگر وہ سچے ہیں تو آئیں صدر جہلم میں کسی مقام پر مجھ سے مباحثہ کریں۔ میں حاضر ہوں۔ تحریری کریں یا تقریر میں ہو تو نشر میں کریں یا نظم میں۔ عربی ہو یا فارسی اردو۔ آئیے سنئے اور سنائیے۔ لیکن مرزا قادیانی نے ایک چپ سے ہزار بلا کو ٹال دیا۔

کیا آپ کو اس کی اطلاع نہیں کہ ۲۴ نومبر ۱۹۱۲ء کو مولوی محمد عصمت اللہ صاحب سوپول، ضلع بھاگل پور نے مرزا قادیانی کے دست راست اور خلیفہ اڈل حکیم نور الدین قادیان کو خط لکھا کہ تفسیر اعجاز مسیح و قصیدہ اعجازیہ کے جواب دینے کی مدت ختم ہو گئی یا ابھی باقی ہے۔ اگر باقی ہے تو جواب دینے والے کو کن کن شرائط کی رعایت کرنی ہوگی۔ ۳ دسمبر ۱۹۱۲ء کو حکیم صاحب کی طرف سے میر محمد صادق صاحب نے جواب دیا کہ انعامی رسالہ اعجاز احمدی کے بالمقابل لکھنے کی میعاد ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء تک اور اعجاز مسیح کے بالمقابل تفسیر سورہ فاتحہ لکھنے کی میعاد ۲۵ فروری ۱۹۰۱ء تک ختم ہو چکی۔ اچھا علمی اور انعامی اعجاز تھا کہ بجائے ستم ہونے کے تاریخ مذکور تک رخصت ہو گیا۔ اب اس سے کوئی کتنا ہی بہتر قصیدہ اور عمدہ تفسیر لکھ دے مگر جواب نہ ہوگا۔ چہ خوش!

کیا حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کے بیس دن اور ستر دن کے علمی اعجاز کی ان غلطیوں کو نہیں دیکھا جو علماء نے نکالی ہیں۔ مثلاً:

.....۱ بقول مولانا شبلی نعمانی مرحوم مصر کے مشہور رسالہ (غالباً المنار) نے اس کی غلطیاں نہایت کثرت سے دکھائی ہیں۔

.....۲ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اعتراضات کئے۔

.....۳ مولوی ثناء اللہ صاحب نے رسالہ الہامات مرزا میں۔

- ۴..... مولانا سید غنیمت حسین صاحب ساکن مخدوم چک موئگیر نے رسالہ ابطال اعجاز مرزا حصہ اول میں بکثرت غلطیاں نکال کر پیش کی ہیں۔
- ۵..... رسالہ اعجاز مسیح پر ریو یو مطبع فیض عام لاہور میں چھپ کر شائع ہوا۔
- ۶..... مولانا محمد علی صاحب موئگیری نے بھی اپنے بعض رسائل میں کچھ غلطیاں نکال کر نمونہ پیش کیں ہیں۔

کیا حافظ صاحب نے جناب قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم اور مولانا غنیمت حسین صاحب کے قصیدہ جوابیہ کی زیارت نہیں کی جن میں سے پہلا شروع ۱۹۰۷ء میں اخبار اہل حدیث میں، پھر باسٹھ شعر الہامات مرزا میں اور دوسرا رسالہ ابطال اعجاز مرزا حصہ دوم میں طبع ہو کر مدت ہوئی شائع ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کا علمی اعجاز تو قوی اور غلط تھا۔ مگر یہ ہر دو جوابی قصیدہ اپنی خوبی و عمدگی میں مستر اور غلطی سے پاک ہیں۔

۳۴..... حافظ صاحب نے یہ بالکل غلط لکھا کہ ان غلطیوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ورنہ بتایا جائے کہ ان تمام سر توڑ غلطیوں کا منہ توڑ جواب کس نے دیا۔ کب دیا۔ کہاں طبع ہوا۔ کس نام سے شائع ہوا اور کس قیمت پر کہاں ملے گا؟

۳۵..... حافظ صاحب نے بڑی غلطی کی جو مرزا قادیانی کے نام نہاد چیلنج کو تھدی سمجھ کر اعجاز قرآن کی توہین کی۔ نیز علمائے اسلام پر افتراء کیا کہ جواب نہ دے سکے۔ ورنہ بتایا جائے کہ مرزا قادیانی نے خطبہ الہامیہ کے لئے کیوں نہ علماء کو دعوت دی کہ آؤ عام مجمع میں آمنے سامنے میری طرح عربی میں خطبہ دو۔

۳۶..... حافظ صاحب کی مذکورہ عبارت میں اس کا بھی صاف اقرار ہے کہ مخالفین نے قرآن میں غلطیاں نکالیں جو قطعاً غلط اور سفید جھوٹ ہے۔ کیونکہ مخالفین قرآن و قسم کے ہیں۔ ایک زمانہ نزول قرآن کے وہ عرب جن کی قومی عربی زبان انسانی حیثیت سے انتہائی فصاحت و بلاغت کو پہنچ چکی تھی۔ جس پر ان کو فخر تھا اور جس سے آج عربیت میں سند لی جاتی ہے۔ دوسرے وہ جن کی ویسی عربی زبان نہیں یا عربی کے سوا دوسری زبان ہے۔ قسم دوم کے مخالفین مثلاً عیسائی، آریہ وغیرہ اگر قرآن میں آج غلطی نکالیں تو اس کی وقعت اہل علم پر ظاہر ہے۔ ہاں! قسم

۱۔ مرزا قادیانی کا کلام واقعی اپنا آپ ہی نظیر ہے کہ اس کا اعجاز قوی اور غلطی دائمی ہے۔ پھر ایسا لا جواب ہے کہ اس سے بہتر اور نقص سے میرا جواب بیچ ہے۔ چودہ صدی کے نبی کی یہ عجیب نشانی واقعی چشم فلک نے بھی کبھی نہ دیکھی ہوگی۔

اَوَّل کے مخالفین ایسا کرتے تو البتہ قابل توجہ ہوتا مگر انہوں نے تو مخالفت میں مال دیا، عزت آبرودی، جان دی، لیکن یہ نہ کر سکے کہ قرآن میں غلطی نکالتے۔ ورنہ حافظ صاحب کو چاہئے کہ ان فصحاء عرب میں سے کسی ایسے مستند صاحب زبان کی نکالی ہوئی قرآن کی غلطی کا مستحیح پتہ دیں جیسے کہ مرزا قادیانی کے ہم عصر اہل علم نے ان کے علم و اعجاز کی ایسی واقعی قلعی کھولی ہے کہ مرزائیوں سے جواب ناممکن ہے۔

۳۷..... حافظ صاحب نے (بعض نے کچھ غلطیاں نکالیں) لکھ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی کے علمی، اعجازی، انعامی رسالہ میں کم لوگوں نے تھوڑی غلطیاں نکالی ہیں۔ کیونکہ غلطی نکالنے والوں میں سے چھ اہل علم کا ذکر تو اوپر میں بھی کر چکا ہوں اور غلطیوں کی کثرت کا یہ حال ہے کہ اگر صرف مذکورہ صدر پتہ ہی پر قناعت کر کے شمار کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہزار سے کم غلطیوں کی تعداد نہ ہوگی۔

۳۸..... مولوی صاحب نے حافظ صاحب کو خط میں بحوالہ رسالہ قول الحق ان کے خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود ولد مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا جھوٹ لکھا تھا۔ چنانچہ حافظ صاحب ص ۸۴ میں مولوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ (آپ نے خلیفہ اسحٰ پر ایک اور دوسرے جھوٹ کا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہرنجی کو اس کے مخالفوں نے یہی کہا کہ ان کی کوئی بات بھی سچی نہیں ہوئی۔) قول الحق جو مرزا بشیر الدین کا لیکچر ہے اس میں ص ۵ پر ان کے اصل الفاظ یہ ہیں (ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہی لکھا ہے کہ سب انبیاء کو ان کے مخالفین بھی کہتے رہے ہیں بلکہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی ٹکلیں نقل عبارت خط سے پہلے حافظ صاحب لکھ چکے ہیں۔ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی جرم نہیں۔ مگر صادقوں کو کاذبوں کا خطاب دینا پھر ان کے کذب کا ایمانداری سے ثبوت نہ دینا ظلم عظیم ہے اور اب اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ مجھے بتائیں۔ اس میں آپ کو کون سا جھوٹ نظر آیا۔ کیا آپ کے نزدیک نیوں کے مخالف یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری فلاں بات سچی اور فلاں جھوٹی ہوئی۔ پس اپنے دعویٰ کا ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کریں۔ ورنہ خدا کی لعنت سے فریں جو ہمیشہ جھوٹوں پر پڑا کرتی ہے۔

ناظرین! خدارا انصاف کریں۔ دعویٰ خلیفہ اسحٰ ثانی کا ہے کہ: ”قرآن میں یہی لکھا ہے..... الخ۔“ حافظ صاحب اس کے حامی ہیں اور مولوی صاحب منکر۔ پس حسب اصول مناظرہ بار ثبوت حافظ صاحب پر ہے نہ کہ مولوی صاحب پر۔ لیکن حافظ صاحب بجائے ثبوت دینے کے خود ایک دعویٰ بنا کر مولوی صاحب کو اس کا مدعی قرار دے کر ان سے اس کا مطالبہ کرتے

ہیں۔ لعنت سے ڈراتے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ اگر مولوی صاحب خلاف ادب مناظرہ ثبوت بھی ویں تو فرماتے ہیں اگر آپ نے ثبوت ہم پہنچا دیا تو حضرت خلیفۃ المسیح کی یہ میں ایک غلطی سمجھوں گا نہ کہ جھوٹ۔ چہ خوش!

۳۹..... حافظ صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ پہلے مخالفین انبیاء اسی طرح تکذیب نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ تاویل کیا کرتے تھے کہ پیشین گوئیوں کو کہاں تک اور معجزہ کو سحر پر محمول کرتے تھے۔ (نور ہدایت ص ۷۵)

اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں فی الحال اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کہ آپ کی بات صحیح ہے یا غلط بلکہ فرضی طور پر صحیح مان کر یہ کہوں گا کہ وہ یعنی پہلے انبیاء کے مخالفین بڑے شریف اور نہایت مہذب انسان تھے اور زمانہ حال کے مخالفین کی طرح شریر اور بد اخلاق نہ تھے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ حافظ صاحب کیا سمجھتے ہیں۔ اس کی داوود ناظرین باانصاف دیں گے۔ لیکن ہاں میں حافظ صاحب سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ وہ اپنی اس بدترین غلطی سے فوراً توبہ کریں کہ نبی کی پیشین گوئی کو کہانت معجزہ کو سحر کہنے والا بڑا شریف، نہایت مہذب انسان ہے۔ ورنہ انہیں اپنے مرزا قادیانی کو بھی مثلاً فرعون، ابوجہل، ابولہب وغیرہ کی طرح بڑا بلکہ بہت بڑا شریف نہایت مہذب انسان تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ انہوں نے تو نبی کو کافرن، ساحر وغیرہ مخالف بن کر کہا تھا۔ مگر مرزا قادیانی نے تو اس سے بڑھ کر موافق بن کر کہا ہے اور ایسا کہا ہے کہ اگر زیادہ تحقیق کی جائے تو کیا عجب ان کا مرتبہ زمانہ حال کے شریر اور بد اخلاق مخالفین انبیاء سے بھی بڑھ جائے۔ چنانچہ جس کی نظر وسیع مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی تصانیف پر ہے۔ اس پر یہ امر ہرگز پوشیدہ نہیں۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں بحث پر ایک مستقل رسالہ (توہین انبیاء اور تصانیف مرزا) لکھ کر پیش کر دوں گا۔

۴۰..... مرزا قادیانی کا یہ شعر ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

(درشمن ص ۵۳)

مولوی صاحب نے اس کو پیش کیا تھا کہ اس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ حافظ صاحب نے (نور ہدایت ص ۵۶، ۵۰) تک اس شعر کی عجیب و غریب شرح کی ہے۔ ایک جگہ مولوی صاحب کو لکھتے ہیں۔ شاید آپ لوگ اس فاسد عقیدہ کی بناء پر ابن

مریم کے ذکر کو ضروری سمجھتے ہوں گے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں۔ جو بروقت واپسی اپنے ساتھ بہت بڑا خزانہ لادیں گے اور مولوی صاحبان کی جو خالی جھولیاں پڑی ہیں ان کو مال و زر سے خوب بھریں گے۔ (نور ہدایت ص ۵۱)

حالانکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اپنے ساتھ بہت بڑا خزانہ لاکر ہمیں دیں گے۔ مگر حافظ صاحب خود یہ عقیدہ گھڑ کر زبردستی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔

۳۱..... ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے شعر مذکور کے مصرع ثانی میں جو غلام احمد کا استعمال کیا ہے۔ وہ خود ان کا اسم ذات اور علم ہے۔ پس مرزا قادیانی کا مطلب صاف ہے کہ ابن مریم مجھ سے کمتر ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ لہذا اس کمتر کے ذکر چھوڑو۔ مجھ بہتر کا ذکر کرو۔

حافظ صاحب غلطی سے فرماتے ہیں کہ (مرزا قادیانی) نے (حضور ﷺ) کو احمد فرمایا جو درحقیقت سب سے بڑے احمد ہیں اور اپنے کو انکا غلام فرمایا۔ اس صورت میں غلام مضاف اور احمد مضاف الیہ ہوگا اور مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت نہ رہے گی۔ حضور ﷺ کے ہر غلام کو ابن مریم سے بہتر کہنا پڑے گا۔ جس کے قائل خود حافظ صاحب بھی نہ ہوں گے اور حافظ صاحب کا یہ کہنا بھی بیکار ہو جائے گا کہ مصرع ثانی میں مرزا قادیانی نے اپنے کو حضور ﷺ کا غلام فرمایا۔ یہ اپنے کو کہنا جب ہی باکار ہوگا کہ حافظ صاحب اپنی غلطی کو واپس لے کر مصرع میں غلام احمد کو مرزا قادیانی کا علم تسلیم کر لیں اور اگر یہی کہا جائے کہ مضاف سے مراد مرزا قادیانی ہیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے کو ان کا غلام فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جو علم کی صورت میں تھا وہی جز مرکب کے فصیح کی صورت میں ہوگا اور اہانت مسیح علیہ السلام پھر بھی رہی یعنی میرا ذکر بہتر ہے ان کے ذکر سے۔ نعوذ باللہ!

۳۲..... حافظ صاحب کی یہ غلطی بھی قابل داد ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”ہمارا بجز اس بات کے کہ ہم ابن مریم کی نبوت پر ایمان رکھیں اور ان کو تمام نبیوں کی طرح پاک اور مقدس سمجھیں اور کوئی تعلق نہیں تو پھر ان کے ذکر سے کیا فائدہ۔“ (نور ہدایت ص ۵۲)

اگر ابن مریم کا ذکر بے فائدہ ہے تو یہ سوال اول اللہ و رسول سے کرنا چاہئے کہ قرآن و حدیث میں ابن مریم بلکہ ان سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے بکثرت ذکر کا کیا فائدہ؟ حیرت ہے کہ جس کو مثل مسیح بننے کا اتنا شوق۔ اس کو اصل مسیح سے اتنی تفرت کہ ذکر بھی ناپسند ہے۔ استغفر اللہ!

۳۳..... (نور ہدایت ص ۸۶) میں لکھتے ہیں۔ مولوی صاحبان بڑے فخر سے فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین جھوٹے بولے۔ میرے نزدیک مولوی صاحبوں نے بڑی دوراندیشی سے کام لیا کہ تین جھوٹ تک نبوت کو قائم رکھا ہے۔ حالانکہ یہ محض افتراء ہے۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو علماء نے اس کی تردید کی ہے نہ کہ تائید۔

۳۴..... (نور ہدایت ص ۹۲) پر مولوی صاحب سے فرماتے ہیں کہ: ”مرزا قادیانی کی کتاب اعجاز احمدی انعامی وسہ ہزار کے جواب سے آپ نے اپنے اور اپنے بھائی بند علماء کو عاجز پا کر اپنے عجز پر وہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیانی پر شاعر ہونے کا الزام لگایا ہے۔“ تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین صاحب تو اعجاز احمدی کی مدت اعجاز کی کائنات صرف بیس روز اقرار دیں اور فرمائیں کہ جواب کی میعاد ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء کو ختم ہوگئی اور حافظ صاحب ہیں کہ اب تک اس سے بیخبر ہیں۔ یا تجامل عارفانہ فرما کر جواب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب جواب شائع ہو گیا ہے۔ جس کا ذکر اوپر کر آیا ہوں۔ ملاحظہ فرما کر مرزا نیت سے توبہ کیجئے۔

۳۵..... اسی صفحہ پر حافظ صاحب نے مولوی صاحب کے خط کی عبارت نقل کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہو کر شاعر بھی تھے۔ حالانکہ کوئی نبی شاعر نہیں ہوا۔ قرآن میں نبی سے شعر کی نفی اور شعراء کی مذمت مذکور ہے۔ مگر حافظ صاحب نے نقل عبارت کے بعد ص ۹۲ میں لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے محض شاعری کو مانع نبوت قرار دیا ہے۔ اس زبردستی کا کوئی ٹھکانا ہے۔ مولوی صاحب کی عبارت میں حصر کا نام و نشان تک نہیں۔ مگر حافظ صاحب صرف شاعری کا مانع نبوت ہونا ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کچھ خیال نہیں فرماتے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔

۳۶..... (نور ہدایت ص ۹۸) میں آپ لکھتے ہیں کہ: ”حضرت نبی کریم ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کیونکر تباہ ہو سکتی ہے۔ جس کے ہم دو پشتیاں ہیں۔ یعنی اول میں اور آخر وہ جس کا نام مہدی وضع ہے۔“ حالانکہ حدیث میں اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہو تو حافظ صاحب اصل حدیث معہ حوالہ ہمت کر کے پیش کریں۔

۳۷..... (نور ہدایت ص ۱۴۱) پر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ: ”یہ حضرات غیر مرزائی مسلمان علماء ظواہر سرے سے الہام ہی کے منکر ہیں۔“ حالانکہ قطعاً غلط اور سراسر افتراء ہے۔ ہم وحی کے منکر ہیں نہ کہ الہام کے اور وحی میں بھی صرف حضور ﷺ کے بعد کسی پر نزول کے منکر ہیں نہ کہ سرے سے وحی کے۔

۳۸..... (نور ہدایت ص ۱۵۲) پر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ: ”یہ (مرزا غلام احمد قادیانی) خدا کا وہ برگزیدہ انسان ہے جس کا ۱۴ سال سے برابر انتظار کیا جا رہا تھا۔“ اگر یہ سچ ہے تو حافظ صاحب کو چاہئے کہ مشاہیر امت میں سے کسی ایک ہی منتظر کا نام اور بترشح اس کا انتظار بتائیں۔

۳۹..... پھر بلا فصل فرماتے ہیں کہ: ”یہ (مرزا قادیانی) حضرت نبی کریم ﷺ کا وہ محبوب انسان ہے جس کو آپ نے اپنا سلام پہنچانے کی وصیت فرمائی تھی۔“ یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ ورنہ مہربانی فرما کر حافظ صاحب ذرا وہ حدیث پیش کریں جس میں حضور ﷺ نے مرزا قادیانی کو اپنے سلام کی وصیت کی ہے۔

۵۰..... حافظ صاحب بڑے جوش کے ساتھ (نور ہدایت ص ۱۴۱، ۱۴۲) کے حاشیہ میں رقمطراز ہیں۔ ”دیکھ لو صحیح احادیث کو جہاں پہلے تو آپ (حضور ﷺ) نے فرمایا کہ مہدی میری اہل بیت سے ہوگا۔ مگر اس کی تشریح یوں کر دی کہ حضرت سلمان صحابی جو فارسی النسل تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ وہ مہدی اس کے نسل میں سے ہوگا۔ آپ (حضور ﷺ) نے تو کھول کر بتا دیا تھا کہ دیکھو وہ مہدی جو میری امت میں پیدا ہونے والا ہے اس کا جسمانی تعلق مجھ سے نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ فارسی النسل ہوگا۔“

اس سے مقصد حافظ کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی حضور ﷺ کے اہل بیت سے ہیں۔ مہدی ہیں، فارسی النسل ہیں۔ حالانکہ جس حدیث پر بھروسہ کر کے یہ کہا گیا ہے۔ اس میں اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ ورنہ حافظ صاحب ضرور پیش کرتے۔ خیر اب سہمی۔ ذرا پیش کر کے اپنی سچائی کا ثبوت دیں۔ اگر نہ دے سکیں اور یقیناً نہ دے سکیں گے تو کم از کم اتنا ہی کریں کہ مرزا قادیانی کو حضرت سلمان فارسی کی نسل سے ثابت کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ان کے فارسی النسل یا فارسی الاصل ہی ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حافظ صاحب تو کیا چیز ہیں۔ ان کے موجودہ امام معہ اپنی پوری مرزائی جماعت کے بھی قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے کہ مرزا قادیانی سلمان فارسی النسل یا فارسی الاصل تھے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ مرزا قادیانی قوم کے مغل (مرزا قادیانی کی یہ قومیت (ص ۱۲۸) کے حاشیہ میں حافظ صاحب کو بھی تسلیم ہے) اور تاتاری الاصل ہیں۔ جس کو ابوداؤد کی حدیث میں امت کی ہلاک کنندہ قوم کہا گیا ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو وغیرہ اسی نسل سے ہیں۔ ابوالفضل مغل خاندان میں پہلا شخص ہے جس نے الہام کشف ولایت معبودیت اور محبوبیت کے شرف ثابت کرنے میں بہت کوشش کی۔ (تائید الاسلام ص ۲۷) خود مرزا قادیانی نے سمرقندی الاصل ہونے کا

اقرار کیا ہے۔ (از التلاوہ ماہ ص ۱۲۰، خزائن ج ۳ ص ۱۵۸ حاشیہ) نہ کہ فارسی الاصل ہونے کا، اور سمرقند فارس میں نہیں ہے۔ لطف یہ کہ مرزا قادیانی کا یہ اقرار بھی غلط ہے۔ وجہ یہ کہ جب مرزا قادیانی نوں صدی سے چودھویں صدی تک ہندوستان میں رہنے سے ہندی الاصل نہ بنے تو ان کے آباؤ اجداد سمرقند میں چند روزہ قیام سے سمرقندی الاصل کیونکر ہو سکتے ہیں۔ غرض مرزا قادیانی نہ مسلمانی النسل ہیں نہ فارسی الاصل۔ بلکہ سمرقندی الاصل بھی نہیں۔ پھر حافظ صاحب تاحق غلط نویسی میں مصروف ہیں۔

ناظرین! مختلف اقسام کی غلطیوں میں چندرہ دیباچہ کی اور پینتیس کتاب کی یہ پچاس غلطیاں آپ کے سامنے ہیں۔ اسے مرزا قادیانی کی صداقت کے پچاس زبردست نشان اور حافظ صاحب کی غیر معمولی کتاب کا پچاس معجزہ سمجھنا چاہئے۔ ابھی ایسی ہی اتنی اور بھی غلطیاں ہیں کہ سب لکھی جائیں تو حافظ صاحب کی کتاب کی تعداد صفحات ۱۸۴ سے زیادہ ہی ہوں گی۔ لیکن اس کا نمونہ ہی اتنا ہو گیا ہے کہ میرا لکھتے لکھتے اور آپ کا دیکھتے دیکھتے جی گھبرا گیا ہے، لیکن جب کتاب کی یہی کتاب ہی تو آخر میں کیا کرتا۔ مجبور تھا اچھا لہجے اب تھوڑی دیر ترتیب مضامین کی بے قاعدگیوں کی بھی سیر کر لیجئے۔

ترتیب مضامین بے قاعد گئیاں

حافظ صاحب کی ۱۸۴ صفحہ کی کتاب سے اگر ان کی گالیوں، غیر متعلق، بیکار اور مکرر باتوں کو نکال دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ دو جز ۱ (۳۲ صفحہ) کی کتاب رہ جائے گی۔ پھر بھی اس کو مولوی صاحب کی کتاب راہ حق کا جواب کہنا مشکل ہوگا۔ کیونکہ ساری کتاب میں بس مولوی صاحب کے خطوط ۲ ہی کارونا ہے۔ راہ حق متعلقہ رد قادیان کا دو چار مقام کے سوا کہیں ذکر بھی نہیں۔ باایں ہمہ حافظ صاحب نے نور ہدایت کے نیچے بجائے (جواب خطوط مولوی صاحب) نہ معلوم کیوں (جواب رسالہ رد قادیان) لکھا ہے۔ اس کا کافی اندازہ ان کی مذکورہ غلطیوں اور ذیل کی بے قاعدگیوں سے بھی ہو سکتا ہے۔

واضح رہے کہ مرزائی رسالہ ۳ (مسلمانوں کا اس زمانہ کا امام کون ہے) کا مولوی

۱ اور اگر غلطیاں بھی حذف کر دی جائیں تو ۱۸۴ کی بجائے صفر ہی رہ جائے گا۔

۲ افسوس کہ وہ خطوط حافظ صاحب کے سوانہ مولوی صاحب کے پاس ہیں نہ میرے

سامنے۔

۳ افسوس کہ یہ رسالہ بھی باوجود بڑی تلاش کے مجھے کہیں نہ مل سکا۔



صاحب نے راہ حق میں آٹھ نمبروں میں خلاصہ کیا ہے۔ میں اسی کو نمبر وار لکھ کر ہر نمبر کا انہوں نے جو رد کیا ہے اس کا جواب بغرض رد حافظ صاحب کی کتاب نور ہدایت میں تلاش کر کے دیکھوں گا کہ حافظ صاحب کہاں کہاں مولوی صاحب کے بالمقابل نظر آتے ہیں اور کہاں کہاں بھاگتے دکھائی دیتے ہیں اور اسی کے ضمن میں ترتیب مضامین میں بے قاعدگیوں بھی خود بخود ظاہر ہو جائیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

نمبر: ۱..... ہر مسلمان پر فرض ہے کہ امام زمان کو پہچانے ورنہ اس کا خاتمہ کفار جاہلیت کا سا ہوگا۔ پھر قیامت میں اس کی بریت کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ فقط!  
مولوی صاحب نے اول بحوالہ شرح نخبہ و نور الانوار و حسامی وغیرہ تین اصول موضوعہ لکھ کر پھر مرزائی کی پیش کردہ تین حدیث نقل کر کے جواب دیا ہے کہ:  
..... ۱۔ یہ خبر آحاد ہے جو مفید ظن ہے اور اس کا منکر غیر کافر ہے۔

..... ۲۔ لفظ امام منقول شرعی ہے۔ ہر سہ حدیث میں اس کے معنی صاحب سلطنت کے ہیں۔ حدیث اول دوم میں بادشاہ کی اطاعت کرنے اور سوم میں اس سے بغاوت نہ کرنے کی ترغیب و ترہیب ہے نہ کہ امام سے مراد مجدد اور اس کی معرفت کا حکم بطور فرض۔  
..... ۳۔ بریت کی کوئی صورت کافر کی نہ ہوگی نہ کہ امام بمعنی مجدد کے منکر کی۔

..... ۴۔ فرقہ مرزائیہ بدو وجہ جہنمی ہے۔ اول اس لئے کہ اس نے حضور ﷺ پر یہ افتراء کیا کہ مجدد کی معرفت فرض، اس کا منکر نبی کے منکر کی طرح کافر اور ابدی جہنمی ہے۔ دوم اس لئے کہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسا ہی مجدد مانا۔ اتنی مختصر!

حافظ صاحب نے کتاب بھر میں نہ صرف اس نمبر کا بلکہ کسی نمبر کا ترتیب کا کیا ذکر ہے۔ بلکہ ترتیب بھی کہیں نام تک نہیں لیا۔ شاید اس لئے کہ پھر ہر نمبر نیز اس کی ہر بات کا جواب لکھنا پڑتا۔ جس سے وہ عاجز تھے۔ اسی کو چھپانے کے لئے ادھر ادھر کی باتیں لکھ کر نام کرنا چاہا کہ راہ حق کا جواب ہو گیا۔ لیکن خیر مجھ سے وہ چھپ کر جائیں گے ایسے کہاں کے ہیں۔

میں نے نور ہدایت کا ہر صفحہ دیکھا مولوی صاحب کے جواب نمبر ایک کی ہر بات کے سامنے حافظ صاحب کو غائب ہی پایا اور حافظ صاحب کے نزدیک جواب نہ دینا تسلیم کی علامت ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر مولوی صاحب کو ص ۱۶۵ میں لکھا ہے کہ: ”قول الحق کے چالیس عنوان ہیں۔ جس میں تقریباً مولوی صاحبان کے ہر اعتراض کا جواب ہے۔ آپ نے بشکل پانچ کا نا واجب جواب دیا ہے۔ باقی کا نہیں۔ جن باتوں کا جواب نہیں دیا غالباً آپ نے انہیں تسلیم کر لیا ہے۔“

ورنہ مولوی آن باشند کہ چپ نشود، ملخصاً“ لہذا ہمیں بھی یہ کہنے کی اجازت ملنی چاہئے کہ مولوی صاحب نے اس نبرود دیگر نبرود کا جو جواب دیا ہے اور ان میں سے بیشتر باتوں کا حافظ صاحب نے جواب نہیں دیا ہے۔ ان جوابوں کو غالباً حافظ صاحب نے تسلیم کر لیا ہے۔ ورنہ مرزائی آن باشند کہ چپ نشود۔

اصول موضوعہ اور پہلی بات کے تو قریب سے بھی نہ گذرے۔ ہاں دوسری بات میں سے صرف آخری یعنی فرضیت معرفت مجدد کے متعلق ایک جگہ ص ۸۹ میں جا کر نظر آتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

چنانچہ اس عنوان سے حضرت امام الزمان کے متعلق ایک مختصر مگر نتیجہ خیز جواب فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کی اس بحث کا جو رسالہ رد قادیان میں امام الزمان اور مجدد وقت کے متعلق ہے اور اس فضول ۱ بحث کے لئے آپ نے پندرہ بیس صفحہ سیاہ کئے ہیں۔ مختصر جواب دے کر اپنے رسالہ نور ہدایت کو ختم کرتا ہوں۔ پھر کچھ شوخی، تعلق اور ظرافت آمیز حکایت کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ نے امام الزمان کی شناخت کرنے سے قاصر رہ کر گنوار کی طرح کہہ دیا کہ امام الزمان کی شناخت ہمارے فرائض میں دخل نہیں اور نہ ہی امام و مجدد کا انکار کفر میں داخل ہے۔ ٹھیک فرمایا خدائے تعالیٰ نے ”اکذبتم بائنتی ولم تحیطوا بہا علما“ جھٹلایا تم نے میرے نشان کو اس لئے تمہاری سمجھ میں نہ آیا۔

مرزا قادیانی نے (توضیح المرام ص ۱۵، خزائن ج ۳ ص ۵۸) میں جب الفاظ قرآنی کو دہقانی کہہ دیا تو ان کے امتی کا مولوی صاحب کو گنوار کہہ دینا کون سی بڑی بات ہے۔ حافظ صاحب! بقول آپ کے مولوی صاحب نے تو گنوار پن کیا۔ مگر آپ نے مرزا قادیانی کے صداقت کا نشان یا اپنی کتاب کا مجزہ دکھانے کے لئے کون سا نور برسایا۔ آپ کے بھائی مرزائی نے فرضیت معرفت مجدد کے لئے حدیث پیش کی۔ مولوی صاحب نے بدلیل کہا وہ اس سے ثابت نہیں۔ آپ نے بھی حای بن کر ثابت نہ کیا۔ پس آپ شناخت کرانہ سکے۔ نہ کہ مولوی صاحب شناخت کر نہ سکے۔ آپ کا فرض تھا کہ مرزائی کی پیش کردہ حدیث سے ثابت کرتے کہ امام بمعنی مجدد کی معرفت فرض ہے۔ اس کا انکار کفر اور منکر قطعی کا فر ابدی و دوزخی ہے۔ لیکن یہ تو کر نہ سکے۔ الٹا چور کو توال کو

۱۔ پھر کیوں فضول بحث میں مرزا قادیانی نے اپنی عمر برباد کی۔ مرزائی جماعت نے اپنا نامہ اعمال اور آپ نے ۱۸۴ صفحہ سیاہ کیا؟

ڈانٹے۔ لگے مولوی صاحب کو گنوار بنانے۔

رہی آیت ”اکذبتم“ تو واضح رہے ایسے ہی آپ نے ایک آیت کا حوالہ ص ۴۳ میں بھی دیا ہے کہ خدا نے حضور ﷺ کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھ کر اس بات کی گارنٹی دے دی ہے کہ جو نعمت ہم نے اپنے پیارے رسول کو دی ہے وہ عطاء غیر مجز و ذہے۔ یعنی یہ ایسی نعمت ہے جس کا کبھی انقطاع نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک اگر ہزاروں لاکھوں نبی بھی آئیں تو وہ سب آپ کی نسل روحانی میں سے ہوں گے اور نبی کریم ﷺ کے تاج و تخت کے وارث ہوتے چلے جائیں گے۔

حالانکہ سورہ ہود رکوع ۸ میں آیت کے اس جز میں قیامت کے دن جنت میں نیک لوگوں کو جو نعمت ملے گی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت سے غیر منقطع نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اس جملہ کو نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے نہ ختم یا عدم ختم نبوت سے واسطہ۔ اس میں نہ حضور ﷺ کا ذکر، نہ آپ کی نسل کا بیان۔ لیکن حافظ صاحب نے ناواقفوں کو دھوکا دینے کے لئے اس کو زبردستی اپنے باطل عقیدہ سے چسپاں کر دیا۔

یہی حال ”اکذبتم“ کا بھی ہے جو آیت نہیں بلکہ پ سورہ نمل رکوع ۲ کی آیت کا درمیانی جزو ہے۔ یہاں بھی اوپر سے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے اس گروہ کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو پھر وہ مثل بہ مثل کھڑے کئے جائیں گے۔

”حتیٰ اذا جاء وقال اکذبتم بائنتی ولم تحیطوا بها علما اما اذا کنتم تعملون“ ﴿یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو حالانکہ تم نے ان کے علم کا احاطہ نہ کیا تھا۔ یا تم کیا عمل کرتے تھے۔﴾

بائنتی میں آیات جمع ہے۔ جس کا صحیح ترجمہ آیتوں یا نشانوں ہے۔ حافظ صاحب نے اس کا ترجمہ نشان بلنظ مفرد و غلط کیا ہے۔ غرض آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس کو فریضت معرفت مجدد سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر دو سطر بعد ص ۹۰ پر یہ لکھ کر مولوی صاحب آپ کی علمی لیاقت کو دیکھ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کو ایسے طریق پر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ جس سے باسانی آپ اس کی حقیقت اور ضرورت کو سمجھ سکیں اور یہ مسئلہ دینی و دنیاوی دونوں طریق سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ سمجھنے والا سلیم الفطرت اور خدا ترس انسان ہو۔

اصل بات یوں سمجھاتے ہیں۔ ”دیکھو دنیا کا امام بادشاہ وقت ہوتا ہے۔ جس کی

اطاعت فرض ہوتی ہے۔ خواہ وہ بادشاہ کافر ہو یا مسلمان اور اس کے جو نائب اور نائب کے بعد سلسلہ دار عہدے دار اہلکار حتیٰ کہ ادنیٰ چیز اسی تک کا بھی حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کوئی تعلق دار خواہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ، بادشاہ کے نام سے کوئی بات کہے اور لوگوں کو اس کے ماننے کا حکم دے تو جو شخص اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ سزا کا مستوجب ہوگا اور یہ سزا حکم دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ پس اسی طرح نبی و رسول عالم روحانی کے امام ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے خلفاء مجددین و بزرگان دین و علماء کرام جن کا تعلق اس نبی سے ہوتا ہے۔ ان سب کی اطاعت کرنی اس نبی پر ایمان لانے والوں اور رکھنے والوں پر فرض ہوتی ہے۔ اگر ان روحانیت کے علمبرداروں میں سے کوئی نبی کی طرف سے سچی بات کہے تو اس کا انکار خدا کے یہاں قابل مواخذہ ہے اور یہ مواخذہ اسی حد تک ہوگا۔ جس حد تک حکم دینے والے کی حیثیت ہوگی۔“

حافظ صاحب اپنے اس مثال یا چوٹی کی دلیل کے بعد اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ ”پس چونکہ حضرت مرزا قادیان مسیح موعود مہدی مسعود ہونے کے علاوہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ امام بھی ہیں اور مجدد بھی۔ غرض ہر پہلو سے ان کو شناخت کرنا اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو شخص ان کا انکار کرے گا۔ وہ ان کی حیثیت اور درجات کے مطابق سزا پائے گا۔“

ناظرین! یہ ہے مولوی صاحب کے مقابلہ میں حافظ صاحب کا مختصر مگر نتیجہ خیز جواب اب اس پر میری مختصر مگر معنی خیز تنقید بھی ملاحظہ ہو۔ اذلاً اور اصل بحث یہ تھی کہ مرزائی کی پیش کردہ حدیث سے فرضیت معرفت امام بمعنی مجدد و نائب ہے یا نہیں۔ مرزائی کا دعویٰ تھا کہ ہاں، اور مولوی صاحب نے فرمایا کہ نہیں۔ حافظ صاحب مرزائی کی حمایت کو آئے۔ لیکن حدیث کا نام تک نہیں لیتے اور بجائے دلیل ایک مثال پیش کر کے نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جس کا ما حاصل یہ ہے کہ: ”چونکہ نائب بادشاہ و نائب رسول کی اطاعت فرض ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کی معرفت اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔“ حافظ صاحب! آپ ہی انصاف سے فرمائیے کجا ثبوت فرضیت معرفت امام بمعنی مجدد من الحدیث، کجا ثبوت فرضیت معرفت مرزا من المثال اور کجا فرضیت اطاعت نائب بادشاہ و نائب رسول، کجا فرضیت معرفت و ایمان مرزا مدعی نبوت اور رسالت۔ اس کو کہتے ہیں۔ سوال از آسمان جواب از رہ اسمان کے لئے آپ کا جواب۔ مختصر مگر نتیجہ خیز ہے۔ یا میری تنقید مختصر مگر معنی خیز ہے۔ ہمیں نقاد راہ از کجاست تا کجا یہ مختصر سمجھ میں نہ آئے تو لیجئے کچھ مفصل بھی سن لیجئے اور اپنے جواب کے لطائف ذیل سے عبرت حاصل کیجئے۔

..... مولوی صاحب کی علمی لیاقت پر تو آپ کو رحم آیا۔ لیکن اپنی روحانی قابلیت

پر ترس نہ آیا۔ مدعی روحانیت ہو کر کسی عالم دین کو (مدعی بے پردہ ہو اور مدعا پردہ میں ہو) کی طرح جاہل کہنا یہ کہاں کا روحانی خلق ہے؟ دنیاوی بادشاہ خواہ کافر ہو یا مسلمان، اس کی اطاعت کے فرض ہونے کا صاف یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان بادشاہ کی طرح کافر بادشاہ کی بھی اطاعت فرض ہے۔ معلوم نہیں آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ بادشاہ وقت نصاریٰ ہے اور نصاریٰ بقول مرزا قادیانی دجال ہیں۔ تو کیا مسلمانوں پر دجال کی بھی اطاعت فرض ہے۔

۳..... اب تک نو یہ سنتے آئے تھے کہ سزا جرم کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہئے۔ مگر قادیانی مذہب کا اس کے برعکس یہ نیا قانون آپ سے معلوم ہوا کہ سزا حاکم کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہئے۔

۴..... پہلے دعویٰ تھا فرضیت معرفت امام بمعنی مجدد کا اور اب اس کو بدل دیا کہ امام بمعنی مجدد نبی کی معرفت فرض ہے۔ چنانچہ اس پر آپ کا نتیجہ شاہد ہے۔

۵..... پہلے فرضیت معرفت مجدد کا دعویٰ مطلق تھا اور اب آپ نے اس کو بنام مرزا مقید کر دیا۔

۶..... پہلے مطلق میں صرف امام و مجدد تھا اور اب مقید میں آپ نے یہ اضافہ کیا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں، مہدی مسعود ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں اور ہر پہلو لکھ کر آپ نے گویا یہ بھی کہہ دیا کہ وہ محدث ہیں، کرشن ہیں، سلمان ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، یعقوب ہیں، موسیٰ ہیں، داؤد ہیں، شیش ہیں، یوسف ہیں، اسحاق ہیں، یحییٰ ہیں، اسمعیل ہیں، مریم ہیں، ابن مریم ہیں، حارث ہیں، منصور ہیں، میکائیل ہیں، آریوں کے بادشاہ ہیں، جبراسود ہیں، بیت اللہ ہیں، ابن اللہ ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی تحریر سے شبہ ہوتا ہے کہ بڑے نہیں تو چھوٹے اللہ ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق خود یہ دعاوی کئے ہیں اور ان کی تصانیف میں مذکور ہیں۔ (دیکھو دعاوی مرزا مطبوعہ مطبع قاسمی دیوبند)

۷..... آپ کی اس نتیجہ خیز تحریر کے تین حصے ہیں۔ اولاً مثال، ثانیاً نتیجہ کی ابتدائی عبارت (پس چونکہ) سے (ہر پہلو سے) تک ثالثاً آخری عبارت (ان کو شناخت کرنا) سے (سزا پائے گا) تک اور ظاہر ہے کہ آخری عبارت میں جدید اور مقید دعویٰ فرضیت معرفت مرزا ہے۔ اب فرمائیے اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال اس کو کہہ نہیں سکتے۔ ورنہ مثال اور دلیل کو ایک ماننا پڑے گا

۱۔ باقبال تو میں دجال ہیں۔ (ازالہ ص ۱۳۶، خزائن ج ۳ ص ۱۷۴) پادری و جال ہیں۔ ایضاً

جو غلط ہے اور ابتدائی عبارت کو بھی گواہ میں چونکہ ہے دلیل نہیں کہہ سکتے۔ ورنہ مصادہ علی المطلوب لازم آئے گا۔۔ جو ناجائز اور غیر مفید مدعا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دعویٰ اتنا بڑا لیکن دلیل ندارد۔ تیسری بات کہ غیر محترف یا منکر امام زمان کی قیامت میں بریت کی کوئی صورت ہوگی یا نہیں۔ حدیث پیش کرنے والے مرزائی نے کہا تھا کہ نہیں مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہاں۔ حافظ صاحب آئے تو اپنے بھائی مرزائی کی حمایت کو لیکن بجائے نہیں کے مولوی صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ چنانچہ ص ۱۷۷ سے ۱۸۱ تک حاشیہ میں کافر و مشرک کی ابدی سزا کا صاف انکار اور انجام کار اس کے نجات کا علانیہ اقرار کیا ہے۔ یہ اس لئے کہ خود مرزا قادیانی کا بھی یہی مذہب ہے۔ (چشمہ مستقیم ص ۲۷ حاشیہ، خزائن ج ۲۰ ص ۳۶۹) جس میں پھر غیر محترف امام زمان کیا معنی منکر مرزا بھی داخل ہونا بدرجہ اولیٰ ظاہر ہے۔

چوتھی بات میں سے بھی انرا اولیٰ کا کہیں اشارہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں امرودم کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے ساری کتاب بھری ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی ایسے امام مجدد ہیں کہ نبی ہیں اور نبی بھی ایسے کہ جامع النبیین ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ جامع جمیع کمالات نبوت ہونے کا دعویٰ، صاف افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ ہے۔ اب خود مرزا قادیانی کا فتویٰ سنئے۔ وہ (حمات البشری ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷) میں فرماتے ہیں۔ ”ماکان لی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین“ میرے لئے ناجائز ہے کہ مدعی نبوت ہو کر اسلام سے خارج اور کافروں میں داخل ہو جاؤں۔

نتیجہ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کے بعد جب مدعی نبوت اسلام سے خارج اور کافر ہے تو ایسے خارج از اسلام کافر کو نبی اور افضل الانبیاء کہنے والا کیوں نہ اسلام سے خارج اور کافر ہوگا۔ افسوس کہ حافظ صاحب اور جمیع مرزائی اسی جرم کے مجرم ہیں۔ کاش مرزائی سمجھتے اور مولوی صاحب کی طرح حق پر ہوتے۔

نمبر: ۲..... دین حق صرف اسلام ہے۔ مگر یہ مشکل ہے کہ بہتر (۷۲) فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ اس لئے حق کا امتیاز مشکل ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اس دشواری کے رفع کرنے کے لئے ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد بھیجے گا وعدہ فرمایا ہے۔

”مولوی صاحب نے مجدد کی بحث اور اسی کی غایت والی مرزائی کی سند حدیث کو بحوالہ نقل اور اس کا ترجمہ کر کے جواب میں لکھا ہے کہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مجدد امت محمدیہ کے افادہ کے لئے ہوگا۔ یعنی وہ صرف مسلمانوں کے اس تعلق کو اسلام سے وابستہ کر

دے گا جو انہوں نے قطع یا کمزور کر دیا ہے اور قرآن و حدیث کے ذریعہ سے امت میں مذہبی روح پھونک دے گا۔ نہ کہ اس کو دیگر مذاہب سے زیادہ تر بالذات سروکار ہو گا یا کوئی نیا مذہب سکھائے گا۔“

حافظ صاحب نے ان میں سے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں مولوی صاحب نے بر تقدیر تسلیم یہ بھی لکھا تھا کہ پھر مرزائی کے پیش کردہ سابق مجددین کے دور تجدید میں تفرقہ مت کر۔ مسلمانوں میں وحدت فی المذہب ہونا چاہئے تھا مگر نہیں ہوا۔ خود مرزا قادیانی کے عہد تجدید میں بھی تفرقہ کا ثنا کیا، کم بھی نہ ہوا۔ بلکہ اور زیادہ ہو گیا۔ حافظ صاحب اس کو بھی شربت کے گھونٹ کی طرح پی گئے۔ البتہ دیباچہ میں مرزا قادیانی کی مجددیت کے بجائے ان کی نبوت کا ایک فرضی کارنامہ لکھا ہے۔ حالانکہ ان کی نبوت ہی انہیں مجدد کیا معنی، ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی نہیں رہنے دیتی۔ بلکہ اسلام سے خارج کر کے ادنیٰ ترین میں بھی نہیں، اعلیٰ ترین کافر کے صف میں جگہ دیتی ہے۔ ایسے شخص کو مسلمان کہہ کر بھی اپنے ایمان کو کھوٹا ہے نہ یہ کہ اسے امام مجدد، نبی، جامع النبیین کہا جائے۔

نمبر: ۳..... جس نے اس مجدد کو جسے امیر یا امام زمان بھی کہتے ہیں نہ پہچانا یا اس کی اطاعت نہ کی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔

مولوی صاحب نے جواب دیا تھا کہ:

.....۱ امیر و امام اور مجدد کا ایک ہونا غلط ہے۔ احادیث میں جہاں کہیں امیر و امام آیا ہے اس سے مجدد مراد نہیں اور نہ مجدد سے امیر و امام مراد ہے۔ بلکہ یہ دونوں جدا گانہ میریوں کے نام ہیں۔

.....۲ امیر و امام کی اطاعت واجب ہے۔ ان سے منحرف دنیا میں مستوجب قتل اور عقوبت میں مستحق عذاب ہے۔ مگر یہ قطعاً غلط ہے کہ مجدد کی اطاعت بھی فرض یا کم از کم واجب ہے۔ یہ امر دیگر ہے کہ مجدد کی حق بات کو حق ہونے کی جہت سے ماننا لازم ہے۔ جس میں مجدد کی کوئی خصوصیت نہیں وہی حق بات ادنیٰ عامی بھی کہے تو بھی ماننا لازم ہے۔ بخلاف امیر یا امام کے کیونکہ حدیث میں ہے اطیعوا کل بر و فاجر کہ ہر امام نیک و بد کی اطاعت کرو۔ یہاں امیر و امامت کی حیثیت اطاعت کو ضروری ٹھہراتی ہے اور مجدد میں مجددیت نہیں۔ بلکہ حقیقت کی حیثیت اطاعت کو واجب قرار دیتی ہے۔ جس میں مجدد اور غیر مجدد سب برابر ہیں۔

.....۳ ورنہ ضروری تھا کہ مرزائی کے پیش کردہ مجددین سابق غیر مقلد ہوتے۔ حالانکہ ان میں سے سوائے ایک کے سب مقلد تھے۔ مثلاً امام غزالی، امام شافعی کے، حضرت غوث اعظم امام حمد بن ضبل کے، خواجہ معین الدین اجمیری، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت امامنا الاعظم ابوحنیفہ کے مقلد تھے۔ پھر ان ائمہ علیہ الرحمۃ کی تقلید بھی واجب بغیرہ ہے۔ نہ کہ واجب للذاتہ تو مجددان کے مقلد ہیں۔ ان کی اطاعت کب واجب ہو سکتی ہے؟

حافظ صاحب ان میں سے کسی ایک امر کا بھی جواب تو کیا دیتے۔ ادھر نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی۔

نمبر: ۴..... مرزا غلام احمد قادیانی کوئی نئے مجدد نہیں ہیں۔ بلکہ ان سے پہلے برابر مجدد ہوتے رہے۔ جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ محمد بن محمد ابو حامد امام غزالی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الاقطاب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ضبلی، حضرت قطب اعظم خواجہ معین الدین چشتی حنفی، حضرت مخدوم الہند محمد شیخ احمد سرہندی حنفی مجدد الف ثانی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حنفی دہلوی، اور سید محمد جوہنوری بانی فرقہ مہدویہ حفظہ اللہ المسلمین عن شرہ۔

مولوی صاحب نے اصل جواب آئندہ نمبروں میں دیا ہے۔ لہذا ہم بھی حافظ صاحب کو وہیں دیکھیں گے۔

نمبر: ۵..... مجدد کی علامت یہ ہے کہ دعویٰ مجددیت کے ساتھ دلائل کے طور پر پیشین گوئی بھی کرے۔ فقط۔

مولوی صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ مجدد کے لئے دعویٰ مجددیت اور پیشین گوئی ضروری ہوتی تو:

۱..... تیرہ صدی کے سب مجددوں کے دعویٰ کی یہ علامت بیان فرماتے: اتھی مختصراً۔

حافظ صاحب نے اس بھی کچھ جواب نہیں دیا۔ ہاں ص ۱۴۸ پر حاشیہ میں ضمناً صرف حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق بلاحوالہ اتنا لکھا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی اصلاح کے لئے مامور فرمایا ہے۔ حالانکہ اولاً! یہ غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ ورنہ حافظ صاحب کو چاہئے کہ صحیح پتہ دیں۔ ثانیاً! اصلاح کے لئے مامور من اللہ ایک تو مذہباً ہوتا ہے۔ دوسرے الہاماً۔ حضرت مجدد صاحب نے اگر دعویٰ کیا ہے تو وہ مذہباً تھے جس میں ان کی یا کسی مجدد کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہر عالم دین حتیٰ کہ جسے دین کی ایک بات بھی معلوم ہے بحفوائے بلغوا



عنی ولوایۃ، وہ بھی تبلیغ و اصلاح کے لئے مامور من اللہ ہے۔ ورنہ حافظ صاحب کو ثابت کرنا چاہئے کہ ان کے خیال کے مطابق مرزا قادیانی کی طرح حضرت مجدد الف ثانی پر بھی مامور من اللہ ہونے کی وحی من اللہ نازل ہوئی تھی۔ مگر یہ تا قیامت ناممکن ہے۔

نمبر: ۶..... چودھویں صدی کے مجدد اور مسیح موعود مہدی معبود مرزا غلام احمد قادیانی

ہیں۔ فقط!

مولوی صاحب نے اس نمبر کے جواب میں ص ۳ سے ص ۲۶ تک قدرے تفصیل سے کام لیا ہے۔ اول یہ لکھا ہے کہ اس نمبر میں مرزا قادیانی کو مجدد، مہدی، مسیح مانا ہے۔ مرتبہ مسیحیت بڑا ہے کہ نبوت ہے۔ اس کے بعد درجہ مہدویت ہے کہ امامت ہے۔ پھر عہدہ مجددیت ہے اور ہر سہ مراتب کے لئے اسلام لازم ہے۔ گویا بلحاظ مراتب مذکورہ مسلمان ہونا ادنیٰ درجہ ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کی درجہ بدرجہ تحقیق کرنی چاہئے۔ اس کے بعد:

۱..... یہ دعویٰ کیا کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہیں اور اس پر دو دلیل پیش کی۔

ایک مرزا قادیانی کا عقیدہ کفریہ کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ خدا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ خدا اپنے رسول سے نہایت پختہ وعدہ کر کے بعض وقت پورا نہیں کرتا۔ دوسرے مرزا قادیانی کا انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو صراحتہ ناپاک اور بدترین توہین کی ہے اسے ان کی کتاب (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، فتح مسیح ص ۴۷، دافع البلاء، معیار المذہب ص ۸) سے نقل کر کے انہیں کی توضیح مرام ص ۳۰ سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یسوع، عیسیٰ، مسیح بن مریم ایک ہی ذات کے نام اور وصف عنوانی ہیں۔

۲..... حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے متعلق بخاری،

مسلم، ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ، سے احادیث نقل کر کے معہ دیگر فوائد کے یہ واضح کیا ہے کہ مرزا قادیانی نہ مجدد ہیں، نہ مہدی ہیں، نہ مسیح ہیں۔ اتنی مختصراً۔

حافظ صاحب نے مولوی صاحب کی پہلی بات دعویٰ کی اول دلیل کو شربت کے گھونٹ کی طرح پی کر ص ۳۲ سے ص ۵۲ تک دلیل دوم پر خامہ فرسائی کی ہے جس میں حسب عادت بہت سی غیر متعلق باتیں بھی درج کر دی ہیں۔ ان سے قطع نظر کر لیا جائے تو قابل جواب بات ایک صفحہ سے زیادہ نہ ہوگی جس کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ:

۱..... ”مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں بلکہ یسوع کو

دی ہیں جس کی تصریح انہوں نے خود اس ذکر سے پہلے اسی کتاب انجام آتھم ص ۷ میں کر دی ہے۔“

.....۲ ”انجیلی یسوع اور ہے اور قرآنی عیسیٰ دوسرے ہیں جو واجب الاحترام ہیں۔“

.....۳ ”یسوع کو جو گالیاں دی گئیں الزاماً ہیں نہ کہ تحقیقاً۔ لہذا یہ کہتا کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ ان پر بہتان عظیم ہے۔“

ناظرین! حافظ صاحب کا خیال ہے کہ مرزا قادیانی نے گالی۔ یسوع کو دی، الزاماً دی، مولوی صاحب کا اور میرا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے گالی دی اور حضرت عیسیٰ کو دی، الزاماً بھی دی، تحقیقاً بھی دی۔ حافظ صاحب کو یہ تو تسلیم ہے کہ ان کے مرزا قادیانی نے گالی دی۔ الزاماً دی، اختلاف صرف اس میں رہ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی اور تحقیقاً دی۔ اگر یہ ہر دو باتیں بھی ثابت ہو جائیں تو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی نے جرم توہین انبیاء کیا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ حافظ صاحب مرزا قادیانی کو مسلمان کہہ کر اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالیں۔ سنئے:

امراول کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی۔

.....۱ مولوی صاحب بحوالہ (توضیح مرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲، مصنفہ مرزا قادیانی) یہ لکھ چکے ہیں کہ: ”مسح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“ لیکن حافظ صاحب نے اس کا کچھ خیال نہ فرمایا۔

.....۲ بحیات مرزا قادیانی، امریکہ میں ڈاکٹر ڈوئی نے ان کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی نے ایک طویل تحریر میں لکھا تھا کہ: ”ڈوئی یسوع مسیح کو خدا جانتا ہے۔ مگر میں اس کو ایک بندہ عاجز مگر نبی جانتا ہوں۔“

(رسالہ ریویو ج ۱ ص ۹، ۳۲۲، بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۲ء، موقع قادیان ص ۵)

.....۳ ”اس (مریم) کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔“

(چشمہ سبکی ص ۱۵، خزائن ج ۲ ص ۳۵۶)

.....۴ ”ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں تیس برس تک موسیٰ رسول اللہ ﷺ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔“

(چشمہ سبکی ص ۳۹، خزائن ج ۲ ص ۳۸۱)

.....۵ ”اور وہ خدا جس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔“

(چشمہ سبکی ص ۱۳، خزائن ج ۲ ص ۳۲۷)

.....۶ ”ہمازی قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان

کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔ افسوس پادری صاحبان تہذیب سے کام لیں۔ ہمارے نبی ﷺ کو گالیاں نہ دیں تو مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے بیس حصے زیادہ ادب کا خیال رہے۔“ (ایضاً ص ۴، خزائن ج ۲۰ ص ۳۳۶)

۷..... ”تعب ہے کہ عیسائیوں کو کس بات پر ناز ہے۔ اگر ان کا خدا ہے تو وہ وہی ہے جو مدت ہوئی کہ مر گیا اور سری نگر محلہ خانیا رکشمیر میں اس کی قبر ہے۔“ اور نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر فوت ہوئے اور نہ آسمان پر چڑھے۔ بلکہ یہود کے قتل کے ارادہ سے مخلصی پا کر ہندوستان میں آئے اور آخرا یک سو بیس برس کی عمر میں سری نگر کشمیر میں فوت ہوئے۔“ (راز حقیقت ص ۵، حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۶)

۸..... ”وہ نبی جو ہمارے نبی ﷺ سے چھ سو برس پہلے گزرا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور کوئی نہیں اور یسوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر یوز آسف بنا نہایت قرین قیاس ہے۔ کیونکہ جب کہ یسوع کے لفظ کو انگریزی میں بھی جیز بنا لیا ہے تو یوز آسف میں جیز سے کچھ زیادہ تغیر نہیں ہے۔ یہ لفظ سنسکرت سے ہرگز مناسبت نہیں رکھتا۔ صریح عبرانی معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں کیوں تشریف لائے۔ اس کا سبب ظاہر ہے کہ جبکہ ملک شام کے یہودیوں نے آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کیا اور آپ کو صلیب پر قتل کرنا چاہا تو خدائے تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب سے نجات دے دی۔“

(راز حقیقت ص ۱۵، حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۷)

۹..... ”یہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں۔ جو آنحضرت ﷺ سے چھ سو برس پہلے گزرے ہیں۔ اس مدت میں، بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی شہزادہ کے نام سے کبھی مشہور نہیں ہوا..... پھر یوز آسف کا نام جو یسوع کے لفظ سے بہت ملتا ہے۔ ان تمام یقینی باتوں کو اور بھی قوت بخشا ہے۔“ (راز حقیقت ص ۱۶، خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۹)

۱۰..... ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یوز آسف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یہ انکا مزار ہے۔“ (راز حقیقت ص ۱۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۰)

۱۱..... ”ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یوز آسف حضرت یسوع کا نام ہے۔ جس میں زبان کے پھیر کی وجہ سے قدرے تغیر ہو گیا ہے۔ اب بھی بعض کشمیری، بجائے یوز آسف کے عیسیٰ صاحب ہی کہتے ہیں۔ جیسا کہ لکھا گیا۔“ (راز حقیقت ص ۲۰، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۲)

۱۔ چہ خوش، گالی تو خود اپنی طرف سے دیں اور نام کریں مسلمانوں کی طرف سے۔

۱۲..... حافظ صاحب نے اس ثبوت میں کہ مرزا قادیانی نے یسوع کو گالی دی ہے نہ کہ حضرت عیسیٰ کو جو عبارت انجام آتھم کی نقل ہے۔ اس کے بعد یہ فقرے بھی قابل توجہ ہیں کہ: ”یسوع..... جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اپنے سے پہلے نبیوں کو چور و بٹھار کہا۔ اپنے سے بعد آنے والے نبیوں کو جن میں حضور ﷺ بھی شامل ہیں چھوٹا اور مکار کہا۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہم ایک مقدس انسان اور خدائے تعالیٰ کا برگزیدہ رسول مانتے ہیں اور ہر طرح ان کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں۔ اس قرآنی عیسیٰ نے نہ خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ ہی کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی۔“

یہ ایک درجن حوالہ ہے۔ ایسے ابھی صد ہا حوالے ہیں جنہیں بخوف طوالت نظر انداز کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کو مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزامی گالی دینے کا انکار تھا۔ مگر حوالہ نمبر ۶ میں مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزامی گالی دی۔ مذکورہ حوالوں کو پھر دیکھو کس صراحت سے مرزا قادیانی کو تسلیم ہے کہ یسوع، مسیح، عیسیٰ تینوں اسی ایک مبارک ہستی کا نام ہے جو حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ مقدس واجب الاحترام ہے خدا کا مقرب ہے۔ نبی ہے برگزیدہ رسول ہے۔

ورنہ مہربانی فرما کر حافظ صاحب بتائیں کہ حوالہ نمبر ۱ میں مسیح بن مریم، عیسیٰ یسوع اور نمبر ۲ میں یسوع، مسیح، نبی اور نمبر ۳ میں مریم کا بیٹا، عیسیٰ، یسوع اور نمبر ۴ میں عیسیٰ، یسوع، خدا کا مقرب اور نمبر ۵ میں یسوع مسیح اور نمبر ۶ میں عیسیٰ اور نمبر ۸ میں عیسیٰ، یسوع، مسیح اور نمبر ۹ میں مسیح، عیسیٰ، یسوع اور نمبر ۱۰ میں عیسیٰ، یسوع اور نمبر ۱۱ میں یسوع، عیسیٰ، کس کو کہا گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ ہی کا نام یسوع نہیں تو حوالہ نمبر ۷ میں مرزا قادیانی نے نصاریٰ کو عیسائی کیوں کہا۔ نیز انہیں یسوع کو مسیح نہیں کہتے تو آپ لوگ عیسائیوں کو مسیحی کیوں کہتے ہیں۔ انجیلی یسوع کا نام عیسیٰ نہیں تو حوالہ نمبر ۱۲ میں قرآنی عیسیٰ کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اگر انجیلی عیسیٰ کوئی دوسرا تھا اور قرآنی عیسیٰ کوئی اور تو خدا نے قرآن میں رسول نے حدیث میں بمقابلہ یہود و نصاریٰ انجیلی عیسیٰ کی حمایت و برأت کیوں کی؟

غرض مرزا قادیانی نے پاک ابن مریم صدیقہ کو الزامی گالی بنام یسوع بھی دی اور بنام عیسیٰ بھی اور چشمہ مسیحی میں بنام مسیح یوں گالی دی کہ مجھے کہتے ہیں کہ: ”مسیح موعود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا۔ مگر سچ کہتا ہوں کہ اس نبی (عربی) کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔“

(چشمہ مسیحی ص ۲۴، خزائن ج ۲۰ ص ۳۵۴)

”آنحضرت ﷺ کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اسی لئے ضروری نہیں کہ کوئی صبح باہر سے آوے۔ بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنیٰ کوشح بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس نے اس عاجز (مرزا غلام احمد قادیانی) کو بتایا۔“ (نور ہدایت ص ۳۶)

امردوم کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحقیقاً بھی گالی دی۔

۱..... (دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی کمتری اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے یہ شعر لکھا ہے۔ جسے حافظ صاحب نے بھی متعدد جگہ درج فرمایا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

۲..... ایک منم کہ حسب بشارات آدم..... عیسیٰ کجا است تا بند پایہ منبرم

(ازالہ ص ۱۵۸، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

بتایا جائے کہ مرزا قادیانی نے یہ دونوں شعر کس کے مقابلہ میں لکھے اور اس کا مخاطب کون ہے۔ کس سے اپنے کو برتر و افضل اور کس کو اپنے سے کمتر و ادنیٰ کہا ہے۔ کیا یہ بھی الزامی گالی ہے؟

۳..... ”یہ بھی یاد رہے کہ آپ کے (عیسیٰ) کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی

عادت تھی۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۰، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹)

دیکھئے یہ الزام نہیں ہے۔ ورنہ حوالہ دے کر مرزا قادیانی یوں کہتے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ایسا سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مرزا قادیانی کے یہ اقوال بھی ملا لیجئے۔ ”جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔“ (تحریر حقیقت الوہی ص ۲۶، خزائن ج ۲۲ ص ۳۵۹)

”جھوٹ بولنا بے ایمانی اور گواہ کھانے کے برابر ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۰، خزائن ج ۱۱ ص ۲۳۳)

”ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں

بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

”جیسا کہ بت پوجنا شرک ہے۔ ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی شرک ہے۔“

(الحکم ۱۱ مفر ۱۳۲۳ھ، از اقاؤۃ الافہام ج ۲ ص ۲۵۰)

اور اب نتیجہ نکالئے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا بنا کر کیا کیا

کہہ گئے۔

۴..... ”عیسائیوں نے بہت سے معجزات آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کے لکھے

ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔“

(ضمیمہ انجام آقلم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

حالانکہ خدا نے فرمایا ہے۔ ”واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات“ کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو مجتوبات دیئے۔ اسی حق بات کے سلسلہ میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ بتایا جائے کیا مرزا قادیانی کی یہ حق بات بھی الزامی گالی ہے؟

۵..... ”مسح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو گڑھے گئے ہیں تو کوئی اعجبہ نظر نہیں آتا..... کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق کو دور نہیں کرتا۔“

(ازالہ ص ۶، خزائن ج ۳ ص ۱۰۵، ۱۰۶)

اس کلام میں مرزا قادیانی کے مخاطب یہودی اور عیسائی نہیں بلکہ اسلامی علماء ہیں۔ کیا اس کو بھی الزامی جواب کہا جائے گا؟

۶..... ”مسلم علماء کو خطاب ہے کہ: ”ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقیدہ کو حل کر سکے۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۳، ۱۴، خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۱)

اسی کے ساتھ مرزا قادیانی کی یہ عبارت بھی ملا لیجئے۔ ”ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔“

(کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

تو نتیجہ ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔

۷..... ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔“

(دافع البلاء ص ۱۳، حقیقت الوحی ص ۱۳۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

”اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

”یہ شیطانی دوسرہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹)

کیا مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کہ میں افضل ہوں اور مسیح ابن مریم مفضول ہیں۔ الزامی

دعویٰ ہے۔

۸..... ”یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح صرف مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچ سچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ نہیں بلکہ صرف عمل الترب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔“ (ازالہ ص ۳۲۲، خزائن ج ۳ ص ۲۶۳)

”عمل الترب یعنی مسمریزم میں مسیح بھی کس درجے تک مشق رکھتے تھے۔“

(ازالہ ص ۳۱۲، خزائن ج ۳ ص ۲۵۸)

یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز طریق عمل الترب یعنی مسمریزمی طریق سے بطور لہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ (ازالہ ص ۳۰۵، خزائن ج ۳ ص ۲۵۶)

”یاد رکھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان العجوبہ نمایوں میں حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رہتا۔“

(ازالہ ص ۳۱۰، خزائن ج ۳ ص ۲۵۶ حاشیہ)

بتایا جائے یہ کرشمہ مسمریزم بھی کیا کوئی الزامی عجوبہ نمائی ہے؟ نیز خیال رہے کہ مسمریزم کا اتہام مرزا قادیانی نے ازالہ الادہام میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام پر بھی لگایا ہے۔

۹..... ”وہ خدا جس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور مسیح کی طرح میرے اوپر بھی بہت حملے ہوئے۔ مگر ہر ایک حملہ میں دشمن ناکام رہے اور مجھے پھانسی دینے کے لئے اس نے بڑے بڑے معجزات دکھائے اور بڑے بڑے قوی ہاتھ دکھائے۔ میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا۔ یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کئے جاتے ہیں۔ میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں۔ بلکہ ان سے زیادہ اور یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے۔ جس کے مدارج و مراتب سے دنیا بے خبر ہے۔ یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ۔“ (چشمہ مسیحی ص ۱۳، ۱۴، خزائن ج ۲ ص ۳۵۴)

عجیب بات ہے امت میں صحابہ کرام سے زیادہ کیا معنی ان کے برابر اولیائے عظام نے بھی حضور ﷺ کی کامل پیروی نہ کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ وہ تو اس شرف سے محروم رہے۔ مگر اس تیرہویں صدی میں مرزا قادیانی صحابہ کا کیا ذکر ہے۔ حضرت ابن مریم سے بھی بڑھ گئے۔

کہاں ہیں حافظ صاحب۔ آئیں اور بتائیں کہ مثل مسج کا اصل مسج سے بڑا ہونا کس کا الزام جواب ہے؟

۱۰..... ”مسج کی راست بازی اپنے زمانہ کے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئی۔ بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کا عطر اس کے سر پر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا اور مسج کا یہ نام نہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھے سے مانع تھے۔“

(دافع البلاء ص ۱۸ ج ۱۸ ص ۲۲۰)

یہ وہ حوالہ ہے جسے مولوی صاحب نے بھی راہ حق میں پیش کیا تھا اور اس کے نتیجہ والی عبارت کو معیار المذہب کی عبارت سے متعلق سمجھ کر دھوکا کھایا اور دونوں تعلق کی لے کر مولوی صاحب کو دجال لکھ کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کا مقصود یہ تھا کہ مرزا قادیانی نے اس میں قرآنی عیسیٰ کی توہین کی ہے اور یہ الزام نہیں بلکہ ان کی تحقیق سے ورنہ مرزا قادیانی ہنام قرآن استدلال نہ کرتے۔ لیکن حافظ صاحب نے اس کو ہضم کر کے یہی رشا شروع کر دیا کہ مرزا قادیانی نے یسوع کو الٹرا می گالی دی ہے۔

اس حوالہ میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علانیہ شرابی کہا ہے۔ جو بحیال الزام نہیں بلکہ بطور تحقیق کیونکہ مرزا قادیانی کے ایک دوست نے ان کو بوجہ فرض ذیابیطس ایفون کھانے کی صلاح دی تو مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھنٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسج تو شرابی تھا اور دوسرا ایفونی (ریویو آف ریلیجنس ج ۲ ش ۳ ص ۱۱۶، اپریل ۱۹۰۳ء، عشرہ کاملہ ص ۱۱۵) کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزام شرابی کہا ہے؟

۱۱..... ”مسج کے حالات پڑھو تو یہ شخص اس لائق نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو۔“

(الحکم ۲۱ فروری ۱۹۰۲ء)

۱۲..... ”افغان، یہودیوں کی نسبت اور نکاح میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ لڑکیوں کو اپنے منسوبوں کے ساتھ ملاقات اور اختلاط کرنے میں مضائقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگانا اس رسم کی بڑی سچی شہادت ہے۔ بعض پہاڑی خواتین کے قبیلوں میں لڑکیوں کا اپنے منسوب لڑکوں کے ساتھ اس قدر



اختلاط پایا جاتا ہے کہ نصف سے زیادہ لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔“

(ایام الصلح ص ۶۵، خزائن ج ۱۳ ص ۳۰۰)

”مریم نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کمر لیا گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیونکر نکاح ہو گیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریات تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔“

حالانکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں ”وجیہا فسی الدنیا والآخرۃ“ اور حضرت مریم صدیقہ کے حق میں ”لم یمسنی بشر“ وارد ہے۔ مگر حافظ صاحب دیکھیں کہ مرزا قادیانی تحقیقاً نہ کہ الزاماً اعتراض کے جواب میں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم علیہا السلام کو کیا کہہ گئے۔ باایں ہمہ مرزا قادیانی کی اس جرأت کو دیکھئے۔ کہتے ہیں کہ: ”مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ مسیح تو مسیح میں تو اس کے چار دن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں۔ کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے ہیں۔“

”یسوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔“ (کشتی نوح ص ۱۶، حاشیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷)

طرفہ تماشا ہے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ: ”انہوں نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو اجتناب نہ کرو۔ مگر خود اس قدر بد بانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک وعظ میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلا دے۔“ (چشمہ سبھی ص ۷، خزائن ج ۲۰ ص ۳۳۶)

مگر خود ہی گالی ایک نبی کو دیتے ہوئے اپنے اخلاق کریمہ نہ معلوم کیوں بھول گئے۔ یہ تو عزت کی اور اگر بے عزتی کرنے پر آتے تو نہ معلوم اور کیا لکھتے۔

حافظ صاحب! یہ ایک درجن حوالے دیکھئے، کیا اب بھی کہنے گا کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحقیقاً گالی نہیں دی؟ جب ہر دو امر ثابت ہو گئے تو اب اس میں کیا شک رہا کہ یسوع، مسیح، عیسیٰ، تینوں نام قرآنی ابن مریم کے ہیں۔ جسے انہیں ناموں سے عیسائی بھی

پکارتے ہیں اور مرزا قادیانی نے اسی کو ہر سہ نام سے الزاماً بھی گالی دی ہے اور تحقیقاً بھی جو نبی کی شان میں بدترین توہین ہے اور نبی کی توہین کرنے والا قطعاً کافر ہے۔ پس مولوی صاحب نے بہت صحیح لکھا ہے کہ مرزا قادیانی مسلمان ہی نہیں پھر ان کا مجدد، مہدی، مسیح ہونا چہ معنی وارد؟

رہی دوسری بات تو اس کے متعلق حافظ صاحب نے بے ترتیب رطب دیا۔ بس جو کچھ لکھا ہے۔ ان سب کا دار و مدار انہیں کے الفاظ میں اس پر ہے کہ جس قدر پیشین گوئیاں آخری زمانہ کے متعلق ہیں۔ وہ سب استعارات پر مبنی ہیں اور آخری زمانہ کی پیشین گوئی سے آپ کی مراد آخری زمانہ کے وہ واقعات ہیں جو حضرت مسیح و مہدی، دجال، یاجوج ماجوج وغیرہ کے متعلق ہیں۔ ان پیشین گوئیوں یا واقعات کا استعارائی یا بر استعارہ ہونا مرزا قادیانی کا ذاتی اختراع ہے۔ وہی زاگ ان کے اتنی بھی گاتے ہیں۔ یہی حافظ صاحب نے بھی ص ۶۷، ۹۹ پر بھی فرمایا کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ بلکہ استعارات کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔

لیکن استعاری ہونا یا مبنی پر حقیقت نہ ہونا۔ حافظ صاحب کا خیال ہے کہ یہ مرزا قادیانی کی ایجاد نہیں بلکہ خود حضور ﷺ نے قبل از وقت ہی مسلمانوں کو متنبہ فرمادیا تھا کہ دیکھو یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں اور لطف یہ کہ تمام حدیث لکھا ہے۔ مگر الفاظ حدیث نقل نہیں کئے۔ ورنہ قلعی کھل جاتی۔

مولوی صاحب نے بحوالہ حدیث امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور دجال وغیرہ کے متعلق آخری زمانہ کے انہیں پیشین گوئیوں یا واقعات کو لکھ کر ثابت کیا تھا کہ مرزا قادیانی اس کے مصداق نہیں ہیں۔ حافظ صاحب نے جس پر برہم ہو کر لکھا ہے کہ: ”آپ نے جو حضرت مسیح مہدی کے فرضی اوصاف بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی میں یہ اوصاف نہ تھے۔ اس لئے وہ کیسے مسیح و مہدی ہو سکتے ہیں۔ سو جواباً گزارش ہے کہ ان جملہ اوصاف کو آپ لوگ اگر حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں تو یاد رکھو کہ ان اوصاف کی صاحب عقل لوگوں کے نزدیک ہر نبی نامہ سے زیادہ وقعت نہیں ہے۔“

”دوسری جگہ اور غصہ میں ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استعارہ نہ سمجھے تو پھر وہ ہمیں سمجھائے کہ یہ حدیث کی باتیں جو سراسر خلاف عقل ہیں۔ کیونکر پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر کہو خدا کی قدرت سے تو یہ مارے درجہ کا جواب ہے۔ جس سے خدا کے قدرت کی سخت توہین ہے اور سوائے بیوقوف اور جاہل لوگوں کے کوئی صاحب عقل اس قسم کا لغو جواب نہیں دے سکتا۔ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے موقعہ پر قدرت کی آڑ لینے والوں کے پاس کوئی معقول جواب نہیں جو کسی

متلاشی حق کی تشفی کا موجب ہو سکے یا اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر سکے۔“

(نور ہدایت ص ۶۸)

اس کے جواب میں ہمیں خود مرزا قادیانی کی حسب ذیل عبارت کا نقل کر دینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: ”جس حالت میں دنیا میں ہزار ہا مذہب خدائے تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ تو کیونکر ثابت ہو کہ وہ درحقیقت منجانب اللہ ہیں۔ آخر سچے مذہب کے لئے کوئی چیز تو ماہہ الاختیار چاہئے اور صرف معقولیت کا دعویٰ کسی مذہب کے منجانب اللہ ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ باتیں انسان بھی بیان کر سکتا ہے اور جو خدا محض انسانی دلائل سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بلکہ خدا وہ ہے جو اپنے تئیں قوی نشانوں کے ساتھ آپ ظاہر کرتا ہے۔ وہ مذہب جو محض خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ منجانب اللہ ہونے کے نشان اور خدائی مہر اپنے ساتھ رکھتا ہوتا کہ معلوم ہو کہ وہ خاص خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ سو یہ مذہب اسلام ہے۔“

(چشمہ سحیح ص ۱۱، جزائن ج ۲۰ ص ۳۵۱)

یہ تو معقولیت کے متعلق مرزا قادیانی کی تنبیہ تھی۔ اب خدا کی قدرت کی بابت ان کی ہدایت سنئے۔ لکھتے ہیں کہ: ”میری رائے میں فلسفیوں سے بڑھ کر اور کسی قوم کی دلی حالت خراب نہ ہوگی۔ خدا میں اور بندہ میں جو چیز بہت جلد جدائی ذاتی ہے وہ شوخی اور خود بینی اور منکبری ہے۔ سو وہ اس قوم کے اصول کو ایسی لازم پڑی ہوئی ہے کہ گویا انہی کے حصہ میں آگئی ہے۔ یہ لوگ خدائے تعالیٰ کی قدرتوں پر حاکمانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جس سے منہ سے اس کے برخلاف کچھ سنتے ہیں۔ اس کو نہایت تحقیر اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نوخیزوں کے عام خیالات اسی طرح بڑھتے جاتے ہیں یہ کسی قوی دلیل کا اثر نہیں۔ بلکہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بھیڑ یا چال چلنے کا بہت سامان موجود ہے۔ جس سے تعلیم یافتہ جماعت بھی مستثنیٰ نہیں۔ سو اس فطرت اور عادت کے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی داڑھی والے کو گڑھے میں پڑا ہوا دیکھ کر فی الفور اس میں کود پڑے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے ہاتھ میں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ فلاں عقلمند کا قول ہے۔ لیکن ایک روشن دل آدمی جس کی فطرت میں خدائے تعالیٰ نے وسعت علمی کی استعداد رکھی ہوئی ہے وہ ایسے خیالات کو کہ خدائے تعالیٰ کے اسرار پر احاطہ کرنا کسی انسان کا کام ہے۔ بغایت درجہ عقل و ایمان سے دور سمجھتا ہے۔ ایک بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ میں نے علم اور تجربہ میں ترقیات کیں۔ یہاں تک کہ آخری علم اور تجربہ یہ تھا کہ مجھ میں کچھ علم و تجربہ نہیں۔ سچ ہے دریائے غیر متناہی علم و قدرت باری جل شانہ کے آگے ذرہ ناچیز انسان کیا حقیقت ہے کہ دم

مارے اور اس کا علم و تجربہ کیا شے ہے کہ اس پر ناز کرے۔ کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے اور جو کچھ آئندہ ثابت ہو اس کے قبول کرنے کے لئے آمادہ رہیں اور بجز امور منافی صفات کمالیہ حضرت باری عزاسمہ سب کاموں پر اس کو قادر سمجھا جائے اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے۔ یہی طریق اہل حق ہے جس سے خدا۔ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہے اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے۔ جس پر ثواب پانے کا تمام مدار ہے۔ نہ یہ کہ چند محدود باتیں اس غیر محدود کے گلے کا ہار بنائے جائیں اور یہ خیال کیا جائے کہ گویا اس نے اپنے اذلی وابدی زمانہ میں ہمیشہ اسی قدر قدرتوں میں اپنی جمع طاقتوں کو محدود کر رکھا ہے یا اسی حد پر کسی قاصر سے مجبور ہو رہا ہے۔ اگر خدائے تعالیٰ ایسا ہی محدود و القدرت ہوتا تو اس کے بندوں کے لئے بڑے ماتم اور مصیبت کی جگہ تھی۔ وہ عظیم الشان قدرتوں والا اپنی ذات میں لایدرک والا انتہاء ہے۔ کون جانتا ہے کہ پہلے کیا کیا کام کیا اور آئندہ کیا کیا کرے گا۔ ایک حکم کا قول ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی گمراہی نہیں کہ انسان اپنی عقل کے پیمانہ سے باری عزاسمہ کے ملک کو ناپتا چاہے۔ یہ بیانات بہت صاف ہیں۔ جن کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں۔“ (سرمد چشم آریہ ص ۵۵، خزائن ج ۲ ص ۱۰۳)

حافظ صاحب! دیکھئے مرزا قادیانی نے آپ کی معقولیت کو خاک میں ملا دیا اور خدا کی قدرت کو کیسا وسیع بیان فرمایا۔ اگر میری نہیں سنتے تو للہ اپنے نبی ہی کی مان لیجئے اور اقرار کیجئے کہ مولوی صاحب کی پیش کردہ احادیث صحیحہ کی باتیں خلاف عقل نہیں بلکہ خود اپنی عقل ہی خلاف عقل و ایمان ہے۔

جواب میں گو مذکورہ عبارت کافی ہے۔ تاہم مزید اطمینان کے لئے کچھ اور عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھئے کہ حافظ صاحب کی معقولیت کی حقیقت آخری زمانہ کے پیش گوئی کا بس استعاری ہونا ہے۔ اب اس استعارہ کا اصلی معنی سمجھنے کا نسخہ سنئے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ سمجھنے کے لئے:

.....۱ روحانی آنکھوں اور قلب سلیم، علم روحانی اور ایمان کی ضرورت ہے۔

.....۲ جو صرف حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر ایمان لانے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں بلا عیسائی ہوئے تثلیث سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے ہی مرزائیوں کے ہاں بلا مرزائی ہوئے استعارہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر یہ بات ہر استعارہ میں نہیں۔ صرف قرآن و حدیث کے استعارہ میں ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں بالخصوص پیشین گوئیوں کی حقیقت جو اکثر استعارات پر

جہتی ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لئے علم روحانی کی ضرورت ہے۔ مگر استعارہ تو استعارہ پھر اس خصوصیت کی کیا وجہ کہ اور استعارے تو سمجھ میں آئیں۔ لیکن قرآن وحدیث کے استعارے بلا مرزائی ہوئے سمجھ میں نہ آئیں؟

دنیا جانتی ہے کہ استعارہ از قسم مجاز ہے۔ نیز لفظ مجاز اور حقیقت ہر دو متقابل ہیں۔ اہل علم پر روشن ہے کہ حقیقت، حقیقت ہے اور مجاز، مجاز نیز بلا قرینہ صارفہ حقیقت سے مجاز کی طرف عدول تا جائز ہے اور معنی مجازی اسی قرینہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر استعارہ کے بھی اقسام ہیں اور سب میں یہ رعایت ملحوظ ہونی ہے جو ہر استعارہ کے لئے عام ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے معانی و بیان کے اس علمی کارخانہ کو درہم برہم کر کے قرآن وحدیث کی استعاری باتوں بالخصوص پیشین گوئیوں کو جدا کیا اور اس کے سمجھنے کے لئے نئی تھیوری قائم کی کہ ایمان بالمرزا پر موقوف ہے۔ پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ العالی حافظ صاحب کی کتاب واپس نہ کرتے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری جواب نہ دیتے۔ مولوی عبدالحلیم صاحب کانپوری دوسرے کے حوالہ نہ فرماتے تو اور کیا کرتے۔ خدا کی شان یہ بات میرے ہی قسمت میں لکھی تھی کہ حافظ صاحب کو انکی اس جدت پر مبارک بادوں۔

خیر حافظ صاحب کی اس جدت طرازی سے کم از کم یہ بات تو واضح ہوگئی کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کو حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ ان کی تثلیث، مہدویت، مسیحیت، نبوت وغیرہ کا سارا کارخانہ بس مجاز پر ہے۔ لیکن افسوس مرزا قادیانی یا حافظ صاحب نے یہ نہ ظاہر فرمایا کہ مجازی عمارت کس قسم کے استعارہ پر بنائی جا رہی ہے۔ اچھا بنائیے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ایسی چالیس پہلے بھی کچھ لوگ چل چکے ہیں۔ مگر نہ چل سکیں کیونکہ ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ قرآن وحدیث کا استعارہ مرزا قادیانی اور مرزائی کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا کہ حافظ صاحب لکھتے ہیں۔ ”سچی بات یہ ہے کہ ان باتوں کی اصل حقیقت جو ہم پر بذریعہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کھولی گئی ہے۔ تو مرزا قادیانی کے وقت سے قیامت تک کے غیر مرزائی مسلمان جو اصل حقیقت سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہوگئی کہ وہ روحانی آنکھ، قلب سلیم، ایمان علم روحانیت سے ظاہر پرست مولوی صاحبان بالکل تہید ست اور بے نصیب ہیں اور یہ باتیں مرزا قادیانی پر بلا ایمان لائے حاصل نہیں ہوتیں۔“ نتیجہ یہ کہ جملہ غیر مرزائی مسلمان بے ایمان، کافر ہیں اور ان کے حقیقت سے محرومی کی وجہ کفر ہے۔

دیکھئے حافظ صاحب! کس صفائی سے آپ کی عبارت از مرزا قادیانی تا قیامت کے

جملہ غیر مرزائی مسلمانوں کو کافر بنا رہی ہے۔ پر کس منہ سے علماء اسلام کو غدار یہودی صفت مولوی لکھ کر آپ انہیں فرماتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان بنانے کے بجائے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کو بھی یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کے شغل تکفیر اور اتہام تکفیر کے لئے ہم مسلمان ہی تختہ مشق بننے کے لئے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی امت پر رحم فرمائے۔

یہ قصہ تو مرزا قادیانی کے بعد کا تھا۔ اب ان سے پہلے چلے اور اس وقت کے اہل اسلام کو دیکھئے وہ بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی طرح واقف تھے۔ یا ہم بے نصیب مسلمانوں کی طرح بیخبر تھے۔ ان میں اول نمبر انبیاء خصوصاً خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہے جو حامل وحی اور صاحب شریعت تھے۔ پھر حضور ﷺ کی امت میں صحابہ کرام اولیائے عظام، علمائے ذی الاحترام کا مرتبہ ہے۔ جنہیں بلفظ علماء اسلام بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جن کی شان میں حضور نے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل فرمایا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تقریباً ہر امر کے متعلق مرزا قادیانی کے دو مختلف قول ہیں۔ ایک صحیح مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے۔ دوسرا غیر صحیح۔ اپنے دعویٰ اور مذہب ثابت کرنے کے لئے۔ چنانچہ اس معاملہ میں بھی ان کے ہر دو قسم کے قول موجود ہیں۔ نبی اور حضور ﷺ کی بات مسلمانوں کو دھوکا دینے والے قول یہ ہیں۔

..... ۱..... ”ہم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔“

(تمہ حقیقت الوحی ص ۷، خزائن ج ۲۲ ص ۴۳۸)

اس سے خلیفہ اول حکیم نور الدین صاحب کو بھی اتفاق ہے۔

..... ۲..... ”جب تک خدائے تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیشین گوئی کے آپ پر نہ کھولے تب تک آپ نے اس کی کسی شق خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۰۶، خزائن ج ۳ ص ۳۱۰)

مگر جب خود مسیح بنا ہوا تو یہ کہی ہوئی بات بھول گئے اور بے تکلف اس کے خلاف فرمادیا کہ: ”انبیاء پیشین گوئیوں کی تاویل اور تعبیر میں غلطی کھاتے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۹۰، خزائن ج ۳ ص ۴۷۲)

”اگر آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال وغیرہ کی حقیقت موبہو منکشف نہ ہوئی ہوتو

(ازالہ اوہام ص ۲۹۱، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳) ”کچھ تعجب کی بات نہیں۔“

یہی حال مرزا قادیانی کے اتنی حافظ صاحب کا ہے کہ ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس حقیقت سے قبل از وقت ہی متنبہ فرمادیا تھا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ:

- .....۱ اصل حقیقت ہم پر مرزا قادیانی کے ذریعہ کھولی گئی۔
- .....۲ پیشین گوئیوں کے متعلق نبیوں کو بھی صحیح علم نہیں دیا جاتا۔
- .....۳ پیشین گوئیوں کی چار قسمیں ہیں۔ بینات، متشابہات، شرطیہ، استعاری۔ ہر ایک میں نبی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے۔
- .....۴ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس میں نبی سے اجتہادی غلطی کر دیتا ہے۔
- .....۵ بیشک نبیوں سے اجتہادی غلطیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔
- .....۶ بسا اوقات شیطان کو رخنہ اندازی کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نبی کے اجتہاد میں کچھ اپنی طرف سے بھی آمیزش کر دے۔
- .....۷ اللہ تعالیٰ ملہم من اللہ کو بھی قبل از وقت پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت اور اس کا راز نہیں بتاتا۔

.....۸ آیت ختم نبوت ”ماکان محمد“ میں حضور ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم کے وفات کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ چونکہ یہ وحی الہی قبل از وقت تھی۔ اس لئے کسی نے بھی اصل مطلب کی طرف توجہ نہ کی۔

اس پر حافظ صاحب بڑے فخر سے الزام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں غیر احمدیوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو طنزاً کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اچھے نبی تھے جو اپنے وحی والہام کے مطلب کو بھی نہ سمجھتے تھے۔

جب نبیوں کی یہ عزت ہے تو ظاہر ہے کہ علماء اسلام کس شمار میں ہیں۔ مرزا قادیانی اور ان کے صحابی حافظ صاحب، علماء کے متعلق بھی وہی دورگی چال چلے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ: ”سلف، خلف کے لئے بطور وکیل کے ہیں اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہے۔“

مسئلہ عرض الحدیث علی القرآن کی بابت مرزا قادیانی کی عبارت سے مستفاد ہوتا ہے کہ کسی معتبر عالم کا کتاب میں لکھ دینا قابل اعتماد ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۸۷۲، خزائن ج ۳ ص ۵۷۵)

۱۔ بینات میں غلطی وہ بھی نبی سے۔ دیکھئے حافظ صاحب مرزا قادیانی کی تعلیم کیا کیا کرتی ہے۔

”گو اجمالی طور پر قرآن اکمل و اتم کتاب ہے۔ مگر ایک حصہ کثیرہ دین کا اور طریقہ عبادات وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پر احادیث سے ہم نے لیا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۵۶، خزائن ج ۳ ص ۳۰۰)

مگر دوسری طرف جوش دعاوی باطلہ میں یہ سب فراموش کر کے اس کے خلاف نہایت بیباکی سے فرماتے ہیں کہ: ”کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے مولویوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے ولی اور دماغی ثوی پر اثر ان سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلاشبہ کتاب الہی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیروں کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی اور نہ ایمانی حالت پر اثر ڈالتی ہیں۔ بلکہ فطری سعادت اور نیک روشنی کے مزاحم ہو رہی ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۷۲۶، خزائن ج ۳ ص ۳۹۲)

”کیوں جائز نہیں ہے کہ راویوں نے عمداً یا سہواً بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۳۰، خزائن ج ۳ ص ۳۸۵)

”اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں۔ والظن لایعنی من الحق ھیما۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۵۴، خزائن ج ۳ ص ۴۵۳)

اگر پدرو نتواند پسر تمام کند، مرزا قادیانی کے فرزند میاں محمود خلیفہ ثانی نے لکھا ہے کہ: ”مسح موعود (مرزا قادیانی) سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔ کیونکہ حدیث ہم نے آنحضرت ﷺ کے منہ سے نہیں سنیں۔“

(الفضل ۳۰ مارچ اپریل ۱۹۱۵ء، ہند بل ص ۳، از رسالہ دین مرزا کفر خالص ص ۴۷ حوالہ نمبر ۲۳)

”الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی

(ازالہ اوہام ص ۷۶، خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔“

دیکھئے باپ اور بیٹے نے مل کر تفسیر اور حدیث کے ساتھ مفسرین، محدثین، علماء پر کیسا ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہی حال ہے حافظ صاحب کا جو ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ دراصل اس تعریف و مدح کی جو قرآن و حدیث میں علمائے کرام کے متعلق ہے یا تو وہ عالم ربانی مستحق تھے۔ جو مسح موعود (مرزا قادیانی) سے پہلے گذر چکے ہیں۔ یا اب وہ ہیں جو مسح موعود (مرزا قادیانی) پر ایمان لائے ہیں۔

مگر انہیں علمائے کے متعلق دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ مفسرین رحمہم اللہ نے جو کچھ آخری زمانہ کی پیشین گوئیوں کے متعلق فرمایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اپنے اصل کے لحاظ سے وہ سب



درست اور قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔ البتہ انہوں نے جوان باتوں کی تشریح کی ہے۔ اگرچہ وہ زمانہ حاضرہ میں بعید از عقل معلوم ہوتی ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت ہم پر بذریعہ مرزا قادیانی کھولی گئی ہے۔ یہ حقیقت اگر ان بزرگوں کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ ضرور اس کو بعید از عقل سمجھتے۔ جس طرح آج کوئی کم سمجھ ان بزرگوں کے علم وعقل کا مستحکمہ اڑاتا ہے۔ اسی طرح جوان بزرگوں کے سامنے ان باتوں کا اصل مطلب بیان کرتا تو وہ نہ معلوم اس کو کیا سمجھتے اور کیا کچھ سناتے۔ کیونکہ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے سامنے طلسم ہوشربا کی بھی کچھ حقیقت نہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ یہ بیشک اپنے زمانہ کے بہت بڑے پایہ کے علام تھے۔ مگر ملہم من اللہ نہ تھے۔ اگر وہ ملہم من اللہ بھی ہوتے تو خدا ان کو ان پیشین گوئیوں کی قبل از وقت اصل حقیقت نہ بتاتا۔ ان بیچارے مفسرین پر کیا منحصر ہے۔ پیشین گوئیوں کے متعلق تو نبیوں کو بھی صحیح علم نہیں دیا جاتا۔“ (از صفحہ ۱۱۱ تا ۱۱۳ ملخصاً) آگے ایک جگہ حاشیہ میں اس سے بھی صاف فرماتے ہیں کہ: ”میں بک نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علماء متقدمین نے دیگر مسائل ختم نبوت اور حیات مسیح وغیرہ کے مفہوم قائم کرنے میں غلطی کھائی ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے مفہوم کو بھی غلط طور پر سمجھ کر ایسا خطرناک عقیدہ قائم کر دیا ہے۔ جس سے تمام مسلمانوں کو از حد نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔“ مطلب یہ کہ حافظ صاحب کے نزدیک سابق علماء ربانی نے غلط تشریح ہی نہیں کی بلکہ ایسا باطل مفہوم بتایا کہ جملہ مسلمانوں کو بحد نقصان پہنچا اور مسخوڑ پہنچ رہا ہے۔

لیجئے اب مطلع صاف ہے کہ پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت سے ہماری طرح مرزا قادیانی سے پہلے کے علماء اسلام حتیٰ کہ خود نبی حضور ﷺ بھی بیخبر تھے۔ سوال یہ ہے کہ اصل حقیقت سے ہماری محرومی کی وجہ تو کفر (عدم ایمان بر مرزا) تھی۔ مگر ان علماء ربانی خصوصاً نبی حامل وحی کے بیخبری کی کیا وجہ ہے؟

اگر کہا جائے کہ پیشین گوئیوں کا محض استعاری ہونا ہے تو ہم نے کیا قصور کیا ہے جو ہمارے لئے اس کے سوا دوسری علت تجویز کی جاتی ہے۔ دوسرے جب آج بھی قرآن وحدیث کے وہی الفاظ ہیں تو وہ مرزا قادیانی کے لئے بھی استعاری ہیں۔ پھر ان پر اس کی اصل حقیقت کیونکر منکشف ہو گئی۔ رہی ان کی نبوت تو وہ مرزائیوں کے لئے حجت ہوگی۔ ہمارے لئے تو ان کی نبوت ہی نہ صرف ان کی حقیقت بلکہ ان کی بیان کردہ حقیقت کے بھی بطلان کی دلیل ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ پیشین گوئیوں کا قبل از وقت ہونا ہے تو حضور ﷺ نے بلا علم حقیقت

قبل از وقت اس سے دوسروں کو کیونکر متنبہ کیا۔ کیا نبی کے لئے تعلیم بالمجہول جائز ہے؟ دوسرے یہ کہ جب آپ کے نزدیک وہ حقیقت تیرہ صدی کے بعد اب مرزا قادیانی کی مجددیت، مہدویت، مسیحیت سے ظاہر ہوگئی اور لوگوں نے دیکھ لیا تو باوجود عینی مشاہدہ کے غیر مرزائی مسلمانوں نے مرزا قادیانی کی تکذیب کیوں کی۔ وجہ یہ کہ حافظ صاحب مان چکے ہیں کہ مایہ النزاع پیش گوئیوں کی وہ غلط تشریح جو علمائے ربانی نے کی ہے۔ اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ کون ایسا شخص ہوگا کہ باوجود عینی مشاہدات کے پھر بھی کافر ہی رہے گا اور ان تمام سچی باتوں کی تکذیب ہی کرتا رہے گا۔ جب غلط اور جھوٹی تشریح کے عینی مشاہدہ میں یہ برکت ہوتی تو اب صحیح اور سچی حقیقت کے عینی مشاہدہ میں وہ کرامت کیوں نہ ظاہر ہوئی؟ پھر خود مرزا قادیانی کی منکووحہ آسمانی (محمدی بیگم) اور پادری آتھم والی پیشین گوئی میں بعد از وقت (کیونکہ بخیاں مرزائیاں وہ پوری ہوئیں) ایسا خفا کیوں رہا کہ بقول حافظ صاحب ان میں مرزا قادیانی کو اجتہادی غلطی نہیں لگی بلکہ خود لوگوں کو اجتہادی غلطی لگ گئی اور اس غلطی کی بناء پر جو مرزا قادیانی کو غیر صادق کہتے ہیں انہیں غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے؟

اور اگر عدم علم حقیقت کی وجہ کفر ہی کو قرار دیا جائے تو حافظ صاحب ہی انصاف سے فرمائیں کہ بہت بڑے پایہ کے علمائے ربانی، خصوصاً حضور ﷺ کو نعوذ باللہ کیا کہنے گا؟ آپ ہی کا مقولہ ہے کہ جو حضرت نبی کریم ﷺ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے۔ مگر اس صورت میں تو نبوت ہی رخصت ہوئی جاتی ہے۔ کہنے جو نبی کونہ مانے وہ کیا ہے؟

یہ ساری گفتگو اور تمام خرابیاں آخری زمانہ کے پیش گوئیوں کو استعاری کہنے پر تھیں۔ حالانکہ سرے سے یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ باتیں نبی پر استعارہ ہیں۔ افسوس جب مرزا قادیانی اور مولوی محمد حسین صاحب بنالوی کے مابین مہابہ ہوا اور مولوی صاحب نے اس میں کاذب پرفوری عذاب نازل ہونے کی شرط پیش کی تو مرزا قادیانی نے اشتهار ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء میں جواب دیا کہ یہ خلاف سنت ہے۔ حدیث کے لفظ کی رعایت کر کے مہابہ کی مدت کو ایک سال سے کم نہیں کرنا چاہئے۔ (راز حقیقت ص ۲ در حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۳) مگر عروج مسیح، حیات مسیح، نزول مسیح، ظہور مہدی، خروج دجال وغیرہ علامات قیامت کے متعلق الفاظ حدیث کی رعایت کو بالائے طاق رکھ کر زبردستی استعارہ کی پناہ لیتے ہیں۔

بہی روش حافظ صاحب کی بھی ہے۔ چنانچہ دیباچہ ص ۱۱ سے دیکھئے۔ اپنے مخالف علماء اسلام کو یہودی بنانے کی دھن میں مشکوٰۃ سے دو حدیث نقل کر کے لکھ دیا کہ ان ہر دو حدیثوں کے

متعلق تمام علمائے متقدمین و مفسرین اور مجددین بالاتفاق بھی لکھتے چلے آئے ہیں کہ یہ حدیثیں مسیح موعود کے زمانہ کے جو لوگ ہیں۔ ان کے متعلق ہیں۔ اگر مخالفین کہیں کہ ابھی مسیح موعود نہیں آیا۔ لہذا ہم ان حدیثوں کے مصداق نہیں ہو سکتے تو میرے نزدیک اس وقت پر بحث فضول ہے۔ صرف یہ دیکھنا کافی ہے کہ جو جو باتیں ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ اس زمانہ کے عام لوگوں اور مولویوں میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو لازماً ماننا پڑے گا کہ مسیح موعود بھی آچکا اور وہ مرزا قادیانی ہی ہیں۔ ہاں اگر یہ اوصاف جو حدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ ان لوگوں میں موجود نہیں تو پھر بیشک ان لوگوں کا یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ ابھی مسیح موعود نہیں آیا۔

مگر یہی بات جب مولوی صاحب نے کی کہ مسیح موعود کے آنے، نہ آنے سے قطع نظر کر کے حدیثیں نقل کیں اور یہ دیکھا کہ ان میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے جو حالات و صفات بلا استعارہ صراحتاً منجانب رسول اللہ ﷺ مذکور ہیں۔ وہ مدعی مہدویت و مسیحیت جناب مرزا غلام احمد قادیانی میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے نہیں پایا۔ لہذا کہہ دیا کہ مرزا قادیانی نہ مہدی ہیں نہ مسیح ہیں۔

تو حافظ صاحب فوراً میان سے باہر ہو کر ص ۹۹ میں فرمانے لگے کہ آپ نے جن فرضی اوصاف بیان کر کے مرزا قادیانی میں نہ پا کر ان کے مہدی و مسیح ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ اوصاف حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت پر مبنی نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں لکھتے کہ جو باتیں احادیث صحیحہ کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتی ہیں اور جسے مولوی صاحب نے بیان کی ہیں۔ یا دیگر غیر مرزائی علماء اسلام لکھتے ہیں۔ وہ فرضی ہیں۔ ہر نئی نامہ سے زیادہ نہیں، طلسم ہو شر با سے کم نہیں۔ بعید از عقل ہوں، ناممکن ہیں۔ مگر کیوں ہیں۔ ہنوز اس کا جواب ندارد۔

عجیب طریقہ ہے کہ جب الفاظ سے خود کام لینا ہوتا ہے تو پیروی سنت کی ہدایت کی جاتی ہے۔ حدیث کے لفظ کی رعایت ہوتی ہے۔ ظاہری معنی واقعی ہو جاتے ہیں۔ مگر جب الفاظ ساتھ نہیں دیتے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے مخالفین مرزا قادیانی اس سے کام لیتے ہیں تو مرزا قادیانی اور مرزائیوں خصوصاً حافظ صاحب کو نہ اتباع سنت کی توفیق ہوتی ہے نہ حدیث کے لفظ کی رعایت کی جاتی ہے۔ ظاہری معنی فرضی، خلاف عقل، ناممکن ہو جاتے ہیں اور وہی الفاظ جنہیں ساری دنیا میں بر حقیقت سمجھتی ہے نہ معلوم کیوں کر مبنی بر استعارہ ہو کر اس سے مرزا قادیانی کے موافق کہاں سے بلا قرینہ باطنی معنی پیا ہو جاتے ہیں کہ نہ خدا کسی کو بتاتا ہے۔ نہ نبی کو خبر ہوتی ہے نہ علماء ربانی کو جو سمجھتی ہے۔ تیرہ صدی تک ان الفاظ والی آیات و احادیث مہمل اور بیکار پڑی

رہتی ہیں۔ انکل سے باطل معنی سمجھ کر دنیائے اسلام گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خدا خدا کر کے وہ حقیقت جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی تھی۔ اب مرزا قادیانی پر منکشف ہوتی ہے۔ مگر ہنوز مرزا قادیانی پر بلا ایمان لائے کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

یہ بحث بالکل فضول ہوگی کہ مولوی صاحب کی پیش کردہ احادیث کو حافظ صاحب نے مبنی براستعارہ کہہ کر مرزا قادیانی کی بیان کردہ لغو تاویل، جو لکھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ کیونکہ ان کی اصل بنیاد احادیث کا مبنی بر غیر حقیقت ہونا ہی جب غلط ہے تو مجازی غائب ہے۔ پھر استعارہ چہ معنی۔

ورنہ اولاً برعایت کتب فن بتایا جائے کہ مسیح کا لفظ انجیل میں عیسیٰ بن مریم نبی اللہ اور مسیح ۱ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وغیرہ الفاظ قرآن و احادیث میں جو وارد ہیں یہ حقیقت نہیں مجاز ہے تو مجاز کی کون سی قسم ہے۔ لغوی یا شرعی، عرفی خاص یا عرفی عام، نیز اقسام استعارہ میں سے کون سا استعارہ ہے۔ جب تک یہ نہ بتایا جائے اس وقت تک خواہ مخواہ یہ دعویٰ کرنا کہ حقیقت پر مبنی نہیں یا مبنی براستعارہ ہے کہاں کا انصاف ہے۔

ثانیاً فرمایا جائے، شارع کو اظہار حقیقت ہی مقصود ہوتا اور حضور ﷺ کو عروج، حیات، نزول ابن مریم و ظہور مہدی اور خروج و جلال وغیرہ کی صریح طور پر خبر دیتی ہے۔ منظور ہوتی تو اس کے علاوہ علم، لقب، کنیت، خطاب و دیگر حالات و صفات کے لئے اور کون سے الفاظ استعمال فرماتے جو حقیقی اور صریح ہوتے۔

جب تک ہر دو امر کاشانی جو اب نہ دیا جائے اس وقت تک مولوی صاحب ہی کی بات کو کہ مرزا قادیانی نہ مسلمان ہیں نہ مجدد ہیں۔ نہ مہدی ہیں نہ مسیح ہیں۔ حق ماننا پڑے گا۔ اس بحث میں میری یہ آخری گفتگو تھی جو ختم ہوگئی۔ کاش حافظ صاحب اس کو بنظر غور و انصاف دیکھتے اور سمجھتے۔ اللہ امین!

نمبر ۷:..... ان (مرزا قادیانی) کے ان دعوؤں (مجددیت، مہدویت، مسیحیت) کی دلیل یہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں کوئی اور مجددیت، مسیحیت اور مہدویت کا مدعی نہیں ہوا۔ ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے آسمان پر سورج گرہن اور زمین پر طاعون والی پیشین گوئی کا صحیح ہونا کافی ہے۔

۱۔ حافظ صاحب کو خود بھی تسلیم ہے کہ مسیح اول کا پورا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جو قرآن کے رو سے اسم ذات ہے۔

اس نمبر میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کی دلیل کا بیان ہے کہ ان کے مقابلہ میں دوسرا کوئی مجدد مہدی، مسیح ہونے کا مدعی نہیں ہوا۔ انکی پیشین گوئیاں صحیح ہوتی تھیں۔

مولوی صاحب نے دلیل کے ہر دو جزوہ پر حسب ضرورت مناسب روشنی ڈالی ہے۔  
الف ..... پہلے حصے رد میں لکھا ہے کہ:

۱..... مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم بریلوی نے مجدد (نہ حاضرہ و موجودہ صدی کا مجدد) ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

۲..... اور مدعی نہ بھی ہوتا تو حدیث مٹھوں دجالوں کذابوں الحدیث کے مطابق مرزا قادیانی دجال و کذاب تھے۔

۳..... اور انکے کذب، پر بلفظ اسمہ احمد ایک آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔  
ب..... دوسرے حصے کا جواب دیا ہے کہ:

۱..... پیشین گوئی کی صحت، دلیل صداقت نہیں۔

۲..... مرزا قادیانی کی چھ پیشین گوئیوں کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ جھوٹی ہوئی اور نتیجہ نکالا کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں کاذب ہیں۔

حافظ صاحب نے (الف) پہلے حصے کے کسی بات کا بطور جواب تو کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ ہاں گزشتہ نمبروں کی طرح بلا جواب دوسری باتوں کے ضمن میں اتنا قیہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ میرا احسان ہے کہ ان منتشر اور بلا ترتیب باتوں کو جواب فرض کر کے سرور ذکر کر رہا ہوں۔۔۔ چنانچہ یہاں بھی ان کی کتاب سے تلاش کر کے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات کے جواب کے لائق حافظ صاحب نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ ہاں تکرار دعویٰ البتہ کیا کہ حضور ﷺ کے قائم مقام مرزا قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود نے بھی ا ثبوت کا دعویٰ کیا۔ میں ۲ فرقے والوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ایسا فرقہ ہے۔ جس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ ہرگز نہیں۔

حافظ صاحب کو مرزائیوں میں سے قادیان کے محمودی فرقہ سے تعلق ہے۔ نمبر ہذا میں مرزائی نے اور نور ہدایت میں حافظ صاحب نے جو دعویٰ پیش کیا ہے۔ گو بظاہر دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں متحد ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے تصریح کی ہے کہ: ”امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں۔“

(ضرورت الامام ص ۲، جزائن ج ۱۳ ص ۶۷۷)

۱ دیکھئے یہ بھی جملہ اذل کو خلاف مقصود اور جملہ ثانی کو مبائن تو نہیں بناتا۔

اور وہ دعویٰ دعویٰ ہے جس کے بالفاظ دیگر خود مرزا قادیانی مدعی ہو چکے ہیں کہ: ”علماء بتلا دیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسا کہ اس عاجز نے کیا۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۵۴، خزائن ج ۳ ص ۱۷۸)

”س وقت جو ظہور مسیح موعود کا وقت ہے کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ بلکہ اس تیرہ سو برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۸۳، خزائن ج ۳ ص ۲۶۹)

حیرت ہے۔ دیکھئے دعویٰ تو اس زور شور کا مگر مرزا قادیانی یا ان کا کوئی امتیٰ آج تک یہ نہ بتا سکا کہ کسی اور کے دعویٰ نہ کرنے کو مرزا قادیانی کے مجدد، مہدی، مسیح، نبی ہونے سے آخر کیا تعلق ہے؟ کسی کا دعویٰ نہ کرنا اگر مرزا قادیانی کے صادق ہونے کی دلیل ہے تو اوروں کا مدعی ہونا بلاشبہ مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ دوسرے مدعی کا مطالبہ بے سود ہوگا اور اس مطالبہ پر آپ کو بڑا فخر و اصرار ہے۔ اچھا آئیے مدعیوں کو پہچانئے۔

مجددیت کا مدعی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کو تو خود مولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ جس پر حافظ صاحب نے سانس تک نہ لی اور نہ معلوم شربت کے گھونٹ کی طرح پی گئے۔ مرزا قادیانی کے حیات میں قصبہ گھوسی ضلع اعظم گڑھ میں مولوی عبدالقادر صاحب ایک ذی علم اور سنسکرت کے ماہر آدمی تھے۔ جن کے اعزہ ہنوز موجود ہیں۔ ان کو امام وقت ہونے کا دعویٰ تھا۔ تیرہ سو برس میں تو ہر قسم کے متعدد مدعی گذرے ہیں۔ مثلاً اٹل نجل میں ہے کہ ابوالخطاب نے امام الزمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد فرقہ معمریہ نے معمر کفر قہ بزغیہ نے بزلیغ کا اپنا امام الزمان تسلیم کیا تھا۔ نیز اسی میں ہے کہ احمد کیال، مغیرہ ابن سعید علی اور خوزستانی کے ساتھی و معین ذکر ویہ یحییٰ، بنام محمد بن عبداللہ (تاریخ دول اسلامیہ) امام الزمان ہونے کے مدعی تھے۔ ابوالخطاب معمر، بزلیغ، احمد، مغیرہ، یحییٰ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ وہی امام زمان کا دعویٰ تھا جو بقول مرزا قادیانی محدثیت، مجددیت، نبوت، رسالت سب کا جامع ہے۔ یحییٰ مذکور اور عبید اللہ مہدی صاحب افریقہ، (ابن خلدون ج ۴، ابن اسیر جلد ۸) سید محمد جوہپوری اور علی محمد باب (ہدایت الاسلام ص ۲۲۳) نے مہدی محمد بن تو مرت سوتی نے مہدی موعود (فتوحات اسلامیہ) محمد احمد سودانی، (مذہب الاسلام ص ۲۲۳) اور صالح بن ظریف نے مہدی اکبر (ابن خلدون) ہونے کا دعویٰ کیا۔ فارس بن

۱۔ پھر تو کوئی مدعی الوہیت ہو کر بھی اپنی صداقت پر یہی دلیل پیش کر سکتا ہے۔

یہی مثیل مسیح (کتاب الختار) اور عیسیٰ موعود (اقادۃ الانعام ج ۱ ص ۸۴) ہونے کا مدعی تھا۔ صالح اور فارس اور مغیرہ مذکور نبوت کا بھی اور ابو منصور بانی فرقہ منصور یہ کورسالت (منہاج السنۃ) کا دعویٰ تھا۔ غرض ناظر کتب تاریخ کو ایسی مثالیں بکثرت مل سکتی ہیں۔

دیکھئے مسلمانوں میں سے مرزا قادیانی کی زندگی میں مولوی احمد رضا خان نے مجدد مولوی عبدالقادر صاحب نے امام زمان سابق میں فارس بن یحییٰ نے مثیل مسیح و عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ کر کے مرزا قادیانی کے دلیل دعویٰ کو باطل اور ان کو کاذب کر دیا۔

اصل تو یہ ہے کہ کوئی اور مدعی ہو یا نہ ہو۔ بہر صورت حسب ارشاد حضور ﷺ دجالوں، کذابوں، احمدیہ مرزا قادیانی کا بوجہ دعویٰ نبوت دجال اور کاذب ہونا ثابت و محقق ہے۔ جیسا کہ مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے اور کچھ بمناسبت مقام پوشر میں نے بھی درج کیا ہے جو کافی ہے اور یہی دوسری بات بھی تھی مگر حافظ صاحب نے اس کا بھی کچھ جواب نہیں دیا۔

تیسری بات کا ذکر ایک جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اور انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے آمد کی بشارت (پیشین گوئی) دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسکی خبر دی ہے کہ: ”جب کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا۔“

”و مبشرا برسول یاتنی من بعدی“ اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ اسمہ احمد! ان کی بشارت دینے والا ہوں۔

مرزا قادیانی کے کارنامہ مجددیت میں سے ایک جدت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بشارت حضور احمد مدنی ﷺ کی بابت نہیں بلکہ میری (غلام احمد قادیانی) نسبت ہے۔ مولوی صاحب نے ان کے اسی دعویٰ کو دلیل کذب مرزا بنایا تھا۔ حافظ صاحب سے اور کچھ تو بن نہ پڑا۔ اسی دعویٰ کو بلا دلیل عجب عاجزانہ انداز سے یوں دہرایا کہ: ”غیر احمدی مسلمانوں کو یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ ہم احمدی (مرزائی) مسلمان ہوں جو بشارت احمدی ﷺ حضرت نبی کریم ﷺ حضرت احمد (مرزا قادیانی) کو آپ سے جدا نہیں سمجھتے۔ بلکہ حضور ﷺ کا حقیقی وارث اور تمام روحانی املاک کا مالک سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو کچھ حضرت محمد ﷺ کا ہے وہ سب حضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے وہ سب حضرت محمد ﷺ کا ہے۔ پس اس لحاظ سے اگر ایک پیشین گوئی کو جو غلطی سے حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق سمجھی جاتی ہے۔ آپ کے وارث حضرت احمد (مرزا قادیانی) کی طرف منسوب کر دی تو اس سے آپ کو گول کا کیا نقصان ہوا۔“ (نور ہدایت ص ۱۰۵ اور حاشیہ)

بھلا اس گپ کی بھی کچھ حد ہے کہ بموجب ارشاد حضور ﷺ آپ سے مرزا قادیانی جدا نہیں۔ حافظ صاحب اگر آپ سچے ہیں تو ذرا ہمت کر کے پتہ دیجئے کہ حضور ﷺ نے ایسا کہاں فرمایا ہے؟ ہاں یہ بھی فرمائیے کہ مرزا قادیانی کے سوا اب حضور ﷺ کا حقیقی وارث اور تمام روحانی املاک کا مالک کوئی اور بھی ہوا یا نہیں۔ اگر ہوا خصوصاً جس کا اسم ذات احمد ہو تو انہوں نے اس پیشین گوئی کا مصداق اپنے کواوروں نے ان کو کیوں نہیں نہ سمجھا اور خود حضور ﷺ نے بذریعہ وحی یا خبر ہونے پر بھی خبر کیوں نہ دی اور اگر نہیں ہوا تو ذرا اپنے مقولہ کو یاد کیجئے کہ حضور ﷺ کے بعد ان کا توجیح کامل نبی ہوگا۔ پھر نمبر چار میں اپنے بھائی مرزائی کی پیش کردہ مجددین کی فہرست دیکھئے۔ اس کے بعد مباحثہ لدھیانہ کے موقع پر سرسوار چکن سنگھ حکم اور میر قاسم علی صاحب مرزائی مناظر کا (جو مولوی ثناء اللہ صاحب کے مد مقابل تھے) یہ سوال وجواب ملاحظہ فرمائیے۔

سوال ..... آیا مرزا قادیانی کا دعویٰ دیگر انبیاء کے ہم رتبہ وہم پلہ ہونے کا تھا یا کم و بیش؟

جواب ..... اسلام میں انبیاء و قسم کے ہیں۔ ایک صاحب شریعت و صاحب امت۔ دوم جو اسی نبی اور اسی شریعت کے ماتحت ہوں۔ پہلی قسم کی مثال حضرت محمد ﷺ نبی اسلام کی ہے۔ دوسری مثال حضرت یحییٰ۔ مرزا قادیانی قسم دوم کے نبی تھے۔

سوال ..... ان دونوں اقسام کے انبیاء میں روحانیت کے لحاظ سے کچھ فرق ہوتا ہے اور کیا؟

جواب ..... ہاں اول قسم کے انبیاء پورے کمال کو پہنچے ہوئے اور قسم دوم کے ان سے کم درجے پر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مالک اور نوکر کی حیثیت۔

سوال ..... حضرت محمد صاحب کے بعد آپ کی مقرر کردہ قسم دوم میں کون کون نبی ہوئے ہیں؟

جواب ..... ہمارے عقیدہ میں جتنے نائب (خلفاء یا مجددین) حضرت محمد صاحب کے بعد ہوئے ہیں وہ سب کے سب قسم دوم کے نبی تھے جیسا کہ حضرت محمد صاحب نے فرمایا ہے ”علمہ امتی کلنبیلہ بفقہ اسرائیل“ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔

سوال ..... قسم دوم کے انبیاء بھی صاحب وحی والہام ہوتے ہیں؟

جواب ..... ہاں۔ (مقولہ باز رسالہ فاتح قادیان (روئید ادمباحثہ لدھیانہ) ص ۴۵، مطبوعہ لال شمیم پریس لاہور ۱۳۳۸ھ)

اگر ان سب کی مختصر گفتگوں میں صاف اور صریح تشریح سننی ہو تو وہ بھی سنئے۔ آپ کے دوسرے بھائی مرزائی سناتے ہیں کہ: ”ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی اور ہوں گے۔“

(انوار خلافت ص ۶۲، ہنڈیل ص ۲)



اب نہ ہونے سے ہونے کی طرف رجعت تہمقری فرمائیے اور مذکورہ الصدر استفسارات کا جواب دیجئے۔

دنیا جاتی ہے کہ حضور ﷺ کے اسم ذات دو ہیں محمد اور احمد۔ مگر مرزا قادیانی کا اسم ذات نہ محمد ہے نہ احمد۔ بلکہ ان کا اسم ذات غلام احمد ہے۔ آیت میں بشارت بھی بنام احمد ہے نہ کہ بنام غلام احمد۔ پھر یہ بشارت عیسوی حضرت احمد مدنی ﷺ کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کیونکر ہوگئی؟

قرآن کی آیت مذکورہ میں جب صاف اسمہ احمد ہے تو حضور ﷺ کو اس کا مصداق سمجھنے میں دنیائے اسلام حق بجانب ہے نہ کہ غلطی پر۔ ہاں اگر یہ کہہ دیجئے کہ بشارت مرزا قادیانی کی ہے جن کا نام غلام احمد ہے اور خدا نے اسمہ غلام احمد کے بجائے اسمہ احمد غلط وحی کر دی اور بقول مجذوب جو عند المرزا صحیح و تسلیم ہے کہ: ”عیسیٰ قادیان میں ہے جو ان ہوگا اور لدھیانے میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔“

(ازالہ اوہام ص ۷۰۸، خزائن ج ۳ ص ۳۷۷)

اسی طرح قرآن ہی کو غلط اور اپنے عیسیٰ (مرزا قادیانی) کو قرآن میں غلطیاں نکالنے والا مان لیجئے تو دوسری بات ہے۔

جناب نے یہ خوب فرمایا ہے کہ پیشین گوئی کو مرزا قادیانی کی طرف نسبت کرنے سے آپ کوگوں کا کیا نقصان ہوا۔ یہی عاجزی آپ ایک جگہ اور دکھا چکے ہیں کہ مرزا قادیانی دعویٰ نبوت و رسالت میں جھوٹ ہیں تو خدا کے گنہگار ہیں۔ گالی دینے والوں کا کیا بگاڑا ہے۔ یہ دراصل مرزا قادیانی کی نقل ہے۔ چنانچہ اپنے دعویٰ کی نسبت وہ بھی لکھ چکے ہیں کہ: ”میرے اس دعویٰ پر ایمان لانا جس کی الہام الہی پر بنیاد ہے کون سے اندیشے کی جگہ ہے۔ بفرض محال اگر میرا یہ کشف غلط ہے اور جو کچھ مجھے حکم ہو رہا ہے۔ اس کے سمجھنے میں دھوکا کھایا ہے تو ماننے والے کا اس میں ہرج ہی کیا۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۸۲، خزائن ج ۳ ص ۱۸۸)

سبحان اللہ! یہاں ماننے والے کا ایمان رخصت ہو گیا۔ وہاں مرزا قادیانی فرما رہے ہیں۔ ہرج ہی کیا یہی حال مرزا قادیانی کے صحابی حافظ صاحب کا ہے کہ یہاں مرزا قادیانی کو نبی و رسول حتیٰ کہ مسلمان کہنے والا خارج از اسلام ہو گیا۔ زیر بحث پیشین گوئی کا انہیں مصداق بنانے نے خدا کی توہین کی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ علیہما السلام کی تکذیب کی۔ دنیائے اسلام کی تھلیل کی اور جس نے مرزا قادیانی کو مصداق بنایا۔ اس کے ایمان و اسلام کی ساری کائنات لٹ گئی۔ مگر حافظ صاحب کے یہاں ابھی کچھ بگڑا ہی نہیں اور کچھ نقصان ہی نہیں ہوا۔ انسا

للہ! پس مولوی صاحب کا یہ فرمانا کہ مرزا قادیانی کا اپنے کو اسمہ احمد کا مصداق بتانا ہی ان کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ حق اور بجا ہے۔

دوسرے حصہ کی پہلی بات کہ پیشین گوئی کی صحت، دلیل صداقت نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے اس کے متعلق کچھ گہرا افشانی کی ہے۔ مگر ایسی کہ نہ کہنا ہی بہتر تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بالکل حافظ صاحب ہی ہیں اور علوم دینیہ سے قطعاً نااہل ہیں۔ ورنہ ذی علم سے تو یہ طرز بعید ہے۔ خیر سنے اصل قصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا کہ میں مجدد، مہدی، مسیح، نبی، رسول وغیرہ ہوں اور نبوت میں پیش کیا کہ میری پیشین گوئیاں صحیح ہوتی ہیں تو چونکہ یہ اس قاعدہ کو تسلیم کر لینے پر مبنی تھا کہ پیشین گوئی کا پورا ہونا دلیل نبوت ہے۔ حالانکہ یہ غیر مسلم ہے۔ لہذا اصل بناء کے غلط ہونے کی وجہ سے ادھر سے علماء اسلام نے جواب دیا کہ آپ کے دعویٰ کی دلیل غیر صحیح ہے۔ یہی مولوی صاحب نے بھی لکھا تھا۔ مگر حافظ صاحب ہیں کہ مرزا قادیانی کی تقلید میں ہمیں غلط قاعدہ کو صحیح منوانے کے درپے ہیں اور اس کے لئے اذال نبوت کی تعریف کرتے ہیں کہ مولانا نبی تو کہتے ہیں اس کو ہیں جو دعویٰ نبوت کرے۔ (نور ہدایت ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

علمی دنیا میں فن معقول کا یہ قانون مشہور اور مسلم ہے کہ شی کی تعریف بالمعروف جائز ہے اور بالمجهول ناجائز۔ لیکن مرزائی نہ معلوم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جہاں الٰہی ہی گنگا بہتی ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی ہی کو دیکھئے۔ بقول خود وہ نبی ہیں۔ ایسے کہ قرآن ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ (حقیقت الوحی ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

الفاظ قرآنی دہقانی ہیں۔ قرآن پر ان کا کشف حاوی ہے۔ ان کے نزدیک قرآن میں قواعد صرف و نحو کا التزام بدعت ہے۔

اور عیسیٰ ہیں ایسے کہ قرآن میں غلطیاں نکالیں گے۔ یہی حال ان کے امتی حافظ صاحب کا ہے کہ ان کی کتاب صرف و نحو کے قاعدوں سے معرا، مولویانہ باتوں سے مبرا تو تھی ہی اب معلوم ہوا کہ معقولی جھگڑوں سے بھی خالی ہے کہ نبی کی نبوت سے تعریف بالمجهول کرتے ہیں۔ اسی لئے بلا فصل آگے اس کی انہیں یوں تشریح کی ضرورت پیش آئی کہ: ”یعنی خدا کی طرف سے جو غیب کی باتیں لوگوں کو بتائے۔“ اور اسی کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ تو آپ کی اس تشریح کے مطابق نبی کی تعریف یوں بھی ہوئی کہ نبی وہ ہے جو خدا کی طرف سے غیب کی باتیں بتائے اور پیشین گوئی

۱۔ دنیا میں اللہ شہاء تعرف بعد ادا مشہور ہے۔ مگر اس تعریف سے معلوم ہوا کہ مرزائیوں کا ”بعینہا“ پر عمل ہے۔

کی بھی تعریف معلوم ہوئی کہ غیب کا نام ہے۔ مگر غیب آپ کی عبارت میں چونکہ خود غیر معروف ہے۔ لہذا یوں بھی نبی کی تعریف باجمہول ہی رہی۔

علاوہ ازیں ص ۱۶۵ پر آپ نے لکھا ہے کہ نبی کے لفظی معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ غیب کی باتیں بتانے والا چونکہ نجومی درماں وغیرہ بھی غیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں۔ اس لئے اصطلاحی معنوں کا اطلاق صرف اس شخص پر ہوتا ہے جو خدائے تعالیٰ سے براہ راست غیب کی خبریں معلوم کر کے بطور پیشین گوئی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مگر یہ نہ بتایا کہ نبی کا لفظی معنی غیب کی باتیں بتانے والا کہاں لکھا ہے اور نہ یہ ظاہر کیا کہ یہ لفظی معنی لغوی ہے یا عربی یا شرعی۔ پہلی عبارت میں جب پیشین گوئی غیب کو کہہ چکے ہیں تو اب پچھلی عبارت میں غیب کی خبریں بطور پیشین گوئی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟

غرض اس عبارت سے نبی کا لفظی معنی غیب کی باتیں بتانے والا اور اصطلاحی معنی خدا سے براہ راست غیب کی خبر معلوم کر کے بطور پیشین گوئی بیان کرنے والا معلوم ہوا۔ مگر ہر دو تعریف میں غیب کا وہی غیر معروف لفظ داخل ہے جس سے تعریف باجمہول لازم آتی ہے جو ناجائز ہے۔ ہر دو عبارت ملانے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ نبی کی دو قسم ہے۔ لفظی اور اصطلاحی۔ نجومی رمال قسم اول کے نبی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اصلاح میں نبی وہ ہے جو منجانب اللہ غیب کی خبر دے یا پیشین گوئی کرے یا غیب کو بطور پیشین گوئی بیان کرے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم و تعریف خود حافظ صاحب کی طبع زاد ہے۔ ورنہ حوالہ دینا چاہئے تھا۔

تعریف کے سلسلہ میں ایک لطیفہ اور بھی سن لیجئے۔ مولوی صاحب نے حافظ صاحب کو کہیں خط میں رسول کی تعریف لکھی تھی کہ جو مستقبل شریعت لاتا ہے اور کسی اگلے رسول کا ماتحت نہیں ہوتا۔ حافظ صاحب نے جواب میں اڈل بہت کچھ غیظ و غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ ”پھر ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی“ کا عنوان قائم کر کے مذکورہ پچھلی عبارت کے بعد لکھا ہے کہ رسول کے لفظی معنی صرف اتنے ہیں بھیجا ہوا۔ چونکہ ہر شخص خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہے۔ اس لئے اصطلاحی معنوں میں رسول اسے کہتے ہیں جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ پہلی نبی و رسول دونوں نام تمام نبیوں اور رسولوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ خواہ وہ صاحب شریعت ہوں یا نہ ہوں۔ خواہ کسی اگلے رسول کے ماتحت ہوں یا آزاد ہوں۔ یعنی کوئی نبی نہیں جو رسول یعنی خدا کا بھیجا ہوا نہ ہو اور کوئی رسول نہیں جو نبی نہ ہو۔ یعنی اس نے غیب کی خبریں نہ بتائی ہوں۔

عبارت خصوصاً تعریف کے بیان لطائف میں طوالت ہوگی۔ مگر یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ جیسے پہلے نبی کی نبوت سے تعریف کی تھی۔ ویسے ہی اب رسول کی تعریف کردی۔ ایسی مسلسل غلطی میں کروں تو یقیناً علماء مرزائیہ اس کا سب سہو کو نہیں بلکہ جہل کو قرار دیں گے۔ مگر حافظ صاحب کو اصلاح دعا بشارت اور مدد دینے والوں کی طرف وہ کاہے کو کچھ کہیں گے۔

حافظ صاحب کا مقصود یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی و رسول میں کچھ فرق نہیں جو جمہور معتزلہ کا مذہب ہے۔ مگر وہ اظہار مدعا پر قادر نہیں ہیں۔ کیونکہ لفظاً فرق تو ظاہر ہے۔ معناً فرق خود انہوں نے تعریف میں کر دیا ہے۔ یعنی اصلاح کی قید رسول کی تعریف میں ہے۔ مگر نبی کی تعریف میں نہیں۔ پھر وہی نبی صاحب شریعت آزاد اور نبی بلا شریعت ماتحت بھی کہتے ہیں۔ بااں ہمہ کہتے جاتے ہیں کچھ فرق نہیں۔ مولوی صاحب کی طرح آزاد اور ماتحت کا فرق جب آپ کو تسلیم ہے تو ان کی طرح شارع کی طرف سے کوئی ایسا لفظ آپ بھی پیش کیجئے جس سے مصداقاً بھی یہ فرق ظاہر ہو۔ ہمارے پاس تو رسول کا لفظ ہے جس کی دلیل یہ ہے۔ ”ما ارسلنا من رسول ولا نبی“ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور نہ نبی۔ ﴿

آیت ہذا میں رسول کے بعد نبی کا ذکر بغرض تعیم بعد التخصیص ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ: ”کان الانبیاء مائۃ الف واربعۃ وعشرین الفا وکان الرسل خمسۃ عشر وثلثمائۃ رجل منهم اولہم آدم النی قولہ اخرہم محمد“ ﴿انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے اور رسول تین سو پندرہ۔ ان میں سے اول آدم اور آخر محمد ہیں۔﴾

حافظ صاحب! مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ص ۱۶۴ پر آخر کس بھروسہ پر اپنی غلط تعریف کو اصلی تعریف لکھا اور بنیاد پر مولوی صاحب کی صحیح اور مدلل تعریف کو ہرنی نامہ کہہ کر مٹھا کر اڑایا ہے؟

یہ تو تعریف کا حال تھا اب اس دلیل کو بھی دیکھنا چاہئے جس کے لئے ایسی غلط تعریف لگئی ہے۔ یعنی پیشین گوئی کا دلیل نبوت ہونا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ہر نبی کو اپنی صداقت لانے کے لئے نبوت یعنی پیشین گوئیوں کا کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ کیونکہ نبی اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ص ۸۴ نبی کے لئے پیشین گوئیوں کا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ نبی دو قسم کی پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ کچھ دنیا کے متعلق، کچھ آخرت کے متعلق۔ چونکہ آخرت کا معاملہ مخفی اور صیغہ راز میں ہے۔ اس پر ایمان و یقین لانے کے لئے ایک

کامل مشاہدہ کی ضرورت ہے اور مشاہدہ دنیاوی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے پر منحصر ہے۔ جب لوگ دنیا میں اس نبی کی باتوں کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو معاہدہ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ بیشک یہ سچا نبی ہے اور جو کچھ اس نے عالم آخرت کے متعلق خبر دی ہے وہ سب سچ اور برحق ہے۔ ص ۸۵

اول یہ معلوم رہے کہ حقیقتاً خبر کا تعلق واقعہ گذشتہ سے اور پیشین گوئی کا واسطہ واقعہ آئندہ سے ہوتا ہے۔ خبر کا اطلاق پیشین گوئی پر مجاز ہے۔ پیشین گوئی کی حقیقت واقعہ آئندہ کا قبل از وقت بیان کرنا ہے۔ پیشین گوئی کا کرنا اور چیز ہے پیشین گوئی کا پورا ہونا امر آخر ہے۔ پیشین گوئی بوجی الہی نبی بھی کرتے ہیں اور نجوم، رمل، جعفر وغیرہ کے ذریعہ سے غیر نبی بھی کرتے ہیں۔ پیشین گوئیاں دونوں کی پوری ہوتی ہیں۔ مگر نبی کی سب اور غیر نبی کی کم۔ نیز نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا ضروری ہے اور غیر نبی کا غیر ضروری۔ غالباً حافظ صاحب کو اس سے اختلاف نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہئے۔

اب منقولہ عبارت میں تلاش کیجئے پیشین گوئی کرنا یا اس کا پورا ہونا دلیل نبوت ہے۔ اس کی دلیل اس میں یہاں ہے؟ عبارت کا ما حاصل تو صرف یہ ہے کہ:

۱..... نبی پر پیشین گوئی کرنا فرض ہے۔

۲..... اس کی دنیاوی پیشین گوئی پوری ہونا ضروری ہے۔

۳..... دنیاوی پیشین گوئی پوری ہوتے دیکھ کر لوگ اس کو سچا نبی سمجھتے ہیں۔ بھلا اس میں سے کون سی بات دلیل ہے؟

پہلا امر خود ایک جدید دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے۔ دوسرا امر صحیح ہو مگر دلیل نہیں۔ تیسرا امر آپ کی مرزائی جماعت کے لئے دلیل ہو تو ہو ہمیں تو اس کی ضرورت ہے کہ جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی پیشین گوئی کو اپنے لئے معیار صداقت قرار دیا اور اپنی نبوت کے لئے دوسروں کے سامنے اس کو بطور دلیل پیش کیا۔ قرآن وحدیث سے اسی طرح حضور ﷺ کی پیشین گوئی دکھلائے جس کو حضور ﷺ نے اپنا معیار صداقت بنا کر اوروں کے سامنے بطور دلیل نبوت پیش کیا ہو۔ ”فان لم تفعلوا فاتقوا النار“ حافظ صاحب کی مذکورہ عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کی نبوت اور اس کی صداقت اس کی پیشین گوئی خصوصاً دنیاوی پیشین گوئی کے پوری ہونے پر موقوف ہے اور اس پر ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہے۔ مگر اب انہیں کی دوسری عبارت سے اس کے برعکس تصور کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کا قابل ہے۔ فرماتے ہیں ص ۳۰ پر مولوی صاحب کو لکھا کہ نبوت کے بعد دوسری ٹھوکہ پیشین گوئی میں اس کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے لگی۔

مگر خود بجائے حقیقت لکھنے کے بطور الزام بلا نقل عبارت حضور ﷺ پر اعتراض کیا کہ آپ کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ پھر ص ۱۱۶ پر یہ عنوان قائم کیا۔ پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مگر یہاں بھی اظہار حقیقت کی جگہ لگے۔ پیشین گوئی کی تقسیم کرنے کے چار قسم ہے۔ جس کو سابقہ نقل کر چکا ہوں اور وہ ہیں ان کی وہ عبارت بھی درج کر چکا ہوں۔ جن میں مذکور ہے کہ:

- .....۱ اکثر پیشین گوئیاں مبنی بر استعارہ ہوتی ہیں۔ (ص ۱۰۸، ۱۰۹)
- .....۲ جن کی اصل حقیقت قبل از وقت ملہم من اللہ پر بھی منکشف نہیں ہوتی۔ (ص ۱۱۲)
- .....۳ پیشین گوئیوں کا قبل از وقت نبیوں کو بھی صحیح علم نہیں دیا جاتا۔ (ص ۱۱۳)
- .....۴ پیشین گوئی کی ہر قسم بینات وغیرہ میں نبی سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ (ص ۱۱۶)
- .....۵ ان سے اجتہادی غلطی ضروری ہے۔ (ص ۱۱۴)
- .....۶ ان سے خود خدا اجتہادی غلطی کراتا ہے۔ (ص ۱۱۷)
- .....۷ شیطان کو رخنہ اندازی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نبی کے اجتہاد میں اپنی طرف سے آمیزش کر دے۔ (ص ۱۱۵)

ناظرین! ذرا تصور کا پہلا رخ پھر دیکھ لیں جس میں حافظ صاحب نے کس شہود سے پیشین گوئی کو دلیل نبوت ذریعہ ہدایت اور ایمان کا موقوف علیہ قرار دیا تھا۔ مگر اب دوسرے رخ میں اسی کو اس جدوجہد سے ایسا مشکل الفہم، مشکوک اور ناقابل اعتبار بنا دیا کہ اسی بناء پر انہیں خود لکھنا پڑا کہ:

- .....۱ نبی میں یہ صفت بھی ہونی چاہئے کہ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ مگر نبی کے لئے پیشین گوئیوں کا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔

- .....۲ خدا نے پیشین گوئیوں کا راستہ ہی صاف (مطلب یہ کہ خدا نے کہہ دیا کہ پیشین گوئی دلیل نبوت نہیں ہے۔ اب دیکھا ہے آپ خدا کی بھی مانتے ہیں یا نہیں) کر دیا کہ اگر کسی پیشین گوئی کے خلاف بھی دیکھو تو جلدی نہ کرو کہ مدعی نبوت کی تکذیب کرنے لگو۔ بلکہ پیشین گوئی کے تمام پہلوؤں پر غور کرو۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پیشین گوئی کے پیچھے نہ پڑو۔ نبی کی مقدس اور مجرب تعلیم سے اس کی نبوت پر ایمان رکھو۔ اس کے جھوٹا ہونے کا خیال بھی نہ کرو۔

- .....۳ نبی کی تعلیم میں ضرور کوئی باسہ ایسی بھی ہوتی ہے جس کے مقابلہ پر اگر ظاہر بین لوگوں کی نظروں میں اس کی ہزاروں پیشین گوئیاں بھی غلط اور جھوٹی ثابت ہوں تب بھی صرف اس ایک بات کی وجہ سے اس مدعی نبوت پر ایمان لے آنا چاہئے۔

مرزا قادیانی کا یہ طرز عمل اور جماعت کے لئے تعلیم ان کی صداقت پر ایسی زبردست دلیل ہے کہ جس کے بعد کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ان کی تمام پیشین گوئیاں بھی غلط یا جھوٹی ہوں تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمارے لئے ان کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ جس پر چل کر ہم منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔

حافظ صاحب سے کوئی پوچھے کہ نبی کی دنیاوی پیشین گوئی پوری ہونے کے عینی مشاہدہ پر اظہار صدق نبوت اور ایمان و ہدایت خلق کا وہ انحصار اب کیا ہوا۔ کسی کو ٹھوکری لگی اور کون منہ کے بل گرا۔ آپ یا مولوی صاحب؟ یہ امر قابل غور ہے کہ جب حافظ صاحب کے نزدیک بھی پیشین گوئی صادق و کاذب یا نبی اور غیر نبی میں امر مشترک ہے اور اسی لئے بقول حافظ صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ سچے نبی کو نجومی اور نجومی کو نبی سمجھ لیا جاوے تو کیا وجہ ہے کہ وہ صادق یا نبی کے لئے تو دلیل صداقت و برہان نبوت ہو۔ مگر کاذب یا غیر نبی کے حق میں ثبوت صدق و حجت نبوت نہ ہو۔ یہ میں نے مولوی صاحب کے سوال کی تقریر کی ہے۔ اس سوال پر حافظ صاحب نے بہت برہم ہو کر مولوی صاحب کو لکھا کہ اس قدر جرات سے کام لیا کہ نبیوں اور نجومیوں کو ایک اسٹیج پر جا بٹھایا۔ آپ کا یہ ناروا فعل انبیاء کی شان میں سخت گستاخی اور ان کی توہین کا موجب ہے اور آپ کی یہ بات ہمارے لئے بالکل ناقابل تسلیم ہے۔ مگر خود جو نبی کو نجومی اور نجومی کو نبی سمجھا جا سکنے کی وہی جرات کی اسکی خبر ہی نہیں۔

سوال کا جو جواب مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کاذب یا غیر نبی پیشین گوئی کنندہ دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک مدعی نبوت دوسرے غیر مدعی نبوت۔ قسم اول مفتری علی اللہ ہے۔ اگر ایسا کاذب منجانب اللہ پیشین گوئی بیان کرنے کا دعویٰ کرے تو خدا اس کو بلا مہلت ہلاک کرے گا اور وہ کامیاب نہ ہوگا۔

حافظ صاحب نے بھی اپنے پنجابی نبی کی اتباع کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا

۱۔ یعنی مرزا قادیانی بلفظ "اللہم انصر من نصر دین محمد" خود دعاء بد دعا کرتے اور اپنی جماعت کو اس کی تلقین فرماتے جو مرزائی اپنی سبکدہ نمازوں میں اس کا بکثرت ورد رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے اسی طرز عمل کو حافظ صاحب ان کی نبوت و صداقت کی دلیل کہہ رہے ہیں۔

دعویٰ کر کے پیشین گوئی کرے اور کہے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا تو آپ یقین مانئے کہ ایسا کہنے والے کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔ یہ سنت اللہ قدیم سے چلی آتی ہے۔ (ص ۸۵، ۸۶) مذکورہ عبارتوں میں نبی اور امتی دونوں نے مل کر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ:

- ۱..... پیشین گوئی نبی اور غیر نبی میں مشترک ہے۔
  - ۲..... یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ نبی کو غیر نبی اور غیر نبی کو نبی سمجھ لیا جائے۔
  - ۳..... کاذب مدعی نبوت (متنبی) بھی پیشین گوئی کر سکتا ہے
- اب اختلاف صرف اس امر میں رہ گیا ہے کہ:
- ۱..... مفتری علی اللہ صرف جھوٹے نبی کو کہتے ہیں۔
  - ۲..... مفتری کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔
  - ۳..... مفتری کامیاب نہیں ہوتا۔

۱. امر اول کہ مفتری علی اللہ محض جھوٹے نبی کو کہتے۔ تخصیص بلا تخصص اور دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بات خلاف واقع کہنا کذب اور اس کو کسی طرف منسوب کرنا افتراء، اتہام، بہتان ہے۔ جس کا حاصل جھوٹ بنانا ہے اور جو ایسا کرے وہ مفتری ہے۔ پس افتراء اور مفتری عام ہے۔ ہر وہ جھوٹ افتراء اور اس کا مرتکب مفتری ہے جو انسان پر اتہام لگائے یا خدا پر اور خدا پر جھوٹا مدعی نبوت بہتان باندھے یا جھوٹا غیر مدعی نبوت۔ اس لئے خدا پر افتراء کرنے والوں میں سے خدا نے قرآن میں فرعون کی جماعت کو بھی، یہود کو بھی، نصاریٰ کو بھی، مشرکین کو بھی، جھوٹے مدعی نبوت کو بھی، مفتری علی اللہ فرمایا ہے۔ مثلاً فرعون کی جماعت کو فرمایا۔ ”وقد خاب من افتدٰی“ لہذا مرزا قادیانی اور حافظ صاحب کا محض قسم اخیر کو مفتری علی اللہ کہنا یہ خود ان کا افتراء علی اللہ ہے۔

امر دوم کو مفتری علی اللہ کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔ ہاں سزا بیشک ملتی ہے۔ مگر بلا مہلت اور فوراً یہ اذعانے محض ہے۔ پھر فوراً اور بلا مہلت سے مراد اگر یہ ہے کہ ادھر زبان سے افتراء نکلا۔ ادھر بلا فصل مفتری کے سر پر بجلی گری تو یہ بھی قطعاً بے اصل ہے اور اگر جرم افتراء کے بعد سزا میں تاخیر ہوتی ہے چاہے وہ طرفتہ العین اور ایک سکندری ہو یا فرعون مدعی الوہیت کی طرح سیکڑوں برس



کی ہو تو مرزا قادیانی یا حافظ صاحب کو شریعت سے اس مدت تاخیر کی وہ حد بتانی چاہئے جس پر بلا مہلت اور فوراً کا بھی اطلاق ہو سکے۔ لیکن ان سے یہ بھی ناممکن ہے۔

مرزا قادیانی اور حافظ صاحب کے بلا مہلت و فوراً کے برعکس قرآن و حدیث میں تاخیر منصوص ہے۔ کسی کے لئے تعیین مدت کے ساتھ جیسے اٹلیس کے لئے الی یوم بیسٹون قیامت تک کی مہلت۔ بعض کے لئے بلا تعیین مدت جس کے نظائر قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں۔ پھر بھی یہ کہنا کہ مفتری پر بلا مہلت فوراً عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے چلی آتی ہے۔ بجائے خود افتراء علی اللہ ہے۔

امر سوم کہ مفتری علی اللہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کہاں کامیاب نہیں ہوتا۔ عقبی میں یا دنیا میں؟ پہلی صورت میں ہر عاصی مستحق عذاب اور کافر و مشرک کا بھی انجام ہوگا۔ پھر مفتری علی اللہ کی اس میں کیا خصوصیت ہوئی؟ دوسری صورت میں کامیابی سے مراد پیشین گوئی کا پورا نہ ہونا یا عزت و وقعت دولت و جاہت حکومت کا نہ ملنا یا عمر کا دراز ہونا ہے تو یہ سب باتیں غلط ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس امثال موجود ہیں۔ مثلاً فرعون ہی موجود ہے۔

علاوہ ازیں مفتری علی اللہ ہی کا کامیاب نہ ہونا یہ خصوصیت خود بلا وجہ ہے۔ مرزا قادیانی کا اربعین میں یہ وجہ بیان کرنا کہ اس کی گمراہی دنیا میں نہ پھیلے۔ عجیب مضحکہ خیز وجہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں گمراہی صرف جھوٹے نبی ہی نہیں بلکہ دیگر لوگوں سے بھی بسا اوقات زیادہ پھیلتی ہے۔ آج بھی محض ایرانی بابی اور صرف پنجابی نبی جیسے کاذبوں ہی سے نہیں بلکہ دہریہ، آریہ، ہنود، یہود، نصاریٰ بکثرت موجود ہیں جن سے گمراہی اشاعت پذیر ہے۔ پس مرزا قادیانی کا مفتری علی اللہ کو خاص کرنا اگر افتراء علی اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟

غرض جب پیشین گوئی کا دلیل نبوت ہونا غلط ہو گیا تو مرزا قادیانی لاکھ پیشین گوئی کیا

۱ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۸، ۹، مسکئی بہ عبرت خیز مونیگر ملاحظہ ہو جس میں بحوالہ تاریخ متعدد

کامیاب جھوٹے مدعیان نبوت کا مفصل ذکر ہے۔

کریں اور وہ پوری بھی ہوا کریں تو وہ اس سے نبی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ حضور ﷺ کے بعد بوجہ مدعی نبوت ہونے کے بجائے صدق کے اپنے کذب پر مہر کرنے والے ہوئے اور حافظ صاحب کا سارا تانا بانا بگڑ گیا اور اب وہ بلا نبی کے ہو گئے۔

..... ۱..... حصہ کی دوسری بات مرزا قادیانی کی چھ پیشین گوئیوں کا جھوٹا ہونا ہے جس میں سماوی وارضی پیشین گوئی بھی داخل ہے۔ چھیوڑس پیشین گوئیوں میں سے:

..... ۱..... پیشین گوئی منکوحوہ آسمانی (محمدی بیگم) کے متعلق ہے۔ جس کا مختصر حصہ پہلے لکھ چکا ہوں اور تعارف کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ مرزا قادیانی اس میں بہت بدنام ہوئے۔

..... ۲..... پیشین گوئی پادری آتھم کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے ۱۵ جون ۱۸۹۳ء کو الہاماً کہا تھا کہ پادری آتھم پندرہ ماہ کے اندر بسزائے موت داخل ہاویہ ہوگا۔ مگر وہ اس مدت میں نہ مرا تو الہ آباد سے پنجاب تک کے پادریوں نے علانیہ جشن منا کر مرزا قادیانی کا خوب مضحکہ اڑایا۔ مرزا قادیانی کی اس میں بھی بڑی کرکری ہوئی۔

..... ۳..... پیشین گوئی بصورت دعا مولوی ثناء اللہ صاحب غیر مقلد امرتسری کے بالمقابل تھی کہ خدایا ہم دونوں میں سے جو کاذب ہو وہ صادق کے سامنے تیری سزا سے مر جائے۔ پھر ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء کے اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کا یہ قول بھی چھپا کہ: ”میں نے جو ثناء اللہ کے حق میں دعا کی تو الہام ہوا اجیب دعویٰ الداع یعنی یہ تیری دعا قبول ہے۔ دیکھئے مرزا قادیانی نے اول مشترک پھر خاص دعا کی اور خاص کا الہام ہوا کہ قبول ہوئی۔ ان باتوں کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر ظہور برعکس ہوا۔ یعنی تعبیر خواب کی طرح قبولیت دعا الٹی ہو گئی۔ کہ مرزا قادیانی مر گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب اہل حدیث ہنوز موجود ہیں۔ اس پیشین گوئی کے پوری ہونے نہ ہونے پر مولوی ثناء اللہ صاحب سے لدھیانہ مناظرہ بھی ہوا۔ مرزائیوں کو شکست ہوئی۔ حسب قرارداد بحیثیت فاتح مولوی ثناء اللہ صاحب نے مرزائیوں سے تین سو روپیہ بھی وصول کیا۔ رد مرزا کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں اور ترقی دے۔ آمین!

حافظ صاحب نے جواب میں فرمایا ہے کہ منکوحوہ آسمانی، پادری آتھم کی پیشین گوئی

میں مرزا قادیانی کو نہیں بلکہ دوسروں کو اجتہادی غلطی لگی۔ جس کا جی چاہے مکمل ریکارڈوں کو دیکھئے۔ (ص ۱۵۹، ۱۶۰) مولوی ثناء اللہ صاحب کے بالمقابل پیشین گوئی کی بابت ہدایت کی ہے کہ احمدی رسالہ کا اس دعا و فیصلہ والا نمبر اور کتاب آئینہ حق نمادیکھنا چاہئے۔ (ص ۷۶، ۷۷)

ادھر سے بھی جواباً عرض ہے کہ خانقاہ رحمانیہ، مخصوص پور، مونگیر سے فیصلہ آسانی ہر سہ حصہ از مولانا محمد علی قدس سرہ اور تجارتی کتب خانہ قاسمی، دیوبند، ضلع سہارنپور تحقیق لائٹانی از مولوی محمد یعقوب صاحب مولف عشرہ کاملہ اور دفتر اہل حدیث امرتسر پنجاب سے الہامات مرزا بمع جواب آئینہ حق نما از مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مگا کر ملاحظہ فرمائے اور مرزا ایت سے تا تب ہو کر دین اسلام قبول کیجئے۔ (نوٹ: اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ احساب قادیانیت کی سابقہ جلدوں میں یہ تمام رسائل و کتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ فلحمد للہ اولاً و آخراً۔ مرتب)

۴..... آسانی پیشین گوئی چاند اور سورج گرہن کے متعلق ہے۔ مگر اس کا نہ حافظ صاحب نے کچھ جواب دیا اور نہ مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔

۵..... پیشین گوئی طاعون والی ہے۔ یعنی پنجاب میں طاعون تھا۔ مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (دفع البلاء ص ۱۰، ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) لیکن خدا نے پنجابی رسول کا تخت الٹ دیا۔ یعنی قادیان میں طاعون آیا اور زوروں پر آیا۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہر جگہ مرض طاعون زور پر ہے۔ قادیان میں نسبتاً آرام ہے۔ (البدرد ۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء) قادیان میں طاعون زور پر تھا۔ میرالزکا شریف احمد بیمار ہوا۔ (حقیقت الوحی ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷) اور ان کے مریدوں نے لکھا کہ قادیان میں طاعون کی چند وارداتیں ہوئیں۔ (البدرد ۲۳ اپریل ۱۹۱۲ء) قادیان میں طاعون (مرزا قادیانی کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہی ہے۔ (ایضاً ۱۶ مئی) قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کر دی۔ (ایضاً ۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء)

حافظ صاحب نے اس کی بابت بھی سکوت فرما کر مجھے کچھ لکھنے سے سبکدوش کر دیا۔  
ایں ہم غیبت است۔

۶..... پیشین گوئی کس صلیب کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے فرمایا تھا کہ: ”میں تثلیث پرستی کے ستون کو توڑنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر میں نہ توڑ دوں تو گواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں۔“ راہ حق (ص ۳۱) مولوی صاحب!

حدیث میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے تو صلیب کو بھی توڑیں گے۔ مرزا قادیانی نے چونکہ عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ لہذا انہوں نے لوازمات مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا۔ جن میں سے کس صلیب بھی ہے اور اس پیشین گوئی میں تثلیث پرستی کے ستون کو توڑنے سے تعبیر کیا ہے۔ ہم اہل اسلام تو لفظ حدیث یعنی فیکر الصلیب کا حقیقی معنی لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ لیکن مرزا قادیانی اپنا اختراعی مرادی معنی لکھتے ہیں کہ: ”صلیب کے توڑنے سے روحانی طور پر صلیب کو توڑنا اور صلیبی مذہب کو پاش پاش کرنا مراد ہے۔“ اور حافظ صاحب بھی اسی کے قریب قریب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کر کے ان دجالوں (پادریوں یا عیسائیوں) کے خدا کی ہستی کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ (ص ۶۲ درحاشیہ)

مگر حقیقی معنی کرنے میں چونکہ کوئی خرابی نہیں۔ لہذا مرزائی مرادی یا مجازی معنی بلا قرینہ لینا غلط ہے۔ اور اگر تنزلاً مجازی معنی مان لیں تو بھی مرزا قادیانی کو کچھ مفید نہیں۔ کیونکہ اسلام کی طرف سے عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ کونسی دینی خدمت ہے کہ مرزا قادیانی نے کی اور علمائے اسلام نے نہیں کی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بجائے خدمت کے اسلام کی توہین کی اور بجائے ترویج کے یہودیت و نصرانیت کی تائید کی۔ عروج مسیح، حیات مسیح، نزول مسیح، ظہور مہدی، خروج و جال، ختم نبوت وغیرہ مسائل اسلامیہ کے حقیقی وجود کو غائب کر دیا۔ بجائے کس صلیب کے خود تثلیث کی تعلیم دی۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”اور ان دونوں محبتوں کے کمال سے جو خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر زومادہ کا حکم رکھتی ہے اور محبت الہی کی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ اس کا نام چاک تثلیث ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔“ (توضیح مرام ص ۲۸، خزائن ج ۳ ص ۶۲)

غرض کس صلیب کی پیشین گوئی بھی خود مرزا قادیانی کے ہاتھوں جھوٹی ثابت ہوئی۔

مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: ”ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشین گوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔“ (آئینہ کمالات ص ۲۸۸، خزائن ج ۵ ص ۱۵۸) ان کے پیش کردہ معیار صدق و کذب کے مطابق ان پیشین گوئیوں سے دنیائے ان کا امتحان لیا۔ پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں۔ لہذا دنیا ان کو جھوٹا سمجھنے پر مجبور ہے۔ مگر حافظ صاحب حب مرزا میں غلٹ کذب کو ہنوز صبح صادق ہی سمجھ رہے ہیں جو فرمائے ہیں کہ: ”ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں، جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے کہ مرزا قادیانی کی ایک بھی پیشین گوئی نہیں جو خدا سے علم پا کر کی گئی ہو اور وہ غلط یا جھوٹی ہوئی۔ ص ۱۷۴“

پس مولوی صاحب نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ صحیح ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں کاذب ہیں۔  
 ..... ۸ ..... مسیح ابن مریم علیہا السلام کی حسب آیت فلما توفیتنی وفات ہو چکی۔ فقط!  
 مولوی صاحب نے اس آیت اور دوسری دو آیت سے بھی حیات مسیح ثابت کر کے مرزائی کا اچھا جواب دیا ہے۔ جواب الجواب میں حافظ صاحب سے کچھ نہ ہو سکا۔ بس دعویٰ کر دیا کہ خدا نے دو جگہ تو صراحتاً اور اکثر جگہ اشارتاً حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کر کے اس قضیہ نامرضیہ کا فیصلہ کر دیا۔ (ص ۸۷) مگر صراحتاً اور اشارتاً والی نقل نیکی۔ ہاں دو ہدایات الہیہ کی۔

اول یہ کہ (ص ۸۰) پر ہدایت کی کہ مرزا قادیانی کی کتاب نزول مسیح اور مسیح ہندوستان میں دیکھئے۔ جو اب ادھر سے بھی گزارش ہے کہ قاضی سلیمان صاحب مرحوم کی کتاب تائید الاسلام اور غایۃ المرام مولوی ابراہیم صاحب کی کتاب شہادۃ القرآن ہر دو حصہ اور الخیر المسیح عن قبر المسیح مولوی حکیم خدا بخش صاحب کی کتاب البیان المسیح فی حیاۃ المسیح، مولوی محمد ادریس صاحب کاندھلوی مدرس ازہر ہند وار العلوم دیوبند کی کتاب کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ، مولانا محمد عبدالشکور مدیر انجمن لکھنوی کی بمقابلہ مرزائیاں بحث حیات حضرت مسیح بن مریم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی الخطاب المسیح فی تحقیق المہدی والمسح وغیرہ ملاحظہ فرمائے۔ (نوٹ: یہ اکثر کتب احتساب قادیانیت کی سابقہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ مرتب)

دوم یہ کہ (ص ۹۷) پر چیلنج دیا ہے کہ حضرت مسیح ناصر فی قوت ہو چکے اور فوت شدہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر آپ لوگوں میں اس فیصلہ کے توڑنے کی قوت ہے تو حیات مسیح اور ان کا

زندہ بحسدہ غضری آسمان پر جانا قرآن وحدیث سے ثابت کریں اور ہمارے موجودہ امام علیہ السلام (مرزا بشیر الدین محمود خلیفۃ المسیح ثانی ولد مرزا غلام احمد قادیانی) سے مبلغ تیس ہزار روپے کا انعام حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لئے بھی سلسلہ احمدیہ (مرزائیہ) میں رہنا ہمارے لئے حرام ہوگا اور ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بلا کسی دلیل اور ثبوت کے حضرت مسیح ناصری کی آمد کا انتظار کریں گے خواہ انتظار کرتے کرتے قیامت ہی کیوں نہ آجائے۔

جو اب اعراض ہے کہ ہمیں اپ کا یہ چیلنج بسر و چشم منظور ہے۔ لیکن اولاً یہ فرمائیے کہ جب کتب مذکورہ خصوصاً غایۃ المرام اور تائید الاسلام میں قاضی سلیمان صاحب مرحوم نے اور شہادت القرآن ہر دو حصہ میں مولوی ابراہیم صاحب نے بفضلہ تعالیٰ عروج مسیح اور حیات مسیح کو بدلیل صحیح قرآن وحدیث سے کما حقہ ثابت کر دیا جس کا جواب نہ خود مرزا قادیانی سے ہو سکا۔ نہ آپ کے موجودہ امام سے بن پڑا اور الحمد للہ وہ کتابیں ہنوز لا جواب ہیں تو مرزا محمود صاحب نے انہیں انعام مذکور کیوں نہ دیا اور آپ نے مرزائیت سے توبہ کر کے دین اسلام کیوں نہ قبول کیا؟ مائینا اس چیلنج کے شرائط اور دیگر امور ضروریہ کی بابتہ معاملہ مجھ سے آپ طے کریں گے یا آپ کے موجودہ امام صاحب کیا میں امید رکھوں کہ آپ مجھے مناسب اور جلد جواب دیں گے؟

ناظرین! مرزائی نے نمبر ۸ میں ثبوت وفات مسیح میں جو آیت پیش کی ہے اور اس کی حمایت میں بجواب مولوی صاحب جو کچھ حافظ صاحب نے فرمایا ہے وہ وہی ہے جس کا جواب ابھی اوپر گذر چکا ہے۔ لیکن بخاطر ناظرین ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ مرزائی نے یہ آیت ثبوت وفات مسیح میں پیش کی ہے۔ قیامت کے دن نصاریٰ کے متعلق خدا کے سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے کہ: ”فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید (مائندہ)“ ﴿پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔﴾

آیت میں ماہ النزاع لفظ توفیتی ہے۔ جس کا مادہ تونی ہے۔ آیت ہذا میں ہم اس کو بمعنی رفع لیتے ہیں اور مرزا قادیانی بمعنی مہوت۔ مرزا قادیانی نے ازالہ میں بزم خود ثبوت وفات مسیح کے لئے تیس آیتیں جو پیش کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ تھی جو مرزائی نے لکھی ہے اور ایک آیت یا عیسیٰ انی متوفیک ورفعلک آتی الایہ بھی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے متوفیک کو بمعنی ممیتک اور اس کے مادہ تونی کو بمعنی موت لیا ہے۔ جس کی دلیل یہ لکھی ہے کہ تونی کے معنی امات اور قبض روح کے

ہیں۔ ”بعض علماء نے الحداد اور تحریف سے اس جگہ توفیقی سے رفتنی مراد لیا ہے اور اس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ یہ معنی نہ صرف لغت کے بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ پس یہی تو الہاد ہے۔ قرآن شریف میں اول سے آخر تک بلکہ صحاح ستہ میں بھی انہی معنی کا التزام کیا گیا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۰۱، خزائن ج ۳ ص ۴۲۶)

یہ تو مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق لغت، قرآن، حدیث کے خلاف معنی کر کے علماء اسلام جرام الحداد و تحریف کے مرتکب اور اس لئے محرف و ملحد یعنی کافر ہوئے۔ مگر اب مرزا قادیانی کا حال سنئے۔

..... (ازالہ ص ۳۹۴، خزائن ج ۳ ص ۳۰۲) پر اقرار کیا ہے کہ: ”آیت متوفیک

میں (بلفظ متوفیک) موت کا وعدہ ہے۔ نہ کہ موت کی دلیل یا خبر۔“ اور (ازالہ ص ۳۹۲، خزائن ج ۳ ص ۳۰۲) پر مان لیا ہے کہ: ”متوفیک میں موت سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت مراد ہے۔“ نیز اسی کتاب میں متعدد مقام پر تسلیم کر لیا ہے کہ بقرعہ متوفیک و رافعک آتی سے مراد باعزت موت ہے اور (ازالہ ص ۳۳۲، خزائن ج ۳ ص ۳۶۹) پر ”توفی کا معنی بظاہر نیند ہونا قبول کر لیا ہے۔“

دیکھئے مرزا قادیانی نے توفی کا حقیقی معنی موت لیا اور آیت کو دلیل موت میں پیش کیا تھا۔ مگر کس صفائی سے اسی آیت اور اسی لفظ کی بحث میں وعدہ موت، مجازی موت، باعزت موت اور نیند کی طرف اتر آئے۔ ابھی کیا ہے اور دیکھئے۔

..... مولوی ابراہیم صاحب میرسیالکوٹی نے (شہادۃ القرآن طبع سوم ج ۱ ص ۱۱۰)

میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ایضاً) میں جہاں اپنے آپ کو خدا بتایا ہے۔ استوفانی لکھا ہے اور اس جگہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور مفعول خود مرزا قادیانی ذی روح اور اس سے مراد موت نہیں ہے۔ پس مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ لفظ توفی سوائے قبض روح کے کسی اور معنی میں مستعمل نہیں ہوتا۔ بالکل غلط اور مردود و ٹھہرا۔

..... قاضی سلیمان مرحوم نے (تائید الاسلام طبع دوم ص ۱۶) میں لکھا ہے کہ:

”براہین احمدیہ میں جس کو مرزا قادیانی نے خدا کے حکم و الہام سے لکھا اور جس کو کشف میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے مرزا قادیانی کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ تفسیر علی مرتضیٰ ہے۔ مرزا قادیانی نے آیت یا عیسیٰ انی متوفیک کا اپنے اور الہام ہونا لکھا ہے اور پھر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے

پوری نعمت دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر متوفیک کے معنی حقیقی تھے ماروں گا ہوتے تو الہامی کتاب اور کشفی تفسیر میں یہ ترجمہ اس کا نہ کیا جاتا۔ مرزا قادیانی اس وقت بھی کچھ جاہل نہ تھے جو تونی کے معنی نہ جانتے ہوں۔ پس اگر یہ ترجمہ ان کے لئے جائز اور صحیح ترجمہ تھا تو حضرت مسیح کے لئے کیوں یہ ترجمہ صحیح نہیں۔“

مرزا قادیانی نے جس جرم کی بناء پر علماء اسلام کو محرف، ملحد بنایا تھا۔ اسی جرم کے مجرم وہ خود بھی ہیں۔ علماء اسلام تو خیر عالم ہی ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی تو مجدد، مہدی، مسیح، نبی، قمر الانبیاء، جامع النبیین، خاتم النبیین، ابن اللہ وغیرہ بکھرے گئے مجرم ہوئے۔ مگر اب کون کہے کہ لغت قرآن، حدیث، التزام کے خلاف تحریف اور الحاد کر کے خود مرزا قادیانی کیا ہوئے؟

معزز ناظرین! سچی بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے مقابلہ میں علاوہ بدزبانی اور فضول طول نویسی کے اپنی کتاب میں اتنی غلطیاں کرے۔ ایسی بے ترتیب باتیں لکھے۔ نہ وہ قابل خطاب ہے نہ اس کی کتاب لائق جواب، مگر صرف اس خیال سے کہ عوام کچھ کچھ نہ سمجھ بیٹھیں۔ مولوی صاحب کی طرف سے حافظ صاحب کی غلطی اور بے ترتیبی ظاہر کر کے دکھلانا پڑا کہ یہ ہے حافظ صاحب کی قابلیت اور ان کے غیر معمولی کتاب کی معجزانہ حالت اور یہ ہیں مدد، اصلاح، دعاء، بشارت کردہ اور خدائی مصافحہ والی تحریر میں مرزا قادیانی کی صداقت کے ہزاروں نشان، شاید اسی لئے کتاب حافظ صاحب کے موجودہ امام کی تائیدی و تصدیقی دستخط سے بھی محروم ہے۔

خدا کرے میری یہ تحریر مرزائیوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور دیگر بھائیوں کے حق میں باعث مزید بصیرت ہو۔ آمین یا رب العالمین!

حکیم محمد عبدالشکور حنفی مرزا پوری، یکم نومبر ۱۹۳۰ء

۱۔ جیسا کہ مرزائی کتاب (کلمۃ الفصل ص ۱۱۶، عقائد محمودیہ ص ۱۶) میں لکھا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود (مرزا قادیانی) خود محمد رسول اللہ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔“ نعوذ باللہ من هذا الہفوات!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَعَ خْتَمِ نُبُوتِ  
بِجَوَابِ

# حقیقتِ نبوتِ محمد ﷺ

مَعَ خْتَمِ نُبُوتِ

بِجَوَابِ

# احقر الابرار

(حضرت مولانا علم الدین ساکن خاص قادیان)

بسم الله الرحمن الرحيم  
 "نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم"

## دیباچہ

## پہلے مجھے دیکھئے

صوبہ پنجاب کے ضلع گورداسپور، قصبہ قادیان میں ایک صاحب مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوئے ہیں۔ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود مہدی مسعود و کرشن اور نبی و رسول وغیرہ وغیرہ ہوں اور میرا منکر کافر ہے۔ علمائے اسلام سے آپ کی بحثیں بھی ہوئیں اور ہر جگہ آپ کو شکست فاش ہوئی۔ لیکن آپ نے باطل کا دامن نہیں چھوڑا۔ حالانکہ آپ کے تمام متحد یا نہ دعاوی غلط ثابت ہوئے۔ تاہم آپ بولنے سے بند نہیں ہوئے۔ آپ کی سیرت کے نمونہ ایک صاحب مسیٰ ابراہیم قادیانی مرزائی جو مولوی بھی کہلاتے ہیں اور جناب مرزا قادیانی کے مخلص مرید ہیں۔ چند ماہ سے شہر کیمپور میں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر قادیانی مسیح کی نبوت منواتے ہیں۔ جناب کو قادیانی بھیڑوں کی طرح میانے کی بہت عادت ہے۔ آپ نئے حال میں ایک چار ورقہ ٹریکٹ بنام "اجزائے نبوت" شائع کیا ہے۔ جس میں اپنے پیر کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ چونکہ آپ کے اس ٹریکٹ اور میاٹ مجادلانہ سے مسلمانوں کے شبہ میں پڑنے کا احتمال تھا۔ کیونکہ اس علاقہ کے لوگ مرزائیوں کی چال سے نادانف ہیں۔ تاہم یہ چند اوقات ہدیہ ناظرین ہیں۔ جن میں اجزاء نبوت کی قلعی کھولی گئی ہے اور شروع میں حقیقت مرزائیت کے نام سے چند ابواب درج کر دیئے گئے ہیں جن میں مرزائی مذہب پر لائیکل سوالات کئے گئے ہیں۔ جن کا امت مرزائی قیامت تک جواب نہیں دے سکتی۔ ان ابواب میں مسیح قادیانی کی حقیقت کا پورا انکشاف کیا گیا ہے۔

مجموعہ کا نام "حقیقت مرزائیت مع ختم النبوة بجواب اجزاء نبوت" رکھتا ہوں۔ امید ہے ناظرین اس رسالہ کو اس بحث میں اچھوٹا پائیں گے اور اس سے خود واقف ہو کر سادہ لوح مسلمانوں کو مرزائیوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ "ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم"

(نوٹ) مخالف کو منکر اور اپنے آپ کو مثبت سے تعبیر کروں گا۔

خادم المسلمین: علم الدین ساکن خاص قادیان حال خطیب جامع مسجد کیمپور شہر

## حقیقت مرزائیت

### باب الوہیت مرزا (خدائی دعویٰ)

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہو، ہو، خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ بے شک میں خدا ہوں۔ اسی حالت میں میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ دو پہلے تو میں نے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تفریق اور ترتیب نہ تھی۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ”انا زینا السماء الدنيا بمصابیح“ بیشک ہم نے زینت دی ہے آسمان دنیا کو ستاروں سے۔ پھر میں کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، ۵۶۵، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳، کتاب البریہ ص ۷۹)

کیا کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر نہیں کیا تو کیا مرزا قادیانی بقول خود کہ: ”بجز خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کے افعال اور صفات نظیر رکھتے ہیں۔ تاکہ کسی نبی کی خصوصیت منجربہ شرک نہ ہو جائے۔“

(تختہ گولڑویہ ص ۶۰، خزائن ج ۷ ص ۹۵)

خدائی دعویٰ مرزا قادیانی ہی کی خصوصیت ہے اور کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تنبیہ: حقیقت مرزائیت میں مرزا قادیانی پر جو اعتراضات ہیں ان کی نظیر کسی نبی میں دکھانی ہوگی۔ اولیاء کے اقوال اس بارے میں سموع نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو نبی ہونے کا دعویٰ ہے نہ کہ صرف ولی ہونے کا اور نبیوں کو نبیوں پر قیاس کیا جاتا ہے۔ نہ اولیاء پر۔

### باب شرک مرزا

حیات مسیح مشرکانہ عقیدہ اور شرک عظیم ہے

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

”اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امر دہی کو ہمارے مقابلہ کے لئے خوب

موقع مل گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے مشرکانہ عقیدہ کی حمایت میں کہتا کہ کسی طرح مسیح ابن مریم کو موت سے بچالیں اور دوبارہ اتار کر خاتم الانبیاء بنا دیں۔ بڑی جانکاہی سے کوشش کر رہے ہیں۔“

(دافع البلاء ص ۱۵، خزائن ج ۱۸ ص ۳۳۵)

۲..... ”فمن سوء الادب ان يقال ان عيسى مامات وان هو الا  
شرك عظيم يا كل الحسنات“ (استثناء لمحقة حقیقت الوحی ص ۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۶۶۰)  
ترجمہ: یہ بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ بے شرک عیسیٰ نہیں مرے اور یہ بہت بڑا شرک  
ہے۔ جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔

۳..... ”اور درحقیقت صحابہؓ آنحضرت ﷺ کے عاشق صادق تھے اور ان کو کسی  
طرح یہ بات گوارا نہ تھی کہ عیسیٰ جس کا وجود شرک عظیم کی بڑی قراریا گیا ہے۔ زندہ ہو اور آپ فوت  
ہو جائیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۵، خزائن ج ۲۲ ص ۳۷)

۴..... ”کلا بل هو میت ولا يعود الی الدنیا الی یوم یبعثون  
ومن قال متعمداً خلاف ذالک فهو من الذین هم بالقرآن یکفرون“  
(استثناء ص ۴۳، خزائن ج ۲۲ ص ۶۶۶)

ترجمہ: یاد رکھو بلکہ وہ مر چکا ہے اور وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا اور جو شخص اس  
کے خلاف کہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔

۵..... ”ولا شک ان حیات عیسیٰ وعقیدہ نزولہ باب من ابواب  
الاضلال ولا یتوقع منه الانواع الوبال“ (استثناء ص ۴۷، خزائن ج ۲۲ ص ۶۷۰)  
ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ حیات عیسیٰ اور ان کے نزول کا عقیدہ گمراہی کے دروازوں  
میں سے ایک دروازہ ہے اور اس سے سوائے قسم قسم کی مصیبتوں کے اور کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

### تصویر کا دوسرا رخ

مرزا قادیانی خود باون برس تک حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل رہے  
چنانچہ فرماتے ہیں:

۱..... ”جس زمانہ میں خدا نے براہین احمدیہ میں یہ فرمایا۔ اس وقت تو میں اس  
دقیقہ معرفت سے خود بے خبر تھا۔ جیسا کہ میں نے براہین احمدیہ میں اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ  
عیسیٰ آسمان سے آنے والا ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۳۵۱)

۲..... ”اور مجھے کب خواہش تھی کہ مسیح موعود بنتا۔ اگر مجھے یہ خواہش ہوتی تو میں  
براہین احمدیہ میں اپنے پہلے اعتقاد کی بناء پر کیوں لکھتا کہ مسیح آسمان سے آئے گا۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۱۶۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۰۲)

۳..... ”مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جما ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے نازل ہوں گے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳)

۴..... ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔“ (براہین احمدیہ ص ۳۹۸، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

۵..... ”پھر میں تقریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جما رہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۱۱۳)

نتیجہ

مرزا قادیانی چالیس برس کے تھے جب آپ کو الہام ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں۔ ”یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر اس صدی کا سربجی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔“ اور الہام شروع ہونے کے بعد بھی مرزا قادیانی بارہ برس تک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے رہے۔ بلکہ اس عقیدہ پر خوب جتھے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا بقول مرزا قادیانی مشرکانہ عقیدہ اور بہت بڑا شرک، نیکیوں کو کھانے والا، گمراہی کا دروازہ، قرآن کا کفر وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی چالیس برس الہام سے پہلے اور بارہ برس الہام کے بعد باوجود نبی ہونے کے کیوں اس مشرکانہ عقیدہ اور شرک عظیم پر بڑی سختی کے ساتھ جتھے رہے اور چالیس اور بارہ گویا باون برس تک مشرک رہے۔ کیا کوئی نبی ایسا ہوا؟ جو باون برس تک ایسے عقیدے پر جما رہا ہے جس کو بعد میں شرک عظیم اور گمراہی بتلا دے؟ اور کیا وہ شخص نبی ہو سکتا ہے؟ جو زمانہ الہام میں بھی بارہ برس تک مشرک

رہے؟ کیا اس کی نظیر بتلائی جاسکتی ہے؟ کہ ایک شخص باون برس تک ایک عقیدہ پر قائم رہے۔ اس کے بعد اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ اور شرک عظیم کہے اور وہ نبی بھی ہو؟  
اگر اس کی نظیر سابق انبیاء میں نہیں تو مرزا قادیانی بقول خود ”سچ کی یہی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے اور جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی۔“

(تحفہ گولڑیہ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۹۵)

جھوٹے ثابت ہوئے اور نیز بقول خود باون برس تک مشرک رہے۔ حالانکہ نبی کبھی مشرک نہیں ہوتا۔ نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد اور مرزا قادیانی نبوت ملنے کے بعد بھی بارہ برس تک مشرک رہے۔ پھر یہ کیسے نبی ہوئے؟

(باب) توہین عیسیٰ علیہ السلام

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

..... ”اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے۔“  
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

اس عبارت میں عیسیٰ علیہ السلام پر چوری اور دھوکہ دہی کا الزام ہے۔

..... ۲ ”عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“  
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

..... ۳ ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کار اور کبھی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

..... ۴ ”آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

ان عبارات میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو گندی گالیاں دی ہیں۔ ان گالیوں کی نسبت مرزا قادیانی کا عذر لنگ یہ ہے۔

”اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کا نام ڈاکو اور بٹمار رکھا اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے انکار کیا کہ میرے بعد سب جھوٹے نبی آئیں گے۔ پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلامنس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۹ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۳)

حاصل یہ ہے کہ گالیاں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئیں۔ بلکہ یسوع کو اور یسوع ایسا شخص تھا کہ اس کو بھلامنس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔ تصویر کا دوسرا رخ۔

حالانکہ مرزا قادیانی خود (توضیح مرام ص ۳۰، خزائن ج ۳ ص ۵۲) میں فرماتے ہیں کہ: ”دوسرے مسیح ابن مریم جس کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“ اور (تحفہ قیصریہ ص ۲۱، ۲۰، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۲) میں فرماتے ہیں۔ ”اس (خدا) نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ درحقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ خدا نہیں مگر خدا سے واصل ہے اور ان کا طول میں ہے جو تھوڑے ہیں۔“

اور (تحفہ قیصریہ ص ۲۳، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۵) میں فرماتے ہیں۔ ”اس جگہ اس قدر لکھنے کی میں نے اس لئے جرات کی کہ حضرت یسوع مسیح کی سچی محبت اور سچی عظمت جو میرے دل میں ہے اور نیز وہ باتیں جو میں نے یسوع مسیح کی زبان سے سنی اور وہ پیغام جو اس نے مجھے دیا۔ ان تمام امور نے مجھے تحریک کی کہ میں جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں یسوع کی طرف سے اپیلچی ہو کر بادب التماس کروں۔“ پہلے جس کو گالیاں دیں۔ اس کی محبت و عظمت اور اپیلچی پن کا اظہار نہایت تملق سے کر رہے ہیں۔ اس (تحفہ قیصریہ ص ۲۳، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۶) پر فرماتے ہیں۔ ”یہ یسوع مسیح کا پیغام ہے جو میں پہنچاتا ہوں۔“ اسی کے (تحفہ قیصریہ ص ۲۳، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۶) پر فرماتے ہیں ”اور میری سفارت جو یسوع مسیح کی طرف سے ہے اس کے موافق ملک میں عملدرآمد کرایا جائے۔“ (بہت اچھا) (تحفہ قیصریہ ص ۲۵، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۷) پر فرماتے ہیں۔ ”اس وقت ہم یسوع مسیح کی عزت کے لئے ہر ایک خطرہ کو قبول کرتے ہیں۔ (کیوں نہ ہو) اور محض اس کی طرف سے رسالت لے کر

بحیثیت ایک سفیر کے اپنے عادل بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہیں۔“ (کیا کہتا) لیکن باوجود سفیر محض ہونے کے پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

علاوہ اس کے پادری لوگ جس کو خدا مانتے ہیں۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”عیسائیوں مشزیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنایا۔“

(دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

پھر یسوع کوئی جدا شخص نہیں ہو سکتا اور پادریوں کا یسوع کی طرف غلط باتیں نسبت کرنا اس سے یسوع پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ یوں کہنا چاہئے تھا کہ یہ امور ان کی طرف غلط نسبت کئے گئے ہیں۔ نہ کہ خود یسوع کو گالیاں دینا۔ جن کی نبوت یقینی طور پر قرآن شریف سے ثابت ہے۔

جب مرزائیوں نے دیکھا کہ مرزا قادیانی کا جواب انہیں کے اقوال سے غلط ہو گیا تو یہ جواب دینا شروع کیا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا ہے۔ وہ الزامی طور پر عیسائیوں کے مقابلہ میں فرضی عیسیٰ کو لکھا گیا ہے۔ نہ واقعی طور پر حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مگر یہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ شدید ترین فحش گالی جو مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبارت نمبر ۴ میں دی ہے۔ اسی فحش اور شنیع امر کو مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وافع البلاء کے اخیر صفحہ میں نسبت کر کے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں بیان فرما کر ان تاویلات کو غلط فرما گئے۔ نہ وہاں پادری مخاطب ہیں اور نہ یسوع کا نام ہے۔ سنئے فرماتے ہیں: ”ہم سچ ابن مریم کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں سے البتہ اچھے تھے۔“ واللہ اعلم!

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰) اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں۔ ”یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محض نیک ظنی کے طور پر ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راہت بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا ہے۔ ”وجیہا فی الدنيا والآخرة ومن المقربین“ جس کے یہ معنی ہیں کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے۔ اس



سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے۔ بلکہ اس بات کا امکان لگتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آئے تھے اور دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کو کچھ تعلق نہ تھا۔ پس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جو لم نقص میں داخل ہیں۔ یہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر آخرا ایک انسان نکل آیا۔ جس کی نسبت خدا نے 'علمناہ من لدنا' فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے اور ختنہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے۔ کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلا اطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے۔ جن لوگوں نے انہیں خدا بنایا۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ مخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے آسمان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھا دیں۔ یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے۔ انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے۔ لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یحییٰ علیہ السلام نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور (معصوم) رکھا۔ مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر جس کو عیسائی یوحنا کہتے ہیں۔ جو پیچھے ایلیا بنایا گیا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے اور یہ بات حضرت یحییٰ کی فضیلت کو بد اہت ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ بمقابلہ اس کے یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ یحییٰ نے بھی کسی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ پس اس کا معصوم ہونا بدیہی امر ہے اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں حس شیطان سے پاک ہیں ان کے معنی ناوان لوگ نہیں سمجھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ پلید یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں پر سخت ناپاک الزام لگائے تھے اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے۔ سو یہ اس امر کا ردّ ضروری تھا۔ پس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں

ہو سکتے۔ یہ الزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں پر لگائے گئے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان معنوں میں وہ مس شیطان سے پاک ہیں اور اس قسم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو کبھی پیش نہیں آیا۔“  
(دافع البلاء ص ۴۰ خیر حاشیہ)

ناظرین عبارت پر غور کریں۔ مرزا قادیانی یحییٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دیتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شراب خوری، بے تعلق جوان عورت سے تعلق، فاحشہ عورت کی کمائی سے عطر کا استعمال، فاحشہ عورت کا اپنے ہاتھوں یا سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھونا، اپنے گناہوں سے کسی کے ہاتھ پر توبہ کرنا وغیرہ سے پاک اور بری تھے۔ تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک یہ تمام برے کام عیسیٰ علیہ السلام میں نعوذ باللہ موجود تھے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح مرزا قادیانی کے نزدیک ان برے کاموں سے بری ہیں۔ جیسا کہ واقع میں ایسا ہی ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام ان برے کاموں سے بری اور پاک ہونے کی وجہ سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر مرزا قادیانی کا یہ فرمانا کہ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا نام حضور (معصوم و پاک دامن) رکھا۔ مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ صاف بتا رہا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک یہ سب برے کام عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی خدا نے ان برے قصوں کا اعتبار کر کے مسیح کا نام حضور (معصوم) نہیں رکھا اور خدا جموٹے قصوں کا اعتبار نہیں کیا کرتا اور مرزا قادیانی کا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ فرمانا کہ ان کا معصوم (پاک ہونا) بدیہی امر ہے۔ صاف بتا رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاک ہونے میں شک ہے۔ حالانکہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہر ایک نبی کو معصوم تسلیم نہ کرے۔

اور نیز یہ برے کام مرزا قادیانی ہی کے نزدیک یحییٰ علیہ السلام میں موجود نہیں بلکہ بقول مرزا قادیانی خدا بھی ان قصوں کو صحیح اور حق جانتا ہے۔ جن کی بناء پر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں حضور (معصوم) نہ کہا۔ اس میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو گالی دی ہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس پر بھی ہاتھ صاف کھ دیا۔ یعنی ایسے لوگ بھی جو رنڈیوں سے ایسا میل جول رکھیں جو مرزا قادیانی کے نزدیک بھی کوئی پرہیزگار آدمی نہ رکھے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی اور مقرب بھی اور وجیہا فی الدنیا والاخرہ بھی۔ اس سے نہ کوئی نبی قابل اعتبار رہتا ہے اور نہ قرآن اور نہ معاذ اللہ خود خدا۔ تو پھر احادیث کی کیا حقیقت ہے

اور مرزا قادیانی کا یہ فرمانا کہ مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں۔ ان کے معنی نادان لوگ نہیں سمجھتے۔ صاف تصریح ہے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو مذکورہ امور شنیعہ سے بری نہیں سمجھتے۔ ورنہ مسلمانوں کا خیال جو حدیث پر مبنی ہے اس کے رد کی ضرورت نہ تھی۔ فافہم!

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی نکلیں تو کہہ دیا کہ اور انبیاء کی پیشین گوئیاں بھی تو غلط نکلی ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں: ”اور اس سے زیادہ تر قابل افسوس امر یہ ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی پیشین گوئیاں غلط نکلیں اس قدر صحیح نہیں نکل سکیں۔“

(ازالہ ص ۷، خزائن ج ۳ ص ۱۰۶)

اس کے ساتھ اگر کشتی نوح کی یہ عبارت بھی ملائی جائے: ”اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔“

تو نتیجہ بالکل صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں۔ کیونکہ ان کی پیشین گوئیاں نکلیں اور غلط نکلیں اور نبی کی پیشین گوئی کا غلط ہونا ناممکن ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا بھی ناممکن ہے۔

۶..... ”ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین گوئیاں صاف طوز پر جھوٹی نکلیں۔ (نعوذ باللہ) اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقدہ کو حل کر سکے۔“ (آپ جو ہیں)

۷..... ”کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس سال کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۲۵، خزائن ج ۳ ص ۲۵۲)

اس عبارت میں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ثابت کیا ہے۔ جو صریح قرآن شریف کے برخلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی بہت کچھ توہین کی ہے۔ لیکن ہم بوجہ اختصار اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے؟ پھر کیا محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی مرزا قادیانی کی طرح عیسائیوں کو الزام دینے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے ایسے اتہامات لگائے ہیں؟ کیا امت مرزائیت ثابت کر سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کسی مناظرہ میں عیسائیوں کو یہ کہا ہو کہ اے عیسائیو! جس کو تم خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہو وہ تو تمہاری کتابوں اور تعلیم

کی رو سے چور، جھوٹا، فریبی، مکار، بد معاش، متکبر، راست بازوں کا دشمن، اس کی تین دادیاں زنا کار، زنا کی کمائی کا عطرنے والا، بے تعلق عورتوں سے تعلق رکھنے والا، موٹی عقل والا، گندی گالیاں دینے والا، شیطان کے پیچھے جانے والا، لڑکیوں پر عاشق ہونے والا ثابت ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص خدا یا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟

اے امت مرزائیہ! اگر ایک شخص اپنے حقیقی بھائی کو ماں کی گالی دے اور اس کو کہا جائے کہ تو تو اپنی ہی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ کیونکہ تیری ماں ہی تیرے حقیقی بھائی کی ماں ہے اور وہ ملامت سے بچنے کے لئے یہ عذر لنگ پیش کرے، کہ میں نے اس کو اس حیثیت سے گالی دی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے نہ اس حیثیت سے کہ وہ میری ماں ہے تو کیا اس نالائق کا یہ عذر قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔

اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینا ہے۔ کیونکہ وہ صرف عیسائیوں ہی کے بزرگ نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی بزرگ ہیں اور تمام پیغمبروں کی تعظیم و عزت مسلمانوں پر فرض ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کے عیسائیوں کے ساتھ بہت مناظرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مناظرہ ہم نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ ﷺ عیسائیوں کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔

تفسیر درمنثور میں سورہ آل عمران کے شان نزول میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصاریٰ کی ایک جماعت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے پر ان معجزات سے استدلال کیا۔ جو قرآن شریف میں مذکور ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باذن الہی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مادرزاد اندھوں کو اچھا کرتے تھے اور غیب کی خبریں دیتے تھے اور مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ باذن الہی اڑنے لگتا تھا۔ نیز عیسائیوں نے کہا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔ لہذا وہ خدا کے بیٹے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے عیسائیوں کے جواب میں نہ تو عیسیٰ بن مریم کے بلا باپ پیدا ہونے سے انکار کیا اور نہ مرزا قادیانی کی طرح ان کے معجزات سے انکار کیا اور نہ مرزا قادیانی کی طرح ان معجزات کو مسمریزم، لہو و لہب، گھیل کی قسم، بشرکانہ خیال، متشابہات، شعبدہ بازی، نادان لوگ وغیرہ وغیرہ کہا۔ بلکہ ان عیسائیوں کو فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیشک۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے۔ کبھی نہیں مرے گا۔

”وان عیسیٰ یأتی علیہ النفاہ“ اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ انہوں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار ان میں سے کسی پر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں سے کچھ جانتے ہیں۔ سوائے اس کے جو اللہ نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا۔ پس ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ان کی والدہ کے رحم میں چھپی چاہی بتادی۔

یعنی بلا باپ پیدا ہونے سے انکار، خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔

آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ پروردگار عالم نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا۔ جیسا کہ عورت کو حمل ہوتا ہے۔ پھر اس نے عیسیٰ کو جنم۔ جس طرح عورت اپنے بچے کو جنمتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو غذا دی گئی۔ جس طرح عورت اپنے بچے کو غذا دیتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے اور پیشاب پاخانہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ تمہارا دعویٰ (عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا) کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ (درمنثور ج ۲ ص ۳)

کیونکہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں خدا کی کوئی صفت بھی نہیں۔

پھر خدا کا بیٹا کیسا؟

دیکھئے! اس مناظرہ میں آنحضرت ﷺ نے عیسائیوں کے دعویٰ الوہیت مسیح و ابن اللہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اور کیسی جامع مانع تقریر ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح گالیاں نہیں دیں اور نہ لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ بلکہ ہر ایک لفظ کو ہر نایاب ہے۔

باب دعاوی مرزا

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

.....

انبیاء      گرچہ      بودہ      اند      بے  
من      برفاں      نہ      کترم      زکے

کم نیم زان ہمہ بروئے یقیں  
ہر کہ گوید دروغ ہست ولعین

ترجمہ: انبیاء گرچہ بہت ہوئے ہیں۔ لیکن میں بھی معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں۔  
یقیناً میں ان تمام انبیاء سے کم نہیں ہوں۔ جو شخص کہے جھوٹ ہے اور وہ سچتی ہے۔

(نزول المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

۲..... جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر  
ظہر ایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیث ہوں،  
میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، اسحق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف  
ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت ﷺ کے نام کا مظہر اتم ہوں۔ یعنی ظلی طور پر محمد  
اور احمد ہوں۔“

۳.....

میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں  
نیز ابراہیم ہوں سلسلیں ہیں میری بے شمار

(درشین اردو ص ۱۲۹)

۴..... مرزا قادیانی کا یہ قول بھی ہے۔ ”دنیا میں کوئی نبی نہیں گذرا جس کا نام مجھے  
نہیں دیا گیا۔“

(ترہ حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۱)

۵..... نیز فرماتے ہیں۔

کر بلائیکست سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم  
آدم نیز احمد مختار در برم جلسہ ہمہ ابرار  
آنچہ دادست ہر نبی راجام داداں جام رامرا بنام

(درشین فارسی ص ۲۸۷)

ترجمہ: میں ہر وقت کر بلا پس سیر کرتا ہوں۔ سو امام حسین تو میری جیب میں ہیں۔ میں  
آدم ہوں۔ حضرت احمد ہوں۔ تمام نیکیوں کے لباس میں ہوں۔ خدا نے جو پیالیاں ہر نبی کو دی  
ہیں۔ ان پیالیوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے۔

۶..... مسیح قادیانی فرماتے ہیں۔ ”میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں

کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمانت میں وہ کام کر دکھایا۔ جو صحیح موعود اور مہدی معبود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں۔ اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“

نتیجہ: مرزا قادیانی کے یہ دعاوی ان کے اصلی الفاظ میں پیش کر کے ہم اپنے ناظرین سے عموماً اور امت مرزائی سے خصوصاً سوال کرتے ہیں کہ کیا عیسیٰ پرستی کا ستون ٹوٹ گیا؟ کیا بجائے تثلیث کے توحید پھیل گئی؟ کیا تمام مشرق و مغرب میں اسلام پھیل گیا؟ کیا مرزا قادیانی ابھی مرے نہیں؟

ان سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے۔ جس سے کسی کو انکار نہیں کہ عیسیٰ پرستی اور صلیب پرستی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اگر شک ہو تو سنئے۔ لاہوری احمدی جماعت کا اخبار پیغام صلح لکھتا ہے۔ ”آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ آج پچاس لاکھ کے قریب ہے۔“

اور سنئے: ”۱۹۲۷ء میں عیسائیوں نے ۱۹ لاکھ ۸ ہزار نئے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بائبل کے شائع کئے ہیں۔“

(پیغام صلح مورخہ ۶ مارچ ۱۹۲۸ء)

اور سنئے اور دل لگا کر سنئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عیسیٰ پرستی کا ستون کہاں تک گرا ہے۔

پاگڑا ہے۔ پیغام صلح بتاتا ہے۔  
مسیح انجمنیں

اس وقت دنیا میں مسیحیت کی اشاعت کے لئے جو بڑی بڑی انجمنیں سرگرمی اور مستعدی سے کام کر رہی ہیں ان کی تعداد سات سو ہے اور یہ صرف انگلینڈ اور پرائسٹس سوسائٹیاں ہیں۔ رومن کیتھولک، کلیسا کی جمعیتیں ان کے علاوہ ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جن ممالک میں اول الذکر انجمنوں کو باہمی امدادی ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔

امریکہ	۹۷ لاکھ	۳۶ ہزار	۸۳ پونڈ
کینیڈا	۷ لاکھ	۲۲ ہزار	۹۳ پونڈ

برطانی جماعتیں	۷ لاکھ	۶۹ ہزار	۳۵۳ پونڈ
ناروے، سویڈن	۷ لاکھ	۸۰ ہزار	۹۴۰ پونڈ
ہالینڈ، سوئٹزر لینڈ	۷ لاکھ	۸۰ ہزار	۹۴۰ پونڈ
جزئی		۶ ہزار	۳۹۵ پونڈ
میزان:	ایک کروڑ ۴ لاکھ	۱۳ ہزار	۸۴۶ پونڈ

اسی طرح تمام ممالک میں شلیٹ پھیلتی جاتی ہے اور یہ مرزا قادیانی کے وجود کی برکت ہے۔ احمدی دوستو! خدا را زبانی باتوں اور لکھے دار تقریروں کو چھوڑ کر دل میں سوچو کہ کیا مرزا قادیانی نے جو کام اپنا بتلایا تھا وہ کر گئے؟ مرزا قادیانی کا نامرادی اور ناکامی کی حالت میں تشریف لے جانا بہت بڑا صدمہ ہے اور اس صدمے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔

کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہو  
نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

## باب تصوف مرزا

### الحاد کی بنیاد

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”شرعی والہامی امور الگ الگ رہتے ہیں۔ اس لئے کشتی یا الہامی امور کو شریعت کے تابع نہیں رکھنا چاہئے۔ وحی الہی کا معاملہ اور ہی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک دو نظیریں نہیں۔ بلکہ ہزاروں نظائر موجود ہیں۔ بعض وقت ملہم کو الہام کی رد سے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی رد سے ان کی بجائے آوری درست نہیں ہوتی۔ مگر ملہم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی بجائے آوری میں ہمد تن مصروف رہے۔ ورنہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ شریعت اسے گنہگار نہیں ٹھہراتی۔ یہ تمام باتیں من لدنا علما کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ایک جاہل بے بصیرت بے شک اسے خلاف شریعت قرار دے گا۔ مگر یہ اس کی اپنی جہالت و کور باطنی ہے کہ ان باتوں کو خلاف شریعت سمجھے۔ دراصل اہل باطن کے لئے وہ بھی ایک شریعت ہوتی ہے۔ جس کی بجائے آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ ابتداء دنیا سے یہ باتیں دوش بدوش چلی آتی ہیں۔“

(اخبار الحکم ج ۷ ش ۲۳ ص ۱۵، مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۳ء، مندجہ خزینۃ العرفان ص ۵۸۲)

ناظرین! کیا اچھا عارفانہ و متصوفانہ نکتہ ہے۔ جس کو ہر ایک ملحد زندیق سامنے رکھ کر



خلاف شرع امور کو رواج دے سکتا ہے۔ جیسا کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو خلاف شرع امور سے رد کا جائے تو وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ تم کو حقیقت و معرفت و باطن کا علم نہیں۔

حضرات! یہ ہیں مسیح موعود، اسلام کے مصلح اعظم۔  
دوست ہی دشمن جاں ہو گیا اپنا حافظ  
نوش دارو نے کیا کیا اثر سم پیدا

## باب معیار مرزا

### پہلا معیار پیش گوئی

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۸، خزائن ج ۵ ص ۱۸۸) مطلب بالکل صاف ہے کہ مرزا قادیانی کا سچ جھوٹ پرکھنے کے لئے ان کی پیش گوئیوں سے بڑھ کر کوئی کسوٹی نہیں۔ سو جناب مرزا قادیانی کے فرمان کے مطابق ہم آپ کی پیش گوئیوں پر غور کرتے ہیں۔

## نکاح مرزا

### پہلی پیش گوئی

مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کے لئے ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔ جس کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ جناب مرزا قادیانی نے اپنے قریبی رشتہ میں ایک نو عمر لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا۔ جس کی بابت لکھتے ہیں۔ ”وہی حدیثۃ السنن وانا متجاوز علی الخمسین“ یعنی وہ لڑکی ابھی چھو کر ہی ہے اور میں پچاس سال سے زیادہ ہوں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۷۴، خزائن ج ۵ ص ۵۷۵)

اس لڑکی کے والد نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو مرزا قادیانی نے اعلان پر اعلان اور اشتہار پر اشتہار دینے شروع کر دیئے اور کہا کہ اس لڑکی کا نکاح خدا نے میرے ساتھ کر دیا ہے اور خدا نے مجھے بذریعہ الہام فرمایا ہے کہ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بیاہی گئی تو تین سال کے عرصہ میں اس کا خاوند مر جائے گا وہ بیوہ ہو کر میرے ساتھ بیاہی جائے گی۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”دعوت ربی بالتضرع والابتھال ومددت الیہ  
ایدی السؤال فالهمنی ربی وقال ساریهم . آیة من انفسهم واخبرنی وقال  
انی ساجعل بنتا من بناتہم . آیة لهم فسماہا بعد موتہا ولا یكون احدہما من  
العاصمین“ (سرورق کتاب کرامات الصادقین ص اخیر)

ترجمہ: میں (مرزا قادیانی) نے بڑی بڑی عاجزی سے دعا کی تو اس نے مجھے الہام کیا  
کہ میں ان (تیرے خاندان کے) لوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔

خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (محمدی بیگم) کا نام لے کر فرمایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی۔ اس کا  
خاوند اور باپ نکاح کے دن سے تیسرے سال تک فوت ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس لڑکی کو تیری  
طرف لائیں گے اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔

بظاہر تو یہ ایک پیش گوئی ہے۔ لیکن اس کے اندر کئی پیش گوئیاں ہیں جیسا کہ خود  
مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ..... اور پھر مرزا احمد بیگ  
ہوشیار پوری کے داماد (محمدی بیگم کے خاوند) کی مدت کی نسبت پیش گوئی جو پٹی ضلع لاہور کا باشندہ  
ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو اکیس ستمبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئے  
ہیں۔ (یعنی اگست ۱۸۹۳ء تک اس کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس سے آگے نہیں۔ حالانکہ وہ اب تک  
زندہ ہے) یہ تمام امور جو انسانی طاقت سے بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شناخت  
کے لئے کافی ہیں۔ ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں۔ وہ پیش گوئی جو مسلمان کی قوم سے تعلق رکھتی  
ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔

.....۱ کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔  
.....۲ اور پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں (محمدی بیگم کا شوہر ہے) اڑھائی سال کے اندر  
فوت ہو۔

.....۳ اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔  
.....۴ اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے (جو مرزا قادیانی  
سے ہونا تھا) فوت نہ ہو۔

.....۵ اور پھر یہ عاجز (مرزا قادیانی) بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔  
اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے  
انتہا میں نہیں۔ (شہادت القرآن ص ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کو بہت ہی عظیم الشان بتلایا ہے اور اس کے اجزاء بھی تفصیل سے بیان کر دیئے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی پر اتنا زور دیا ہے کہ اگر تمام عبارات متعلقہ پیش گوئی ہذا جمع کی جائیں تو ایک کتاب بن جائے گی۔ لیکن ہم مختصر اچند عبارتیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

۱..... ”سچ ہے وہ عورت (محمدی بیگم) میرے ساتھ بیانی نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔“ (الحکم ۱۱ اراکت ۱۹۰۱ء)

۲..... وہ عورت (محمدی بیگم) اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ (پھر کیا ہوا)

مرزا قادیانی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

۳..... ”خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“ (ازالہ اہام ص ۳۹۶، جزائن ج ۳ ص ۳۰۵)

جب مسأۃ مذکورہ کی شادی ہوگئی اور معترضین نے اعتراض کئے تو مرزا قادیانی نے جواب دیا۔

۴..... الجواب: وحی الہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیانی نہیں جائے گی۔ بلکہ یہ تھا کہ ضرور..... کہ اول دوسری جگہ بیانی جائے گی۔ سو یہ ایک پیش گوئی کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بیانی جانے سے پورا ہوا۔ الہام الہی کے یہ لفظ ہیں۔ ”سیکفکبہم اللہ ویردھا الیک“ یعنی خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ جو دوسری جگہ بیانی جائے گی خدا پھر اس کو تیری طرف لائے گا۔ (آخر میں فرماتے ہیں) پھر وہ چلی گئی اور قصبہ پٹی میں بیانی گئی اور وعدہ یہ ہے کہ پھر نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ سو ایسا ہی ہوگا۔“ (کیا ہوا) (الحکم ۲۰ جون ۱۹۰۵ء)

اس عبارت سے مرزا قادیانی کے عزم و استقلال کا کمال ثبوت ملتا ہے کہ باوجودیکہ منکوحہ دوسری جگہ بیانی گئی تھی۔ تاہم مرزا قادیانی امید لگائے بیٹھے ہیں کیا سچ ہے۔

سنہلنے دے ذرہ اے نا امید کی قیامت ہے

کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے

ناظرین! کیا ان عبارات کو دیکھ کر اس نکاح کے یقینی ہونے میں کسی قسم کا شبہ رہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ تاہم مرزا قادیانی نے اس نکاح کو رجسٹری بھی کرایا اور رجسٹری بھی کسی انگریزی محکمہ میں نہیں بلکہ محکمہ محمدیہ "علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام" میں اس کی تصدیق کرائی۔ تاکہ کسی مسلمان کو چھین و چرا کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ پس اس رجسٹری کی عبارت سنئے۔ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

۵..... "اس پیش گوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی پہلے سے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے۔ "یتزوج ویولد له" یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یتزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ یتزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان نیاہ دل معکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔" (ضمیمہ انجام آقلم ص ۵۳ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۳۷۷)

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ آسمانی نکاح مدینہ طیبہ کی عدالت عالیہ میں رجسٹری ہو چکا ہے۔ اس لئے ممکن نہیں کہ ظہور پذیر نہ ہو۔ بہت خوب۔ مگر کیا ہوا۔ آہ! اس کا جواب بڑا دلنگار ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا

ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

مرزا قادیانی نے اس نکاح کے لئے لالچ دیا۔ دھمکی بھی دی اور ہر ایک تدبیر کو کام میں لائے۔ لیکن خدا کی مرضی سے نامراد ہی رہے۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

۶..... "اس خدائے قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح

کے لئے سلسلہ جنابانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اسی شرط پر کیا جاوے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو ایشہار ۲۰ فروری ۱۸۸۰ء میں درج ہے۔ (یہ لالچ ہے) لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔" (یہ دھمکی ہے)

(ایشہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء، مندرجہ آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۶، خزائن ج ۵ ص ۲۸۶)

اس پیش گوئی نے امت مرزائیہ کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ فرماتا ہے۔ لیکن جناب مرزا قادیانی نے ان سب کا جواب دینے سے ہم کو سبکدوش فرما دیا ہے۔ کیونکہ آپ بذات خود اس پیش گوئی کے متعلق ایک اعلان دے چکے ہیں۔ جس کے سامنے اور کسی کی چل نہیں سکتی۔ امت مرزائیہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حضرت مرزا قادیانی کا فرمان سنیں۔ حضرت موصوف فرماتے ہیں۔ ”نفس پیش گوئی اس عورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح میں آنا تقدیر مبرم (ان ٹل) ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے۔“ لا تبدیل لکلمات اللہ “یعنی میری (اللہ کی) یہ بات نہیں ٹلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔“

(اشہار ۱۶ اکتوبر ۱۸۹۳ء، مندرجہ کتاب تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۱۱۵، مجموعہ اشہارات ج ۲ ص ۹۵)

ناظرین! اس سے بڑھ کر بھی کوئی صاف گوئی ہوگی۔ جو حضرت مرزا قادیانی نے اس عبارت میں فرمائی ہے۔ بات بھی صحیح ہے کہ خدا جس امر کی بابت خبر دے پھر اس کی تائید کے لئے لا تبدیل فرمائے۔ پھر وہ تبدیل ہو جائے۔ تو خدائی کلام کے جھوٹ ہونے میں کچھ شک رہتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نکاح مرزا قادیانی سے ہو گیا۔ آہ! اس کا جواب بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کے دن بیچارے اس حسرت کو اپنے ساتھ قبر میں لے گئے۔ اب ان کی قبر سے گویا یہ آواز آتی ہے۔

جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا

ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

کیا کسی نبی کی ایسی حتمی اور قطعی پیش گوئی جھوٹی نکلی؟ جس کو اس نبی نے اپنے صدق یا کذب کا معیار ٹھہرایا ہو اور خدا نے بار بار اس کو پورا ہونے کی تاکید فرمائی ہو تو پھر خدا کا کیا اعتبار رہا؟ جو انسان سے بھی زیادہ جھوٹا ہو۔ وہ خدا کیسا؟ کیونکہ اتنے پختہ وعدہ کا تو انسان بھی کچھ پاس کرتا ہے۔ خدا تو خدا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”وہ (خدا) ہر بات پر قادر ہے۔ مگر اپنی صفات قدیمہ اور اپنے عہد اور وعدے کے برخلاف نہیں کرتا اور سب کچھ کرتا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۸۷، خزائن ج ۳ ص ۳۰۱)

۴ اور (توضیح مرام ص ۸، خزائن ج ۳ ص ۵۵) پر فرماتے ہیں ”کیا ایسے بزرگ اور حتمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا؟ ان لغو باتوں سے خدا تعالیٰ کی کسر شان اور کمال درجہ کی بے ادبی نہیں ہوگی؟“ (ضرور ہوگی)

## نکاح کا الہام تھا اور نکاح نہیں ہوا

(مولوی محمد علی ایم۔ اے امیر جماعت احمدیہ لاہور کا قول)

شہد شاہد من اہلہا

مولوی محمد علی صاحب لاہوری احمدی جماعت کی ایک شاخ کے امیر ہیں۔ آپ اس پیش گوئی کی نسبت جو رائے رکھتے ہیں۔ وہ قابل دید و شنید ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ”یہ سچ ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا اور یہ بھی سچ ہے کہ نہیں ہوا۔“

(اخبار پیغام صلح لاہور ۱۶ جنوری ۱۹۲۱ء)

## دوسری پیش گوئی

داماد احمد بیگ سلطان خاوند محمدی بیگم کی موت کے متعلق

جناب مرزا قادیانی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ (سلطان محمد) کی تقدیر مبرم (ان ٹل) ہے۔ اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔“ (انجام آتھم ص ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱) اس میں مرزا قادیانی صاف فرما رہے ہیں کہ اگر سلطان محمد کی موت کی پیش گوئی جس کی میعاد اگست ۱۸۹۳ء تک ہے۔ کماز پوری نہ ہوئی۔ یعنی وہ اس میعاد کے اندر نہ مرا۔ تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی انتقال فرما گئے اور سلطان محمد اب تک زندہ ہے۔

اب ہم ایک آخری فیصلہ سناتے ہیں۔ جو مرزا سلطان محمد (رقیب خاص) کے نہ مرنے کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنے حق میں کیا ہوا ہے۔ رسالہ ضمیمہ انجام آتھم میں اس پیش گوئی پر بحث کرتے ہوئے اس کے دو جز قرار دیئے ہیں۔ ایک مرزا احمد بیگ والد منکوہ کی موت، دوسرا سلطان محمد کی موت اس دوسرے جز کی بابت فرماتے ہیں۔ ”یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احمق! یہ انسان کا افتراء نہیں نہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۸)

بالکل ٹھیک ہے خدا کی باتیں نہیں ملتیں اور جوئل جائیں وہ خدا کی باتیں نہیں۔ ”امننا

و صدقنا“

اب ہم مرزا قادیانی کا آخری نوٹس ان کے مریدوں کو سنا کر ایک سوال کرتے ہیں۔  
مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”چاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیش گوئی کے انجام کے منتظر  
رہے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو  
جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی  
تکوار سے نکلے نکلے نہیں ہو جائیں گے۔ ان یہ قوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت  
صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو بندروں اور سوروں  
کی طرح کر دیں گے۔“ (ضمیمہ انجام آختم ص ۵۲، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۶)

احمدی دوستو! سنتے ہو مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے نہ کہ اس  
پیش گوئی کے خاتمہ پر ایسا ہوگا۔ واقعہ جس کے خلاف ہوگا پھر کیا ہوا؟ بس تم خود سمجھ لو۔

اگر گوتم زباں سوزد

آہ! مرزا قادیانی اس حسرت کو دل ہی میں لے گئے۔ بلکہ آج ان کی قبر سے گویا آواز  
آ رہی ہے۔ جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال۔ اب آرزو یہ ہے کہ کبھی آرزو نہ ہو۔  
تیسری پیش گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم کے متعلق

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”ہالہ آخری دشمن ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام  
عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس  
کی زندگی میں ہی ۳۱ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان  
ہوگا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۲۱، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۷)

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مرزا قادیانی عبدالحکیم کی پیش گوئی کے مطابق ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کے  
دن دارفانی سے کوچ کر گئے۔ عبدالحکیم کی پیشین گوئی کے مقابل مرزا قادیانی نے بھی عبدالحکیم کی  
ہلاکت کی پیش گوئی کی تھی۔ لیکن وہ صاف طور پر جھوٹی نکلی۔ پیش گوئی کی عبارت سنئے۔  
مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب  
میں مبتلا کیا جائے اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ  
مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں  
صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، حصہ دوم، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۷)

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا ذب تھے۔ ورنہ خدا ان کی مدد کرتا اور ان کے دشمن عبدالحکیم کوان کے سامنے ان کی پیش گوئی کے مطابق ہلاک کرتا۔ باوجودیکہ مرزا قادیانی نے یہ دعا بھی کی ”رب فرق بین صادق وکاذب انت تری کل مصلح وصادق“ یعنی اے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھا۔ تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے (اور عبدالحکیم کو یہ پیش گوئی بھی سنائی) کہ فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔“

(دیکھو اشتہار ملحقہ حقیقت الوحی ص ۳۹۲، خزائن ج ۲۲ ص ۴۱۱)

مگر نہ دعا ہی قبول ہوئی اور نہ فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار نے عبدالحکیم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ مرزا قادیانی کی بہت سی پیش گوئیاں اور الہامات اور دعائیں غلط اور جھوٹی ثابت ہوئی ہیں۔ مثلاً منشی عبداللہ آتھم والی پیش گوئی جو صاف طور پر جھوٹی نکلی مولانا محمد حسین صاحب بنا لوی مرحوم و ملا محمد بخش مالک اخبار جعفر زٹلی لاہور اور مولوی ابوالحسن تبتی کے متعلق پیش گوئی کی۔ جو سراسر جھوٹی نکلی۔ حفاظت قادیان از طاعون والی پیش گوئی بھی غلط نکلی۔ مولانا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ جس میں مرزا قادیانی صاحب صریحاً کاذب ٹھہرے۔ اپنی عمر کا الہام بالکل جھوٹا نکلا۔ مکہ یا مدینہ میں مرنے کا الہام بھی غلط نکلا۔ غرضیکہ بہت سے الہامات و پیشین گوئیاں اور دعائیں اور مکاشفات جھوٹے ثابت ہوئے۔ جن کی اگر تفصیل کی جائے تو ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں چونکہ اختصار مطلوب ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ہم اس شعر پر ختم کرتے ہیں۔

کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا

نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

اور ناظرین کے سامنے دوسرا معیار پیش کرتے ہیں۔

دوسرا معیار کذب مرزا

جھوٹ جو بولے گا وہ پچھتائے گا

سچ بھی اس کا جھوٹ سمجھا جائے گا

جناب مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کی بہت مذمت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی گناہ نہیں۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۲۶، خزائن ج ۲۲ ص ۴۵۹)



.....۲ ”ظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں پر بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

.....۳ ”جو لوگ دنیا کی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ ان کا فرض ہوتا ہے کہ سچائی کو زمین پر پھیلا دیں اور جھوٹ کی بیخ کنی کریں۔ وہ سچائی کے دوست اور جھوٹ کے دشمن ہوتے ہیں۔“ (ریویو ج ۲ ص ۴۰۹)

لیکن جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔ مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی جھوٹ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ بطور نمونہ ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

### پہلا جھوٹ

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

.....۱ ”اگر حدیث کے بیان پر اعتماد ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے۔ جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی۔ ”ہذا خلیفہ اللہ المہدی“ اب سوچو یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔“

(شہادۃ القرآن ص ۴۱، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷)

مرزا قادیانی نے یہ بالکل جھوٹ بطور دھوکہ دہی لکھا ہے کہ: ”ہذا خلیفہ اللہ المہدی“ بخاری کی حدیث ہے۔ امت مرزا سیہ ہمت کر کے بخاری میں یہ حدیث دکھائیں اور اپنے مرشد کو جھوٹ سے بری ثابت کریں۔

### دوسرا جھوٹ

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

.....۲ ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا کہ: ”کمان فی الہند نبیاً اسود اللون اسمہ کاہنأ“ یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا۔ یعنی گھنیا جس کو کرشن کہتے ہیں۔“ (تمہ چشمہ معرفت ص ۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۲۸۲)

یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ: ”کان فی الہند نبیاً اسود للون اسمہ کاهناً“ اگر امت مرزائیہ مرزا قادیانی کو جھوٹ سے بری سمجھتی ہے تو کسی حدیث کی کتاب سے ”کان فی الہند نبیاً“ نکال کر دکھائے۔ ورنہ اپنے پیر کے کذب کا اقرار کرے۔ درحقیقت یہ جھوٹ خود کرشن بننے کے لئے گھڑا گیا ہے۔ پہلے کرشن جی مہاراج کو جھوٹ بول کر نبی ثابت کیا اور پھر خود کرشن بن بیٹھے۔ جیسا کہ خود فرماتے ہیں: ”ہر ایک نبی کا نام مجھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو درگوپال بھی کہتے ہیں۔ یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے۔ آری یہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں۔ وہ کرشن میں ہی ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا بادشاہ۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۲)

مرزا قادیانی نے لوگوں کو جس چیز کا انتظار کرنے ہوئے دیکھا اسی کا دعویٰ کر دیا۔ ہندوؤں کو کرشن کے ظہور کا منتظر دیکھا تو کہہ دیا کہ میں کرشن ہوں۔ مسلمانوں کو امام مہدی علیہ السلام کا منتظر دیکھ کر فرمایا کہ میں عیسیٰ و مہدی سب کچھ میں ہی ہوں۔ اگر آپ کرشن ہیں تو گویاں کہاں ہیں؟

تیسرا جھوٹ

۳..... ”مولوی غلام دہگگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی محمد اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔ وہ ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کاذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۱۱، خزائن ج ۱ ص ۳۹۷)

امت مرزائیہ بتلائے کہ ان دونوں صاحبان نے کہاں ایسا لکھا ہے۔ یہ بالکل مرزا قادیانی کا سفید جھوٹ ہے کہ مولوی غلام دہگگیر قصوری اور مولوی محمد اسماعیل علی گڑھی نے ایسا لکھا ہے۔ اگر بقول مرزا قادیانی ان کی تصانیف پچھیا میں شائع ہو چکی ہیں تو کوئی مرزائی بتلائے کہ وہ کونسی کتابیں ہیں اور ان میں وہ مضمون کہاں لکھا ہے۔ جس کو مرزا قادیانی ان صاحبان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ورنہ اپنے مسیح کے کذب کا اقرار کر لیجئے کہ آپ کو جھوٹ بول کر اپنی

صداقت ثابت کرنے کی بھی عادت تھی۔ اس جگہ تو کہتے ہیں کہ: ”ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک شخص جو تصور ضلع کا رہنے والا تھا اٹھا اور نام اس کا غلام دستگیر تھا اور مولوی کہلاتا تھا۔ اس نے کاذب ٹھہرا کر دعا کے ذریعہ میری ہلاکت چاہی اور جھوٹے پر عذاب مانگا اور اس میں ایک رسالہ بھی لکھا۔ مگر اس رسالہ کو ابھی شائع نہ کرنے پایا تھا کہ وہ اپنی اسی بدعا کے اثر سے ہلاک ہو گیا۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۲۰ حصہ دوم، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۶)

اس جگہ اقرار ہے کہ وہ رسالہ شائع نہیں ہوا اور اربعین کے حوالہ گزشتہ اور حقیقت الوحی اور اعجاز احمدی وغیرہ میں صاف تصریح ہے کہ رسالہ شائع ہو چکا تھا اور حقیقت الوحی وغیرہ میں اس کا نام فتح الرحمانی بتایا ہے اور اس کے صفحات کے حوالے بھی دیئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ مرزا قادیانی کو ایک جھوٹ بولنے کے لئے دوسرا جھوٹ اور دوسرے کے لئے تیسرا جھوٹ گھڑنا پڑا ہے اور حقیقت میں نہ کوئی ایسا رسالہ شائع ہوا اور نہ اس میں ایسا لکھا گیا جس کو مرزا قادیانی ان دونوں صاحبوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیا نبی اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں جس طرح مرزا قادیانی؟ اور باوجود اس کے پھر بھی قمر انبیاء اور مرسل ربانی، نبی حقانی، مسیح قادیانی محمد ثانی، خلیفہ رحمانی آئی بانی تانی وغیرہ کی گردان پڑھی جاتی ہے۔

چوتھا جھوٹ

۳..... ”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۲۰، ۲۱، خزائن ج ۱ ص ۷، ۶، ۴۰)

یہ مرزا قادیانی کا بالکل سفید جھوٹ ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ اسلامی علماء ایسا کریں گے۔ امت مرزائیہ بتائے کہ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے اور کس حدیث میں ایسا آیا ہے۔ کوئی ایک ہی حدیث بتا دی جائے۔ مرزا قادیانی یہ گھنٹا دھوکہ کے لئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تاکہ مسلمان علمائے اسلام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے جھوٹ پر افتراء، غلط گوئی تحریف قرآنی تفسیر نفسانی پر ایمان لے آئیں۔ مرزا قادیانی کے دھوکے اور جھوٹ تو بہت ہیں۔ لیکن بوجہ اختصار بطور نمونہ چند ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

## تیسرا معیار الہام مرزا

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں:

”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم“ ﴿اور ہم نے ہر ایک رسول کو اس کی قوم کی زبان میں الہام دے کر بھیجا ہے۔ تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے۔﴾  
اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی و رسول کو اسی زبان میں الہام کیا ہے جو زبان اس نبی کی قوم کی تھی۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو عربی زبان میں قرآن مجید دیا گیا۔ کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عربی تھی۔ اسی طرح ہر ایک نبی کو اس کی قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے ہیں۔

باوجودیکہ محمد رسول اللہ ﷺ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں اور دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں دیا گیا۔ کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عربی تھی اور اس معیار کا خلاف ثابت نہیں۔

یہ تو ہوا قرآنی معیار لیکن مرزائی آیات کی گردن مروڑ کر اپنے توہمات کے موافق بنانے کے چونکہ عادی ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ اس کی بھی کوئی باطل تاویل کر لیں۔ لہذا ان کے لئے مرزا قادیانی کا فرمان پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

..... ”اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا۔ جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

نیز فرماتے ہیں۔ ”پس یاد کرنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت رہی ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۰۹، ۲۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

جناب مرزا قادیانی کے نزدیک کسی انسان کو ایسی زبان میں الہام ہونا جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے اور سنت اللہ بھی یہی ہے کہ ہر قوم کو اس کی زبان میں ہدایت کی جائے۔ ہم مرزا قادیانی ہی کے مقرر کردہ معیار کو لے کر ان کے الہامات کو پرکھتے ہیں۔

سو جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”میں انگریزی سے بالکل بے بہرہ ہوں۔ تاہم خدا تعالیٰ نے بعض پیش گوئیوں کو بطور موہبت انگریزی میں میرے پر ظاہر فرمایا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۶)

اور (حقیقت الوحی ص ۳۰۲، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۷) پر فرماتے ہیں: ”میں انگریزی خواں نہیں ہوں اور بلکہ اس زبان سے ناواقف ہوں۔“ مرزا قادیانی تسلیم کرتے ہیں کہ میں انگریزی زبان سے بالکل بے بہرہ اور ناواقف ہوں۔ باوجود اس کے مرزا قادیانی کو انگریزی میں الہامات ہوئے ہیں۔ سنئے فرماتے ہیں۔

**God is coming by his army. He is with you to**

**kill enemy.**

(تلفظ اردو میں) گاڈ از کمنگ بی ہز آرمی۔ ہی از ود یو ٹو کل انیمی۔

(ترجمہ از مرزا قادیانی) خدا تمہاری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلا آتا ہے۔ وہ دشمن کو

ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۳۰۳، ۳۰۴، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۶، ۳۱۷)

انگریزی اور تلفظ اردو میں اور ترجمہ سب کچھ مرزا قادیانی کا ہے۔

مرزا قادیانی کو اور بھی انگریزی میں بہت الہام ہوئے ہیں۔ بوجہ اختصار نمونہ نقل کر دیا

گیا ہے۔

۲..... ”هو شعنا نعسا“ یہ الہام شاید عبرانی ہے۔ جس کے معنی نہیں کھلے۔

(البشری ص ۴۳، جلد اول)

دیکھئے مرزا قادیانی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ الہام کس زبان کا ہے۔ فرماتے ہیں شاید

عبرانی ہو۔ واہ رہے رسول قادیانی۔ پھر فرماتے ہیں جس کے معنی نہیں کھلے۔ پھر الہام کس واسطے

ہوا؟ یہ کوئی تشابہات میں سے تو نہیں۔

۳..... ”ایلی آوس۔ باعث سرعت ورد مشقہ رہا ہے اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے

ہیں۔“ (بشری ج ۱ ص ۳۶) جبرائیل کو کہا ہوتا کہ اتنی جلدی نہ کرتے۔

۴..... ”پریشن، عمر براطوس، یا پلاطوس۔“

نوٹ: آخری لفظ پڑطوس ہے یا پلاطوس ہے۔ باعث سرعت الہام دریافت نہی ہوا

اور نمبر ۲ میں عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ براطوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور

کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔“ (بشری ج ۱ ص ۵۱)

سبحان اللہ! یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کس زبان کے لفظ ہیں۔ معنی معلوم ہونا تو کجا۔  
اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسی زبان میں الہام کرنا جس کو رسول قادیان بالکل نہیں  
جانتے تھے۔ جیسے انگریزی یا ایسی زبان میں الہام کرنا جس کی قرآن انبیاء سے تعین بھی نہ ہو سکی۔  
جیسا ”ھوشعنا نعسا“

یا ایسا الہام نازل کرنا جس کے متعلق مسیح قادیانی کو یہ بھی علم نہیں کہ یہ کس زبان کے  
الفاظ ہیں۔ جیسے پریٹن، براٹوس وغیرہ تو اس قسم کے الہامات کا فائدہ ہی بقول مرزا قادیانی  
کیا ہوا؟

اور پھر بقول مرزا قادیانی کیا یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر نہیں؟ کہ مرزا قادیانی کی  
اصل زبان تو اور ہو اور الہام ان کو اور زبانوں میں ہو۔ جن کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ خود تسلیم  
کرتے ہیں۔ پھر کیا جس کو غیر معقول اور بیہودہ الہام ہو۔ وہ نبی ہو سکتا ہے۔ نبی کیا ایسا شخص تو ولی  
بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر معقول اور بیہودہ الہام کو خدا کی طرف  
منسوب کرنا افتراء علی اللہ ہے اور افتراء علی اللہ کفر ہے۔ فافہم!

جب مرزا قادیانی کی اصل زبان پنجابی تھی تو ان کو پنجابی میں تمام الہام کیوں نہ  
ہوئے؟ سوائے چند الہاموں کے باقی تمام الہامات دوسری زبانوں مثلاً انگریزی، فارسی، عربی،  
ہندی، عبرانی وغیرہ میں کیوں ہوئے؟ کیا کوئی ایسا نبی ہوا ہے؟ جس کو اس کی اصلی زبان میں  
صرف چند الہام ہوئے ہوں اور باقی تمام الہامات دوسری مختلف زبانوں میں ہوئے ہوں۔ نظیر  
پیش کرو۔ ورنہ مرزا قادیانی کے کذب کا اقرار کرو۔ بتاؤ کیوں مرزا قادیانی کو قرآنی معیار کے  
برخلاف الہام ہوئے۔ کیا اب بھی مرزا قادیانی کو نبی مانو گے؟

مرزا قادیانی کے مقرر کردہ معیار اور بھی ہیں۔ جن پر مرزا قادیانی جھوٹے ثابت  
ہوتے ہیں۔ لیکن اختصار کی وجہ سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب ہم ناظرین کو دوسرے عالم کی  
سیر کراتے ہیں۔

کیا مرزا قادیانی عورت تھے؟

### باب چہمں مرزا

”یریدون ان یروا طمٹک یعنی وہ تیرا حیض دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔“  
مرزا قادیانی خود اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ ”یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض

دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا۔ جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔“

(تحریر حقیقت الوحی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

مرزا قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ اب حیض نہیں۔ اب بچہ بن گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے مرزا قادیانی میں حیض تھا۔ کیا ایسا الہام کسی نبی کو ہوا ہے؟ اور اگر حیض سے مراد پلیدی اور ناپاکی روحانی ہے۔ یعنی گناہ، تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی گنہگار تھے اور نبی گنہگار نہیں ہوتا۔ بلکہ معصوم ہوتا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی نبی نہ ہوئے۔

۲..... مرزا قادیانی کے ایک مرید قاضی یار محمد صاحب بی۔ او۔ ایل پلیڈر اپنے (ٹریکٹ نمبر ۳۳ موسوم بہ اسلامی قربانی ص ۱۲، مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر) میں لکھتے ہیں۔ ”جیسا کہ حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) نے ایک موقعہ پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے۔“ استغفر اللہ!

### باب حمل مرزا

۳..... جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور کئی مہینوں کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں۔ (یعنی حمل کی مدت کے قریب قریب) بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵۶) میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بتایا گیا۔“

(کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۱)

مرزا قادیانی نے کتنا بڑا اکمال کیا ہے کہ پہلے مریم بنے حاملہ ہوئے۔ پھر عیسیٰ بن گئے۔ (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۵) کے حاشیہ میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: ”پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔“

خود کوزہ و خود کوزہ گرد خود گل کوزہ

مداری کی طرح بہت تھوڑی مدت میں غلام احمد سے مریم اور مریم کو حمل اور حمل سے عیسیٰ مسیح کلاویانی پیدا ہوئے۔ لہذا مرزا قادیانی ابن مریم ہیں۔ اب کسی کو حق نہیں کہ یہ اعتراض

کرے کہ آنے والا مسیح تو ابن مریم ہے۔ آپ کیسے مسیح بن گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تو چراغ بی بی ہے۔ (عوام میں جو گھسیٹی مشہور ہے وہ غلط ہے) کیونکہ تجویز مذکورہ سے آپ ابن مریم بن گئے ہیں۔ ابن مریم بننے کے لئے مرزا قادیانی نے بہت ہی مشقت اٹھائی ہے۔ ہم ان کی محنت کی داد دیتے ہیں

### باب مخاض مرزا (دروزہ)

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”اور پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے۔ دروزہ سنہ کھجور کی طرف لے آئی۔“ (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۱)

کیا کسی اور نبی نے بھی دوسرے نبی کا لقب حاصل کرنے کے لئے یہ تجویز نکالی تھی کہ میں فلاں نبی کی والدہ ہوں اور پھر اس والدہ کو جس سے مراد میں ہوں۔ حمل ہوا۔ پھر وہ نبی یعنی میں پیدا ہوا۔ لہذا میں فلاں نبی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصاً اس تجویز کی بہت ضرورت تھی۔ کیونکہ یہودی بقول مرزا قادیانی اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کہ ان کے گمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے الیاس نبی کا دوبارہ آسمان سے نازل ہونا ضروری ہے۔ پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مرزا قادیانی کی طرح حاملہ ہو کر الیاس بننے کی کوشش کی تھی؟

ماں بنے! بچے بنے! پھر باپ بچے کے بنے!

### باب عیسیٰ علیہ السلام اور مرزا قادیانی کا تعلق

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

۱..... ”میری مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہے کہ ملا اعلیٰ میں دونوں میں تمیز مشکل ہے۔“ (کیا کہنا)

اور (تبلیغ ص ۷۹، ۸۰) میں اس سے بھی بڑھ کر اتصال ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ: ”وہ تخمیل سے بڑھ کر ہے۔“ اور کشتی نوح میں فرماتے ہیں:

۲..... ”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔“ (حاشیہ کشتی نوح ص ۶۵، خزائن ج ۱۹ ص ۷۰)

جب عیسیٰ علیہ السلام بقول مرزا قادیانی شراب خور تھے اور وہ عیب بھی عیسیٰ علیہ السلام میں بقول مرزا قادیانی نعوذ باللہ موجود تھے جن کا ذکر باب توہین عیسیٰ علیہ السلام میں گزر چکا ہے اور مرزا قادیانی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا تعلق اور اتصال ہے کہ دونوں میں تمیز مشکل ہے:



- .....۱ تو کیا مرزا قادیانی بھی شراب پیا کرتے تھے؟
- .....۲ کیا مرزا قادیانی کی پیدائش ناجائز طریق سے تھی؟
- .....۳ کیا مرزا قادیانی بھی ناپاک خیال، متکبر، راستبازوں کے دشمن تھے؟
- .....۴ کیا مرزا قادیانی بھی کسی لڑکی پر عاشق ہوئے تھے؟
- .....۵ کیا آپ کسی جوان بے تعلق عورت سے تعلق رکھتے تھے؟
- .....۶ کیا زنا کی کمائی کا عطر ملوایا کرتے تھے؟
- .....۷ کیا جھوٹ بولنے کی آپ کو اکثر عادت تھی؟

الغرض عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات مرزا قادیانی نے لگائے ہیں وہ سب مرزا قادیانی میں موجود تھے؟۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور مرزا قادیانی کا وجود بقول مرزا قادیانی ایک ہی ہے اور مرزا قادیانی ابن مریم کے وجود کے کٹڑے ہیں۔

### باب اختلاف مرزا

ویسے تو ناظرین کو گزشتہ ابواب سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مرزا قادیانی کے کلام میں کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اب ہم خصوصیت سے ایک باب میں مرزا قادیانی کے اختلاف کا نمونہ دکھاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ”ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً“ ﴿یعنی یہ کلام اللہ کے سوائے اور کسی کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے۔﴾

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سچے اور جھوٹے مدعیان الہام کی شناخت کا ایک عظیم الشان معیار بتایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن شریف ہماری طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ جو الہام خدا کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا اور جو خدا کی طرف منسوب کیا جائے اور درحقیقت خدا کی طرف سے نہ ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ پس جس کلام میں اختلاف ہوگا وہ خدائی کلام نہیں کہلا سکتا۔

مرزا قادیانی نے بھی اس معیار کو (چشمہ معرفت ص ۱۹۰، خزائن ج ۲۳ ص ۱۹۸) میں تسلیم کیا ہے اور مست بچن میں فرماتے ہیں: ”جو پرلے درجے کا جاہل ہو جو اپنے بیانوں میں متناقض بیانوں کو جمع کرے اور اس پر اطلاع نہ رکھے۔“ (حاشیہ بہت بچن ص ۳۲، خزائن ج ۱۰ ص ۱۳۰) اسی کتاب (مست بچن ص ۳۰، ۳۱، خزائن ج ۱۰ ص ۱۳۲، ۱۳۳) میں فرماتے ہیں: ”ظاہر ہے

کہ سچا اور عقلمند صاف دل انسانوں کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون اور ایسا منافق ہو..... الخ۔“

اب ان حوالوں کی رو سے دیکھئے۔ مرزا قادیانی بقول خود کیسے پرلے درجے کے جاہل، مجنون، بے عقل، پاگل اور منافق ثابت ہوتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی تصانیف و تالیفات کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وقت اور موقع کی مناسبت دیکھ کر لکھتے اور کہتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں کثرت سے اختلاف پائے جاتے ہیں اور اختلافات بھی معمولی نہیں بلکہ اصولی۔ اس سخن آرائی کی بدولت مرزا قادیانی کی حالت ان اشعار کی مصداق تھی:

ہے مرد سخن ساز بھی دنیا میں عجیب چیز  
 پاؤ گے کسی فن میں کہیں بند نہ اس کو  
 موجود سخن گوہن جہاں وہاں ہیں طیب آپ  
 اور جاتے ہیں بن آپ طیبیوں میں سخن گو  
 دونوں میں سے کوئی نہ ہو تو آپ ہیں سب کچھ  
 پر مسخ ہیں جس وقت کہ موجود ہوں دونوں

اور اس ضرب المثل کے آپ پورے مصداق تھے۔ پیش ملا طیب و پیش طیب ملا  
 و پیش ہر دو ہیچ و پیش ہیچ ہر دو۔

اب مرزا قادیانی کی تناقض باتیں اور اختلافات سنئے:

۱..... دعویِٰ محدثیت اور نبوت کا انکار و اقرار

الف..... مرزا قادیانی سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں دعوے نبوت کیا ہے۔ جواب دیا کہ نبوت کا دعوے نہیں۔ بلکہ محدثیت کا دعوے ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔“  
 (ازالہ اوہام ص ۲۴۷، خزائن ج ۳ ص ۶۰)

ب..... (توضیح مرام ص ۴۷، خزائن ج ۳ ص ۷۵) میں بھی جو الہامی کتاب ہے اپنا محدث ہونا درج کیا ہے۔

ج..... حماستہ البشری میں بھی محدثیت کا ہی اقرار ہے۔ (ص ۷۹، خزائن ج ۳ ص ۲۷۹)  
 جب نبی بننے کی فکر دماغ میں گہری ہوئی تو مذکورہ بالا تحریروں کو بھلا کر لکھتے ہیں: ”اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کہ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر

کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی لغت کسی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔“ (دیکھو اشتہار ایک غلطی کا ازالہ، جزائن ج ۱۸ ص ۲۰۹)

حوالہ: الف میں محدث کا اقرار ہے اور نبوت کا انکار مگر عبارت ایک غلطی کا ازالہ میں نبوت کا دعوے ہے اور محدثیت سے انکار۔ پس بقول خود نہ آپ محدث ہیں نہ نبی۔ کیا کوئی ایسا نبی ہوا ہے جس نے پہلے مجد ہونے کا دعوے کیا ہو، پھر محدث ہونے کا، پھر تد ر سبجانی بن گیا ہو۔ اگر سابق انبیاء میں اس کی نظیر نہیں تو مرزا قادیانی بقول خود جھوٹے ثابت ہوئے۔

## ۲..... متعلق کفر و اسلام محمدیاں

الف..... مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کا انکار کرنے والے کو کافر کہتا۔ یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گو وہ کسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔“ (تزیین القلوب حاشیہ ص ۱۳۰، جزائن ج ۱۵ ص ۳۳۲)

ب..... ”جو شخص ایک نبی متبوع (محمد) علیہ السلام کا قبیح ہو اور اس کے فرمودہ پر اور کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناجسبی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرائیں۔ بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لادیں۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں وہی اسلام ہے جو پہلے تھا۔ وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں۔ وہی رسول مقبول ﷺ ہیں جو پہلے تھے اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات چھوڑنی نہیں پڑی۔ جس سے اس قدر حیرانی ہو۔ مسیح موعود کا دعویٰ اس حالت میں گراں اور قابل احتیاط ہوتا کہ جب کہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دین کے احکام کی کمی بیشی ہوتی اور ہماری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے کچھ فرق رکھتی۔“ (فرق آگے آتا ہے) دعویٰ مسیح موعود کا اسلامی اعتقادات پر کچھ اثر نہیں۔ (پھر اپنے منکروں پر کفر کا فتویٰ کیوں دیا)

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۹، جزائن ج ۵ ص ۳۳۹)

مذکورہ بالا نرمیوں کو دیکھو جو ایک نئے دوکاندار کے لئے لازمی ہیں۔ اس کے بعد جب ذرا دوکان جمی اور خریداروں کی تعداد بڑھی پھر تو وہ گرم مزاجیاں دکھائیں کہ جو قابل دید و شنید ہیں۔ ان دونوں حوالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ اب

وہ گرم مزاجیاں ملاحظہ فرمائیے۔ جو بعد میں ظہور پذیر ہوئیں۔ چنانچہ جناب حضرت مرزا قادیانی ارشاد فرماتے ہیں۔

ج..... ”جو شخص تیری (مرزا قادیانی کی) پیروی نہ کرے گا اور بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا۔ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۵، مندرجہ اشتہار معیار الاخیار ص ۸)

..... انجمن حمایت الاسلام لاہور کے علماء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ: ”تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ کیونکہ تمہارے حسب حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وما دعا الکافرین الا فی ضلال“ (دفع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۲)

اس میں صاف تصریح ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔

..... ”قطع دابر القوم الذین لا یؤمنون“ یعنی جو قوم مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لائے گی۔ اس کی جڑ بنیاد کاٹ دی جائے گی۔“ (الہام مندرجہ بدر مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء)

..... مرزا قادیانی کا الہام نص صریح ہے اور نص صریح کا منکر کافر ہے۔

(الحکم مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۹ء)

..... ”اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ: ”یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔“ (انجام آتھم ص ۶۲، خزائن ج ۱۱ ص ۶۲)

..... ”پس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکلف اور مکذّب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم سے ہو۔“ (اربعین نمبر ص ۳۳، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۴۱۷)

لاہوری احمدی بتلائیں کہ اگر مرزا قادیانی نے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور انکے انکار سے کوئی کافر نہیں بنتا تو متردد کے پیچھے نماز پڑھنا مرزا قادیانی نے کیوں قطعی حرام قرار دیا ہے؟

لاہوری اور قادیانی دونوں جواب دیں کہ مرزا قادیانی کا یہ فرمانا کہ میں کوئی نیا حکم نہیں لایا۔ کسی طرح صحیح سمجھا جاسکتا ہے؟ جب کہ مرزا قادیانی کی رسالت میں شک کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا قطعی حرام ہو گیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی سے پہلے ۱۳ سو سال تک اسلام کا یہ حکم تھا۔ ”صلوا خلف کل برو فاجر“ (مشکوٰۃ) یعنی ہر ایک نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنا

۱۔ مرزا قادیانی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

دوسرے، تیرہ سو سال تک اسلام کا یہ حکم تھا کہ کسی مجدد، محدث، ولی، قطب، غوث کے انکار سے مسلمان کافر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی خود اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ (کما مر)  
لیکن مرزا قادیانی ایسے محدث ہوئے کہ اس حکم کو بھی منسوخ کر کے اپنے منکرین کو کافر قرار دیا۔

تیسرے، جہاد کو حرام قرار دے کر جہاد کی فرضیت کو قیامت تک کے لئے منسوخ کر دیا۔ حالانکہ احادیث میں صاف تصریح ہے کہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ اگر اس کو نسخ نہیں کہتے تو نسخ کس بلا کا نام ہے؟

ط..... ”بہر حال خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷)

ع..... خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب مرزا قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں۔

اسم او اسم مبارک ابن مریم نہند  
آں غلام احمد است و میرزائے قادیان  
گر کے آرد شکے در شان او آں کافر است  
جائے او باز جہنم بیشک وریب وگماں

(الحکم ۱۷ اگست ۱۹۰۸ء)

خلیفہ صاحب کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ میں شک کرنے والا کافر اور جہنمی ہے اور جو مرزا قادیانی کا صاف انکار کرنے والے ہیں وہ تو ضرور ہی کافر ہوں گے۔  
ف..... ایک دوسری جگہ خلیفہ صاحب نے بالکل صاف فیصلہ کر دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں مرزا قادیانی کے تمام دعاوی کو دل سے مانتا اور یقین کرتا ہوں اور ان کے معتقدات کو مدارجات ماننا میرا ایمان ہے۔“

(بدر مئی ۱۹۱۳ء)

جناب مرزا قادیانی ایک سائل کا سوال نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔

ق..... ”سوال نمبر ۶ حضور عالی (مرزا قادیانی) نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے

جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں۔ صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں۔ (وہ خط جو حوالہ بالا میں گذرا) کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔

الجواب: یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے صاف فرما دیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ بے شک میرے نہ ماننے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ مرزا قادیانی کو کافر بھی نہ کہے اور تناقض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ تناقض کو خود بھی تسلیم کر لیا۔

ل..... ”علاوہ اس کے جو مجھے (مرزا قادیانی کو) نہیں مانتا۔ وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔“

م..... ”چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے۔ اس لئے ہم منکر کو مؤمن نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے اور کافر منکر کو ہی کہتے ہیں۔ کیونکہ کافر کا لفظ مؤمن کے مقابلہ پر ہے اور کفر دو قسم پر ہے۔

اول..... ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔

دوم..... دوسرے یہ کفر کہ مثلاً مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود تمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔

پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

مرزا قادیانی کو مجدد و محدث ماننے والے اس عبارت کو غور سے پڑھیں کہ مرزا قادیانی اے منکرین کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ تریاق القلوب میں تسلیم کر چکے ہیں کہ مجدد و محدث خواہ تثنیٰ ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں۔ ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ کیا

گذشتہ مجددین و محدثین نے بھی یہ کہا ہے کہ چونکہ خدا اور رسول نے اس امت میں مجدد و محدث پیدا ہونے کی خبر دی ہے اور ان کے ماننے اور ان کو سچا جاننے کی تاکید کی ہے۔ لہذا جو شخص ہمارے مجدد و محدث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ چونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کافر ہے جب مرزا قادیانی کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو دعویٰ رسالت و نبوت میں کیا شبہ مرزا قادیانی کو نبی و رسول ماننے والے یہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی کے تریاق القلوب وغیرہ کے بیانات اور ان بیانات میں تناقض ہے۔ جس کو مرزا قادیانی نے خود بھی تسلیم کر لیا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”وہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا اور کلام میں تناقض کیوں پیدا ہو گیا۔ سو اس بات کو توجہ کر کے سمجھ لو۔ (بہت اچھا) کہ یہ اس قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا۔ مگر بعد میں لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہوں۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۲۸، ۱۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲، ۱۵۳)

دیکھئے! مرزا قادیانی نے تسلیم کر لیا ہے کہ بیشک میرے کلام میں تناقض ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کے کلام میں تناقض ہو جاتا ہے؟ تو پھر ”ولو کان بین عند غیر اللہ الایۃ“ کا کیا مطلب ہے۔ کیا کوئی ایسا رسول یا نبی ہوا ہے جس کو خدا نے بذریعہ الہام کہا ہو کہ تو نبی و رسول ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو کہے کہ نہیں میں مجازی معنوں میں نبی و رسول ہوں اور میرے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ بلکہ میں مجدد و محدث ہوں اور کچھ مدت کے بعد کہے۔ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ خدا ایسے شخص کو بھی نبی بنا دیتا ہے۔ جن کی طرف بارہ برس تک خدائی الہام آئے اور اس کو اس الہام میں نبی و رسول کا خطاب دیا جائے۔ لیکن وہ ایسا غبی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں لغوی نبی و رسول ہوں یا شرعی اور میرا منکر کافر ہے یا نہیں۔ اگر اس کی نظیر پیش نہ کر سکو تو مرزا قادیانی کے کذب کا اقرار کرو۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو الہام ہونا شروع ہوا اور ان کو نبی و رسول کا خطاب دیا گیا تو کیا اس وقت آپ نبی و رسول تھے یا نہیں؟ اگر آپ اس وقت نبی تھے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مجدد و محدث قرار دیتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے مشرکانہ عقیدہ پر جسے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ پھرے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا اور اگر آپ اس وقت نبی نہیں تھے تو پھر کیوں جا بجا اس وقت کے الہامات کو دعویٰ رسالت کے ثبوت میں پیش کیا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ یہ ایک منافقانہ چال ہے۔ پہلے ان الہامات کی تاویل میں کرتے رہے۔ جب کچھ دکان جم گئی

توصاف اعلان کر دیا کہ میرا منکر کافر ہے۔ نبی ایسا نہیں کیا کرتے۔ ان کو جب خدا کہتا ہے کہ تم نبی ہو تو وہ دنیا کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کی مخالفت کے ڈر سے خدائی الہام کی تاویلیں کریں اور جب ذرا معتقدین زیادہ ہو جائیں تو کہہ دیں کہ ان الہامات کا وہ مطلب نہیں جو پہلے بیان کیا گیا۔ بلکہ یہ ہے۔

ہم بھی قائل تیری نیرنگی کے ہیں یاد رہے  
او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

۳..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق

الف..... ”یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۷۳، خزائن ج ۳ ص ۳۵۳)

ب..... ”ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بہ سال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔“

(ست بچن ص ۱۶۳ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۲۸۸)

ج..... ”اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔  
شمیر میں جا کر وفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔“

(ست بچن ص ۱۶۳ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۳۰۵)

ناظرین! ان تینوں قولوں پر غور کر کے خود ہی نتیجہ نکال لیں کہ مرزا قادیانی کی کون سی بات کو سچ مانا جائے۔ پہلے مسیح کی قبر ان کے وطن گلیل بتلاتے ہیں۔ پھر بلاد شام میں اور پھر ان دونوں مقامات کو چھوڑ کر سری نگر کشمیر میں، کیا ایک عیسیٰ علیہ السلام تین جگہ مرے؟ اور تین مقامات پر دفن ہوئے؟ یہ مختلف باتیں الہامی دماغ سے نکلی ہیں یا خلل دماغ کا نتیجہ ہے۔ سچ ہے دروغ گورا حافظ نہ باشد۔ چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”حافظ اچھا نہیں یاد نہیں رہا۔“

(رسالہ ریویو آف ریلیٹیو بائبل، ماہ اپریل ۱۹۰۲ء، ص ۱۵۳ حاشیہ)

باب..... باپ بیٹے کی لڑائی

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔  
”حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تھی (۱) اور سوائے آنحضرت ﷺ کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گذرا کہ اس کے اتباع میں ان کی امت میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔“  
(الحکم ۲۳ نومبر ۱۹۰۲ء)

موسیٰ و بشیر الدین قادیانی خلیفہ ثانی فرماتے ہیں۔  
(۱) ”اور سوائے آنحضرت ﷺ کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گذرا کہ اس کے اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔“ (القول الفصل ص ۱۳)



(۲) ”صاحب نبوت ہر گز امی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے اس کا دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی رو سے بالکل ممتنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باللہ“ یعنی ہر رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے اس غرض سے نہیں کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو۔“ (ازالمص ۳۳۵ خزائن ج ۳ ص ۴۰۷)

(حقیقت الموعودہ ص ۱۵۵)

(۳) ”نادان ہے وہ شخص جس نے کہا وہ کون ہے؟ کر مہائے تو مارا کر دگستاخ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرمانبردار بناتے ہیں۔“ (ملفوظات خلیفہ صاحب از الفضل ۲۳ جنوری ۱۹۱۷ء)

بتلائے۔ سچا کون ہے؟ مسیح قادیانی یا خلیفہ ثانی۔

## باب ..... امت مرزا سیہ کا مذہب

اسلام میں تفرقہ کا باعث کون ہے؟ ..... خلیفہ قادیانی کے فتوے

۱..... تمام اہل اسلام کا فر خارج از دائرہ اسلام ہیں

”سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ (آئینہ صداقت ص ۳۵)

۲..... کسی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

”ہمارا یہ فیہم ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (مرزا غلام احمد) کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی کا اپنا کچھ اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔“ (انوار خلافت ص ۹۰)

۳..... جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز نہیں!!!

”باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔ اتنی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جائز نہیں۔“

(انوار خلافت ص ۸۹)

۴..... غیر احمدی کافر ہے، لہذا اس کا جنازہ جائز نہیں

”غیر احمدی کے جنازہ کے متعلق ہم نے محکمات کو دیکھنا ہے۔ محکم کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود نبی ہیں۔ بلحاظ نفس نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ محکم کیا ہے۔ نبی کا منکر ”اولئک ہم الکافرون حقا“ کے فتویٰ کے نیچے ہے۔ محکم کیا ہے۔ کافر کا جنازہ جائز نہیں۔“

۵..... ”ہر ایک جو مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کافر ہے۔ جو حضرت صاحب کو نہیں ماننا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔“

۶..... غیر احمدی کے بچہ کا بھی جنازہ مت پڑھو

”پس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔“

۷..... غیر احمدی ہندو اور عیسائی کی طرح کافر ہیں

”جو شخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا ہے۔ وہ یقیناً حضرت مسیح موعود کو نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو مگر وہ تم سے اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے۔ مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔“

۸..... مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ جائز نہیں

”غیر احمدیوں کو لڑکی دینے سے بڑا نقصان پہنچتا ہے اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں۔ لڑکیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ جس گھر میں بیابنی جاتی ہیں۔ اس کے خیالات و اعتقادات کو اختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔“

(برکات خلافت ص ۷۳)

## ۹..... ختم نبوت اور خلیفہ قادیان

”اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ تم کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔“  
(انوار خلافت ص ۶۵)

## ۱۰..... ہزاروں نبی آسکتے ہیں

”ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی ہوں گے۔“  
(انوار خلافت ص ۶۲)

تلك عشرة كاملة

## ختم نبوت بجواب اجراء نبوت

منکر:..... ”واقع یہ ہے کہ میں چند دن ہوئے مولوی صاحب کے مکان پر گیا۔ وہاں باتوں ہی باتوں میں خاتم النبیین کے معنی کے متعلق بات شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب نے میرے دریافت کرنے پر اس کے معنی نبیوں کا بند کرنے والا کئے۔“  
(اجراء نبوت ص ۱)

ثبت:.....

چھتی نہیں ہے بات بناوٹ کی بال بھر  
آخر کو کھل ہی جاتی ہے رنگت خضاب کی

مخالف نے اصل واقعہ کو بالکل حذف کر دیا ہے اور اپنی حاشیہ آرائیوں سے صداقت کو چھپانے کی بے سود کوشش کی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ منکر صاحب ایک دن حافظ خدا بخش صاحب امام مسجد پولیس لائن کی معیت میں میرے پاس آئے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ یہ صاحب منکر، خاتم النبیین کے کچھ اور ہی معنی کرتے ہیں۔ میں نے منکر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ فرمائیے۔ آپ کیا معنی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم خاتم النبیین کے معنی ”نبی گر“ کرتے ہیں۔ یعنی آئندہ نبی بنانے والا۔ خاکسار نے کہا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ چھ چیزیں مجھ کو دی گئی ہیں۔ جن کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ ان چھ میں سے ایک ہے۔ ”وختم بی النبیین“ مجھ پر پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صاف تشریح فرما رہے ہیں کہ ختم نبوت میرا خاصہ ہے اور یہ عہدہ صرف مجھے ہی عنایت کیا گیا ہے۔

اور یہ عہدہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اسی صورت میں مخصوص ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اگر خاتم النبیین بمعنی ”نبی کریم“ ہو تو نبی بنانے کا کام تو بقول مرزا قادیانی اور نبی بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ آنحضرت ﷺ کی کیا خصوصیت اور فضیلت ہوئی۔ حالانکہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت و خصوصیت مجھے ہی بخشی گئی ہے۔ پس خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہوں گے۔ اس پر منکر صاحب نے کہا کہ پہلے انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صرف حضور ﷺ ہی کا کام ہے۔ لہذا آپ کی خصوصیت ثابت ہوگئی۔ میں نے عرض کیا کہ مرزا قادیانی کو آپ نبی مانتے ہیں اور ان کی ہر ایک بات آپ کے لئے واجب التسلیم ہے۔ اگر میں مرزا قادیانی کا لکھا ہوا دکھا دوں کہ پہلے انبیاء بھی نبی گری کا کام کرتے تھے تو پھر یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تو نہ رہے گی اور ہمارا معنی آخر النبیین صحیح ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا دکھائیے میں نے مرزا قادیانی کا یہ فرمان ان کی کتاب چشمہ مسیحی سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔

### فرمان مرزا قادیانی

”ظاہر ہے کہ زبان عرب میں لکن کا لفظ استدراک کے لئے آتا ہے۔ یعنی جو امر حاصل نہیں ہو سکا اس کے حصول کی دوسرے پیرایہ میں خبر دیتا ہے۔ جس کی رو سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی جسمانی زینہ اولاد کوئی نہیں تھی۔ مگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بہت ہوگی اور آپ نبیوں کے لئے مہر ٹھہرا گئے ہیں۔ یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہ ہوگا۔ غرض اس آیت کے یہ معنی تھے۔ جن کو الٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا گیا۔ حالانکہ اس انکار میں آنحضرت ﷺ کی سراسر مذمت اور منقصت ہے۔ کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ دوسرے شخص کو ظلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے اور روحانی امور میں ان کی پوری پرورش کر کے دکھاوے۔ اسی پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں۔ پس اگر آنحضرت ﷺ کے پاس یہ دودھ نہیں تھا تو نعوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ مگر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ کا نام سراج منیر رکھا ہے۔ جو دوسروں کو روشن کرتا ہے اور اپنی روشنی ڈال کر دوسروں کو اپنی مانند بنا دیتا ہے اور اگر نعوذ باللہ آنحضرت ﷺ میں فیض روحانی نہیں تو پھر دنیا میں آپ کا معبود ہونا ہی عبث ہوا اور دوسری طرف خدائے تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا ٹھہرا۔ جس نے دعایہ سکھائی کہ تم تمام نبیوں کے کمالات طلب کرو۔“

(چشمہ مسیحی ص ۲۶، خزائن ج ۲۰ ص ۳۸۸)

رسالہ چشمہ مسیحی منکر صاحب کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ آپ آٹھ بجے سے بارہ بجے تک اس کو لے کر بیٹھے رہے۔ کبھی اس عبارت کو دیکھتے تھے اور کبھی کاغذ قلم لے کر کچھ لکھتے تھے۔ جیسے کہ ضرب تقسیم کے سوال حل کر رہے ہیں۔ کبھی رسالہ کی ورق گردانی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ غرضیکہ عجیب عالم حیرانی و پریشانی میں مبتلا تھے۔ حافظ خدا بخش صاحب پندرہ بیس منٹ کے بعد کہہ دیتے کہ کیوں صاحب اب جواب کیوں نہیں دیتے؟ پہلے تو بڑے اچھلتے تھے۔ لیکن آپ فرماتے تمہیں یہ معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ بڑا مشکل سوال ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔ اسی طرح آپ بارہ بجے تک سوچتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے اور اس کی مہمل تاویلیں کرنی شروع کیں۔ میں نے کہا یہ تاویلیں یہاں نہیں چل سکتیں۔ بے فائدہ وقت ضائع نہ کیجئے۔

ناظرین کرام! مولے الفاظ کو غور سے پڑھیں۔  
 مرزا قادیانی فرما رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نبیوں کے لئے مہر ٹھہرائے گئے ہیں۔ یعنی آئندہ آپ نبی بنائیں گے۔ کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ظلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے۔ یعنی ظلی نبی و بروزی نبی بنا دے اور اسی قسم کی نبوت کو مرزا قادیانی نے اپنے لئے ثابت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اسی غرض کے لئے نبی آتے ہیں۔ دیکھئے مرزا قادیانی کے یہ الفاظ کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ اور اسی غرض کے لئے نبی آتے ہیں۔ صاف بتلا رہے ہیں کہ نبی گری تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں۔ تو پھر حضور ﷺ کی کیا خصوصیت ہوئی؟

منکر:..... میں مولانا سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص کسی کے جواب سے عاجز آجاتا ہے کیا وہ دوسرے کے مکان پر جا کر حملہ کیا کرتا ہے۔

ثابت:..... واہ! واہ! کیا خوب حملہ کیا کہ خود اپنے ہی حملہ کی ضرب سے بارہ بجے تک بیہوش پڑے رہے:

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوالعجبی است  
 خدا! آپ کو حق گوئی کی توفیق عطا کرے

منکر:..... کیا آپ کے پاس محاورات عرب کی کوئی مثال ہے جس میں لفظ خاتم مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ جمع ہو اور اس کے معنی بند کرنے والا کے ہوں۔

ثبوت:.....

۱..... سنئے لسان العرب میں ہے خاتمہم و خاتمہم آخرہم یعنی خاتم خواہ زیر سے ہو یا زبر سے دونوں کے معنی آخری کے ہیں۔

۲..... قاموس میں ہے والختام آخر القوم كالتام ومنه قوله تعالى خاتم النبيين اے آخرہم۔ یعنی خاتم کا معنی خاتم کی طرح آخری کے ہیں اور اسی معنی سے ہے خاتم النبیین۔ یعنی انبیاء میں سے آخری۔

۳..... ابوالبقانے کلیات میں کہا ہے وتسمية نبينا خاتم الانبياء لان الخاتم آخر القوم! ترجمہ: ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء اس لئے ہے کہ خاتم قوم کے آخری شخص کو کہتے ہیں۔ دیکھئے ان تینوں حوالوں میں آئمہ لغت نے کیسے صاف تصریح کر دی ہے کہ خاتم ہو یا خاتم جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی آخری کے ہوتے ہیں اور کسی نوع کا آخری فرد وہی کہلائے گا جس کے بعد اس نوع کا دوسرا فرد اس وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ جس وصف کے ساتھ پہلے افراد موصوف ہیں۔ مثلاً آخر الاولاد اس کو کہیں گے جس کے بعد دوسرا لڑکا پیدا نہ ہو۔ اسی طرح آخر النبیین اس کو کہیں گے جس کے بعد دوسرا نبی پیدا نہ ہو۔ فلاں آخر الاولاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اور سب مر چکے ہیں اور یہی باقی ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ صفت ولد کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ یہ سب سے آخری ہے۔ اس کے بعد صفت ولد کے ساتھ کوئی دوسرا موصوف نہیں ہوا۔ بعینہ آخر النبیین اسی کو کہیں گے جو سب انبیاء کے بعد صفت نبوت کے ساتھ موصوف ہوا ہو اور اس کے بعد دوسرا صفت نبوت حاصل نہ کر سکے جو پہلے اس صفت سے موصوف ہو چکے وہ ہو چکے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم۔ انبیاء علیہم السلام۔ جیسے آخر الاولاد کی موجودگی یا عدم موجودگی سے باقی اولاد کا مرنا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح خاتم النبیین کی موجودگی یا عدم موجودگی سے باقی انبیاء علیہم السلام کا مرنا لازم نہیں آتا۔ گو واقع میں خواہ وفات پا گئے ہوں یا کوئی ان میں سے زندہ ہو۔

علیٰ ہذا القیاس آخر الجالسین، آخر الراحلین۔ آخر الذاہبین وغیرہ میں بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کی وصف آخر پر ختم ہے۔ کیا آپ کا مطالبہ پورا ہوا یا نہیں۔ ”فہل انتم مسلمون“

منکر میرا یہ سوال سنتے ہی مولوی صاحب کے حواس باختہ ہو گئے اور سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ دے سکے۔

مثبت:.....ہاں ہاں فرمائیے۔ ۱۲ بجے تک کیا قصہ ہوا تھا؟  
منکر:..... میں کئی مرتبہ مولوی صاحب کے ہاں جا چکا ہوں۔ مگر مولوی صاحب اس  
کی ایک مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہو سکے۔

مثبت:..... ۱۲ بجے کی طرح۔

منکر:..... ”وان لم تفعلوا ولن تفعلوا“

مثبت:..... ”فعلنا ولكنکم قوم تجهلون“

منکر:..... علاوہ اس کے فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم و حدیث اور  
اقوال سلف صالحین کی طرف رجوع کریں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”واطيعوا اللہ  
واطيعوا الرسول واولی الامر منکم“ جب کوئی جھگڑا ہو تو قرآن اور حدیث اور مسلمہ  
بزرگوں کے سامنے اس کو پیش کرو۔

مثبت:.....

ہم بھی قائل تیری نیرنگی کے ہیں یاد رہے

او زماحنے کی طرح رنگ بدلنے والے

آپ نے مرزا قادیانی کے برخلاف اولی الامر منکم کا ترجمہ مسلمہ بزرگ کیوں کیا ہے؟  
یوں کیوں نہ فرمایا کہ قرآن اور حدیث اور انگریزی حکومت کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کیا جائے۔  
پھر سر مسلمہ ہیلی اور مسٹر جی۔ بی لیبرٹ وغیرہ اساطین دین جو فیصلہ صادر فرمائیں وہی تمام  
مسلمانوں کے لئے اسلام کا بنیادی پتھر قرار دیا جائے۔

جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ  
انگریزی حکومت کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں۔“

(ضرورت الامام ص ۲۳، خزائن ج ۱۳ ص ۴۹۲)

اسی واسطے جناب مرزا قادیانی انگریزوں کی غلامی اور خدمت گزاری کو اپنا مقصد و حید  
ظاہر کرتے رہے۔ چنانچہ اپنی خدمت گزاری کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ”میری عمر کا اکثر  
حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی  
اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور  
کتابیں ماکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے چالیس کتابوں کو تمام

ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“

(تریق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

اسی کا نتیجہ ہے کہ جنگ عظیم میں جب ترکوں کی اسلامی حکومت بغداد سے اٹھی اور انگریزی حکومت غالب آئی تو قادیانی اخبار میں یہ نوٹ نکلا۔ ”میں اپنے احمدی بھائیوں کو جوہر بات میں غور اور فکر کرنے کے عادی ہیں۔ ایک مژدہ سنا تا ہوں کہ بصرہ اور بغداد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محسن گورنمنٹ کے لئے فتوحات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس سے ہم احمدیوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں برسوں کی خوشخبریاں جو الہامی کتابوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ آج ۱۳۳۵ھ میں وہ ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آ گئیں۔“

(اخبار الفضل موروثہ ۱۳۱۰ء اپریل ۱۹۱۷ء ص ۴۳)

اس سے مرزا قادیانی کی پولیٹیکل پوزیشن بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے زبردست دشمن تھے۔ جناب مرزا قادیانی کا فرمان بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ امیر امان اللہ خان خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ کو اولی الامر میں داخل کرنے سے اپنے مصنوعی مذہب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صاحب آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی جو حدیث مرزا قادیانی کے الہام کے مخالف ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائیے۔ نعوذ باللہ من هذا الکفر! پھر آپ مسلمہ بزرگوں کا نام کس منہ سے لیتے ہیں۔ جب آپ محمد رسول اللہ ﷺ (فدا و ابی و امی) کی حدیث خواہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی ہو۔ بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ تو بزرگ بچارے آپ کے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ باتیں محض سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے کی ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ حدیث کو مانتے ہیں۔ بزرگوں کو مانتے ہیں۔ درحقیقت آپ مرزا قادیانی کی بات کے سوا نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو اور نہ سلف صالحین اور بزرگان دین کے اقوال کو۔ جو بات مرزا قادیانی کی تعلیم کے برخلاف ہو خواہ وہ صحیح حدیث ہو یا صحابہ کا اجماع ہو۔ یا بزرگان دین کا عقیدہ ہو۔ آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔

سنئے! مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن



اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۳۰، جزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰)

احادیث میں جو علامات مسیح موعود کے لئے مقرر ہیں۔ جب آپ میں وہ نہ پائی گئیں تو تنگ آ کر کہہ دیا کہ حدیثوں پر ہمارے دعویٰ کی بنیاد نہیں۔ حدیث کی علامات خواہ ہم میں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ بس ہم مسیح موعود ہیں۔ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

جو حدیث، قرآن شریف کے مطابق نہیں اس کو نہ ماننا تو درست اگرچہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ کیونکہ فرق باطلہ پہلے قرآن شریف کا ایک معنی اپنی خواہش و شیطانی الہام کے مطابق گھڑ لیتے ہیں اور اس من گھڑت معنی کے برخلاف اگر صحیح حدیث پیش کی جاوے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے برخلاف ہے۔ لہذا مقبول نہیں۔ لیکن یہ فرمانا کہ جو حدیث میری وحی کے معارض ہو۔ اس کو بھی ردی کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ اس کا تو صاف مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ کیونکہ ہر ایک لمحہ قرآن کا معنی اپنی خواہش کے مطابق گھڑ کر حدیث کو یہ کہہ کر یہ قرآن کے برخلاف ہے ٹال دے گا۔ آپ کے لئے تو راستہ بالکل صاف ہے۔ جو بات مرزا قادیانی کی تعلیم کے برخلاف کوئی مسلمان بھول کر پیش کرے تو آپ اس کو فرما دیجئے کہ صاحب یہ مرزا قادیانی کی وحی کے برخلاف ہے۔ لہذا مردود ہے اگر وہ کہے کہ یہ بات حضور ﷺ یا صحابہؓ یا بزرگان سلف نے فرمائی ہے تو آپ یوں فرما دیا کریں کہ بہت سی چیزوں کی حقیقت محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی نہیں سمجھی اور اسی طرح صحابہؓ وغیرہم نے، یہ حقیقت صرف مرزا قادیانی پر ہی منکشف ہوئی ہے۔

بزرگوں کا نام محض آپ دھوکہ دہی کے لئے لے رہے ہیں۔ ہذاک اللہ! ورنہ آپ کو بزرگوں سے کیا تعلق۔

منکر:..... اور میں نے ثابت کیا کہ جو معنی انہوں نے کئے ہیں وہ عقل و نقل کے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ یہ معنی زیر بحث آیت میں لگ نہیں سکتے۔ ان معنی کو لینے سے آیت کا مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ کفار نبی کریم ﷺ کو نعوذ باللہ اتر کہا کرتے تھے اور اتر سے کہتے ہیں جس کی کوئی زینہ اولاد نہ ہو۔ اس لئے وہ آپ کی ذات پر طعن کرتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ مگر خدا نے اسے زینہ اولاد ہی نہیں دی ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

اس صورت میں یہ معنی بن جائیں گے کہ محمد ﷺ بے شک کسی مرد کے باپ نہیں۔ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے بند کرنے والے ہیں۔ کیا کوئی عقلمند اس کو تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ اس کا تو دوسرے لفظوں میں یہ مطلب ہوا کہ جس طرح نبی کریم ﷺ جسمانی اولاد سے محروم ہیں۔ اسی طرح آپ روحانی اولاد سے بھی محروم ہیں۔

یہ کفار کے اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ تو نبی کریم ﷺ کی پرلے درجے کی مذمت ہے۔ یہ آپ کی مدح نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس سے تو کفار کا اعتراض اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ کی پیروی سے آئندہ نبی بن سکتے ہیں تو کفار کا اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ کی مدح بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے کفار جسمانی اولاد کچھ چیز نہیں ہوتی۔ کیونکہ جسمانی اولاد تو منکر بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ نوح کا بیٹا تھا اور وہ گمراہ ہی رہا تو کہتے ہو کہ یہ رسول نہیں۔ یہ رسول ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نبی گر ہے کہ اس کی پیروی سے آئندہ نبی پیدا ہوں گے۔ یہ استاد کامل ہے۔ اس جسمانی نرینہ اولاد کے بدلے ہم نے اس کو روحانی اولاد عطاء کی ہے۔ جو نہ صرف ہدایت یافتہ ہوگی بلکہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہوگی۔

ثبت: ..... ناظرین کرام! یہ ہے وہ دلیل جس کو امت مرزائیہ بڑے فخر اور دعویٰ کے ساتھ خاتم النبیین کے معنی حل کرنے میں پیش کیا کرتی ہے اور مرزا قادیانی نے اس کو اپنی کتابوں میں متعدد مواضع میں پیش کیا ہے اور منکرین ختم نبوت کو اس پر بڑا ناز ہے۔

اگرچہ آپ کا اس طویل عبارت کے پڑھنے میں تھوڑا سا وقت تو خرچ ہوا ہوگا۔ لیکن میں اس طویل عبارت کو آپ کے سامنے اس واسطے نقل کیا ہے کہ آپ امت مرزائیت کی مایہ ناز دلیل کی دھجیاں فضائے آسمانی میں اڑتی ہوئی دیکھیں۔ آپ ذرا الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ منکر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین کے معنی نبیوں کے بند کرنے والا کئے جائیں (جیسا کہ تمام مسلمان کرتے ہیں) تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح نبی کریم ﷺ جسمانی اولاد سے محروم ہیں۔ اسی طرح آپ روحانی اولاد سے بھی محروم ہیں۔ یعنی منکر صاحب کے نزدیک اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو تو آنحضرت ﷺ روحانی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ! منکر صاحب فرمائیں کہ گذشتہ تیرہ سو سال میں کون نبی ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہوا جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے

میں ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر چکے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶)

۱..... تو کیا تیرہ سو سال تک آنحضرت ﷺ (فداہ ابی وامی) روحانی اولاد سے

محروم ہی رہے اور آج مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے صاحب اولاد ہوئے؟

۲..... پھر تیرہ سو سال کے کفار کے لئے کیا جواب ہوا؟

۳..... کیا صحابہؓ یا تابعین نے کفار کے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اے کفار!

اگرچہ بالفعل آپ روحانی اولاد سے بھی محروم ہیں۔ لیکن جب تیرہ سو سال کے بعد رئیس قادیان کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہوں گے تو اس وقت تم کیا منہ دکھاؤ گے جو ابتکار اعتراض کرتے ہو؟

۴..... کیا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آنحضرت ﷺ کی روحانی

اولاد نہیں ہیں؟

جن کے بارہ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”آنحضرت ﷺ کی جماعت نے اپنے

رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی رو سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئے تھے۔ ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ آنحضرت ﷺ کی عکسی تصویریں تھیں۔“

(فتح اسلام ص ۳۵، ۳۶، خزائن ج ۳ ص ۲۱)

اور سنئے: ”کیونکہ حضرت عمرؓ کا وجود ظلی طور پر گویا آنحضرت ﷺ کا ہی وجود تھا۔“

(سراخلاف ص ۳۲، خزائن ج ۸ ص ۳۵۵)

”اور آپ (یعنی ابوبکر صدیقؓ) کتاب نبوت کے اجمالی نسخہ تھے۔“

(سراخلاف ص ۳۲، خزائن ج ۸ ص ۳۵۵)

جب صحابہؓ آپ کی عکسی تصویریں تھیں اور ان کے ظاہر و باطن میں انوار نبوت رچ

ہوئے تھے اور حضرت عمرؓ کا وجود ظلی طور پر آنحضرت ﷺ کا ہی وجود تھا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نبوت کے اجمالی نسخہ تھے۔ (یعنی نبوت کا نیچر و خلاصہ) تو پھر یہ آنحضرت ﷺ کی روحانی اولاد

کیوں نہیں ہو سکتے؟

اور اگر صحابہؓ و تابعین و تبع تابعین و بزرگان دین و ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کی روحانی اولاد ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے اور آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا تو پھر خاتم النبیین کے معنی نبیوں کا ختم کرنے والا کرنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ آپ روحانی اولاد سے محروم ہیں؟ کیا جس شخص کی لاکھوں، کروڑوں جانباڑ روحانی اولاد صحابہؓ و بزرگان دین جیسی ہو۔ اس کو اولاد سے محروم کہا جائے گا؟

خدا آپ کو عقل صحیح عنایت فرمائے۔ جب حضرت عمرؓ کا وجود ظلی طور پر آنحضرت ﷺ کا ہی وجود تھا تو کیوں انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا۔ جب کہ حضور ﷺ نے بھی ان کے نبی بننے کی صلاحیت ان لفظوں میں بیان فرمادی کہ ”لو کان بعدی نبی لکان عمر“ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمرؓ ہوتے۔

اور مرزا قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ: ”میں ظلی طور پر محمد ہوں۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶)

پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا وجود ظلی طور پر عین محمد ﷺ ہوتے ہوئے ظلی نبوت کا دعویٰ نہ کریں اور نہ کسی کو یہ کہیں کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے اور اس کی نجات نہیں ہوگی۔ لیکن مرزا قادیانی ظلی طور پر عین محمد ﷺ کے ادعا کی بناء پر نبوت کا دعویٰ کریں اور اپنے منکرین کو کافر کہیں وجہ فرق معقول بیان فرمائیے۔ ورنہ مسلمان ہو جائیے۔ یہ مہمل عذر مسوع نہیں ہوگا کہ خدا نے جس کو چاہا نبی بنا دیا۔ کیونکہ اس کا تو بقول مرزا قادیانی یہ مطلب ہوگا کہ خدا نے پہلے وعدہ کیا کہ تم نبوت کے کمالات حاصل کرو اور دعا کرو ہم تم کو نبی بنا دیں گے۔ لیکن جب حضرت عمرؓ نے نبوت کے کمالات حاصل کر لئے۔ فتانی الرسول ہو کر عین محمد ﷺ ہو گئے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے ان کے نبی ہونے کی صلاحیت بھی بیان فرمادی۔ وہ پانچ نمازوں کے اندر نبی بننے کی دعاء بھی کرتے رہے۔ خدا نے وعدہ بھی کیا کہ تم کو نبی بنا دیں گے۔ مگر پورا کرنے کا ارادہ نہ کیا۔

اور جب بقول مرزا قادیانی صحابہؓ آنحضرت ﷺ کی عکسی تصویریں تھیں تو کیوں وہ مرزا قادیانی کی طرح اس عبارت کا مصداق بن کر مدعی نبوت نہ ہوئے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ تصویر بروز میں وہ کمال بھی نمودار ہو۔ پس صحابہؓ کا باوجود آنحضرت ﷺ کی عکسی تصویریں اور ظلی طور پر عین محمد ہونے کے نبوت کا دعویٰ نہ کرنا انتطاع نبوت حقیقہ وظلیہ و بروز یہ وغیرہ پر زبردست عملی ثبوت ہے۔ فافہم فافہ

عزیز! اب ذرا گوش ہوش سے سنئے کہ خاتم النبیین کا معنی نبی گر کیوں غلط ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں مضمحل ہیں۔ پہلے چند کلمات تمہید یہ سنئے جو کہ مرزا قادیانی آنجنمانی کے ہیں فرماتے ہیں۔

”وان من امة الا خلا فيها نذیر فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد“ یعنی کوئی قوم نہیں جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا۔ یہ اس لئے کہ ہر قوم میں ایک گواہ ہو کر خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ پھر جب ان قوموں میں ایک مدت دراز گزرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسائی اور آمد و رفت کا کسی قدر دروازہ بھی کھل گیا اور دنیا میں مخلوق پرستی اور ہر ایک قسم کا گناہ بھی انتہاء کو پہنچ گیا تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو دنیا میں بھیجا۔ تاکہ بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کے لئے مشترک ہے۔ دنیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا دے اور جیسا کہ وہ واحد لا شریک ہے۔ ان میں بھی ایک وحدت پیدا کر دے تاکہ وہ سب ملک کر ایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یاد کریں اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیں اور تاکہ پہلی وحدت قومی جو ابتدائے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی۔ یعنی جس کا خدا نے آنحضرت ﷺ کے مبعوث ہونے کے وقت میں ارادہ فرمایا۔ یہ دونوں قسم کی وحدتیں خدائے واحد لا شریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو۔ کیونکہ وہ واحد ہے۔ اس لئے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت کو دوست رکھتا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۸۲، خزائن ج ۲۳ ص ۹۰)

ایک دوسری جگہ اسی کے قریب قریب لکھتے ہیں کہ: ”جب دنیا نے پھر اتحاد اور اجتماع کے لئے پلٹا کھایا اور ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کے لئے انواع و اقسام کے ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آ گیا کہ قومی تفرقہ درمیان سے اٹھادیا جائے اور ایک کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے۔ تب خدا نے سب دنیا کے لئے ایک ہی نبی بھیجا تا وہ سب قوموں کو ایک مذہب پر جمع کرے اور تا وہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی۔ آخر میں بھی وہ ایک قوم بنا دے۔“

(چشمہ معرفت ص ۱۳۶ حصہ دوم)

میں جتنے مختصر نقل کیا ہے۔ مرزا قادیانی اس کو بڑی تفصیل اور زور کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اور محمد ﷺ کی بعثت کی اصلی غرض اور مقصد وحید تمام اقوام دنیا کو ایک مرکز اسلام پر جمع کرنا ہے۔

آدم برسر مطلب۔ پس اگر ہم خاتم النبیین کے معنی نبی گر یعنی نبی بنانے والا کریں تو نزول قرآن و بعثت محمدیہ کی اصلی غرض بالکل مفقود ہو جائے گی اور بجائے اتحاد کے اختلاف اور بجائے اسلام کے کفر سے دنیا بھر جائے گی۔ کیونکہ جب نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور ہر ایک نبی پر قرآن کی طرح قطعی اور یقینی وحی بھی نازل ہوگی اور ہر ایک نبی اور اس پر نازل شدہ وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہو اور ان کا انکار یا تکذیب یا ان کی رسالت و نبوت میں تردید کفر ہوا۔ تو قیامت تک کروڑوں کافروں میں بن جائیں گی۔

مثلاً اب دنیا میں چالیس کروڑ مسلمان ہیں۔ مرزا قادیانی کی نبوت کے انکار سے سوائے مرزائیوں کے اور سب کافر ہو گئے۔ اس طرح مرزا قادیانی کے بعد عبداللطیف گناچوری اور نبی بخش معراجی کے اور مولوی چراغ الدین جموی اور عبداللہ تھاپوری وغیرہم مریدان مرزا قادیانی مدعیان نبوت کے انکار سے مرزائی بھی کافر ہو گئے اور اسی طرح چند نبی اور آگئے۔ جیسا کہ جناب مرزا بشیر الدین صاحب خلیفہ ثانی مرزا قادیانی کے فرمان عالی شان سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں اسے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے۔“ (اتناغصہ) (انوار خلافت ص ۶۵)

.....۲ ”ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی اور ہوں گے۔“ (شاباش)

(انوار خلافت ص ۶۲)

تو پھر اسلام کی خیر نہیں۔ ہزاروں نبی ہوں گے اور ہزاروں تو میں مسلمان ان کے انکار سے کافر ہو جائیں گی۔ واضح رہے کہ مرزا قادیانی کے بعد بقول مرزا قادیانی وہی نبی ہو سکتا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہو اور جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ ان میں سے قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے امت مرزائیہ سے ہر سال کیڑوں کی طرح نبی ظاہر ہو رہے ہیں۔ پس چالیس کروڑ مسلمان تو مرزا قادیانی کی نبوت کے انکار سے کافر ہو گئے اور اب نئے نبیوں سے جو کافر بنیں گے وہ صرف مرزائی ہی ہوں گے۔

الحاصل یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں وغیرہ کا مسلمان ہونا اور تمام کا ایک ہی مذہب اسلام پر ہو جانا اور ایک ہی وجود کی طرح ہو کر خدا کی عبادت کرنا تو درکنار سابق مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے اور آٹھ والے نبی ایک ایک کوچن چن کر کافر بنائیں گے اور چند ہی دنوں تک دنیا سے مسلمانوں کا بیخ ختم ہو جائے گا۔

آنے والے نبی ایسے برخوردار ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہودیوں، عیسائیوں وغیرہ کو مسلمان بنائیں اور ان میں اپنی پیری مریدی جمائیں۔ پچارے مسلمانوں کو ہی کافر بنائیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا۔ الغرض ایک نبی اور ایک قرآن کا مقصود تو یہ تھا کہ تمام اقوام دنیا کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے۔ لیکن جریان نبوت سے خود قرآن کے اور محمد رسول اللہ ﷺ کو رسول ماننے والے بھی کافر ہو کر ہزاروں جماعتوں میں منقسم ہوئے جاتے ہیں تو اوروں کو کیا مرکز اسلام پر جمع کریں گے۔ یہ ساری خرابی اس سے پیدا ہوئی کہ خاتم النبیین کے معنی نبی گر گئے اور قرآن و محمد رسول اللہ کے علاوہ آنے والے نبیوں اور ان کی وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تھا۔ پھر ساری دنیا کی طرف ایک قرآن اور ایک رسول بھیجنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر قرآن شریف قیامت تک کے لئے کافی ہے تو پھر آئندہ وحی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آئندہ وحی و رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے تو پھر محمد رسول اللہ اور قرآن پر ایمان لانا تو کافی نہ ہوا۔ حالانکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔

جب آنے والی وحی بھی قرآن کی طرح قطعی ہے اور ان کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو نبوت ظلیہ، بروزیہ، برازیہ وغیرہ مختصات کیا بلا ہیں۔ اگر مرزا قادیانی تشریحی نبی ہوں تب بھی مسلمان کافر، اگر مستقل نبی ہوں تب بھی کافر۔ اگر ظلی و بروزی ہوں تب بھی کافر، کیا جریان نبوت کا عقیدہ اسلام کو نیست و نابود کرنے کا ہم معنی نہیں ہے؟

یاد رکھئے ہمارے نزدیک قرآن کریم پر ایمان لانے کے علاوہ اور کسی نئی چیز پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ خواہ کسی بزرگ کا الہام ہو یا کشف ہو یا خواب ہو۔ پیش گوئی ہو یا امر ہو یا نبی ہو۔ قرآن پر ایمان لانے میں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور تمام پیغمبر و مبدء و معاد داخل ہیں۔ شاید آپ کو شبہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان پر ایمان لاؤ گے یا نہیں۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ تمام مسلمان اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی شخص عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح ان کے نزول کے وقت اگر کوئی شخص ان کو رسول تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔

نہ بایں معنی کہ ایمانیات اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اضافہ کیا جائے گا۔ بلکہ بایں معنی کہ جیسا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اس وقت ہوگا۔

الغرض ایمانیات اسلام میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ جتنی چیزوں پر اب ایمان لانا ضروری ہے۔ اتنی ہی چیزوں پر اس وقت ایمان لانا ضروری ہوگا۔ برخلاف مرزا قادیانی کی وحی کے، کہ پہلے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا۔ کتب شریعت خصوصاً کتب عقائد اٹھا کر دیکھئے۔ آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن کے بعد آنے والی وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب تیرہ سو سال کے مسلمانوں کے ایمانیات میں نہیں ہے۔ تو پھر نئی وحی پر ایمان لانا شریعت محمدیہ پر اضافہ ہوا اور یہی تشریحی ہے۔ پھر کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی نہیں ہیں۔

ناظرین کرام! یہ ہے مرزائیوں کی مایہ ناز دلیل جریان نبوت پر جس کے پول کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ انصاف آپ پر ہے۔ ہم بھی اس دلیل میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔

ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق

اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین

”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین (احزاب: ۴۰)“ ﴿محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء میں سے آخری ہیں۔﴾

شان نزول

زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے (جتنی) کو تمام احکام میں بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ میراث میں بھی، جب اسلام آیا تو اس نے بہت سے خرابیوں کی وجہ سے جو اس رسم میں تھیں اس کو مٹانے کا حکم دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ”وما جعل ادعیاء کم ابناء کم ذالک قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل ادعوہم لآبائہم ہوا قسط عند اللہ (احزاب)“ ﴿اور خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا۔ یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں اور وہی سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ تم میں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک راستی کی بات ہے۔﴾

اور حضور ﷺ نے اس سے پہلے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا (منہ بولا بیٹا) بنایا ہوا تھا۔



یہاں تک کہ ان کو زید بن محمد کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ پھر جب کہ رسوم باطلہ جو کہ قوم میں رائج تھیں۔ ان کی مخالفت بہت بڑا دشوار امر تھا۔ بوجہ اس کے کہ مخالفت کرنے والا طعن و تشنیع و ملامت کا نشانہ بن جاتا تھا اور ان کی مخالفت پر وہی شخص جرأت کر سکتا تھا۔ جو خدا کے حکم میں سوائے خدا کے کسی طعن و ملامت کی پرواہ نہ کرے تو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے حضرت زید بن حارثہ آنحضرت ﷺ کے منہجے کے نکاح میں تھیں اور زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”فلما قضی زید منها وطراً زوجنکھا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاتھم اذا قضوا منھن وطراً (احزاب)“ ﴿پھر جب زید نے اس کو طلاق دے دی ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ جب وہ ان کو طلاق دے دیں۔﴾

اور آنحضرت ﷺ کا زینب سے نکاح فعلی تبلیغ تھی تاکہ مسلمان منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حرام نہ سمجھیں اور اس سے نکاح کرنے سے نفرت نہ کریں۔ جب رسول نے نکاح کیا تو پھر اور کس مسلمان کی جرأت ہے کہ رسول کی سنت سے نفرت کرے۔

یہ عمدہ طریقہ ہے۔ اس رسم کے مٹانے کا الحاصل جب رسول اللہ ﷺ نے خدا کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کیا تو کفار کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے جس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت ”ماکان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین“ اتاری۔ مطلب یہ ہوا کہ جب محمد ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے حقیقتاً باپ نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے بیٹے کی بیوی باپ پر حرام ہوتی ہے۔ تو پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد اگر انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو یہ کون سی جرم کی بات ہوئی۔

جملہ: ”ماکان محمد اباً احد من رجالکم“ اور ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ کا آپس میں کیا تعلق ہے تو جواب یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو یہاں چند شہادت پیدا ہونے کا احتمال تھا۔

..... جب آپ باپ نہیں ہیں تو باپ میں جو شفقت پدری ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ میں نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی کی شفقت اپنی امت پر لوازم نبوت سے ہے۔

۲..... ہر ایک نبی اپنی قوم و امت کا باپ ہوتا ہے۔ جیسا کہ راغب اصفہانی نے مفردات میں کہا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی ایجاد یا ظہور یا اصلاح میں سبب ہو۔ اس کو باپ کہا جاتا ہے اور اسی واسطے ہمارے نبی ﷺ کو مومنوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وبعض القرأت هو اب لهم انتهی کلام الراغب“ یعنی نبی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے۔ بہ نسبت ان کی جانوں کے اور آپ کی بیویں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور بعض قرأتوں میں ہے کہ آپ مسلمان کے باپ ہیں۔ جب آپ کی بیویں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو ضرور آپ باپ ہوں گے۔ پس یہ کہنے سے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔

کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آپ روحانی باپ یعنی رسول بھی نہیں ہیں۔ ظاہر نظر میں یہ کہنے سے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حضور ﷺ کی شان میں کسی کا اظہار ہے اور کفار کے اس طعن میں جو حضور پر کیا کرتے تھے کہ یہ ابتر (لا ولد بے نام و نشان ہونے والا) ہے۔ ان کو ڈھیل دینا ہے کہ وہ خوب اعتراض کر کے دل خوش کریں۔

پس ان اوہام و شبہات کے ازالہ کے لئے ”لکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ لایا گیا ہے اور لکن عربی زبان میں اسی واسطے موضوع ہے کہ اس سے پہلے کلام میں جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کا ازالہ کر دے۔ لہذا ”لکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ کہنے سے تمام شبہات زائل ہو گئے۔ پہلے شبہ کا ازالہ تو اس طرح ہوا کہ ”لکن رسول اللہ“ کہہ کر آپ کے لئے رسالت ثابت کی اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ لہذا پہلے جملے یعنی ”مساکن محمد ابا احد من رجالکم“ میں جسمانی باپ ہونے کی نفی ہوگی اور ”ولکن رسول اللہ“ میں روحانی باپ ہونے کا ثبوت ہوگا۔

پس گویا کہ یوں کہا گیا کہ اگرچہ آپ جسمانی باپ نہیں ہیں۔ لیکن آپ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ اپنی روحانی اولاد پر زیادہ شفیق زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ بہ نسبت جسمانی باپ کے پھر آپ میں شفقت کیوں نہیں ہوگی؟

اور دوسرے شبہ کا ازالہ بالکل واضح ہے کہ: ”مساکن محمد ابا احد من رجالکم“ میں جسمانی باپ ہونے کی نفی ہے جو نبوت کے لئے لازم نہیں اور روحانی باپ ہونا نبوت کے لئے لازم ہے۔ سو اس کی نفی نہیں اور تیسرے شبہ کا ازالہ اس طرح ہوا کہ آپ رسول

ہونے کی وجہ سے اپنی امت کے باپ ہیں اور باپ بھی ایسے کہ آپ کی روحانی اولاد کا شمار سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔

قیامت تک آپ کی اولاد بڑھتی چلی جائے گی نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ اس کے انکار سے کافر ہو کر آپ کی اولاد سے کوئی نکلے گا اور نہ محدث، مجدد، ولی، قطب، غوث، ابدال کے انکار سے کوئی کافر ہوگا۔ ان کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں مسلمان رہیں گے۔ اس طرح پر آنحضرت ﷺ کی بے شمار روحانی اولاد ہوگی اور ان کے ذریعہ ہے آپ کا نام تمام دنیا میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ تو اے کفار جس شخص کے بعد کہوڑا انسان اس کا نام روشن کرنے والے ہوں تم اس کو ابتر (بے نام و نشان ہو جانے والا) کہتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی۔

اور آپ کے دشمنوں کے متعلق حضور ﷺ کو ارشاد ہوا۔ ”انا شانک هو الابتر“ یقیناً تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان معنوں میں تو حضور ﷺ کی بہت بڑی مدح ہے اور اس سے آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔

برخلاف اس کے خاتم النبیین بمعنی نبی گر لینے سے تو آپ کی صریح مذمت ہے۔ کیونکہ ہر ایک نبی کے آنے پر آپ کی روحانی اولاد انکار سے کافر ہو کر آپ کی اولاد سے نکلتی جائے گی اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں دنیا آپ کی اولاد سے خالی ہو جائے گی اور دنیا پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور پجاری تمام امت کافر ہو کر جہنم میں چلی جائے گی اور جنت صرف نئے نبیوں اور ان کے چند مہراہیوں کے لئے کبڑی گاہ بنا دی جائے گی اور مہراہیوں کا ساتھ ہونا بھی احتمالی ہے۔ کیونکہ نئے نبیوں نے کافروں کو تو مسلمان بنانا نہیں۔ صرف مسلمانوں کو ہی کافر بنانا ان کا کام ہوگا تو مسلمان پجارے کب تک ان انبیاء کی کفر کی مشین گنوں کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ تو شرم کرو۔

یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا

وہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

منکر: ..... پس خاتم کے معنی مہر ہیں۔ آگے مہر کی دو غرضیں ہوتی ہیں۔

۱..... تصدیق۔ ۲..... تزیین۔

مثبت: ..... غلط ہے۔ خاتم آلہ ختم کو کہتے ہیں۔ جب آپ خاتم کو اسم آلہ تسلیم کر چکے ہیں۔ دیکھئے اجراء نبوت اور اسم آلہ وہ ہوتا ہے کہ جس فعل سے اس کو بنایا جاوے۔ اس فعل کے کرنے کا آلہ ہو۔ جیسے مضراب مارنے کا آلہ۔ مقرر اض کاٹنے کا آلہ۔ مجلاب کھینچنے کا

آلہ۔ علیٰ ہذا القیاس خاتم کا معنی ختم کرنے کا آلہ ہوگا۔ کیونکہ یہ فعل ختم سے بنا ہے اور ختم کے معنی اختتام اور انتہاء کے ہیں۔

سنئے: ختم الشئ من باب ضرب یعنی چیز ختم ہوگئی۔

ختم اللہ بخیر یعنی خدا نے اس کا خاتمہ بخیر کیا۔ ختم القرآن آخرہ ختم قرآن کے معنی آخر تک پڑھ جانا۔

”والخاتم بفتح التاء وكسرهما الختام والخاتام كله بمعنی وخاتمته الشئ آخره“ (مختار الصحاح ص ۴۷۵) یعنی خاتم خواہ تا کی زیر کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ اور ختام وخاتام سب کے ایک ہی معنی ہیں اور وہ ایک معنی یہی ہیں۔ ختم کرنے والا۔ کیونکہ خاتم بالکسر ختم سے اسم فاعل ہے اور اس کے معنی ختم کرنے والا کے ہیں نہ کوئی اور۔ تو جب خاتم بالفتح کو بھی خاتم بالکسر کا ہم معنی قرار دیا تو دونوں کے معنی ختم کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ لیجئے صاحب آپ تو یہ کہہ کر کہ یہ اسم فاعل نہیں ہے۔ بلکہ اسم آلہ ہے۔ ختم کرنے کے معنی سے بھاگتے تھے۔ لیکن وہ پھر آپ کے گلے کا ہار ہو گئے۔ خاتم النہیین کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور خاتم کے معنی مہر یا انگٹھی اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کا مضاف الیہ ایسا ہو۔ جس کی مہر یا انگٹھی بنتی ہے۔ خاتم فضتہ چاندی کی انگٹھی۔ خاتم ذہب سونے کی انگٹھی۔ خاتم حدید لوہے کی انگٹھی اور جب اس کا مضاف الیہ ذوی العقول ہو۔ تو اس وقت اس کا معنی انگٹھی یا مہر نہیں ہوتا۔ ورنہ عربی لغت اور محاورات عرب سے اس مثال پیش کیجئے کہ خاتم مضاف ہو اور مضاف الیہ جمع ذوی العقول ہو اور آئمہ لغت نے تصریح کی ہو کہ یہاں اس کے معنی مہر کے ہیں۔ جیسا کہ میں نے خاتم بمعنی آخری کی تصریح پیش کر دی ہے اور بالفرض اگر آپ کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لئے مان لیں کہ خاتم النہیین میں خاتم کے معنی مہر کے ہیں۔ تب بھی نبی گری ثابت نہیں ہوگی۔ کیونکہ مہر کرنے کا مقصد جس طرح تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح بند کرنا بھی ہوتا ہے۔ مضمون ختم کر کے مہر لگائی جاتی ہے اور اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور مہر کو توڑنا جرم ہے۔ کیونکہ مہر توڑنے سے یا کسی چیز کا نکالنا مقصود ہوگا۔ یا اس میں داخل کرنا اور مہر لگنے کے بعد یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ پس مرزا قادیانی خاتم النہیین کی مہر توڑ کر بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

اسی طرح بادشاہوں کے کھانوں پر مہر لگی ہوتی ہے تاکہ اس میں سے کوئی نکال نہ لے۔ یا اس میں کوئی مہلک چیز داخل نہ کر دے۔ اسی طرح خاتم النہیین کے ذریعہ تمام پیغمبروں

پر مہر لگا دی گئی ہے کہ وہ سب سچے تھے۔ تاکہ کوئی ملحد زندیق، کذاب، دجال اپنا زہر آلود جسم پیغمبروں میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرے اور مسلمان اس کو پیغمبر خیال کر کے اس کے زہر سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ کلام اس تقدیر پر ہے کہ حتم بمعنی مہر کرنا لیا جائے اور اس میں تصدیق اور اختتام دونوں ملحوظ ہوں اور بسا اوقات ختم بمعنی مہر کرنا ہوتا ہے اور اس میں تصدیق کا معنی بالکل ملحوظ نہیں ہوتا۔

سنئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ختم اللہ علیٰ قلوبہم یعنی اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے متعلق فرماتے ہیں۔ لایؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو معلوم ہوا کہ جس چیز پر مہر لگائی جاتی ہے اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ نکل سکتی ہے۔ چنانچہ اس مثال کو غور سے دیکھئے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے۔ نہ تو ان کے اندر ایمان داخل ہوگا اور نہ ان میں سے کفر نکلے گا۔ اگر ایمان داخل ہو جائے تو قرآن کی پیشگوئی غلط ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک! ملک الشعراء کہتا ہے:

اروح وقد حتمت علیٰ فوادئ  
بجک ان محفل بہ سوا کا

ترجمہ: میں تجھ سے اس حال میں رخصت ہوتا ہوں کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی مہر لگا دی ہے۔ اس خیال سے کہ اس میں کوئی اور نہ اترے۔ دیکھئے اس شعر میں مہر کرنے کی غرض یہی بیان کی گئی ہے کہ محتوم کے اندر اور کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ ورنہ شعر کی نزاکت باقی نہیں رہ سکتی۔

اس طرح سے خاتم النبیین کا یہ معنی ہوگا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے انبیاء کے گروہ پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا اور اگر محمد رسول اللہ ﷺ کو تمام نبیوں کا ختم کرنے والا نہ تسلیم کیا جائے تو صاحب شریعت نبیوں کا ختم کرنے والا کس آیت سے آپ ثابت کریں گے۔ جب خاتم النبیین کے معنی افضل الرسل یا زینت انبیاء یا نبی گر ہوئے تو اگر کوئی جھوٹی موٹی شریعت لے آئے اور بعض احکام کی مصالحہ رکیکہ کی وجہ سے ترمیم کر دے تو آپ کس آیت سے اس کا منہ بند کریں گے۔ جب وحی الہی آ سکتی ہے جس کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو بعض احکام جدید لانے والے کے انکار سے بھی تو کافر ہی ہوگا۔ پھر نئی شریعت کیوں نہیں آ سکتی۔ جب ایمانیات میں نئی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں تو اعمال میں کیوں نہیں ہو سکتیں۔ جس طرح آپ

نے باطل تاویلوں سے مرزا قادیانی کی وحی اور ان کی رسالت کو ایمانیات کے اندر داخل کر دیا ہے۔ کیا اسی طرح اگر کوئی شخص اعمال میں کمی بیشی کرے تو کیا مزید استحاله لازم آئے گا؟۔ ذرا سوچ سمجھ کر وضاحت کرنی ہوگی۔

سنجھل کر رکھئے قدم دشت خار نہں جنوں  
کہ اس دشت میں برہنہ پا بھی ہیں  
منکر:..... غرضیکہ بند کرنے کے معنی کسی جگہ نہیں ہوتے۔

مثبت:..... بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اخت کے حوالے تو آپ نے سن لئے۔ اب اپنے مبلغ علم کا حوالہ بھی سن لیجئے۔ خاتم بفتح تا، ہو تو تین معنی رکھتا ہے۔ مہر، اگٹھی، آخر!

(احمدیہ نوٹ بک ص ۳۱۳)

فرمائیے آخر کے یہاں کیا معنی ہیں۔ آخری کے یا زینت مہر کے۔

منکر:..... نبی کریم ﷺ کو ان معنوں میں خاتم النبیین کہا گیا ہے کہ آپ کی پیروی سے جہاں صالح، شہید اور صدیق کا درجہ ملتا ہے۔ وہاں آپ کی پیروی سے نبوت کا درجہ بھی مل سکتا تھا۔  
مثبت:..... صالح، شہید، صدیق کے متعلق تو نصوص شریعت کے اندر تصریح ہے کہ یہ تینوں درجے اس امت کو ملیں گے۔

اور اس سے بڑھ کر یہ صدیق، شہید، صالح اس امت میں پیدا ہوئے جو فریقین کو مسلم ہے تو کیا وجہ ہے کہ نبی جو سب سے بڑا درجہ تھا۔ اس کے متعلق قرآن یا حدیث یا اقوال سلف میں کہیں تصریح نہیں ہے کہ محمد ﷺ کے بعد آپ کی امت میں آپ کی پیروی سے نبی نہیں گے اور ان پر ایمان لانا فرض ہوگا اور ان کا منکر کافر ہوگا۔ چھوٹے درجے بیان فرمادیئے اور بڑا درجہ بیان نہ فرمایا اور نہ کسی نے بڑا درجہ آج تک حاصل کیا۔ یہ قطعی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبی کسی قسم کا پیدا نہیں ہوگا۔ فافہم!

منکر:..... آخری کے یا بند کرنا کے معنی کرنے کی صورت میں چونکہ آپ اپنے پہلے نبیوں کی نسبت سے آخری بنتے ہیں۔ باقی نبی بھی اپنے پہلے نبیوں کی نسبت آ کر ہی ہیں پھر ان کو اور بھی خاتم کہنا پڑے گا۔

مثبت:..... یہ تو ہماری دلیل ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔ اگر اس کے معنی آخری نبی کے نہ ہوتے تو اور انبیاء کو بھی خاتم النبیین کہا جاتا۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں

اور کسی نبی کو خاتم النبیین نہیں کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کا عہدہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہی دیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ خاص اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخر النبیین تسلیم کیا جائے۔

منکر:..... ان کے (عیسیٰ علیہ السلام) بعد تاقیامت نبی اسرائیل میں سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نبی پیدا ہونے بند ہو گئے۔

ثبوت:.....

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں  
زیلخانے کیا خود پاک دامن ماہ کنکھاں کا  
جناب! جب بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو مرزا قادیانی بھی تو اسرائیلی  
ہیں۔ وہ کیسے نبی بن بیٹھے؟۔

سنئے: مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی  
ہوں۔“ (ایک غلطی کا ازالمص ۱۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶)

منکر:..... اس جگہ سوال تو بعدیت کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آگئے تو نفی ٹوٹ  
گئی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کے صحابی حضرت مغیرہ کی حدیث میں جہاں مسئلہ اجرانہوت کی بحث  
موجود ہے۔ وہاں مولانا کے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ مغیرہ نے ایک شخص کو لائی بعدی  
(میرے بعد نبی نہیں) کہنے سے ڈانٹا اور فرمایا: ”کفک اذا قلت انه خاتم الانبياء فاننا  
کننا نحدث ان عيسى خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعده! کہ بھائی لائی  
بعدی مت کہا کرو۔ اس سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے تو آپ  
کے بعد ہی ہوں گے۔“

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں  
لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا  
ناظرین کرام! منکر صاحب نے ہوشیاری تو بڑی کی۔ لیکن خدا کی قدرت خوہی پھنس  
گئے۔ حضرت مغیرہ کی روایت منکر صاحب کے تمام شبہات کے ازالہ کے لئے کافی ہے۔ جب منکر  
صاحب نے خود اس روایت کو نقل کیا ہے تو اب اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اولاً میں آپ  
کے سامنے مذکورہ روایت کے الفاظ معہ حوالہ نقل کرتا ہوں۔ بعدہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر دیتا ہوں۔  
آپ خود ترجمہ ہی سے سمجھ جائیں گے کہ حضرت مغیرہ کی روایت کیا کہہ رہی ہے۔

”عن الشعبي قال قال رجل عند المغيرة بن شعبه صلى الله على محمد خاتم الانبياء لا نبى بعده فقال المغيرة بن شعبه حبسك واذا قلت خاتم الانبياء فانا كنا نحدث ان عيسى عليه السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعده (درمنثور ج ۵ ص ۲۰۴)“ ﴿امام شعبي سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہؓ سے شعبہ کے سامنے یہ کہا کہ صلی اللہ علی محمد خاتم الانبياء لا نبی بعده (یعنی اللہ درود بھیجے محمد ﷺ پر جو نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے) تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ خاتم الانبياء کہنا تجھ کو کافی ہے۔ کیونکہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے۔ پس جب وہ نکلیں گے تو وہ آنحضرت ﷺ کے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی ہیں۔﴾

ناظرین کرام! اس روایت میں آپ خوب غور کریں کہ حضرت مغیرہؓ کس طرح عوام الناس کے عقائد کو بچا رہے ہیں کہ لانی بعدہ نہ کہا کرو۔ صرف خاتم الانبياء کہنا کافی ہے۔ کیونکہ لانی بعدی (میرے بعد کوئی نبی نہیں میں جو ”لا“ ہے اس کو عربی زبان میں لائے نئی) جنس کہتے ہیں اور جو چیز اس کے بعد ہو اس کے وجود کی بالکل نفی کرتا ہے۔ مثلاً ”لا رجل فی الدار“ (گھر میں کوئی مرد نہیں) اس وقت کہا جائے گا جب گھر میں کسی مرد کا وجود نہ ہو۔ نہ ایک ہونہ دو نہ چار۔ بالکل گھر میں کوئی مرد نہ ہو۔ جب لائے نئی جنس کا استعمال بالکل وجود کی نفی کے لئے ہے تو لانی بعدی کہنے سے ظاہر نظر میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کا موجود ہونا بھی ممکن نہیں۔ گو وہ پہلے انبیاء میں سے ہی ہو۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

اس لئے حضرت مغیرہؓ نے لانی بعدی کہنے سے روکا کہ اس سے بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی نفی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ آنحضرت ﷺ کے بعد زندہ ہیں اور جو معنی خاتم النبیین کے ہیں۔ وہ خاتم الانبياء (یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے) کہنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ لہذا لانی بعدہ کو خاتم الانبياء کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس شخص نے خاتم الانبياء کو لانی بعدہ کے ساتھ ملا کر یوں کہا تھا۔

”صلی اللہ علی محمد خاتم الانبياء لا نبی بعده“ اور ملانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی نفی کا شبہ اور زیادہ قوی ہو جاتا تھا۔ کیونکہ خاتم الانبياء کے معنی نبیوں کا ختم



کرنے والا ہوئے۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لاجبی بعدہ سے یہی سمجھ میں آوے گا کہ پہلے نبیوں میں سے بھی آپ کے بعد کسی کا وجود ثابت نہیں۔ اس مفہم کی وجہ سے حضرت مغیرہ نے لاجبی بعدہ کو خاتم الانبیاء کے ساتھ ملانے سے روک دیا۔ اس روایت سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱..... عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی نازل ہوں گے۔ نہ کوئی اور، اس کے لئے حضرت مغیرہ کے ان لفظوں کو پڑھئے۔ ”کننا نحدث ان عیسیٰ علیہ السلام فان خارج هو فقد کان قبلہ وبعده“ کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے۔ پس جب وہ نکلیں گے تو وہ آپ سے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی ہیں۔

حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جو عیسیٰ آنے والا ہے وہ وہ ہے جو آپ سے پہلے بھی ہے اور بعد بھی ہے اور وہ صرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں نہ کوئی اور۔ ”فقد کان قبلہ وبعده“ زیر نظر ہے۔ منکر صاحب بتائیں کہ قبلہ وبعده کا کیا مطلب ہے۔

منکر صاحب کی دیانت پر مجھے سخت افسوس ہے کہ آپ نے لفظ قبلہ نقل تو کیا۔ لیکن مطلب بیان کرتے وقت اس کو کھا گئے۔

ناظرین کرام! منکر صاحب کا ترجمہ بھی ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی لاجبی بعدی مت کہا کرو۔ اس سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے تو وہ آپ کے بعد ہی ہوں گے۔

اچھا بعدہ کا ترجمہ تو بعد ہی ہوں گے۔ ہوا تو قبلہ کا ترجمہ۔ کہاں گیا یہ مرزا قادیانی کے کلمات کا پر توہ ہے۔ مرزائی حضرات میں یہی ایک کمال ہے کہ عبارت کو قطع و برید کر کے اپنا مطلب نکالنا۔ حوالہ غلط دینا۔ عبارت نقل کر کے بعض الفاظ کا ترجمہ جو ان کے مطلب کے مخالف ہو۔ چھوڑ دینا اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو ایسی تاویل کرنا جو شیطان کو بھی کبھی نہ سوجھی ہو۔

۲..... صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے۔ کیونکہ حضرت مغیرہ صحابی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ آئیں گے۔ جو آپ سے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی۔ صحابی جب تابعی کو کہے کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ایسا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں تو جب صحابہ یوں کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے ہیں۔ تو معلوم ہوا تو صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے معتقد تھے اور صحابہ کا عقیدہ

حضور ﷺ کے بتلانے کے بغیر ہونے نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے ان کو بتایا تھا۔ لہذا مرزائیوں کا یہ کہنا کہ صحابہ و وفات کے معتقد تھے۔ ان کی پیش کردہ روایت سے باطل ہو گیا۔

۳..... معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ حضرت مغیرہؓ نے لانی بعدہ سے روکنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ آنحضرت ﷺ کے بعد وہ نبی آئے گا۔ جو آنحضرت ﷺ کے پہلے بھی ہے اور بعد بھی۔ دیکھوان کے لفظ ”فقد کان قبلہ وبعده“ اور اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی یا بہت سے نئے نبی آئے ہوتے۔ جیسا کہ میاں محمود صاحب خلیفہ قادیانی فرماتے ہیں۔ تو حضرت مغیرہؓ یوں فرماتے کہ بھائی لانی بعدی موت کہو۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بعد فلاں نبی پیدا ہوگا۔ یا بہت سے نبی پیدا ہوں گے اور قبلہ وبعده کی قید نہ لگاتے۔ فافہم فانہ عزیز!

۴..... صحابہ میں جنہوں نے لانی بعدی کہنے سے روکا ہے۔ جیسے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی بھی یہی مراد ہے جو حضرت مغیرہؓ کی ہے۔

۵..... صحابہ خاتم الانبیاء کا یہی مطلب سمجھتے تھے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا ظلی، بروزی، حقیقی، غیر حقیقی، مستقل، غیر مستقل نبی نہیں ہوگا۔ ورنہ جس طرح حضرت مغیرہؓ نے قبلہ وبعده کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح دوسرے آنے والے نبیوں کا بھی ذکر ضروری تھا۔ کیونکہ لانی بعدہ نے ہر قسم کی نفی کر دی تھی۔ حضرت مغیرہؓ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنیٰ کر کے باقی تمام اقسام کو مد نفی میں ڈال دیا۔

۶..... آنحضرت ﷺ کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ صحابہ و تابعین میں اتنا زور پکڑ گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی نفی کے احتمال سے بعض صحابہ نے لانی بعدی کہنے سے روکا۔ تاکہ عوام عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا انکار ہی نہ کر بیٹھیں۔ اگر کوئی نبی یا نبی آتا ہوتا تو اس کی بھی استثناء ضروری تھی۔

منکر..... چنانچہ خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کیف تہلک امة انا اولہا وعیسیٰ بن مریم آخرہا“ کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے۔ جس کی ابتداء میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہیں۔

مثبت.....

نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا تمہاری دلفریبی کو  
بہت سے ہو چکے ہیں گرچہ تم سے دلربا پہلے

مگر یہ مرزا قادیانی آنجسانی کا پرتو ہے۔

ناظرین کرام! دیکھئے منکر صاحب دن دھاڑے حدیث پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔  
حدیث دراصل یوں ہے۔ ”کیف تہلک امة انا اولہا والمہدی وسطہا والمسیح  
آخرہا“

”ولکن بین ذالک فیح اعوج یسوا منی ولا انا منهم (رواہ رزین  
مشکوٰۃ ص ۵۸۲، باب ثواب هذا الامة)“ ﴿حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک  
ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں میں ہوں اور درمیان میں امام مہدی اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام  
ہیں۔ لیکن اس کے درمیان (یعنی میرے بعد اور مہدی سے پہلے) ایک جماعت ہوگی جن کا  
میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس سے مراد مدعیان نبوت اور فرق  
باطلہ ہیں۔

منکر صاحب والمہدی وسطہا کے اقتظ کو بالکل کھا گئے:

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

چونکہ آنحضرتؐ کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو شخصوں کا آنا مرزا  
قادیانی کے دعوے کی تکذیب ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو جب مہدی بننے کی سوچھی تو دل میں  
خیال کیا کہ حدیثوں سے امام مہدی کے بعد ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے  
نازل ہونا ثابت ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ میں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو جھٹ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ  
السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ بھی میں ہی ہوں۔ مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی اور یہ دونوں  
ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ مہدی عیسیٰ سے کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ لیکن اس حدیث میں چونکہ  
حضور ﷺ کا صاف ارشاد موجود ہے۔

کہ امت کی ابتداء میں میں ہوں اور درمیان میں امام مہدی علیہ السلام ہیں اور اخیر  
میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دو شخص  
ہیں۔ لہذا منکر صاحب نے والمہدی وسطہا کو حذف کر کے تحریف میں مرزا قادیانی کے اتباع کا پورا  
ثبوت دیا۔ شاباش! مرداں جنیں کنند!

منکر..... گلیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کے شاگرد کے آنے سے تو خاتمیت  
عمدی میں فرق آجائے۔ لیکن ایک غیر شاگرد کے آنے سے جس نے ان کی پیروی سے نبوت  
حاصل نہیں کی۔ خاتمیت میں کوئی فرق نہ آئے۔

ثابت:..... چونکہ خاتمیت محمدی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی۔ لہذا جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ کو آپ کے بعد نبوت دی گئی ہے تو یہ خاتمیت محمدی کے صریح برخلاف ہے۔ برعکس اس کے کسی پہلے پیغمبر کا آپ کے بعد آنا خاتمیت محمدی کے منافی نہیں۔ کیونکہ اس کو آنحضرت ﷺ سے پہلے نبوت مل چکی ہے۔ خاتم النبیین کے معنی تو یہ ہیں کہ آپ کے بعد نبی بننے بند ہو گئے ہیں نہ یہ کہ خاتم النبیین کے بعد اگر پہلے انبیاء میں سے کوئی زندہ ہو تو وہ بھی مر جائے۔ خدا را وچو تو سہی۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر کے دگنے عذاب کے مستحق بن رہے ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا ہی پر رہتے اور محمد رسول اللہ ختم الرسل تشریف لے آتے تو کیا آنحضرت ﷺ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ اب تو مر جاؤ۔ کیونکہ میں آخری نبی ہو کر آ گیا ہوں۔ اگر آنحضرت ﷺ کے وقت میں کسی پہلے نبی کے زندہ رہنے سے خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے تو آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر کو یہ کیوں فرمایا؟۔

”ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي (رواه احمد والبيهقي

مشکوٰۃ ص ۳۰)“

کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا چارہ نہیں تھا۔ یوں کیوں نہ فرمایا۔ عمر کچھ ہوش کرو۔ میرے بعد موسیٰ سی بھی افضل پیغمبر پیدا ہوگا۔ (مرزا قادیانی) وہ بھی میری پیروی کرے گا اور میری ہی باتوں کو اپنے لئے مشعل راہ بنائے گا اور تم یہودیوں کی باتیں سنتے ہو۔ کیسی اچھی بات تھی۔ محمد رسول اللہ کا سید المرسلین ہونا ایسا ثابت ہو جاتا جس سے زیادہ واضح طریق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اسی واسطے نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

منکر:..... وہ کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے ایک پچھلی امت کے نبی کو خیر الام کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ مجبوث کرے گا۔ آخر کوئی معقول وجہ ہونی چاہئے نئے نبی کے آنے سے کونسا فتنہ پیدا ہوتا ہے جو پرانے نبی کے آنے سے برپا نہیں ہوتا؟۔

ثابت:..... جب نصوص شرعیہ مسلمہ عند الحضم سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخری زمانہ میں نزول فرمائیں گے تو اب اس کی حکمت پوچھنا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ راز حکمیں کا دریافت کرنا ہے۔ سو پوچھنا کہ اس میں کوئی حکمت مقول نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ مگر ہماری عقلیں اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اس لئے کہ:

بدریا در منافع بیشار است  
اگر خواہی سلامت برکنار است

اس لئے شریعت نے براہ شفقیت ایسے امور کی کھود کرید سے روک دیا ہے اور ضروری کاموں میں لگا دیا ہے:

حدیث مطرب وے گو راز دھر کتر جو  
کہ کس نکشود و نکشاید بہ حکمت این معمارا

اور سنئے مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کی قدرتیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور آگے کچھ نہیں۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۶۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۸۲) اور فرماتے ہیں: ”یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق دردیق خدا کے کاموں کی دریافت کر سکے۔ بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے برتر ہیں۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۶۸، خزائن ج ۲۳ ص ۲۸۰)

اور سنئے فرماتے ہیں: ”یہ خیال بھی سراسر حماقت ہے کہ جس قدر قانون قدرت ظاہر ہو چکا ہے اسی پر خدا کے مخفی ارادوں اور مخفی قدرتوں کا قیاس کرنا چاہئے۔“

(حاشیہ چشمہ معرفت ص ۲۶۸، خزائن ج ۲۳ ص ۲۸۰)

جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق خدا کا ارادہ ہو چکا ہے تو اب اوہام مختصر عد کی بنا پر اس کی حکمت پوچھنا بقول مرزا قادیانی حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ملاحظہ کی کثرت اس امر کی مقتضی ہے کہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حکمتیں جو علماء اسلام کثر ہم اللہ پر خدا کی طرف سے منکشف ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت ذکر کر دی جائے۔

حکمت نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ خدا کی تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ ایسے ہی آپ تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ بعض محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو خاک متصل ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔

پھر از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اور اس افضلیت کو خود حضور ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتصریح بیان فرما دیا ہے۔

..... ”انا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامة تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر (ترمذی شریف)“ ﴿میں اللہ کا حبیب ہوں۔

بلانقر اور میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا۔ جس کے نیچے آدم اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ ﴿

۲..... ”اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم

(ترمذی) ﴿ میں قیامت کے دن تمام انبیاء کا امام ہوں گا اور ان کا خطیب۔ ﴿

۳..... ”انا خطيبهم اذا انصتوا (ترمذی) ﴿ میں ان کی طرف سے

کلام کروں گا جب وہ سب چپ ہو جائیں گے۔ ﴿

قرآن حدیث میں حضور ﷺ کی افضلیت مصرع ہے تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ جس طرح ہمارے حبیب کی افضلیت پر قوی شہادت قائم ہوگئی ہے۔ اسی طرح عملی شہادت بھی قائم کر دی جائے۔ اس کے لئے منجملہ اور شہادتوں کے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں مقدر کیا اور اس نزول سے آنحضرت ﷺ کی افضلیت پر شہادت اس طور پر ہوئی کہ ایک عظیم الشان مستقل صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی آنحضرت ﷺ کی شریعت کا قمع ہوا اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا اور آپ کا امتی ہوا اور آپ کی امت میں داخل ہونے کو بلانقر سمجھا۔

تو جس نبی کی امت میں اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر ایک امتی ہو کر رہے اور باوجود صاحب کتاب و شریعت ہونے کے ایک حکم کو بھی بدل نہ سکے تو اس نبی ﷺ کی کتنی بڑی شان ہوگی اور باقی انبیاء پر اس کی فضیلت نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ ثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ انبیاء کی جماعت میں سے ایک ایسا نبی جو صاحب کتاب اور اکثر انبیاء سے افضل اور بعض انبیاء کے برابر ہے۔ جب محمد رسول اللہ ﷺ کی امت میں ہوگا اور آپ کی تعلیم کی پیروی کرے گا اور قرآن کا فتح تو درکنار آنحضرت ﷺ کی سنت میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کا مجاز نہ ہوگا۔ تو آنحضرت ﷺ کی افضلیت باقی انبیاء پر جو کہ آنحضرت ﷺ کے ایک قمع نبی جیسے ہیں۔ روز روشن کی طرح ثابت ہو جائے گی۔

یعنی آپ کی امت میں جب پہلے انبیاء کے برابر کا ایک صاحب کتاب نبی موجود ہے تو آپ کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے اور آپ کی شان اور درجے کا علم کما حقہ سوائے خدا کے کس کو ہو سکتا ہے۔ (فانہم فانه لطیف)

اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک اور لطیف اشارہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر و صاحب کتاب نبی ہو کر شریعت محمدیہ کے قمع ہوں گے۔ اسی طرح اگر تمام پیغمبر صاحب شریعت و غیر صاحب شریعت محمد رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہوتے تو ان کو محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع کے سوا چارہ نہیں تھا۔

اور وہ اپنی شریعتوں پر عمل نہ کر سکتے اور ان کی شریعتیں ان کی موجودگی میں منسوخ قرار دی جاتیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہو کر بھی اپنی کتاب پر عمل نہیں کر سکیں گے اور یہ عملی شہادت پہلے پیغمبروں میں سے صرف ایک کے بھیجنے سے پوری ہو سکتی ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے لئے خدا تعالیٰ نے مقدر کیا۔ ہذا! برخلاف اس کے اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص نبی بنے تو مقصود مذکور حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نبی کو نبی کتاب و شریعت تو دی نہیں جائے گی۔ لہذا یہ صاحب کتاب و صاحب شریعت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مخالف کو بھی مسلم ہے تو جو پہلے صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی ہیں۔ ان کے ساتھ برابر نہیں ہوتا۔ جب یہ امتی نبی پہلے نبیوں کے ساتھ برابر نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو پہلے نبیوں سے کم درجے کا ہو اور محمد رسول اللہ ﷺ ان کے برابر کے نبی ہوں۔ (ہذا مخالف) اور دوسری بڑی زبردست خرابی یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کو جاری ماننا پڑے گا اور پھر جب بقول خلافت پناہی ہزاروں نبی ہوں گے تو امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کما مر بالفصیل! برخلاف اس کے جب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی اور اس عقیدے پر وہ جسے رہیں تو پھر خواہ کتنے دجال نبوت کا دعویٰ کریں۔ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر نہیں ہو سکتا۔

دیکھئے! تیرہ سو سال سے اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی بن سکتا ہے۔ تو ہزاروں جھوٹے نبی پیدا ہو جاتے اور ہزاروں شیطانی وساوس میں پھنس کر مدعی نبوت بن جاتے اور امت مسلمہ کا شیرازہ پارہ پارہ ہو جاتا اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے معتقد ہوئے ان کے پھسلنے کی یہی وجہ تھی کہ ان مدعیان مہدویت و عیسویت نے مرزا قادیانی کی طرح باطل تاویل میں کیں اور سادہ لوح ان کے دام تزویر میں آ گئے۔ اگر وہ ختم نبوت کے عقیدے پر جسے رہتے اور ان مدعیوں کی باطل تاویل میں نہ سنتے تو ایمان بچا نکلتے۔ باوجود اس کے کہ سابق مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پر جسے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان میں سے بعض شیطانی دھوکے میں آ گئے۔ لیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا پھانک کھول دیا ہے اور ہر ایک نتھو خیرا نبوت کا مدعی بن بیٹھا ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کے مریدوں میں سے بہت نے نبوت کے دعوے کئے ہیں اور ہر ایک وہی اپنے اوہام کو وحی خیال کرنے لگ گیا ہے تو اگر یہی خیال ترقی کرتا گیا تو مسلمانوں کی خیر نظر نہیں آتی۔

منکر..... ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً“ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا۔

ثبت: ..... حدیث نہایت درجے کی ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں ابراہیم بن عثمان عسلیٰ ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔ ”کما قال ابن حجر وسید جمال الدین المحدث فی روضة الاحباب“ لیکن جس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے اور اس میں حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کی وفات کا ذکر ہے۔ اس سے ختم نبوت بالکلیہ روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب من ہی باسما الانبیاء میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ ”مات وهو صغیر ولو قضی ان یکون بعد محمد ﷺ نبی لعاش ابنه ولكن لا نبی بعده“ ﴿ابراہیم ابن رسول اللہ فوت ہو گیا اور اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا تو آپ کا بیٹا زندہ رہتا۔ لیکن آپ کے بعد کوئی نہیں ہی نہیں ہے۔﴾

اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ اس باب میں ذکر کیا ہے۔ جس میں ”لو عاش ابراہیم الحدیث“ کو ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ نے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جو اجراء نبوت بعد آنحضرت ﷺ کی جڑ بالکلیہ کاٹی ہے اور ختم نبوت کو روشن کرتی ہے۔

منکر: ..... حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں۔ ”قولوا انه خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعده (درمنثور ج ۵ ص ۲۰۴، مجمع البحار)“

ثبت: ..... اس کا جواب حضرت مغیرہ کے قول کی شرح میں گذر چکا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

منکر: ..... ”اناسید الاولین والآخرین من النبیین ولا فخر“

ثبت: ..... ثبوت ندارد۔ بر تقدیر صحت آخرین وہ انبیاء ہیں جو پہلوں کی نسبت آخری ہیں نہ کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کے نبی اور حقیقی آخری آنحضرت ﷺ ہی ہیں۔

منکر: ..... ”قال رسول الله للعباس فيكم النبوة والمملكة“ کہ تم میں نبوت بھی ہوگی اور سلطنت بھی۔

ثبت: ..... تحریف سے کام نہیں چل سکتا۔ نبوت سے مراد آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اسی کے لئے مندرجہ ذیل احادیث پر غور کیجئے۔

..... ”عن النعمان بن بشير وحذيفة قال قال رسول الله ﷺ تكون النبوة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله ثم تكون ملكا جبريه



فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة  
ثم سكت (مشكوة كتاب الفتن، احمديه نوٹ بك ص ۳۶۶) ﴿حضرت نعمان بن بشير  
وذئيفه سے مروی ہے کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک خدا چاہے گا۔ پھر اس کو خدا اٹھالے گا۔ پھر  
نبوت کے طریق پر خلافت ہوگی۔﴾

۲..... ”عن سفينة قال سمعت النبي ﷺ يقول الخلافة ثلاثون  
سنة ثم تكون ملكاً ثم بقول سفينة امسك وخلافة ابى بكر سنيتين وعمر  
عشرة وعثمان اثنتى عشرة وعلى ستة (رواه احمد وترمذى وابوداؤد ومشكوة  
ص ۴۶۳) ﴿حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ  
خلافت تیس سال تک ہوگی۔ پھر سلطنت ہو جائے گی۔ پھر حضرت سفینہ (یہ حدیث بیان کر کے)  
فرمایا کرتے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے دو سال شمار کرے اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے دس اور  
حضرت عثمانؓ کی خلافت کے بارہ اور حضرت علیؓ کی خلافت کے چھ (تو یہ کل تیس برس ہوئے)﴾

۳..... ”قال رسول الله ﷺ خلافة النبوة ثلاثون عاماً ثم  
يكون ملك فاستاء لها رسول الله ﷺ يعني نساء ه ذلك فقال خلافة نبوتة ثم  
يوتى الله الملك من يشاء (ترمذى ابوداؤد) ﴿آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نبوت کی  
خلافت تیس برس تک ہوگی۔ پھر سلطنت بن جائے گی۔ آنحضرت ﷺ کو اس سے رنج ہوا۔ پس  
فرمایا کہ نبوت کی خلافت ہوگی۔ پھر خدا جس کو چاہے گا سلطنت دے گا۔﴾

۴..... ”لى النبوة ولكم الخلافة (كنز العمال ج ۶ ص ۱۸۰)“  
﴿آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نبوت میرے واسطے ہے اور خلافت تمہارے واسطے۔ یہ صاف  
تصریح ہے کہ آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔﴾

۵..... ”عن ابى مالك الاشعري قال قال رسول الله ﷺ ان الله  
تعالى بدا هذا الامر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضواً  
وكائنا عتواً وجبريةً وفساداً فى الامة (طبرانى كنز العمال ج ۶ ص ۲۹)“  
﴿ابوماک اشعری سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس کام کو  
(شریعت اسلام) کو نبوت اور رحمت سے شروع کیا ہے اور پھر خلافت اور رحمت ہو جائے گا اور پھر  
سلطنت ہوگی۔ لڑائی جھگڑے کی اور ظلم ہوگا اور امت میں فساد ہوگا۔﴾

ان پانچ روایتوں پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا۔ بعض دفعہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اور خلفاء راشدین کے زمانہ کو نبوت کا زمانہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ روایت نمبر ۱۱ میں ہے اور بعض دفعہ خلافت کا علیحدہ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد سلطنت ہو جانے کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ روایت نمبر ۲، ۳، ۴، ۵ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ منکر کی پیش کردہ روایت ”منکم النبوة والمملکة“ اور روایت نمبر ۱۱ میں نبوت سے مراد آنحضرت ﷺ و خلفاء راشدین کا زمانہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں روایتوں میں نبوت کے بعد طوکیت ہو جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ نبوت کے بعد تیس سال تک منہاج نبوت پر خلافت ہوئی اور اس کے بعد سلطنت ہوئی۔ جیسا کہ روایت نمبر ۲ تا ۵ میں نبوت کے بعد منہاج نبوت پر خلافت ہونے کا ذکر ہے۔ پس اگر فیکم النبوة اور کون النبوة فیکم میں نبوت سے مراد آنحضرت ﷺ اور خلفاء راشدین کا زمانہ نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ تم میں نبوت ہوگی۔ پھر خدا تعالیٰ اس کو اٹھالے گا اور پھر جبر یہ سلطنت ہو جائے گی۔ پھر اس کو بھی خداوند تعالیٰ اٹھالے گا اور منہاج نبوت پر خلافت ہوگی۔ جیسا کہ روایت نمبر ۱۱ میں ہے۔ ان سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد خلافت منہاج نبوت پر ہوگی اور اس کا زمانہ تیس برس ہے۔ جیسا کہ روایت نمبر ۲، ۳ میں ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ خلافت ملے گی جیسا کہ روایت نمبر ۳ تا ۵ سے ظاہر ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سلطنت ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایسا ہی ہوا۔ آخر میں پھر منہاج نبوت پر خلافت ہوگی۔ جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہما السلام کا زمانہ ہے۔ جیسا کہ روایت نمبر ۱۱ سے ظاہر ہے۔

ان روایات میں غور کرو کہ حضور ﷺ نے اپنے بعد خلافت ملنے کا ذکر تو کیا ہے۔ لیکن نبوت ملنے کا ذکر بالکل ترک کر دیا۔ بلکہ اس کی نفی فرمادی۔

منکر: ..... ”مطلق النبوة لم یرتفع وانما ارتفع نبوة التشريع  
(الیواقیت والجواهر ج ۲ ص ۲۷)“

”لا نبی بعدی لے لا نبی شرعہ مجمع البحار“ کا کلمہ ص ۸۵ ”لا انہ لا یكون بعده نبی بل النبوة ساریة الی یوم القیامة فتوحات مکیہ“  
مثبت: ..... منکر صاحب کے ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ عبدالوہاب شعرانی صاحب الیواقیت اور مصنف مجمع البحار اور حضرت محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیہ بزم منکر اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد مطلقاً نبوت بند نہیں ہے۔ بلکہ

صاحب شریعت نبی کا آنا بند ہے اور غیر صاحب شریعت جو آنحضرت ﷺ کی شریعت کو منسوخ نہ کرے آسکتا ہے۔

ناظرین کرام! پر مخفی نہیں ہے کہ دھوکہ دہی و تحریف و بزرگان دین کے اقوال کی قطع برید امت مرزائیہ کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ لوگ مذکورہ بزرگوں پر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جریان نبوت کے قائل تھے۔ شاید آپ سوال کریں کہ جب یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا۔ ایسا نبی آئے گا جو قرآن کو منسوخ نہ کرے اور شریعت محمدیہ کا قبیح ہو اور نبوت قیامت تک جاری ہے۔ وغیرہ وغیرہ تو ان اقوال کا کیا مطلب ہے۔ سو غور سے سنئے کہ احادیث سے دو چیزیں ثابت ہیں۔

۱..... عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نازل ہونا۔

۲..... دوسرے سچی خوانیں۔

کشف والہام یعنی سوتے یا جاگتے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا دل میں ڈال دیا جاتا۔ فرشتوں کا مؤمنین سے ملاقات کرنا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا اور ان کو بشارت سنانا۔ سو بعض بزرگان دین کی کتب و اقوال میں جو یہ پایا جاتا ہے کہ ایسا نبی نہیں ہوگا جو شریعت محمدیہ کا ناسخ ہو۔ بلکہ جب آپ کی شریعت کے حکم کے ماتحت ہو تو ختم نبوت کے منافی نہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی طرف اشارہ ہے اور بزرگوں کے اس قول (جو آپ کی شریعت کا ناسخ ہو) کا مصداق سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں۔ اگرچہ بعض بزرگوں کے اقوال سے ایک مفہوم کلی (جو نبی بھی آپ کی شریعت کا ناسخ ہو) سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس مفہوم کلی کا ایک ہی فرد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جیسا شمس (سورج) کہ مفہوم کلی ہے۔ لیکن اس کا فرد دنیا میں صرف ایک ہی ہے۔ ”کما فی کتب المنطق“ ان بزرگوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی تابع شریعت محمدیہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کوئی ہوگا اور آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو نبوت عطاء کی جائے گی۔ کیونکہ ان بزرگوں نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بظاہر ختم نبوت کے خلاف جو شبہ واقع ہو سکتا تھا اس کو یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول آنحضرت ﷺ کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ چونکہ نبوت ان کو پہلے مل چکی ہے۔ لہذا یہ کسی طرح بھی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ کیونکہ ختم نبوت کی مخالفت دو ہی صورتوں سے ہو سکتی ہے۔ کسی کو آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت عطاء کی جائے یا نبوت تو آپ سے پہلے مل چکی ہو۔ لیکن بعض احکام کو منسوخ

کردے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے یہ دونوں لحد لازم نہیں آتے۔ پس ان بزرگوں نے جہاں نبی کا آنحضرت ﷺ کی شریعت کے تابع ہونا لکھا ہے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ خواہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ یہ بزرگ آنحضرت ﷺ کے بعد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی نبی کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا بزرگوں کی مطلق عبارتوں سے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ بلکہ ان کے اقوال مطلقہ کو مقیدہ پر محمول کیا جائے تو نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے سوائے اور کچھ نہیں۔

۲..... دوسری چیز کے لئے ذیل کی روایات ملاحظہ ہوں۔

۱..... ”قال رسول الله ﷺ لم يبق من النبوة الا المبشرات

(بخاری)“ ﴿نبوت میں سے کوئی چیز نہیں رہی سوائے بشارات کے﴾

۲..... ”روياء المومن جزء من ستة واربعين جزا من النبوة

(بخاری و مسلم)“ ﴿مومن کی خواب نبوت میں سے چھ یا بیسواں حصہ ہے﴾

۳..... ”ولقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي

احد فانه عمر“ (بخاری و مسلم)“ ﴿تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ پس اگر

میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے۔ محدث دال کی زبر اور تشدید کے ساتھ اس شخص کو کہتے ہیں جس

کے دل میں سوتے یا جاگتے میں خدا کی طرف سے سچی باتیں ڈالی جائیں۔ جیسے حضرت عمرؓ کی بہت

سی باتیں خدائی احکام کے مطابق نکلیں۔ یہ اسی واسطے کہ خدا ان کے دل میں ڈال دیتا تھا۔﴾

اور ایک جگہ قرآن شریف میں ارشاد ہے: ”ان الذين قالوا ربنا الله ثم

استقاموا اتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي

كنتم توعدون نحن اولياكم في الحياة الدنيا والآخرة (حم سجدہ)“

یعنی مومنوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور جنت کی

بشارت سناتے ہیں۔ پس بعض بزرگان دین کا یہ فرمانا کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ اس بات

کا اظہار مقصود ہے کہ نبوت جمیع اجزاء ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے بعد اجزاء باقی ہیں۔

۱..... جیسے سچی خوابیں۔

۲..... سوتے جاگتے میں خدا کی طرف سے کسی بات کا دل میں ڈال دیا جانا۔

۳..... فرشتوں کا مومنوں کو ملنا اور ان کو تسلی دینا اور بشارات سنانا۔

۴..... بعض احکام شرعیہ کے حکم کا انکشاف ہو جانا۔ جب بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ غیر تشریحی نبوت باقی ہے تو ان کی مراد یہی اجزاء ہوتے ہیں۔ تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو جتنی چیزیں نبوت میں تھیں۔ وہ سب ختم ہو گئیں۔ بلکہ بعض اجزاء نبوت کے باقی ہیں۔ لیکن یہ اجزاء جس میں پائے جائیں وہ نبی نہیں کہلا سکتا۔ ورنہ تمام مومنین کو نبی ماننا پڑے گا۔ کیونکہ حسب آیت مذکورہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ ان کو تسلی دیتے ہیں اور ان کو بشارتیں سناتے ہیں اور یہ نبوت کے اجزاء ہیں۔ حالانکہ تیرہ سو سال میں کسی بڑے سے بڑے مومن نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ مرزا قادیانی کی طرح اپنے منکروں کو کافر کہا۔ اسی طرح سوتے یا جاتے میں کسی پر بعض امور گزشتہ یا آئندہ یا بعض احکام شرعیہ کی حکمتوں یا مطالب کا انکشاف ہو جائے تو وہ شخص نبی نہیں کہلا سکتا جیسا کہ حضرت عمرؓ پر خصوصاً اور دیگر صحابہ پر عموماً ایسے ایسے انکشافات ہوتے رہتے تھے اور اسی طرح دیگر بزرگان دین کی ہزاروں پیش گوئیاں ہزاروں کرامتیں ہزاروں مکاشفات ہیں۔ لیکن نہ صحابہ میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ مابعد کے بزرگوں سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بعض اجزاء جس میں ہوں وہ نبی نہیں کہلا سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ جو مجھ کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ حالانکہ ان کو حدیث میں محدث کہا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے نزدیک ”محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں باواز بلند ظاہر کرے۔“ (توضیح الہرام ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۶۰) معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو بروزی نبوت ایجاد کی ہے جس کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے اس کا وجود سلف میں بالکل نہیں تھا۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنا اختراع ہے۔

اب میں ناظرین کرام کے سامنے ان بزرگوں کی عبارتیں پیش کرتا ہوں جن کا نام لے کر امت مرزائیہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتی ہے اور ان عبارات سے پہلے جن میں نبوت تشریحیہ وغیر تشریحیہ کی تشریح ہوگی ان بزرگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد غانی کے متعلق عقیدہ، ان عبارات سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات کے باب ۳۶۷ میں حدیث معراج میں فرماتے ہیں: ”فہلما دخل اذا بعیسیٰ علیہ السلام بجسدہ عینہ فانہ لم یمت الہی الان بل رفعہ اللہ الی ہذہ السما واسکنہ بہا“ یعنی آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بجسدہ العصری پایا۔ کیونکہ وہ اب تک مرے نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس آسمان کی طرف اٹھالیا ہے..... الخ۔ ﴿

امام عبدالوہاب شعرانیؒ (الایات والجوہر ص ۹۱ جلد دوم) میں فرماتے ہیں:  
 ”والحق ان المسيح رفع بجسده الى السماء والایمان بذلك واجب“  
 ﴿حق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسدہ غصری کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور  
 اس پر ایمان لانا واجب ہے۔﴾  
 اسی طرح صاحب مجمع البحار نے (مکملہ ص ۸۵) پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کی صاف  
 تصریح کی ہے۔

ختم نبوت اور شیخ محی الدین ابن عربی

..... شیخ محی الدین ابن عربی فصوص کے نص عزیز میں کہا ہے: ”واعلم ان  
 الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الابناء العام وامانوبة  
 التشريع والرسالة فمنقطعة وفي محمد ﷺ فقد انقطعت فلانبي بعده  
 مشرعاً او مشرعاً ولا رسول وهو المشرع وهذا لحديث فضم طهوراً اولياء  
 الله لانه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة (الحل الاقوام مقام حادی  
 عشر)“ ﴿جاننا چاہئے کہ ولایت ایک فلک محیط عام ہے اور اس واسطے وہ منقطع نہیں ہوئی۔ باقی  
 تشریح اور رسالت منقطع ہے اور وہ (نبوت و رسالت) محمد ﷺ پر آ کر منقطع ہو گئی۔ پس آپ کے  
 بعد نہ کوئی نبی ہے۔ خواہ وہ شریعت والا نبی ہو یا مشرعالہ ہو (یعنی کسی شریعت والے نبی کا نائب ہو)  
 نہ کوئی رسول ہے کہ وہ شریعت والا نبی ہے اور اس حدیث نے تمام اولیاء اللہ کی کمرس توڑ دی ہیں۔  
 کیونکہ اس میں عبودیت کاملہ تامہ کے انقطاع کی خبر ہے۔﴾

دیکھئے شیخ نے کیسی صفائی کے ساتھ صاحب شریعت وغیر صاحب شریعت نبی دونوں کی  
 مشرع اور مشرعالہ کہہ کر نفی کر دی ہے جو چیز شیخ کے نزدیک باقی ہے وہ ولایت ہے۔ جس کو فلک محیط  
 عام کہا ہے۔ یعنی اس ولایت میں نبوت تشریح وغیر تشریح صدیقیت، شہادت، صالحیت، ایمان  
 وغیرہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ جس میں سے نبوت تشریح وغیر تشریح دونوں ختم ہو گئیں اور باقی  
 چیزیں باقی ہیں۔ شیخ نے ولایت کو جو فلک محیط کہا ہے اس کو یوں سمجھئے کہ مثلاً حیوان، کہ انسان،  
 گھوڑے، اونٹ، گدھے، ہاتھی، شیر، چیتے، خرگوش، بلی، چوہا، چھپکلی، ٹڈی، چوئی وغیرہ وغیرہ  
 انسان سے چلے کر چوئی تک تمام حیوانوں کے نیچے داخل ہیں اور ہر ایک جاندار کو حیوان کہتے  
 ہیں۔ کیونکہ حیوان کے معنی جاندار کے ہیں اور جاندار ہونا جیسا انسان پر صادق آتا ہے اسی طرح

ہاتھی گھوڑے، اونٹ، چوٹی وغیرہ پر صادق آتا ہے۔ اگرچہ تمام حیوانات میں سے انسان افضل اور تمام کا سردار ہے اور سب پر حاکم ہے اور اسی طرح دوسرے حیوانات میں بھی تفاوت ہے کوئی ادنیٰ ہے اور کوئی اعلیٰ۔ لیکن جاندار کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ پس اگر یوں کہا جائے کہ انسان دنیا سے ختم ہو گئے ہیں اور کوئی انسان دنیا پر نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ باقی جاندار مثلاً ہاتھی، گھوڑا، شیر و چیتا وغیرہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ دنیا سے گھوڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں تو یہ مراد نہیں ہوگی کہ بکری، بھینز بھی کوئی نہیں رہی۔

پس بعینہ اسی طرح ولایت کو سمجھنے کے اس میں نبی تشریحی وغیر تشریحی، صدیق، شہید، صالح، مؤمن، کامل و مومن ناقص تمام شامل ہیں۔ کیونکہ ولایت کا معنی خدا کا قرب ہے اور یہ سب میں موجود ہے۔ کیونکہ مؤمن ناقص کو بھی ایک قرب خداوندی حاصل ہے۔ جو کافر کو حاصل نہیں۔ لیکن یہ ولایت بعض میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کہ ان کے مرتبے کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا اور انبیاء کرام تمام بنی نوع انسان کے سردار ہیں۔ انبیاء کے سردار ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد اولیاء اللہ کا درجہ ہے اور ان کے بعد مؤمنین کا۔ پس جب نبوت تشریحی وغیر تشریحی ختم ہو گئی تو ولایت جو کہ عام ہے۔ اس کا ختم ہونا لازم نہیں آتا اور اسی ولایت کو جو باقی ہے کبھی کبھی شیخ نبوة عامہ غیر تشریحی سے تعبیر کرتے ہیں اور عامہ کی قید اسی واسطے لگاتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت ہے۔ کیونکہ عام تو ولایت ہی ہے نہ کہ نبوت۔ فافہم فانہ عزیز!

دوسرے شیخ کا یہ فرمانا کہ اس حدیث لانی بعدی نے اولیاء کی کریں توڑ دی ہیں۔ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں بن سکتا۔ جس کی اطاعت ضروری ہو اور اس کا انکار کفر ہو۔

.....۲ ”والله لم یسم نبی ولا رسول ویسمی بالولی واتصف بهذا الاسم فقال الله ولی الذین آمنوا وقال هو الولی الحمید وهذا الاسم باق جار علی عباد الله دنیا و آخرة فلم یبق اسم یختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة الا ان الله لطیف بعباده فابقی لهم النبوة العامة التی لا تشریع فیها“ ﷻ اللہ تعالیٰ کو نبی و رسول نہیں کہا جاتا اور اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خود فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ دوست ہے مسلمانوں کا اور فرمایا هو الولی الحمید کہ وہ دوست ہے اور صاحب تعریف ہے اور یہ نام (ولی) اللہ کے بندوں پر دنیا اور آخرت میں جاری ہے۔ پس

نبوت اور رسالت کے انقطاع کی وجہ سے کوئی نام ایسا باقی نہ رہا جو سوائے خدا تعالیٰ کے بندے کے ساتھ خاص ہو۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لئے اس نے اپنے بندوں کے لئے نبوت عامہ غیر تشریحیہ (یعنی ولایت کیونکہ عام وہی ہے) باقی رکھی۔ ﴿

یکھئے! شیخ صاحب صاف تصریح فرما رہے ہیں کہ نبوت و رسالت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نبی و رسول کا نام بھی اولیاء کے لئے باقی نہیں رہا۔ صرف ولی کا نام باقی ہے۔

۳..... ”اعلم ان لوحی لا ينزل به الملك على غير قلب نبی اصلاً ولا یامر غیر نبی بامر الہی الی قولہ فانقطع الامر الالہی بانقطاع النبوة والرسالت“ ﴿جاننا چاہئے کہ فرشتہ وحی لے کر بجز قلب نبی کے کسی پر نازل نہیں ہوتا اور نہ غیر نبی کو کسی امر الہی کا حکم دیتا ہے۔ پس اوامر الہیہ انقطاع نبوت و رسالت سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اتمی! ﴿

(فتوحات ج ۳۱۰، ص ۲۸)

حالانکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”میری وحی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی۔“

(اربعین نمبر ۲۳ ص ۶ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۴۳۵)

۴..... ”اعلم انه لا ذوق لنافی مقام النبوة لنتکلم علیہ انما نتکلم علی ذلک بقدر ما اعطينا من مقام الارث فقط لا نه لا یصح لا حد منا دخول مقام النبوة وانما نراه كاللجم علی السماء“ ﴿شیخ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ ہم کو مقام نبوت میں ذرا بھی ذوق نہیں تاکہ ہم اس پر کلام کر سکیں۔ ہم تو اس پر صرف اسی قدر کلام کر سکتے ہیں جس قدر ہم کو مقام ارث سے عطاء ہوا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کسی کو مقام نبوت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ جیسے ستاروں کو آسمان پر۔ ﴿

(فتوحات ج ۳۶۲، ص ۲۲، ج ۲ ص ۷۲، ج ۲ ص ۷۲)

دیکھئے شیخ تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو مقام نبوت میں داخل ہونا ممکن بھی نہیں۔ بلکہ مقام نبوت کا ذوق بھی نہیں۔

۵..... ”اعلم انه لم یجئ لنا خبر الہی ان بعد رسول اللہ ﷺ وحی تشریح ابداً انما لنا وحی الالہام قال اللہ تعالیٰ ولقد اوخی الیک والی الذین من قبلك الاولم یذکر ان بعدہ وحیا ابداً“ ﴿جاننا چاہئے کہ ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل اس پر نہیں آئی کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد وحی احکام کا وجود ہو۔ ہمارے لئے صرف وحی



الہام ہے۔ (جو شرعی اصطلاحی وحی سے عام ہے) جیسے آیت میں شہد کی مکھی کے لئے وحی ثابت فرمائی گئی ہے۔ آگے وحی حقیقی کی نفی پر دلیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسول کی طرف وحی بھیجی گئی اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی مکھی وحی ہوگی۔ ﴿

شیخ نے اس قول میں آنحضرت ﷺ کے بعد وحی حقیقی کی نفی تصریحاً بھی فرمادی اور وجود الہام کو حصر کے ساتھ ذکر فرما کر بھی وحی حقیقی کی نفی کر دی تو پھر مرزا قادیانی پر کہاں سے وحی آگئی۔

۶..... ”فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسداد ابواب الاوامر الله والنواهي فمن ادعاها بعد محمد ﷺ فهو مدع شريعته اوحى بها الله سواء وافق بها شرعنا او خالف“ ﴿نبوت اٹھ جانے کے بعد آج اولیاء کے لئے بجز تعریفات کے کچھ باقی نہیں رہا اور اوامر و نواہی کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب جو کوئی محمد ﷺ کے بعد امر و نہی کا مدعی ہو۔ (جیسے مرزا قادیانی) وہ اپنی طرف وحی شریعت آنے کا مدعی ہے۔ خواہ وہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ ﴿

(فتوحات مکیہ ج ۳ ص ۵۱)

شیخ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت نبی ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو نئی شریعت پہلی شریعت کے مخالف دی جائے بلکہ ہر وہ شخص جو امر و نہی کی وحی کا مدعی ہو وہ صاحب شریعت ہے۔

مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہوئے۔ کیونکہ ان کی وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی اور صاحب شریعت نبی آنحضرت ﷺ کے بعد آ نہیں سکتا۔ لہذا مرزا قادیانی کا ذب ٹھہرے۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی اور ختم نبوت

شیخ عبدالوہاب شعرانی نے شیخ کی اس عبارت پر اتنا اور زیادہ کیا ہے۔ ”فان كان مكلفا ضربنا عنقه والا ضربنا عنه صفحا (اليواقيت والجواهر ج ۲ ص ۲۴)“ ﴿پھر اگر وہ مدعی وحی شریعت مکلف ہے۔ (یعنی مجنون وغیرہ نہیں ہے) تو ہم اس کو قتل کریں گے اور اگر مکلف نہیں تو ہم اس سے کنارہ کشی کریں گے۔ ﴿

فرمائیے منکر صاحب مرزا قادیانی کے لئے شیخ عبدالوہاب شعرانی کیا حکم دیتے ہیں۔ اب تو شاید آپ صاحب یواقیت کی بزرگی کا بھی انکار کر دیں گے اور سنئے صاحب یواقیت کیا فرماتے ہیں۔

..... ۷ ”قال الشيخ الاكبر في الباب الحادي والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشئ فليس ذلك بصحيح انما ذلك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفه وذلك باب مسدود من دون الناس (اليواقيت والجواهر ج ۲ ص ۳۴) ”شيخ اکبر فتوحات کے اکیسویں باب میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی (بعد نبی کریم ﷺ) یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی چیز کا امر کیا ہے۔ (جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نبی بھی) تو یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ یہ محض شیطانی تلبیس ہے۔ کیونکہ امر کلام کی قسم ہے اور اس کی صفات میں سے ہے اور یہ (کلام کا دروازہ) لوگوں پر بند کیا جا چکا ہے۔ ﴿

..... ۸ ”فاخبر رسول الله ﷺ ان الروياء جزء من اجزاء النبوة فقد بقي للناس في النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطق اسم النبوة ولا النبي الاعلى المشرع خاصة فحجر هذا الاسم مخصوص وصف معين في النبوة (فتوحات ج ۲ ص ۴۹۵) ”﴿ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو بتایا کہ خواب (سچا) اجزاء نبوت میں سے ایک جز ہے۔ سو لوگوں کے واسطے نبوت میں سے یہ جزء (خواب) وغیرہ باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا نام بجز مشرع (امر و نبی لانے والے) کے اور کسی پر بولا نہیں جاسکتا۔ تو نبوت میں ایک خاص معین کی موجودگی کی وجہ سے اس تمام (نبی) کی بندش کر دی گئی۔ ﴿

شیخ نے کیسے صاف تصریح کر دی ہے کہ نبوت کے بعض اجزاء بے شک موجود ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے کسی پر نبی کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔

..... ۹ ”كمن يوحى اليه في المبشرات وهي جزء من اجزاء النبوة ولم يكن صاحب المبشرة نبيا فتفطن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الا لمن اتصف بالعموم فذلك النبي وتلك النبوة التي حجرت علينا وانقطعت فان من جملتها التشريع بالوحي الملكي في التشريع وذلك لا يكون الا النبي خاصة (فتوحات مكيه ج ۳ ص ۵۶۸) ”﴿ جیسے کسی کی طرف بشارت کی وحی آئے اور وہ مبشرات اجزاء نبوت میں سے ہیں۔ اگرچہ صاحب بشارت نبی نہیں ہو جاتا۔ پس حق تعالیٰ کے عموم کو سمجھو تو نبوت کا اطلاق اسی پر ہو سکتا ہے جو تمام اجزاء النبوة سے متصف ہو۔ سو

یہی نبی اور یہی نبوت ہے جو منقطع ہو چکی اور ہم سے روک دی گئی۔ کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے تشریح بھی ہے جو وحی فرشتہ سے ہوتی ہے اور یہ بات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ﴿

اس میں شیخ نے صاف فرمادیا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس میں تمام اجزاء نبوت موجود ہوں اور یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔

۱۰..... ”اعلم ان الملك ياتى النبى بالوحى على حالين تارة ينزل على قلبه وتارة ياتيه فى صورة جسدية من خارج الى ان قال وهذا باب الخلق بعد موت محمد ﷺ فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة ولكن بقى للاولياء وحى الالهام الذى كا تشرىع فيه انما هو الفساد حكم قال بعض الناس بصحة دليله ونحو ذلك فيعمل به فى نفسه فقط (فتوحات ب ۱۷ ج ۲ ص ۲۷)“ ﴿جاننا چاہئے کہ فرشتہ نبی پر دو طرح پر وحی لاتا ہے۔ کبھی تو اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اور کبھی اس کے پاس خارج سے صورت جسمیہ میں آتا ہے۔ آگے کہا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے جو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بند کر دیا گیا ہے اور قیامت تک کسی کے لئے نہیں کھولا جائے گا۔ لیکن اولیاء کے لئے وہ وحی جس کی حقیقت الہام ہے باقی رہ گئی ہے۔ جس میں تشریح (یعنی احکام) نہیں ہے وہ صرف ایسی باتوں کی نسبت ہوتا ہے جیسے کسی مسئلہ کی عدم صحت جس کی دلیل کی صحت کے بعض لوگ قائل ہو گئے ہوں اور اس کے مثل اور کوئی بات پس وہ اس پر بذات خود عمل کر لیتا ہے۔ ﴿ (وہ بھی غلطی طور پر جیسا کہ یہ اپنی جگہ میں ثابت ہے اور دوسروں پر بھی حجت نہیں تو اس کا درجہ مجتہد کے اجتہاد سے بھی کم رہا۔ کیونکہ وہ مقلد کے لئے حجت ہے۔ چنانچہ یہ مضمون شیخ کے کلام سے عنقریب نقل کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ ایسے الہام سے کون شخص نبی ہو سکتا ہے۔ کیا نبی کا درجہ مجتہد سے کم ہوا کرتا ہے)

شیخ کے اس کلام سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئیں۔

۱..... فرشتہ جو وحی نبی کے پاس لایا کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی۔

۲..... اولیاء کے لئے وحی کی ایک قسم جو الہام کہلاتی ہے باقی ہے اور یہی وحی غیر

تشریح ہے اور اس کی غلطی صرف یہ ہے کہ اولیاء بعض ان احکام کا صحیح یا غلط ہونا معلوم کر لیں۔ جن کو بعض لوگوں نے الٹا سمجھا اور اسی کی مثل اور باتیں اور بذات خود ان پر عمل کریں۔ اے امت مرزا سیہ! خدا را انصاف کرو اور دیکھو کہ اس عبارت میں شیخ وحی غیر تشریح کس کو کہہ رہے ہیں۔ جو

تمام اولیاء اکرام کا حصہ ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح شیخ نے نبوت غیر تشریحی کا اطلاق بعض اجزاء نبوت سچی خواب وغیرہ پر کیا ہے۔ جو تمام مسلمانوں میں کم و بیش موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی کیا خصوصیت ہے۔ باقی امت مرزائیت کی نبوت غیر تشریحہ بمعنی نئی کتاب نہ ہو۔ نئے احکام نہ ہوں۔ آنحضرت ﷺ کی پیروی سے نبی بن جائے اور اس کی طرف وحی آئے جس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ اس کو نبی نہ ماننے والا کافر ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس کا وجود شیخ کے کلام میں بالکل نہیں ہے۔ اگر ہے تو امت مرزائی دکھائے کہ شیخ نے کہاں لکھا ہے کہ وحی غیر تشریحی اور نبوت غیر تشریحہ یہ ہے کہ نئی شریعت نہ ہو۔ بغیر پیروی آنحضرت ﷺ کے نبی نہ ہو۔ بلکہ آپ کی پیروی سے نبی بنے اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہو اور اس کا منکر کافر ہو اور وہ پہلے اکثر انبیاء سے افضل ہو۔ اگر امت مرزائیہ ہمارا یہ مطالبہ شیخ کے کلام سے دکھاوے تو ان کو یکصد روپیہ انعام بفیصلہ منصف دیا جاوے گا۔ بلکہ شیخ نے صاف تصریح فرمادی ہے کہ وحی غیر تشریحی وہ الہام ہے جو اولیاء کے لئے باقی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سوائے مرزا قادیانی کے اور کسی ولی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے منکرین کو ہی کافر کہا۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کی نبوت غیر تشریحہ اور وحی غیر تشریحی خود ان کی ایجاد کردہ ہے۔

..... ”لما غلق اللہ تعالیٰ باب الرسالة بعد رسول اللہ ﷺ  
 كان ذلك من اشد ما تجرعت الاولياء ..... لانقطاع الوصلة بينهم وبين من  
 يكونوا واستطهت الى الله تعالى فرحمهم الحق الله تعالى بان ابقى عليهم  
 اسم الولى الى ان قال ولما علم رسول الله ﷺ ان فى امة من تجرع كاس  
 انقطاع الوحى والرسالة فجعل لخصوص امة نصيبا من الرسالة فقال  
 ليبلغ الشاهد الغائب فامرهم بالتبليغ . ليصدق عليهم اسم الرسل  
 (فتوحات ب ۳۸ ج ۲ ص ۸۶)“ ﴿جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے بعد رسالت کا  
 دروازہ بند کر دیا تو یہ امر ان سب امور میں سخت ہوا۔ جن کی تلقین کو اولیاء نے جکلف گلے سے  
 اتارا۔ اس لئے کہ ان کے اور اپنے لوگوں کے درمیان جو ان کا واسطہ الی اللہ ہوتے اتصال قطع ہو  
 گیا۔ پس حق تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ اس طور پر کہ ان کے لئے ولی کا نام باقی رکھا۔ جب  
 رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو انقطاع وحی کے جام کو  
 ناگواری سے نوش کریں گے تو آپ نے اپنے خاص خاص امتیوں کے لئے رسالت کا ایک حصہ

تجویز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حاضرین (یہ احکام) غیر حاضرین کو پہنچادیں۔ پس ان کو تبلیغ کا حکم فرمایا تاکہ ان پر رسولوں کا نام صادق آسکے۔ ﴿

دیکھئے شیخ فرماتے ہیں کہ ختم رسالت کے بعد ولی کا نام حقیقتاً باقی رہ گیا ہے اور کچھ نہیں اور مجازاً مطلق تبلیغ احکام کو رسالت کہہ دیا۔ ورنہ اگر مبلغین احکام حقیقتاً رسول ہیں تو تیرہ سو سال میں کروڑوں جانناز مبلغ ہوئے۔ پھر کس نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا اور اپنے منکروں کو مرزاقادیانی کی طرح کافر کہا؟

۱۲..... ”اعلم ان النبوة التي هي الاخبار عن شئ سارية في كل موجود عند اهل الكشف والوجود مكنه لا يطلق على احد منهم اسم نبي ولا رسول الا على الملائكة الذين هم رسل (اليواقيت ب ۵۰ ص ۱ ج ۱ ص ۱۱۸) ﴿جاننا چاہئے کہ نبوت جس کے معنی ہیں۔ کسی چیز کی خبر دینا یا اہل کشف و وجود کے نزدیک تمام موجودات میں موجود ہے۔ (کیونکہ وہ کشف سے ہر موجود کو بعض حقائق کی خبر دیتے ہوئے پاتے ہیں) لیکن ان میں سے کسی پر نبی یا رسول کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ بجز ان فرشتوں کے جو رسول ہیں (یعنی جو مختلف کاموں کے لئے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ان پر رسول کا لفظ بمعنی بھیجا ہوا) بولا جائے گا اور ان کو نبی نہیں کہا جائے گا) ﴿

دیکھئے شیخ نے اس قول میں ہر ایک موجود کے لئے نبوت ثابت کی ہے۔ کیا اس سے ہر ایک چیز نبی بن جائے گی اور گائے، بھینس، بکری، بلی، چوہا، چیونٹی کی نبوت کے انکار سے انسان کافر ہو جائے گا اور کیا آپ کافروں کو بھی نبی مانیں گے۔ کیونکہ یہ معنی تو ان میں بھی موجود ہے۔ اس لئے شیخ نے ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ نبی اور رسول کا نام کسی پر نہیں بولا جائے گا۔ شیخ نے جو یہ فرمایا ہے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نبوت بمعنی مطلق اخبار عن اشئ (کسی چیز کی خبر دینا) قیامت تک جاری ہے نہ کوئی اور لیکن مرزائی حضرات اسی کو بار بار سادہ لوح لوگوں کے سامنے پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں۔

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اور ختم نبوت

۱۳..... ”وقد كان الشيخ عبدالقادر الجيلي يقول اوتى الانبياء

اسم النبوة واوليتنا اللقب اي حجر علينا اسم النبي مع ان الحق تعالى يخبرنا في سرائرنا بمعاني كلام وكلام رسول الله ﷺ (فتوحات ب ۷۳ ج ۲ ص ۳۹) ﴿شیخ عبدالقادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کو تو نبوت کا کام (بطور عہدہ کے)

دیا گیا ہے اور ہم کو بعض مدعی عنوان دیا گیا ہے۔ یعنی ہم پر نبی کا نام جائز نہیں رکھا گیا۔ باوجودیکہ حق تعالیٰ ہم کو ہمارے باطن میں اپنے کلام اور اپنے رسول ﷺ کے کلام کے معنی کی خبر دیتا ہے۔ ﴿جو کمالات نبوت میں سے ایک کمال ہے مگر محض کوئی کمال بطور نیابت کے عطاء ہو جانا یہ نہیں چاہتا کہ نائب اصل بن جائے۔﴾

اس کی شرعی مثال ایسی ہے کہ یہ تو کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بعض غیوب کا علم عطاء فرمایا ہے۔ مگر ان انبیاء کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ صفت کے درجے میں خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح یہاں یہ کہنا جائز ہوگا کہ اولیاء کو بعض کمالات نبوت خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ مگر ان اولیاء کو نبی کہنا جائز نہ ہوگا۔ فافہم!

۱۳..... ”(قال بعد کلام طویل فی مدح المجتہدین) فعلم ان المجتہدین هم الذین ورثوا الانبیاء حقیقة لانهم فی منازل الانبیاء والرسل من حیث الاجتهاد وذلك لانه صلی اللہ علیہ وسلم اباح لهم الاجتهاد فی الاحکام وذلك تشریع عن امر الشارع فکل مجتہد مصیب من حیث تشریعیہ بالاجتهاد کما ان کل بنی معصوم قال انما عبد اللہ المجتہدین بذلك یحصل لهم نصیب من التشریع ویثبت لهم فیہ القدم الراسخہ ولا یتقدم علیہم فی الاخۃ سوی نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم فیحشر علما وهذا الامتہ حفاظ الشریعة المحمدیة فی حلفوف الانبیاء والرسل لا فی حلفوف الامم (فتوحات ب ۳۶۹ ج ۲ ص ۹۷)“ ﴿مدح مجتہدین میں ایک کلام طویل کے بعد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہدین ہی حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں۔ کیونکہ وہ اجتہاد کی حیثیت سے انبیاء والرسل کے مدارج میں ہیں اور یہ اس طرح ہے کہ ان کے لئے نبی ﷺ نے احکام میں اجتہاد کو جائز فرمایا ہے اور یہ بامر شارع ایک تشریح ہے۔ پس ہر مجتہد اپنی تشریح اجتہادی کی حیثیت سے مصیب ہے۔ جیسا ہر نبی معصوم ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجتہدین کے لئے اجتہاد کو عبارت بنا دیا ہے۔ وہ صرف اس لئے ہے کہ ان کو بھی تشریح کا ایک حصہ نصیب ہو جائے اور اجتہاد میں ان کا قدم راسخ ہو جائے اور آخرت میں کوئی شخص (امت محمدیہ) میں سے بجز ان کے نبی ﷺ کے ان پر مقدم نہ ہو سکے۔ پس اس امت کے جو علماء شریعت محمدیہ کے محافظ ہیں۔ وہ انبیاء و رسل کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے نہ امتوں کی صفوں میں۔ ﴿

دیکھیے! شیخ نے مجتہدین کے لئے ایک گونہ تشریح بھی ثابت کی ہے اور ان کو مصیبت بھی کہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کسی مجتہد نے نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے منکروں کو (مرزا قادیانی کی طرح) کافر کہا اور شیخ نے نبوت عامہ مجازیہ کے ساتھ جن کو موصوف کہا ہے۔ ان کو جو جی ہوتی ہے۔ وہ صرف ان ہی کی ذات تک محدود ہے۔ کما مر اور وہ بھی خاص معارف میں نہ کہ تشریح میں اور علماء مجتہدین کا اجتہاد تشریح کے رنگ میں دوسروں پر بھی حجت ہوتا ہے تو پھر ان انبیاء الاولیاء کا درجہ مجتہدین سے بھی کم ہوا۔ اس سے اس نبوت عامہ مجازیہ کا اندازہ کر لیا جائے۔ تو جب مجتہدین جن کو شیخ نے ایک گونہ تشریح کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ نبی نہ بن سکتے تو بچارے نبوت غیر تشریحیہ والے جن کو تشریح میں کچھ دخل نہیں۔ کیسے نبی بن سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیخ کا مجتہدین کے لئے تشریح ثابت کرنا اولیاء کے لئے نبوت غیر تشریحیہ ثابت کرنا۔ اولیاء کے الہام کو وحی غیر تشریحی کہنا، نبوت کو ہر ایک مخلوق کے لئے ثابت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ شیخ کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ جن کو نبوت شرعیہ سے کچھ تعلق نہیں۔ ورنہ مجتہدین کو تشریحی نبی ماننا پڑے گا اور تمام اولیاء کو غیر تشریحی نبی تسلیم کرنا پڑے گا۔ بھیڑ بکری بھی نبی بن جائے گی۔ بلکہ اصنام کو بھی نبی تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اہل کشف کو وہ بھی بعض حقائق کی خبر دیتے ہیں اور شیخ نے نبوت بمعنی اخبار عن شی (کسی چیز کی خبر دینا) ہی کو باقی کہا ہے اور شیخ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مجتہدین کو ایک حصہ تشریح کا نصیب ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر قول آئندہ میں خود فرماتے ہیں۔

۱۵..... ”وجعل وحی المجتہدین فی اجتہادہم اذا المجتہد لم يحکم الابما اراه اللہ تعالیٰ فی اجتہادہ وکذا لک حرم اللہ تعالیٰ علی المجتہد ان یخالف اوحی ایہ الاجتہاد و فیعلم ان الاجتہاد نفعہ کما جرم علی الرسل ان تخالف فاء اوحی بہ الیہم من نفعات التشریح ما هو عن التشریح الی ان قال فقد اشبه المجتہدون الانبیاء من حیث تقدیر الشارع لهم کل ما اجتہد وافیہ وجعلہ حکما شرعیاً (فتوحات باب الجنائز ج ۲ ص ۹۷)“ ﴿اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کی وحی ان کے اجتہاد میں رکھی ہے۔ کیونکہ مجتہد نے وہی حکم کیا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اجتہاد میں بتایا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے مجتہد پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اس امر کی مخالفت کریں۔ جس کی ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اجتہاد تشریح کی شانوں میں سے ایک شاخ ہے۔ عین تشریح نہیں۔ پس مجتہدین انبیاء کے تشابہ ہو گئے۔ اس طرح سے کہ شارع نے ان کے اجتہادی احکام کو ثابت کر رکھا ہے اور اس کو حکم شرعی قرار دیا ہے۔ ﴿

شیخ نے اس عبارت میں اجتہاد کو دئی کہا ہے۔ حالانکہ یقیناً اجتہاد شرعی معنوں سے دئی نہیں ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے سو اولیاء کا الہام جس کو شیخ دئی غیر تشریحی کہتے ہیں۔ اس سے بھی کم درجہ ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ پھر اس کو شرعی معنوں سے دئی کہنا کیسے درست ہوگا۔

جب مجتہدین باوجود ان اوصاف جلیلہ کے جو شیخ نے اس عبارت میں ان کے لئے ثابت کئے ہیں۔ نبی نہ ہوئے اور نہ شیخ نے ان کو نبی کہا تو پھر دئی غیر تشریح جن کے لئے شیخ نے ثابت کیا ہے۔ (یعنی اولیاء) وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں اوصاف مذکورہ میں سے کوئی وصف بھی نہیں پایا جاتا۔

قاضی عیاض اور ختم نبوت

۱۶..... ”ومن ادعی النبوة لنفسه او جوز اکتسابها والبلوغ

بصفا القلب الی مرتبتها کالفلا سفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعی منهم انه یوحی الیه وان لم یدع النبوة اوانه یصعد الی السماء ویدخل الجنة ویاکل من ثمارها ویعانق الحور العین فهو لاء کلهم کفار مکذبون۔ للنبی ﷺ لا انه اخبر انه ﷺ خاتم النبیین وانہ ارسل کافة للناس واجمعت الامة علی حمل هذا الکلام علی ظاهره وان مفهوم المراد به دون تاویل ولا تخصیص فلا شک فی الکفر هو لاء الطوائف کلها قطعاً واجماعاً وسمعاً (شفاء ص ۳۶۲)“ ﴿جو شخص اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جائز سمجھے اور صفائی قلب سے نبوت کے مرتبے تک پہنچنا ممکن سمجھے۔ جیسا کہ فلاسفہ اور حدود شرعیہ سے نکلے ہوئے صوفی کہلانے والوں کا خیال ہے اور اسی طرح جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کو منجانب اللہ دئی ہوتی ہے۔ گو وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا یہ کہے کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے میوہ جات کھاتا ہے اور حور عین سے معانفہ کرتا ہے۔ پس یہ تمام لوگ کافر اور نبی ﷺ کے جھٹلانے والے ہیں۔﴾

اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمام امت محمدیہ کا اجماع ہے کہ اس کلام (خاتم النبیین ولا نبی بعدہ) کا ظاہری معنی ہی مراد ہے اور اس میں کوئی تاویل (ظنی بروزی وغیرہ) نہیں ہے اور نہ کوئی تخصیص (مثل غیر شرعی وغیرہ) ہے۔ لہذا ایسے لوگ بلاریب کافر ہیں۔ فرمائیے مکر صاحب مرزا قادیانی کے متعلق قاضی عیاض کیا فتویٰ دیتے ہیں۔



## ملا علی قاری اور ختم نبوت

۱۷..... ”ودعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)“ ﴿ہمارے نبی ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت بالاجماع کفر ہے۔﴾

علامہ ابن حجر مکی اور ختم نبوت

۱۸..... ”من اعتقد وحيأ بعد محمد ﷺ كفر بالاجماع المسلمين“ ﴿جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد وحی آنے کا اعتقاد رکھے وہ تمام مسلمانوں کے اجماع سے کافر ہے۔﴾

علامہ ابن کثیر اور ختم نبوت

۱۹..... ”وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله ﷺ في السنة المتواترة عنه انه لا نبى بعده ليعلم ان من ادعى هذا المقام بعده وهو كذاب افك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبد واتى بانواع السحر (تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۹۰)“ ﴿اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے اور رسول ﷺ نے اپنی متواتر حدیث میں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاکہ مسلمان اس بات کو جان لیں کہ جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب مفتری و جال گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔﴾

۲۰..... ”فتاویٰ ہندیہ میں ہے اذا لم يعرف الرجل از محمد ﷺ آخر الانبياء فليس مسلم“ ﴿جب انسان محمد رسول اللہ ﷺ کو آخری پیغمبر نہ سمجھے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔﴾

عارف باللہ مولانا عبدالرحمن صاحب جامی اور ختم نبوت

آپ اپنے رسالہ عقائد جامی میں فرماتے ہیں:

خاتم الانبياء الرسل است	دیگر ان ہیچو جز او کل است
وزپے اور رسول دیگر نیست	بعد از ان ہیکس پیغمبر نیست
چوں ورا آخر پیمان بقول رسول	کند از ان سماج نزول
میرودین و شرع او باشد	تابع اصل و فرع او باشد
دین ہمہ دین و شرع او دانا	ہمہ کس را بدین او خواند

## مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند اور ختم نبوت

منکر صاحب نے چونکہ مولانا صاحب کے کلام سے اجراء نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لئے مولانا صاحب کا مسلک ناظرین کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ تاکہ ناظرین خود غور فرمائیں:

..... مولانا اپنے رسالہ تحذیر الناس ص ۸ پر ارشاد فرماتے ہیں:

بالجملہ رسول اللہ ﷺ وصف نبوت میں موصوف بالذات ہیں اور سوائے آپ کے اور انبیاء موصوف بالعرض۔ اس صورت میں اگر رسول اللہ ﷺ کو اول یا اوسط میں رکھتے تو انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف دین محمدی ہوتا تو اعلیٰ کا ادنیٰ سے منسوخ ہونا لازم آتا۔ حالانکہ خود فرماتے ہیں: ”ماننسخ من آية او ننسها نات بخیر منها او مثلها“ اور کیوں یوں ہو تو اعطاء دین منجملہ رحمت نہ رہے۔ آثار غضب میں سے ہو جائے۔ ہاں اگر یہ بات متصور ہوتی کہ اعلیٰ درجہ کے علماء کے علوم ادنیٰ درجہ کے علماء سے کمتر اور اون ہوتے ہیں تو مضائقہ بھی نہ تھا۔ پر سب جانتے ہیں کہ کسی عالم کا عالی مرتبت ہونا مراتب علوم پر موقوف ہے۔ یہ نہیں تو وہ بھی نہیں اور انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہوتا تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء متاخرین پر وحی آتی اور افاضہ علوم کیا جاتا۔ ورنہ نبوت کے پھر کیا معنی۔ سوا اس صورت میں اگر وہی علوم محمدی ہوتے تو بعد وعدہ محکم اننا نحن نزلنا الذکر وانالہ لحافظون کے بعد جو بہ نسبت اس کتاب کے جس کو قرآن کہتے اور شہادت آیت و نزلنا علیک الکتاب تبیاننا الکل ششی جامع العلوم ہے۔ کیا ضرورت تھی اور اگر علوم انبیاء متاخرین علوم محمدی کے علاوہ ہوتے تو اس کتاب کا تبدینا الکل ششی ہونا غلط ہو جاتا۔ بالجملہ جیسے ایسے نبی جامع العلوم کے لئے ایسی ہی کتاب جامع چاہئے تھی۔ تاکہ علوم مراتب نبوت جو لاجرم علوم مراتب علمی ہے۔ چنانچہ معروض ہو چکا۔ میسر آئے ورنہ یہ علوم مراتب نبوت بے شک ایک قول دروغ اور حکایت غلط ہوتی۔ ایسے ہی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے۔ اٹھی!

دیکھیے! مولانا نے صاف تصریح فرمادی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد ایسا نبی بھی نہیں آسکتا جس کو وحی دین محمدی کے موافق ہو۔ کیونکہ ایسی وحی کی ضرورت ہی کیا ہے اور آنحضرت ﷺ کے لئے تاخر زمانی کی بھی تصریح فرمادی ہے۔ باقی مولانا کا اسی رسالہ کے ص ۳ پر یہ فرمانا کہ تاخر زمانی (آخری نبی ہونا) میں بالذات کچھ فضیلت نہیں اور اس کو عوام کا خیال فرمانا

اس واسطے ہے کہ آنحضرت ﷺ سب انبیاء کے آخر میں مبعوث ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ بلکہ آپ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ آپ تمام کمالات کا سرچشمہ منبع ہیں اور تمام کمالات کی انتہاء آپ پر ہے۔ چنانچہ اسی رسالہ کے ص ۲۱ پر فرماتے ہیں: ”مجملہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی۔ سو بوجہ مقصود اعظم ذات محمدی ﷺ وہ حرکت مبرل بسکون ہوئی۔ البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں اور زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ غرض باعتبار زمانہ اگر شرف ہے تو مستقل میں ہے کہ وہ صرف مقصود ہے۔ نہ یہ کہ زمانہ مستقبل فی حد ذات اشرف ہے۔ اتھی! دیکھئے! اس عبارت میں ختم نبوت کی کیسے صاف تصریح فرمادی ہے کہ دنیا میں بہت سی حرکتیں ہیں۔ کسی قوم کی حرکت ترقی کی طرف، کسی کی تنزل کی طرف۔ کوئی قوم ہدایت کی طرف حرکت کر رہی ہے اور کوئی گمراہی کی طرف۔ کوئی علم کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ کوئی جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک زمین کی حرکت ہے اور ایک آسمان کی حرکت ہے۔ ایک ستارے کی ہے، ایک ریل کی حرکت ہے۔ وغیرہ وغیرہ!

الغرض کروڑوں حرکات ہیں اور ہر ایک حرکت کرنے والی چیز کے سامنے ایک مقصود ہے جس کی طرف وہ حرکت کر کے جا رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب متحرک چیز اپنے مقصود کو پالیتی ہے تو وہاں ٹھہر جاتی ہے اور بجائے حرکت کے سکون ہو جاتا ہے۔ پس منجملہ حرکات کے سلسلہ نبوت بھی ایک حرکت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اور حرکت کرتے کرتے محمد رسول اللہ ﷺ پر آ کر ختم ہو گئی۔ کیونکہ حرکت نبوت نے اپنا مقصود پالیا۔ یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اگر آنحضرت ﷺ کے بعد پھر نبوت حرکت کرے اور آپ ﷺ کے بعد بھی نبی پیدا ہوں تو لازم آئے گا کہ حرکت نبوت کا مقصد محمد رسول اللہ ﷺ نہیں تھے۔ بلکہ اس کا مقصود اور مطلوب اور ہے جس کی طرف حرکت کر کے جا رہی ہے۔ اگر حرکت نبوت کا مقصود مطلوب آپ ہوتے تو وہ آپ پر ٹھہر جاتی۔ کیونکہ ہر ایک متحرک اپنے مقصود پر پہنچ کر ساکن ہو جاتا ہے اور یہ لازم چونکہ باطل ہے۔ لہذا اس کا لزوم یعنی سلسلہ نبوت کا جاری رہنا بھی باطل ہوگا۔

پس حرکت نبوت تو آنحضرت ﷺ پر آ کر ساکن ہو گئی ہے اور دنیا کی دیگر حرکات باقی ہیں۔ مولانا نے یہ بھی تصریح فرمادی کہ آخری زمانہ کو آنحضرت ﷺ کی وجہ سے شرف ہے نہ کہ آنحضرت ﷺ کو آخری زمانہ کی وجہ سے، عوام پچارے یہی سمجھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہونے کی وجہ سے ہی افضل ہیں اور مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو آپ آخری نبی۔ لیکن افضلیت زمانہ کی

وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ آخری زمانہ آپ کی وجہ سے مشرف ہو گیا ہے اور آپ کی افضلیت آپ کی ذات میں موجود ہے اور مولانا نے اسی رسالہ کے ص ۱۰ پر ہر خاتمیت زمانی کے منکر کو کہا ہے۔ باقی مولانا کا یہ فرمانا کہ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدیؐ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ بالفرض اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہو گئے ہوں۔ تب بھی مرزا قادیانی مسیح نہیں ہو سکتے۔ جیسا یہ کہنے والا عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے مولانا بھی آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا جائز نہیں سمجھتے۔ ورنہ خاتمیت زمانی کے منکر کو فریوں کہتے۔ کہاں بالفرض اور کہاں نبوت کا وقوع کچھ تو سمجھو۔

بالفرض کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا تو نہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہوگا تو بھی مضائقہ نہیں۔ فرض تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جس کا وقوع عقیدہٴ فارض میں نہیں ہوتا۔ منکر..... ”ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی“ ﴿﴾ کہ میرے بعد ابوبکر تمام لوگوں سے افضل ہوں گے۔ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا اس سے وہ افضل نہ ہوں گے۔ ﴿﴾

ثبت:..... اگر صداقت انسان میں نہ ہو تو حیار فوہو جاتی ہے۔ ”ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون“ نبی کا مطلب بالکل صاف تھا کہ ابوبکر میرے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ لیکن وہ نبی نہیں ہیں۔ جو کہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مگر منکر صاحب کی تحریف کو ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں۔ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا۔ اس سے وہ افضل نہیں ہوں گے۔ منکر صاحب بتائیے؟ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا اس سے وہ افضل نہیں ہوں گے۔ یہ کن الفاظ کا ترجمہ اور مطلب ہے۔ لیکن جس میں حیا ہی نہ ہو اس پر افسوس ہی کیا۔

منکر:..... کیا ہندوستانیوں کو یہ بات پسند ہے کہ غیر ملک کے لوگ ان پر حکومت کریں اور خود ان کے اپنے گھر سے کوئی وزارت و بادشاہت کے قابل پیدا نہ ہو۔  
ثبت:..... پھر امت مرزائیہ کیوں انگریزوں کے برخلاف علم جہاد بلند نہیں کرتی؟ اور کیوں غیروں کی حکومت کو رحمت خداوندی خیال کرتی ہے؟ کیا امت مرزائیہ میں باوجود نبوت کی بارش کے اور زمین و آسمان کے اختیارات کے کوئی وزارت اور بادشاہت کے قابل نہیں ہے؟ اگر ہے تو بہت جلد اعلان کیا جائے تاکہ ہندوستانی اس کی قیادت میں غلامی کی لعنت سے آزاد ہو جائیں۔

کیا محمد رسول اللہ ﷺ بھی ساری عمر کفار کے محکوم رہے؟

اور کیا ان کے خلفاء کفار کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی۔ تمہارا تو پیغمبر بھی تمام عمر انگریزوں کی مدح اور حمایت اور خوشامدیں کرتا رہا اور اس طرح غلامی کی زنجیروں کو خوب مضبوط کر گیا۔ جہاں تمہارا وجود ہوگا وہاں وزارت اور بادشاہت یا آزادی کی خواب بھی نہیں آسکتی۔

بروز محمد ﷺ کا دعویٰ اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے جہاد کو حرام کر دیا اور طرح طرح کی ان کی خوشامدیں کیں۔ زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ کر کے دکھایا ہوتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سواس میں امت محمدیہ کی ذرہ بھر بھی توہین نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ: ”الانبياء اخوة العلاء“ کہ تمام انبیاء علقاتی بھائی ہیں۔ دیکھو (مسند احمد و ابوداؤد) اس لحاظ سے تمام انبیاء امت محمدیہ کے روحانی چچا ہوئے اور قاعدہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اولاد چچا کی زیر نگرانی ہوتی ہے اور اس میں اولاد کی بالکل توہین نہیں سمجھی جاتی۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کا اس امت میں آنا بالکل روحانی چچا کی حیثیت سے ہوگا اور چچا غیر نہیں ہوتا۔ جب آنحضرت ﷺ نے تمام انبیاء کو اپنے بھائی قرار دیا ہے اور آپ امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو جو آپ کے روحانی بھائی ہیں وہ امت کے روحانی چچا ہوں گے۔ اگر امت مرزائیہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد مٹانی کو امت محمدیہ کی توہین سمجھتی ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ مرزائی لوگ دوسرے انبیاء کو غیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ ایک قوم دوسری قوم کو غیر سمجھ کر اس کی حکومت کو اپنے لئے توہین خیال کرتی ہے اور اس سے بعض وعداوت رکھتی ہے اور اس سے لڑ کر اپنا ملک آزاد کرتی ہے۔

اسی طرح مرزائی لوگ بھی دوسرے انبیاء سے اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اہل اسلام کا اصول یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اپنا سمجھوان کو غیر نہ سمجھو۔ ان کی عزت کرو۔ تو پھر کسی سابق نبی کے امت محمدیہ میں آنے سے امت محمدیہ کی توہین کیسے ہوگی؟ توہین تو تمہی ہوگی جب ان کو غیر اور بیگانہ سمجھا جائے۔ جب یہ نہیں تو وہ بھی منکر صاحب کی مثال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک پیغمبروں کو غیر اور بیگانہ سمجھا جائے۔ جس طرح ایک ملک کے رہنے والے دوسرے ملک والوں کو ایک قوم دوسری قوم کو غیر و بیگانہ سمجھتی ہے اور غیر کی حکومت کو اپنے لئے عار خیال کرتی ہے اور اس لئے لڑتی بھڑتی ہے۔ تف ایسی عقل پر۔

انگریزوں و کافروں کی حکومت تو مرزائیوں کے لئے رحمت خداوندی ہو اور اسلامی حکومتوں کی تباہی پر خوشی منائی جائے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں آنا تو بہن خیال کیا جائے۔ لعنت ایسی عقل پر۔

ختم نبوت از قرآن شریف

.....۱ ”والذین يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (البقرہ)“ ﴿مقیوں کے اوصاف میں فرماتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں۔ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔﴾

وجہ استدلال

اگر آپ کے بعد کوئی وحی نازل ہونی ہوتی تو ”وما انزل من بعدك“ اور اس پر جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، کا ذکر ضروری تھا۔ جب ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔

.....۲ ”قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (بقرہ)“ ﴿کہہ دو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو ابراہیم واسماعیل واسحق و یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو موسیٰ و عیسیٰ (علیہم السلام) کو دیا گیا ہے اور اس پر جو موسیٰ کو ان کے رب کی طرف سے دیا جا چکا ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔﴾

وجہ استدلال

اس آیت میں قرآن اور پہلی وحی اور پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اگر قرآن کے بعد کوئی وحی نازل ہونی تھی یا کوئی نبی پیدا ہونا تھا تو اس کا بھی ذکر ضروری تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مواضع میں قرآن اور پہلی وحی مثل توراہ و انجیل وغیرہ اور پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر نہایت وضاحت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ مگر سارے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے بعد کی وحی اور آنحضرت ﷺ کے بعد پیدا ہونے والے انبیاء پر ایمان لانا بھی مسلمانوں کا فرض ہے۔ قرآن میں یہ تو کئی جگہ ملے گا کہ: ”وما انزل اليك وما انزل من

قبلک“ لیکن ”وما انزل من بعدک“ (جو وحی آپ کے بعد نازل ہوگی) سارے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے بعد انبیاء پیدا ہونے تھے اور ان کی طرف وحی بھی نازل ہوتی تھی تو کیوں نہ کہا گیا؟

”وما انزل من بعدک الی غلام احمد قادیانی و عبداللطیف گنا چوری و چراغ دین جموی و نبی بخشش معراجکی و عبداللہ تیماپوری وغیرہم من الرسل والانبیاء“

۳..... ”والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک (النساء)“ ﴿مسلمان ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔﴾  
وجہ استدلال

بعد کی وحی کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔

۳..... ”یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل (النساء)“ ﴿اے ایمان والو! ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو خدا نے آپ کی طرف اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں۔﴾  
وجہ استدلال

قرآن کے بعد کی وحی کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے کے لئے پیش گوئی کرے اور اپنی قوم کو آگاہ کرے اور ان کو وصیت کرے کہ جب وہ بعد میں آنے والا رسول آ جاوے تو اس کی اطاعت کرنا۔ لیکن محمد رسول اللہ کی زبانی قرآن میں ایک جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ میرے بعد فلاں نبی ہوگا۔ اس پر وحی نازل ہوگی۔ تم اس کی اطاعت کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ برعکس اس کے حدیث میں بار بار فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا۔ جب عیسیٰ بن مریم بقول مہذافوت ہو چکا تھا تو کیوں عیسیٰ بن مریم کے نام سے پیش گوئی کی اور کیوں نہ صاف فرمادیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکا ہے۔ میری امت میں ایک شخص مسی غلام احمد نبی پیدا ہوگا کہ وہ عیسیٰ بن مریم سے افضل بلکہ اکثر انبیاء سے افضل ہوگا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ خدا خود لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے۔ آنے والے رسول غلام احمد کا پتہ تو کچھ دیتا نہیں بلکہ بہت سی آیتیں

اس قسم کی بھیج دیتا ہے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا اور نہ کوئی وحی آئے گی۔ لیکن پھر اچانک غلام احمد قادیانی کو اولوالعزم رسول بنا کر بھیج دیتا ہے تا کہ مسلمان اگر قرآن پر عمل کریں تو انکار مرزا سے کافر بنیں۔ یا قرآن کو چھوڑیں اور مرزا قادیانی کو رسول مان کر افر بنیں۔ ادھر محمد رسول اللہ ﷺ پر نعوذ باللہ دھوکا دہی کا الزم عائد ہوگا کہ باوجود عیسیٰ بن مریم کے مرجانے کے اور ان کی وفات کے متعلق تیس آیتیں بقول مرزا قادیانی قرآن میں موجود ہونے کے ایک جگہ بھی صاف طور پر نہیں فرمایا کہ عیسیٰ مر گیا۔ بلکہ عیسیٰ بن مریم ہی کا نام لے کر پیش گوئی کرتے رہے۔ تا کہ امت محمدیہ تو عیسیٰ بن مریم ہی کی منتظر رہے اور غلام احمد قادیانی رسول ہو کر آجائیں اور تمام مسلمان عیسیٰ بن مریم کے انتظار میں کافر ہو جائیں۔ کیا اس کی کوئی نظیر آپ بتلا سکتے ہیں؟ کہ ایک مضمون کے متعلق قرآن میں تیس آیتیں موجود ہوں۔ لیکن سنت نبوی اور اقوال صحابہ میں ایک جگہ بھی اس کا ذکر نہ ہو۔

۵..... ”ولقد اوحینا الیک والی الذین من قبلك (الزمر)“ ﴿البتہ وحی بھیجی ہم نے آپ کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے﴾  
وجہ استدلال

آنحضرت ﷺ کے بعد کی وحی کا ذکر ضروری تھا۔ لیکن نہیں کیا معلوم ہوا کہ کوئی وحی نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ منصف کے لئے اتنا کافی ہے۔  
ختم نبوت از حدیث شریف

۱..... ”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بتیافا حسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون ویعجبون له ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ وانا خاتم النبیین (بخاری ومسلم وترمدی)“ ﴿حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا۔ سو اس نے نہایت عمدہ اور خوبصورت بنایا۔ مگر ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے میں باقی رہ گئی تو لوگ اس مکان کے گرد پھرنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہ لگادی گئی اور میں خاتم النبیین ہوں۔﴾

اور مسلم شریف میں ہے ”فجئت انا خاتمتم تلك اللبنۃ“ کہ میں آیا اور اس اینٹ کو پورا کر دیا اور ”کنز العمال“ میں ہے ”فکننت انا سدوت موضع اللبنۃ وختم



بسی البنیان و ختم بالرسول“ کہ میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پورا کر دیا اور مجھ پر عمارت نبوت ختم ہوگئی اور مجھ پر رسول ختم کر دیئے گئے۔

دیکھئے اس حدیث میں سلسلہ نبوت کو ایک مکان کی طرح فرمایا ہے اور انبیاء کو خواہ وہ شریعت والے ہوں یا نہ ہوں۔ اس مکان کی اینٹیں قرار دیا ہے۔ اس مکان نبوت میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی نبوتوں کی اینٹیں لگ چکی ہیں۔ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ جس کو آنحضرت ﷺ نے پر کر دیا۔ اب جو انبیاء آئیں گے ان کی نبوت کی اینٹ کہاں لگے گی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق شبہ ہو تو ان کی نبوت کی اینٹ لگ چکی ہے۔ نزول کے وقت ان کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی۔

### مرزا قادیانی کی نبوت

چونکہ قصر نبوت کی تکمیل کے بعد ہے۔ لہذا ان کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں مسلمہ کذاب کی نبوت کے مکان میں ممکن ہے جگہ ہو اور یہ اینٹ وہاں لگادی جائے۔ آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں مثال دے کر ختم نبوت کو ایسا واضح کر دیا ہے کہ ایک مسلم کے لئے بالکل شک کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن جواز لی کجحت ہیں۔ ان کے لئے تاویل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کون سی بات ہے جس کی کچھ نہ کچھ باطل تاویل نہیں ہو سکتی۔ فرق باطلہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ حکمت کی باطل تاویلیں کر کے ان کو اپنے اغراض نفسانیہ کے موافق بناتے ہیں اور کوئی ان کا منہ بند نہیں کر سکتا۔

کفار میں اور فرق باطلہ میں صرف فرق ہے تو یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اور فرق باطلہ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ لیکن احکام قرآن کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو صریح کفر ہیں تو کفر میں یہ سب برابر ہیں۔

۲..... ”عن ابی حازم قال قاعدت اباہریرۃ خمس سنین فسمعت یحدث عن النبی ﷺ قال کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لانبی بعدی وسیکون خلفاً فیکثرون قالوا فما تأمرنا قالوا فبیعۃ الاول افاالاول عطوہم حقہم فان اللہ سائلہم وما استخیر عاہم (بخاری و مسلم)“ ابو حازم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سال حضرت ابو ہریرہ کی مجلس کی ہے۔ پس میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک

نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور خلفاء ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کی تو پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ (یعنی جب بہت ہوں گے اور اختلاف ہوگا تو ہم اس وقت کس کا حکم مانیں) تو آپ نے فرمایا پہلے کی بیعت پوری کرو اور پہلوں کو ان کا حق دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے متعلق سوال کرادے گا۔ اس حدیث میں کئی طریق سے صاف تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی قسم کا ظلی، بروزی، غیر تشریحی وغیرہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ﴿

۱..... نص، لا نبی بعدی ہر قسم کے نبی کی نفی کرتی ہے۔  
 ۲..... لا نبی بعدی میں نبی کا لفظ مکرہ ہے اور مکرہ بعد نفی کے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔  
 پس آنحضرت ﷺ کے بعد ہر قسم کے نبی کی نفی ہوگی۔

۳..... اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد ان انبیاء کی مثل کی نفی کی ہے جو بنی اسرائیل کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ صاحب شریعت نہیں تھے۔ بلکہ توریت ہی پر عمل کراتے تھے اور ان کو نئی شریعت کوئی نہیں دی گئی تھی۔ تو جب ان جیسے انبیاء کی آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد نفی کر دی اور وہ غیر تشریحی ہی تھے۔ پس آپ کے بعد غیر تشریحی نبی بھی نہیں آ سکتا۔

ایک شبہ کا ازالہ

امت مرزائیہ کہا کرتی ہے کہ ”لا نبی بعدی“ میں کامل موصوف کی نفی ہے نہ ہر ایک نبی کی۔ یعنی آپ کی شان اور درجے کا نبی نہیں ہوگا۔ جیسے ذیل کی مثالوں میں کامل موصوف کی نفی ہے۔

۱..... ”لا فتی الا علی“ ﴿ کہ سوائے علیؑ کے کوئی جوان نہیں۔ یعنی علیؑ جیسا۔ ﴿

۲..... ”لا سیف الا ذوالفقار“ ﴿ کہ سوائے ذوالفقار کے اور کوئی تلوار نہیں۔ یعنی اس جیسی۔ ﴿

۳..... ”اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده“ ﴿ کہ جب کسری (لقب ہے فارس کے بادشاہوں کا) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی شان کا وغیرہ وغیرہ۔ ﴿

لیکن یہ محض دھوکا دہی ہے۔ کیونکہ ”لا نبی بعدی“ میں جو ”لا“ ہے یہ لائے نفی جنس ہے۔ یعنی جس چیز پر یہ لا داخل ہوتا ہے اس کی جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ نہ کہ اس کی جنس میں سے

کامل کی۔ لیکن کبھی کبھی مجازاً قرآنِ توہید کی وجہ سے اس سے کامل موصوف کی نفی مراد لی جاتی ہے۔  
جیسے مسئلہ مذکورہ میں۔

دیکھئے! جب ”لا فتی الا علی“ (کہ علیؑ کے سوا کوئی جو ان نہیں) کہا گیا تو یہ کہنے کے وقت ہی ہزاروں جو ان موجود تھے۔ پس جب حضرت علیؑ کے زمانے میں ان کو لافتی الاعلیٰ کہا گیا۔ ہزاروں جو ان موجود تھے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ علیؑ جیسا کوئی نہیں۔ لافتی الاعلیٰ (علیؑ کے سوا کوئی جو ان نہیں) کہنے کے وقت اور اس کے بعد ہزاروں جو انوں کا موجود ہونا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ لافتی الاعلیٰ کا حقیقی معنی کہ علیؑ کے سوا واقع میں کوئی بھی جو ان نہیں۔ مراد نہیں ہے۔ بلکہ بطریق مجاز یہ مراد ہے کہ علیؑ جیسا کوئی نہیں تو واقع میں کروڑوں جو ان ہوں۔ اس طرح ہزاروں کروڑوں تلواروں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ”لا سیف الا ذو الفقار“ (کہ ذو الفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں) اس بات پر قرینہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی کہ واقع میں ذو الفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں مراد نہیں ہے بلکہ بطور مجاز مراد یہ ہے کہ ذو الفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔

اسی طرح اگر کسی ولی کو دیگر اولیاء کی موجودگی میں خاتم الاولیاء کہا جائے تو دوسرے اولیاء کا موجود ہونا اس بات پر زبردست قرینہ ہوگا کہ خاتم الاولیاء کا حقیقی معنی کہ اس نے سب اولیاء کو ختم کر دیا ہے مراد نہیں ہے۔ بلکہ بطریق مجاز مراد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اولیاء گویا کہ ولی ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ سب سے افضل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لائے نفی جنس کے استعمال کے وقت اگر کوئی قرینہ مخالف معنی حقیقی موجود نہ ہو تو جس چیز پر لا داخل ہوا ہے۔ اس کی جز سے نفی کر دے گا اور اس چیز کا کوئی فرد کامل یا ناقص نفی سے باہر نہیں رہے گا اور اگر کسی چیز کے جس کی نفی کی جا رہی ہے بوقت نفی واقع میں بہت سے افراد موجود ہوں یا دلائل توہید۔ یقینہ سے بعض افراد کا آئندہ میں موجود ہونا ثابت ہو تو مجازاً وہاں نفی کمال مراد ہوگی۔ اسی طرح خاتم الاولیاء، خاتم المناظرین، خاتم المحدثین وغیرہ کا معنی بطریق مجاز، افضل الاولیاء، افضل المناظرین، افضل المحدثین وغیرہ ہوگا۔ کیونکہ حقیقی معنی جس کا حاصل یہ ہے کہ ولایت مناظرہ و محدثیت بالکل ختم ہو گئی ہے اور آئندہ کوئی ولی مناظر محدث وغیرہ نہیں ہوگا۔ بوجہ قرآنِ شریعہ اور مشاہدہ کے مراد نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ دلائل شریعہ اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ اس اجہت میں ولی محدث وغیرہ ہوں گے۔ لہذا کسی کو خاتم الاولیاء وغیرہ کہنے سے ماہیت بالشرع و المشاہدہ کی نفی نہیں ہوگی۔ بلکہ مجازی معنی مراد ہوں گے۔ پس جہاں حقیقی معنی سے پھرنے کے لئے کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ وہاں حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں۔ کیونکہ مجازی معنی

اس وقت لیا جاتا ہے۔ جب حقیقی معنی نہ بن سکے۔ ورنہ طہرین احکام شرعیہ کے کچھ نہ کچھ مجازی معنی تراش کر اسلام کی بیخ کریں گے۔ جیسا کہ کر رہے ہیں۔

پس لانی بعدی میں مجازی معنی کہ کامل نبی اور آپ کی شان کا نبی نہیں ہوگا۔ مراد لینا بالکل قواعد شرعیہ و عربیت کے مخالف ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کے لانی بعدی فرمانے کے وقت بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے بعد آج تک کوئی پیدا ہوا اور نہ دلائل شرعیہ سے آئندہ کسی نبی کا پیدا ہونا ثابت ہے۔ تو پھر کس طرح لانی بعدی کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی مراد لیا جاسکتا ہے۔ جب مجازی معنی مراد لینے کے لئے کوئی قرینہ شرعیہ یا عقلیہ یا مشاہدہ موجود نہیں تو پھر خواہ مخواہ نفس مجازی معنی مراد لینا الحاد نہیں تو اور کیا ہے۔

کیا امت مرزائیہ ”لا الہ الا اللہ“ اور ”لا شریک لہ ولا نظیر لہ“ وغیرہ میں بھی لاکونفی کمال پر محمول کر کے یہ کہیں گے کہ لا الہ کے معنی یہ ہیں کہ معبود کامل اور اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سے کم درجہ کا معبود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے برابر شریک نہیں اور اس سے کم درجہ کا شریک ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس قسم کی امثلہ میں نفی کمال مراد لینا قطعاً باطل ہے۔ اسی طرح سے لانی بعدی میں نفی کمال مراد لینا یقیناً باطل ہے اور اگر مرزا قادیانی فتاویٰ الرسول ہو کر نبی بن گئے ہیں تو کیا پہلے تیرہ سو سال میں کوئی فتاویٰ الرسول نہیں ہوا؟

پھر وہ کیوں نبی نہ کہلائے؟ اور اگر فتاویٰ الرسول ہو کر ایک شخص نبی کا نام حاصل کر لیتا ہے اور نبوت کے تمام کمالات و لوازمات اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص ظلی اور بروزی طور سے خدائی کا دعویٰ کرے تو کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور کیا اس شخص کا یہ عذر رنگ و تادیل مہمل قابل قبول ہوگی؟ کہ میں نے حقیقتاً خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تا کہ تعدد لازم آئے بلکہ ظلی طور پر میں نے اس میں فتا ہو کر اس کا نام پایا ہے۔ اس کا علم پایا ہے اس کا حکم پایا ہے اور اس طور سے میں ظلی خدا ہوں۔ لہذا خدا کی خدائی اس کے پاس رہی نہ کسی دوسرے کے پاس۔ لہذا مجھ کو مشرک نہ کہو۔

حالانکہ مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۱۵، خزائن ج ۲۳ ص ۱۷) میں فرماتے ہیں۔ ”اسی طرح جس کو شعلہ محبت الہی سر سے پیر تک اپنے اندر لے لیتا ہے۔ وہ بھی مظہر تجلیات الہیہ ہو جاتا ہے۔ مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے۔ بلکہ ایک بندہ ہے۔“ اہی!

بالکل اسی طرح سمجھو کہ اگر کوئی شخص مظہر تجلیات نبویہ کا مدعی ہو تو اس کو ظلی بروزی نبی بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک امتی ہوگا۔

۳..... ”عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي (مسلم، ترمذی، ابوداؤد)“ ﴿حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔﴾

دیکھئے! اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے بعد ہر ایک مدعی نبوت کو جھوٹا قرار دے کر امت کو ان کے شر سے بچنے کے لئے اطلاع دے دی ہے۔ اگر اس قسم کی واضح عبارات میں بھی تاویل ہو سکتی ہے تو آریوں کا قرآنی آیات میں تاویل کر کے مسئلہ تنازع ثابت کرنا بھی صحیح ماننا پڑے گا اور اسی طرح تمام فرق باطلہ کی تاویلات صحیح ماننی پڑیں گی۔ وہو کما تری!

۴..... ”قال رسول الله ﷺ لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب (ترمذی)“ ﴿رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا تو حضرت عمرؓ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ظلی، بروزی وغیرہ نہیں ہوگا۔﴾

۵..... ”قال رسول ال ﷺ ان الرسالت والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي (ترمذی)“ ﴿رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بیشک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی۔ سو نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔﴾

دیکھئے! اس حدیث میں بھی مطلقاً نبوت کی نفی کر دی گئی ہے اور نبوت و رسالت کے ختم ہونے کا مطلب بھی آنحضرت ﷺ نے خود انقطع کے بعد فلا رسول بعدی ولا نبی کہہ کر واضح کر دیا۔ نبوت و رسالت کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہوگا اور یہ مطلب نہیں کہ نبوت کے تمام اجزاء ختم ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں جتنی نیک باتیں ہیں وہ تمام نبوت کے اجزاء ہیں۔ جیسا کہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ نبوت میں سے بشارات وغیرہ باقی ہیں۔ کما مر اگر نبوت کججج اجزائے ختم ہو ہو جائے تو اسلام کا ختم ہونا لازم آتا ہے۔ بشارات وغیرہ اجزائے نبوت ہی کے اعتبار سے شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ بزرگان دین نے نبوت کو باقی کہا ہے۔ نہ یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ یہ حدیث تمام احادیث اور اقوال بزرگان دین کے حل کرنے کے لئے کافی ہے اور اس کے بعد ایک مومن کے دل میں ذرہ بھر شبہ نہیں رہتا۔ مگر صاحب اس حدیث پر غور کریں کہ انقطع کے بعد فلا رسول بعدی ولا نبی کیا سمجھا رہا ہے۔ انقطع کے بعد فلا رسول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کاش کہ خدا تمہیں سمجھا دے۔ دلائل بہت ہیں خوف طوالت سے اختصار کیا گیا ہے۔

## باب، مسیح موعود علیہ السلام کون ہے؟

چونکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ احادیث میں جس عیسیٰ موعود کی خبر آئی ہے کہ وہ دنیا میں قرب قیامت کے ظاہر ہوں گے وہ میں ہوں۔ اس لئے ہم احادیث صحیحہ اور اقوال مرزا قادیانی سے چند شہادتیں پیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین معلوم کر سکیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کون ہے؟ پہلے ہم مرزا قادیانی کا ایک اصول نقل کرتے ہیں جو اس بحث میں بہت مفید ہے۔ چنانچہ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ جہاں ”رسول اکرم ﷺ“ حلفاً بیان کریں اس کی کوئی تاویل نہیں کرنی چاہئے۔ قسم اخبار میں ظاہر پر دلالت کرتی ہے اور قسم کا فائدہ بھی یہی ہے کہ کلام کو ظاہر پر حمل کیا جائے اور اس میں تاویل اور استثناء نہ کیا جائے۔ اگر اس میں بھی تاویل اور استثناء روا ہو تو قسم کا فائدہ ہی کیا ہے۔“ (حماۃ البشری ص ۱۴ حاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۱۹۲)

اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو آنحضرت ﷺ نے اس طرح قسم کھا کر بیان فرمایا ہے۔

..... ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ فاقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ (بخاری و مسلم مشکوٰۃ ص ۴۷۹ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)“ ﴿حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قسم ہے اللہ پاک کی بہت جلد ابن مریم منصف حاکم ہو کر تم میں اتریں گے۔ پھر وہ عیسائیت کی صلیب کو (جس کو وہ پوجتے ہیں) توڑ دیں گے اور خنزیر (جو خلاف حکم شریعت) عیسائی کھاتے ہیں اس کو قتل کرائیں گے اور کافروں سے جو جزیہ لیا جاتا ہے موقوف کرویں گے اور مال بکثرت لوگوں کو دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ لوگ ایسے مستغنی اور عابد ہوں گے کہ ایک ایک جمدہ ان کو ساری دنیا کے مال و متاع سے اچھا معلوم ہوگا (حدیث کے الفاظ سنا کر) ابو ہریرہ کہتے تھے تم اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید میں چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ ان من اهل الكتاب آخرتک۔﴾

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اترنے وقت کل اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر نزول عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے اور جہاں آپ قسم کھا کر بیان فرمائیں وہاں بقول مرزا قادیانی کوئی تاویل نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ

اس کو ظاہر پر حمل کرنا چاہئے اور اس حدیث میں ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے نہ کہ مرزا قادیانی کا۔ ابن مریم سے مرزا قادیانی مراد لینا تاویل ہے اور یہ مرزا قادیانی کے نزدیک جائز نہیں۔

دوسرے اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کو حاکم عادل قرار دیا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے پاس حکومت نہ تھی۔ لہذا مرزا قادیانی قاعدہ کے برخلاف ہے کہ قسم کی جگہ تاویل نہیں کرنی چاہئے۔ نیز علماء بلاغت کے نزدیک مجازی معنی وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقی معنی لینا صحیح اور ممکن نہ ہو اور حدیث مذکور میں حقیقی معنی بالکل ممکن ہے۔ پھر تاویل کیوں کی جائے۔ چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی مسیح بھی آجائے۔ جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت ان کی مراد بھی پوری ہو جائے۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۰۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

اس عبارت میں مرزا قادیانی تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت مسیحیت محال نہیں۔ بلکہ ممکن ہے اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کی حقیقت حکومت ظاہر یہ ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ جب حقیقت ممکن ہے تو امکان حقیقت کے وقت مجاز کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے:

ہوا ہے مدعی کا فیضہ اچھا میرے حق میں

زیلخانے کیا خود پاک دامن ماہ کنعان کا

گو مرزا قادیانی کے اقرار کے بعد کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ تاہم ایک گواہ ایسا پیش کیا جاتا ہے جس کی توثیق مرزا قادیانی نے خود اعلیٰ درجہ کی کی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”مولوی نور الدین احب بھیروی کے مال سے جس قدر مجھے مدد پہنچی ہے میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھتا جو اس کے مقابل پر بیان کر سکوں۔ میں نے ان کو طبعی طور پر اور نہایت انشراح صدر سے اپنی خدمتوں میں جانثار پایا۔“ (ازالہ اوہام ص ۷۷، خزائن ج ۳ ص ۵۲۰)

یہی مولوی صاحب ہیں جو مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد خلیفہ اول ہوئے۔ وہی مولوی نور الدین اصولی طور پر ہماری تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہر جگہ تاویلات و تمثیلات سے استعارات و کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہر ایک لحد، منافق، بدعتی، اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الہی کلمات طیبات کو لاسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب قویہ اور موجبات حقہ کا ہونا ضرور ہے۔“

(ضمیمہ ازالہ اوہام ص ۸، خزائن ج ۳ ص ۶۳۱)

پس ثابت ہوا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا اصلی حقیقت کے ساتھ آنا ممکن ہے۔ لہذا مرزا قادیانی عیسیٰ موعود نہیں۔

۲..... ”عن النبی ﷺ والذی نفسی بیدہ لیہلن ابن مریم بفتح الروحاء حاجا او معتمرا او ینثیہما صحیح مسلم باب جواز التمتع فی الحج والقرآن“ ﴿رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اللہ پاک کی مسیح موعود حج الروحاء سے (جو مکہ مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے۔ نووی شرح مسلم) حج کا احرام باندھیں گے۔﴾  
یہ حدیث حضرت مسیح موعود کی تشریف آوری کے بعد ان کے حج کرنے اور ان کے احرام باندھنے کے لئے مقام کی بھی تعیین کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کی بابت تو یہ بلا اختلاف مسلم ہے کہ وہ حج کو نہیں گئے۔ مقام معین سے احرام باندھنا تو کجا۔ پھر مسیح موعود کیسے؟۔ نیز اس حدیث میں بھی آنحضرت ﷺ نے قسم کھائی ہے اور قسم کی جگہ مرزا قادیانی کے نزدیک کوئی تاویل نہیں کرنی چاہئے۔

لہذا ابن مریم سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نہ مرزا قادیانی اور اگر یہ عذر رنگ پیش کیا جائے کہ حج کے شرائط میں سے راستے کا امن اور مالدار ہونا بھی ہے اور مرزا قادیانی کو راستہ میں خطرہ تھا اور نیز مالدار بھی نہیں تھے۔ تو یہ عذر بالکل مہمل اور طفل تسلی ہے اور لازم آئے گا کہ خدا نے محمد رسول اللہ ﷺ کو مسیح موعود کے حج کرنے اور مقام حج الروحاء سے احرام باندھنے کی خبر تو دے دی اور کہہ دیا کہ تم پیشگوئی کر دو کہ مسیح موعود حج کرے گا۔ لیکن دل میں یہ رکھا کہ جب مسیح موعود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پرخطر بنا دوں گا اور مسیح موعود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ حج کر سکے۔ تاکہ محمد ﷺ کی پیشگوئی جھوٹی ہو۔ العیاذ باللہ!

اس طرح تو خدا اور رسول دونوں پر جھوٹ اور دھوکہ دہی کا الزام عائد ہوگا۔ احادیث اس مضمون کی بکثرت ہیں۔ مگر ہم نے اختصار کے لئے بطور نمونہ انہی دو حدیثوں پر اکتفاء کیا ہے۔ کیونکہ ماننے والے کے لئے یہ بھی کافی ہیں اور نہ ماننے والے کو بہت بھی کچھ نہیں:

اگر صد باب حکمت پیش ناداں  
بخوبی آیدش بازیچہ در گوش

مورخہ ۲۱ شعبان المعظم ۱۳۴۷ھ

صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین والہ واصحابہ اجمعین!



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ الْجَهْلَ لَمْ یَجِدِ الْعِلْمَ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِلْمَ لَمْ یَجِدِ الْحَقَّ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ الْحَقَّ لَمْ یَجِدِ السَّلَامَ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّلَامَ لَمْ یَجِدِ الْجَنَّةَ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ الْجَنَّةَ لَمْ یَجِدِ النَّجَاتَ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ النَّجَاتَ لَمْ یَجِدِ الْجَنَّةَ  
مَنْ لَمْ یَجِدِ الْجَنَّةَ لَمْ یَجِدِ الْجَنَّةَ

چودھویں صدی کا جمال کون؟

بجواب

چودھویں صدی کا چاند

(مولانا علم دین حافظ آبادیؒ)

## مرزا قادیانی کے دس جھوٹ

سوروپیہ، النعام

- مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”جھوٹ بولنا مرتد، نہایت شریر اور بدذات اور پلید طبع لوگوں کا کام ہے۔“ (ضمیمہ تختہ گولڈ ویس ۱۲، ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۵۶، آر یہ دھرم ص ۱۹، خزائن ج ۱۰ ص ۱۳) ..... ۱
- ”قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مسیح موعود چودھویں صدی ہجری میں آئے گا۔“ (تقریروں کا مجموعہ ص ۳۶) ..... ۲
- ”قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔“ (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵) ..... ۳
- ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔“ (معاذ اللہ) (کشتی نوح ص ۶۵، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱) ..... ۴
- آنحضرت ﷺ نے بطور تشریح فرمادیا۔ ”بل هو امامکم منکم“ (ازالہ اوہام ص ۹۳، خزائن ج ۳ ص ۱۵۳) ..... ۵
- ”صحیح مسلم میں صاف لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔“ (نزدول المسح ص ۷، ۱۸، ۲۴، خزائن ج ۱۸ ص ۳۹۶) ..... ۶
- صحیح بخاری میں ہے۔ ”هذا خليفة الله المهدي“ (شہادت القرآن ص ۴۱، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷) ..... ۷
- ”احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے۔“ (ضرورت الامام ص ۵، خزائن ج ۱۳ ص ۴۷۵) ..... ۸
- ”احادیث نبویہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ تیرھویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۷۷، خزائن ج ۵ ص ۳۴۰) ..... ۹
- ”احادیث میں ہے کہ پہلے مسیح کو بڑے زور شور سے کافر ٹھہرایا جائے گا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۲، ۱۳، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۷)

۱۰..... مرزا قادیانی نے ۱۹۰۲ء میں فرمایا کہ: ”مکہ اور مدینہ کے راہ میں ریل تیار ہو رہی ہے۔“

(کشتی نوح حص ۱۸، خزائن ج ۱۹ ص ۹)

مبلغ سو روپیہ انعام اس شخص کو دیا جائے گا جو یہ باتیں سچی ثابت کر دے۔ اگر نہ کر سکو تو کہو۔ ”لعنة الله على الكذابين..... وكونوا مع الصادقين“

۱..... محمدی بیگم میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ (لیکن نہیں آئی)

۲..... ڈاکٹر عبدالکیم میرے سامنے ہلاک ہوگا۔ (لیکن نہیں ہوا)

۳..... سلطان محمد داماد احمد بیگ میری زندگی میں مرجائے گا اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بند سے بدتر ٹھہروں گا۔ لہذا اس رسالہ کا نام چودھویں صدی کا دجال رکھا گیا۔ کیونکہ چودھویں صدی کا ذکر اگلے اوراق میں آئے گا۔ ناظرین اس کو غور سے پڑھیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

”الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده“

اس وقت میرے سامنے ایک رسالہ بنام ”بدر کامل یعنی چودھویں کا چاند“ ہے جس کے شروع میں مصنف رسالہ نے یہ لکھا ہے۔

چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا

کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا

ان کا یہ لکھنا کہ میں بدر کامل یعنی چودھویں کا چاند دیکھ کر بے کل ہو گیا بالکل بے معنی ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بدر کامل کو دیکھ کر بے کل نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی بے کل ہونے کی بات ہے۔ ہاں اگر بدر کامل کو گرہن لگ جائے تو ضرور انسان اس کو دیکھ کر بے کل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رسالہ کی نظر سے مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ ذیل گزری ہوگی۔ جس میں فرماتے ہیں کہ: ”آسمان پر چاند نے میرے لئے گواہی دی۔“ لیکن دنیا گواہ ہے کہ چاند نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے لے کر موت تک کسی شخص کو زبان قال سے یہ نہیں کہا کہ مرزا قادیانی سچے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی **الغٹا** کے گرہن سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چاند نے میرے دعویٰ کے بعد میری صداقت کی گواہی دی۔ غالباً مصنف رسالہ کا بھی اسی طرف اشارہ ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چاند کی گواہی آپ کے خلاف ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کے بعد چاند نے بے نور ہو کر بزبان حال

یہ گواہی دی کہ جس طرح میں اس وقت بے نور اور سیاہ ہو گیا ہوں۔ اسی طرح اس وقت جو شخص مدعی مجددیت و مہدویت و مسیحت و نبوت ہے۔ وہ بھی نور سے خالی ہے۔ جو شخص اس کے پاس جائے گا وہ بھی نور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسی گواہی سن کر بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے۔

چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا

کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا

اس کے بعد مصنف رسالہ نے ابوداؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتے رہیں گے اور مرزا قادیانی اس صدی کے مجدد ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو ان تمام مجددین نے جو تیرہ صدیوں میں گزرے ہیں سب کے سب مرزا قادیانی کو کافر، بے ایمان اور اسلام سے خارج سمجھتے تھے اور مرزا قادیانی ان کو مشرک اور بے دین کہتے ہیں۔

..... ۱ وہ اس طرح کہ امام ابن حجرؒ (جس کو مصنف رسالہ آٹھویں صدی کا مجدد

مانتا ہے) فرماتے ہیں۔ ”واما رفع عیسیٰ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انه رفع ببذنه حیاً“ (تخصیص الحمیر ج ۲ ص ۳۱۹)

کہ تمام محدثین (جن میں امام شافعی اور احمد بن حنبل دوسری صدی کے مجدد بھی شامل ہیں) اور مفسرین (جن میں علامہ ابن کثیر اور علامہ فخر الدین رازی اور علامہ سیوطی وغیرہ بھی شامل ہیں جو آٹھویں اور نویں صدی کے مجدد ہیں) کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم غضری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔

..... ۲ نیز مجدد و عظیم امام ابن حجرؒ حضرت حسنؓ سے نقل کرتے ہیں۔ ”واللہ انہ

الان لحي ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون“ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۵۷)

خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور جب وہ آسمان سے اتریں گے تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔

..... ۳ نیز علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔ ”من اعتقد و حیاً بعد محمد ﷺ

کفر باجماع المسلمین (فتاویٰ ابن حجر) کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی پر وحی آتی ہے وہ کافر ہے۔

..... ۴ دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ جن کا نام مصنف نے چھوڑ دیا اور نمبر ۸

کے آگے نمبر لکھ دیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”ینزل عیسیٰ من السماء“ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ (مرقات ج ۵ ص ۱۶۱)

۵..... ”ودعویٰ النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)“ ملا علی قاری: سویں صدی کے مجدد فرماتے ہیں کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے۔ ساتھ اجماع سلف اور خلف کے یعنی صحابہ کرام سے لے کر تمام تابعین تبع تابعین، مجتہدین، مجددین، محدثین، مفسرین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدعی نبوت کو کافر قرار دیا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی بقول مجددین کافر اور بے ایمان ہوئے اور تمام مجددین بوجہ عقیدہ حیات عیسیٰ کے بقول مرزا قادیانی مشرک ہوئے۔ پس مرزا قادیانی کے کذاب ہونے کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ انہوں نے سابقہ تمام مجددین کی مخالفت کی ہے۔ ایک بھی ان کا ہم خیال نظر نہیں آتا۔

ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ اگر مصنف رسالہ سابقین مجددین سے یہ ثابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور نبی ﷺ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے تو ایک صد روپیہ انعام ان کو دیا جائے گا۔

اس کے بعد مصنف رسالہ لکھتا ہے کہ علمائے اسلام نے مرزا قادیانی کو بہت گالیاں دی ہیں۔ جو باعرض ہے کہ ایک طرف مرزا قادیانی کی گالیاں رکھی جائیں تو دوسری طرف تمام علمائے کی گالیاں مرزا قادیانی کی گالیوں کا عشر عشر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مرزا قادیانی کی بدزبانی دیکھنی ہو تو ضمیمہ انجام آتھم ملاحظہ فرمادیں۔ یا عصائے موسیٰ دیکھنے کی تکلیف گوارا کر لیں۔ جس میں مرزا قادیانی کی تمام گالیاں حروفِ جمعی کے حساب سے جمع کی گئی ہیں۔ مرزا قادیانی کی قلم نے تو تمام اہل اسلام، مجددین، مفسرین، صحابہ کرام بلکہ انبیاء علیہم السلام کے جگر کو بھی چاک کر ڈالا جو اپنی قبروں میں بھی کہتے ہوں گے۔

چھوٹا ہے تو اے جلا د کیوں خنجر کلیجے میں

زباں تیری اترتی ہے چھری بن کر کلیجے میں

ہنگامہ میں قابل جواب باتیں تو صرف اسی قدر تھیں جن کا جواب یا گیا۔ اب ہم مرزا قادیانی یا بقول چوہدری اکبر علی صاحب بدر کامل اور چوہدریوں کے چاند کی حقیقت بذریعہ انجیل و احادیث نبوی آشکارا کرتے ہیں۔

## حضرت مسیح کے ارشادات

..... حضرت مسیح اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں۔ ”خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔“ ”فان کثیرین سیاتون باسفی قایلین انا هو المسیح ویضلون کثیرین“ کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (متی: ۲۴: ۵)

حضرت مسیح نے اس آیت میں جھوٹے مسیح کی آمد (جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں) کا زمانہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے اتنے سال بعد آئے گا۔ سنئے:

( کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں) اس کے عدد بحساب ابجد ۱۸۸۲ ہیں اور مرزا قادیانی نے بھی ۱۸۸۲ء میں اپنے آپ کو مسیح قرار دیا۔  
..... ۲ نیز فرماتے ہیں۔ ”بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں۔“ (لوقا: ۲۱: ۸)

مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔

(ازالہ اوہام ص ۹۱، خزائن ج ۳ ص ۱۲۲)

..... ۳ نیز فرمایا کہ مسیح کذاب کے وقت لڑائی اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔

(متی: ۲۴: ۶)

مرزا قادیانی کے وقت لڑائیاں ہوتی رہیں۔

..... ۴ جگہ جگہ کال اور مری پڑے گی۔ (لوقا: ۲۱: ۱۱)

مرزا قادیانی کے وقت سخت کال تھا اور ۱۸۹۷ء اور ۱۸۹۸ء میں طاعون پڑی۔ لیکن مریدوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔

..... ۵ اور بھونچال آئیں گے۔ (متی: ۲۴: ۸)

چنانچہ مرزا قادیانی کے وقت ۳۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو سخت زلزلہ آیا۔ اس کے بعد ۶ فروری ۱۹۰۶ء میں بھی زلزلہ آیا۔ (افسوس کہ مرزا نیولی نے اس وقت بھی عبرت حاصل نہ کی)

..... ۶ اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (متی: ۲۴: ۱۱)

چنانچہ مرزا قادیانی کے بعد کئی جھوٹے نبی اٹھے۔ جیسا کہ (۱) احمد نور قادیانی

میں۔ (۲) عبداللطیف گناچور میں۔ (۳) محبوب گوجرانوالہ میں۔ (۴) رحل۔ یسعی عبداللہ  
چچا وطنی میں۔ (۵) غلام حیدر جہلم میں۔ (۶) نبی بخش معراج کے ضلع سیالکوٹ میں۔ (۷) ایم۔ ایم  
فضل چنگا بنکیال متصل گوجرخان میں۔

۷..... وہ جھوٹے مسیح اور کذاب نبی بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے۔

(متی: ۲۴، ۲۲، مرقس: باب ۱۳ آیت ۲۲)

۱..... چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”ان نشانوں کو جو میری تائید میں ظہور

میں آچکے ہیں۔ آج کے دن تک شمار کیا جائے تو وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔“

(حقیقت الوہی ص ۴۶، خزائن ج ۲۲ ص ۴۸)

۲..... ”خدا کی قسم میرے نشان تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔“

(حقیقت الوہی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰)

۳..... ”تمام نشان تخمیناً دس لاکھ ہیں۔“

(براہین احمدیہ، مج ۵۸، خزائن ج ۲۱ ص ۷۲)

۴..... ”میرے اتنے نشان ہیں کہ اگر ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی

نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔“ گویا کہ مرزا قادیانی بقول خود ہزار نبی سے افضل ہیں۔

(چشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

۵..... ”میرے معجزے ایک لاکھ کے قریب ہیں۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۳، خزائن ج ۲۳ ص ۴۰)

۶..... آخر ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء کو فرماتے ہیں کہ: ”خدا نے ہزار ہا نشان میرے ہاتھ

پر ظاہر کئے اور کر رہا ہے۔“ (حقیقت النبوة ص ۲۷۱)

گویا میرے سے دو دن پہلے دس لاکھ کے ہزار ہا ہو گئے۔

۷..... ”میرے معجزات بجز نبی ﷺ کے سب انبیاء سے زیادہ ہیں۔“

(حقیقت الوہی ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۹)

۸..... بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر لیں گے۔ (متی: ۲۴، ۲۲، مرقس: ۱۳، ۲۲)

چنانچہ مرزا قادیانی نے بڑے بڑے لوگ ایم۔ اے۔ بی۔ اے وغیرہ گمراہ کر لئے۔

۹..... اور لوگ ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ (متی: ۲۳، ۱۰)

چنانچہ مرزا قادیانی کے وقت سے سب لوگوں میں دشمنی اور عداوت ہے۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے لاہوری اور قادیانی آپس میں عداوت رکھتے ہیں۔ (دیکھو النبوة فی الاسلام، حقیقت النبوة)

۱۰..... ”اس وقت کوئی اگر تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے۔ (یعنی قادیان ہے) تو یقین نہ کرنا۔“ کیونکہ ۱۸۸۲ء میں جھوٹا مسیح آئے گا اور کہے گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ (متی: ۲۴، ۲۳، ۲۱، ۸؛ لوقا: ۲۱، ۵؛ متی: ۲۴، ۵)

اللہ تعالیٰ اور رسول خدا ﷺ کے ارشادات

۱..... ”و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد (صف)“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح نے حواریوں کو فرمایا کہ میں تم کو ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور نام ان کا احمد ہوگا۔ (ﷺ)

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔“ (ڈائری ص ۱۹۰، ۵)

۲..... رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”انا بشلرة عیسیٰ بن مریم (مشکوٰۃ)“

کہ آیت بالا میں جس نبی کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اس کا مصداق میں ہوں۔

۳..... ”ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب (صف)“ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو کہے گا کہ وہ احمد جس کی بشارت حضرت مسیح نے دی تھی۔ اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔

چنانچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ”اسمہ احمد“ کے مصداق محمد ﷺ نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا نام احمد نہ تھا۔ بلکہ اس آیت کے مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ تم احمدی کہلاؤ۔ (افضل ۱۸ اپریل ۱۹۱۳ء)



غرض کوئی بھی ہو۔ خواہ مرزا قادیانی نے خود اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہو یا خلیفہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مفتی علی اللہ اور کذاب ہے۔

۴..... ”وہو یدعی الی الاسلام“ پھر اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا کہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اسمہ احمد کا مصداق غلام احمد قادیانی ہے۔ سراسر کفر ہے۔ اس کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کہو کہ اسمہ احمد کا مصداق محمد منی ہے۔ (ﷺ)

۵..... ”واللہ لا یہدی القوم الظالمین“ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں کرتا۔

۶..... ”یریدون لیطفوا نور اللہ بافواہم“ ان کے ارادے یہ ہیں کہ کس طرح رسول منی کے اسلام کی روشنی مٹ جائے اور غلام قادیانی کے مذہب کا عروج ہو جائے۔

۷..... ”واللہ متم نورہ“ لیکن خدا تعالیٰ خود اسلام کا محافظ ہے۔ ان کے مٹانے سے ہرگز نہ مٹے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بول بالا کرے گا۔

۸..... ”ولو کرہ الکافرون“ اگرچہ اسمہ احمد کا مصداق مرزا قادیانی کو قرار دینے والے ناخوش ہی ہوں۔

۹..... ”ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ وہی اللہ تعالیٰ اس دین کا بول بالا کرے گا۔ جس نے اسمہ احمد کے مصداق رسول منی کو ہدایت قرآن پاک اور دین حق یعنی اسلام دے کر اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اس دین اسلام کو ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ چنانچہ کر دیا اور اسلام دن بدن پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔

۱۰..... ”ولو کرہ المشرکین“ خواہ مشرک یعنی شرک فی الرسالت کرنے والے اور اسمہ احمد کی پیش گوئی میں غلام قدنی کو شریک کرنے والے براہی متائیں۔ جس کا تین ثبوت یہ ہے کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لئے رسول خدا ﷺ نے ۲۳ سال تک تکلفیں اٹھائیں۔ صحابہ کرام نے دن رات ایک کر دیا۔ تابعین، تبع تابعین، مجددین، مجتہدین، مفسرین، محدثین و دیگر علمائے اسلام نے بعد مشکل اہل اسلام کی تعداد بقول مرزا قادیانی نوے کروڑ تک پہنچائی تھی۔ ان حضرات یعنی المشرکوں کے مصداقوں نے یا خود اسمہ احمد کے فرضی مصداق نے سب

کے سب نوے کروڑ اہل اسلام کو کافر قرار دیا۔ صرف اس وجہ سے کہ اسے احمد کا مصداق کیوں رسول مدنی کو قرار دیتے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر سمجھیں۔  
حالات مرزائے قادیانی، رسول مدنی کی زبانی

۱..... ”اللهم انى اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال“ رسول خدا ﷺ نے اپنی امت کو ہر نماز میں یہ دعاء پڑھنے کو ارشاد فرمایا کہ خداوند اہم مسیح دجال (جس کی خبر ہرنبی نے اور خصوصاً مسیح نے دی تھی کہ وہ آ کر ۱۸۸۲ء میں کہے گا کہ میں ہی مسیح ہوں) کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

۲..... ”ان الله لم يبعث نبياً الا حذرا لامتة الدجال“ نیز فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو مسیح و جال کے فتنہ سے ڈرایا۔ (ابن ماجہ ص ۳۰۷)

۳..... ”انى انذركم كما انذر به نوح قومه“ میں بھی تم کو اس کے فتنہ سے ڈراتا ہوں۔ جس طرح نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ص ۴۷۳)

۴..... اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ کیونکہ مسیح ابن مریم نبی تھا اور میں اس کے نام پر آیا ہوں۔ لہذا میں بھی نبی ہوں۔ ”وانا اخر الانبياء“ اور حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے جو کہے میں مسیح اور نبی ہوں۔ تم سمجھ لو کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔

۵..... ”يا عبدا لله فاثبتوا فانہ يبدأ فيقول انا نبى لا نبى بعدى“ اے اللہ کے بندوں۔ میری ہامت کے لوگو۔ تم نے ثابت قدم رہنا اور اس کے اتانہی کہنے پر نہ کرنا۔ کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ (ابن ماجہ ص ۳۰۷)

۶..... نیز فرمایا کہ اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ ”يقال لها خراسان (ترمذی، مشکوٰۃ)“ یعنی وہ دجال خراسانی ہوگا۔

مرزا قادیانی کے آباؤ اجداد خراسان سے ہی نکلے تھے۔ (سوانح مسیح موعود ص ۲)

۷..... ”ياتى المسيح من قبل المشرق“ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ (مسلم، مشکوٰۃ)

چنانچہ قادیان مدینہ سے مشرق کی طرف ہے۔ جس کا آپ نے اشارہ فرمادیا۔  
۸..... ”ویکثر الزلازل (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)“ نیز فرمایا کہ مسیح دجال  
کے وقت زلزلہ کثرت سے آئیں گے۔

چنانچہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء، ۶ فروری ۱۹۰۶ء میں اوران کے علاوہ کئی زلزلے آئے ہیں۔  
۹..... ”یتبع الدجال من امتی سبعون الفاً“ اور فرمایا کہ میری امت  
کے ستر ہزار آدمی جو پہلے اسمہ احمد کا مصداق مجھ کو قرار دیتے تھے۔ اس کے ساتھ مل کر اس کا  
مصداق اس مسیح دجال کو قرار دیں گے۔ (مکھلوٰۃ)

۱۰..... ”یتبعہ اقوام“ میری امت کے علاوہ اور کئی قومیں عیسائی، سکھ، یہودی  
وغیرہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ (ترمذی، مکھلوٰۃ)  
۱۱..... ”معہ اصناف الناس“ اس کے ساتھ قسم قسم کے لوگ ہوں گے۔

(کنز العمال ج ۴ ص ۲۹۷)  
۱۲..... ”وانہ لا ینقئ شیئ من الارض الا وطہ وظهر علیہ الا  
مکة والمدینة“ اور فرمایا کہ مسیح دجال کا اثر دور دور ملکوں میں پھیل جائے گا۔ لیکن وہ خود اور اس  
کے مبلغ اور اس کا اثر وغلبہ مکہ و مدینہ میں نہیں جاسکے گا۔ (کنز العمال ج ۷ ص ۲۰۲۸)

چنانچہ مرزا قادیانی کو حج بیت اللہ اور مدینہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔  
۱۳..... ”معہ بمثل الجنة والنار“ اور اس کا ایک فرضی بہشت (بہشتی  
مقبرہ) ہوگا جوئی الحقیقت دوزخ ہے اور ایک دوزخ یعنی اپنے مخالفوں کو جنمی قرار دے گا۔  
(بخاری، مکھلوٰۃ ص ۲۷۳)

۱۴..... ”یا ای علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہ ثم یأتی القوم  
فیدعوہم فیردون علیہ قولہ“ پھر وہ مسیح دجال ایک قوم کے سامنے دعویٰ پیش کرے گا۔ وہ  
مان لیں گے اور ایک دوسری قوم کے سامنے وہ دعویٰ مسیحیت پیش کرے گا۔ لوگ اس کا دعویٰ اس  
کے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے کہ آپ تمیں دجالوں میں سے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دعویٰ  
اپنے پاس رکھئے اور تشریف لے جائیے۔ (مسلم، مکھلوٰۃ)

۱۵..... ”فیقول رجل من المؤمنین لا نطلقن الی هذا الرجل

فانظرن اهو الذی انذرنا رسول اللہ ﷺ ام لا“ پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص زبردست مناظر اس کے مقابلہ کے لئے اس کے گاؤں (قادیان) میں جائے گا اور کہے گا کہ میں اس سے مناظرہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی مسیح دجال ہے جس سے ہم کو رسول خدا ﷺ نے ڈرایا ہے یا کوئی اور ہے۔ پھر وہ واپس آ کر لوگوں میں اس کی دجالت کا اعلان کر دے گا۔

(کنز العمال)

چنانچہ مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان گئے اور مقابلہ کے لئے بلایا اور وہ حصرت سامنے

نہ آئے۔ آخر انہوں نے واپس آ کر ان کی بطلت کا اعلان کر دیا اور فرمایا۔

رسول قادیانی کی رسالت

بطلت ہے بطلت ہے بطلت

۱۶..... ”لیصحبنا الرجال اقوام یقولون انا لنصحبة انا لنعلم

انه الکافرو لکننا لنصحبه ناکل من طعامه“ بہت سے مولوی یا ملازمت پیشہ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے اور دل میں کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ مدعی نبوت کافر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم خیال ہونے سے ہمیں تنخواہ مل جاتی ہے۔

۱۷..... ”ویبعث معہ الشیاطین تکلم الناس“ بہت سے مولوی شیطان

خصلت اس کے دعویٰ نبوت کی نہ صرف تصدیق کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں سے مناظرہ بھی کریں گے۔

۱۸..... ”ما من نبی الا قد انذر امتہ“ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو مسیح دجال

سے ڈرایا۔ جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں اور دعویٰ نبوت کرے گا۔ (بخاری، مسلم، ابن ماجہ)

۱۹..... مرزا قادیانی اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ: ”میرے آنے کی تمام نبیوں

نے خبر دی ہے۔“ (تذکرہ شہادتین ص ۶۲، خزائن ج ۳۰ ص ۶۳)

۲۰..... نیز مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں۔ ”ہاں میں وہی ہوں جس کا سارے

نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا۔“ (فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۵۱)

چھوڑ دو ناحق یہ جھگڑا مرنے والا مر گیا

اپنے دعویٰ کو وہ بندہ آپ جھوٹا کر گیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

# تاریخ آئینہ

(جناب حاجی سید عبدالرحمن مونگیری)

بسم الله الرحمن الرحيم!

## بزرگان اسلام کی خدمت میں ضروری التماس

”الحمد لله العظيم ونصلي على رسوله الكريم“

معززین اسلام و برگزیدگان قوم! مجھے کبھی بحث مباحث کا شوق نہیں ہوا۔ اسلامی فرقوں کے مناظرہ کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ مگر مرزا قادیانی کے اقوال و عقائد اس طرح کے دیکھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو درہم و برہم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اسلام کے پردہ میں یعنی اپنے آپ کو کامل مسلمان اور اپنے وقت کا امام اور محدث بنا کر ہمارے مقدس مذہب کی جو صورت سید المرسلین ﷺ اور آپ کے جانشین اور آل اطہار اور اصحاب کبار اور اولیاء عظام و علمائے کرام نے بیان کی ہے۔ اسے غلط بتا کر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوں میں ہوں۔ میرا کہنا مانو جب نجات ہوگی۔ اب اس کی وجہ خواہ ان کی غلط فہمی ہو خواہ ان کے الہامات و انکشافات ہوں۔ جن کی حالت یقینی طور سے شہادت دیتی ہے کہ وہ شیطانی ہیں۔ ان کے چند اقوال و عقائد نقل کئے جاتے ہیں۔ انہیں آپ غور سے ملاحظہ کریں۔

تمام اسلام کی برہمی

۱..... قرآن مجید کے جو معنی ہم بیان کریں وہ صحیح ہیں اور اگر اس کے خلاف کسی صحابی یا تابعی وغیرہا نے بیان کیا ہو۔ وہ غلط ہے۔

۲..... جو حدیث ہمارے الہام کے مطابق ہے۔ اسے ہم مانیں گے اور جو اس کے خلاف ہیں۔ انہیں ردی کی طرح پھینک دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید و حدیث کا ذکر صرف مسلمانوں کے دھوکا دینے کے لئے ہے۔ دراصل دین و مذہب مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ تمام بزرگان دین نے الہام کے صحیح ہونے کی علامت بیان کی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ۲ ہو یہاں برعکس ہے۔ یعنی قرآن مجید کے معنی اور حدیث کی صحت الہام سے ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید و حدیث جو مسلمانوں کا دین و ایمان ہے وہ بیکار ہو گیا۔

۱۔ یہ دونوں قول ان کے متعدد تحریروں میں ہیں۔ جماعت احمدیہ کا ہم کو امتحان کرنا ہے۔ جب وہ کسی کے سامنے انکار کریں گے تو پورا پورا حوالہ دیا جائے گا۔

۲۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کشف و الہام میں شیطان کو بھی دخل ہو سکتا ہے اور اس کا معلوم ہونا نہایت دشوار ہے۔ جو حدیثیں علماء ناقدین کے نزدیک صحیح ہیں۔ اگرچہ اس کا ثبوت ظنی ہو۔ مگر ایسے الہامات کئے تو انہیں ہر طرح فوقیت ہے۔

## مرزا قادیانی جو کہیں وہی دین ہے

اس کی وجہ بار بار یہ لکھتے ہیں کہ میں مسیح ہوں اور مسیح موعود کو حدیث میں حکم کہا ہے۔ یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اس لئے جو میں کہوں اسے مانو۔ مگر مسلمان ان سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو مسیح موعود کس نے مانا جو آپ اپنے کو حکم سمجھ رہے ہیں اور زبردستی فیصلہ کر رہے ہیں۔ مسیح ہونے کی جو دلیلیں آپ نے بیان کی تھیں۔ وہ تو سب غلط نکلیں۔ آپ نے جن نشانات کو اپنی سچائی کا معیار بتایا تھا وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی روش باواز بلند کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہدایت و ارشاد سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ آپ کی تقریر آپ کی تحریریں منہاج ہدایت و نبوت سے بالکل علیحدہ ہیں۔ بے انتہاء تعلیٰ اور نفسانیت سے آپ کے رسالے اور اشتہارات بھرے ہیں۔ مرزا قادیانی کے محض غلط دعوے ایسے زور کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی ناواقف مسلمان اس کے غلط ہونے کا وہم و خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ بے ساختہ اس کے دل میں یہ سما جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محض غلط دعویٰ اس زور کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی دعوؤں نے بہت مسلمانوں کے ایمان تباہ کئے اور پھر وہ خیر خواہ ہونے کے تحریر کو مخالفانہ تحریر خیال کر کے اسے لائق توجہ نہ سمجھے۔ افسوس صد افسوس!

جنہیں اس کی تصدیق منظور ہو وہ افادۃ الافہام، الذکر الحکیم، عصائے موسیٰ، فیصلہ آسمانی، شہادت آسمانی وغیرہ انصاف سے دیکھیں۔

## انبیاء کی توہین

۳..... مرزا قادیانی (ازالہ اوہام ص ۶۷، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰) میں کہتے ہیں۔

ایک منم کہ حسب بشارات آدم

عیسیٰ کجا است تاہند پامحرم

میں ہوں کہ بشارتوں کے بموجب آیا ہوں۔ عیسیٰ کا کیا رتبہ جو میرے منبر پر قدم رکھے۔ یہ تعلیٰ اور نبی اولوالعزم کی تحقیر ملاحظہ ہو۔ سید المرسلین، خاتم النبیین نے کسی نبی کی ایسی تحقیر نہیں کی۔ بلکہ متعدد حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے کہ مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت مت دو مصلحین اور انبیاء کی یہ شان ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ بھی شعر ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۸ ص ۲۳۰)

اس قسم کے اقوال حضرت مسیح کی توہین میں مرزا قادیانی کے بہت ہیں۔ چنانچہ چند اقوال وغیرہ سے انتخاب کر کے پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی خدا کے برگزیدہ رسولوں کی کیسی بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کے مریدین اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (انجام آہتم ص ۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹) میں حضرت یسوع مسیح کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔“ پھر لکھتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ: ”آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“

یہاں دو صفتیں حضرت یسوع مسیح کی مرزا قادیانی نے بتائیں۔ ایک یہ کہ گالیاں دینے اور بدزبانی کرنے کی انہیں عادت تھی۔ دوسرے یہ کہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ یہ نہیں کہ اتفاقاً کبھی جھوٹ بولا ہو یا بدزبانی کی ہو۔ بلکہ بدزبانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اب چونکہ مرزا قادیانی کا اول دعویٰ مثل مسیح ہونے کا تھا اور مسیح کی یہ عادتیں بیان کرتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے مرزا قادیانی ان صفتوں میں مشاق تھے۔ اپنے مخالفین علماء کو بہت کچھ گالیاں دی ہیں اور بدزبانی کی ہے اور جھوٹ کا بھی اعلیٰ مرتبہ اختیار کیا ہے۔ یعنی قرآن وحدیث اور کتب سابقہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں۔ جن کا نام و نشان بھی ان میں نہیں ہے۔ غرضیکہ اپنے مثل مسیح ہونے کے دعویٰ کو اس بیان سے ثابت کرتے ہیں۔ شاید یہ بھی غرض ہو کہ کوئی راست باز مرزا قادیانی میں اس صفت کو دیکھ کر اعتراض نہ کرے۔ کیونکہ ایسے نبی میں یہ صفت موجود ہے۔ جنہیں مسلمان اور عیسائی دونوں خدا کا سچا رسول مانتے ہیں۔ اے راست بازو کیا برگزیدہ خدا، اور بالخصوص اس کے سچے رسولوں کی شان ہو سکتی ہے؟ اور جس میں یہ صفت ہو وہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے؟ خوف خدا کو دل میں لا کر اس میں غور کرو۔ (ضمیمہ انجام آہتم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰) میں کچھ اور بھی فرماتے ہیں۔ ”آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے۔“ اس سے کئی باتیں ثابت ہوئیں۔

..... یہ ظاہر ہوا کہ جن بزرگ کے صفات مرزا قادیانی بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی طرف انجیل منسوب ہے اور یہ دنیا جانتی ہے کہ انجیل وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ انجیل میں ان کا نام یسوع بھی ہے۔ کوئی دوسرے شخص نہیں ہیں۔

..... انجیل میں جو عمدہ تعلیم ہے وہ الہامی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ چرائے ہوئے مضامین ہیں اور قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ: ”واتیناہ الانجیل“ یہ غلط ہے۔



۳..... حضرت مسیح نے فریب دیا۔ یعنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے دوسری کتاب کی تعلیم کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اس پر خوب نظر رکھنا چاہئے کہ مرزا قادیانی نے یہاں تک حضرت مسیح پر تین الزام دیئے۔

اول..... گالیاں دینے اور بدزبانی کی عادت تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ اتفاقاً کسی وقت گالی زبان سے نکلی ہو اور بدزبانی کی ہو۔ بلکہ بدزبانی کی عادت تھی۔

دوم..... جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔

سوم..... لوگوں کو فریب دیتے تھے۔

اس کے بعد (ضمیمہ انجام آٹھم ص ۶۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) میں لکھتے ہیں۔ ”حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو کوچھا کیا ہو۔ اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں سوا کرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور ہائیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا منجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔“

برادران اسلام! اگر ایمان کا شائبہ ہے تو دیکھو کہ ایک نبی اولوالعزم کی کیسی حقارت اور فضیلتی مرزا قادیانی کر رہے ہیں۔ یہ وہی یسوع مسیح ہیں۔ جن کے شان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین“ یعنی حضرت مسیح کی شان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب عزت اور ذی وجاہت بنایا ہے اور اپنے مقرب اور پیارے بندوں میں انہیں شمار کیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی انہیں اس قدر فضیحت کرتے ہیں کہ پرہیزگار انسان بھی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر تلے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر تلے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

آخری جملہ نے مرزا قادیانی کیسے الزام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور الکلانیہ ابلیغ من البصریح سے کام لے رہے ہیں۔ افسوس ہمارے بھائی غیرت کی نظر سے دیکھیں کہ جس نبی مرسل پر ہم اور آپ ایمان لائے ہیں۔ جن کے انکار سے خدا اور رسول کے ارشاد کے بموجب

مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ انہیں مرزا قادیانی بازاری، عیاش، زنا کار یا اس کے مثل بتا رہے ہیں۔ غضب ہے۔ استغفر اللہ جس شخص کے دل میں ایک رسول برحق عالی مرتبہ کی عظمت و شان ذرا بھی نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا یقین کریں کہ دوسرے انبیاء کی عظمت ان کے قلب میں ایسی ہے جیسی ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہئے۔ اس سخت کلامی اور توہین رسول کے جواب میں پہلے یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا ہے وہ یسوع کو کہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا۔ مگر ص ۶ کے قول سے ہم یقین دلاتے ہیں کہ یسوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص ہیں۔ اب خود مرزا قادیانی کے کلام سے اس کی صراحت ملاحظہ کر لیجئے۔

(توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲) میں لکھتے ہیں۔ ”دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“ لیجئے اب تو نہایت صراحت سے مرزا قادیانی نے کہہ دیا کہ یسوع اور مسیح اور عیسیٰ تینوں ایک ہی انسان کے نام ہیں۔ اب تو اقرار کیجئے کہ مرزا قادیانی نے ایک نہایت ذی شان رسول کی سخت توہین کی۔ مگر حضرات مرزائی صاحبان سچی بات کا اقرار نہیں کرتے۔ بلکہ حق کو دبا کر دوسرے پہلو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پادری نے جناب رسول ﷺ کی شان میں بدزبانی کی تھی۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے الزام لکھا ہے۔ مگر یہ سخت جاہلانہ اور ابلہ فریب جواب ہے۔ کیونکہ پادری تو دولت ایمانی سے محروم منکر رسالت سرور انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس لئے اس نے اپنا منہ کالا کیا اس کے جواب میں کسی ایماندار کا یہ تقاضا کب ہو سکتا ہے کہ جس رسول برحق پر وہ ایمان لایا ہے۔ جسے برگزیدہ خدا یقین کر رہا ہے اسے ایسی بے حرمتی سے یاد کرے کہ کوئی بھلا آدمی کسی شہدے کو ایسے کلمات کہنا پسند نہیں کرتا اور نہ شریعت اسے جائز بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پہلا جواب محض غلط تھا۔ اسی طرح یہ جواب بھی غلط ہے۔ یعنی جس طرح پہلے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سخت کلامی یسوع کے ساتھ کی گئی ہے۔ حضرت مسیح کے ساتھ نہیں۔ جس طرح یہ جواب غلط تھا اور ناواقفوں کو دھوکہ دینا منظور تھا۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ کلمات الزام پادری کے جواب میں کہے گئے ہیں۔ واقعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین منظور نہیں ہے۔ کیونکہ دافع البلاء میں مختصر اسی قسم کے الزام دیئے ہیں۔ رسالہ کے آخری صفحہ کا حاشیہ دیکھ لیا جائے۔

ایسے تحریروں کے بعد ان حضامین پر کیونکہ سچائی کا گمان ہو سکتا ہے۔ جہاں تمام انبیاء کی یا خاص حضرت مسیح کی تعریف کی ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی پیچیدہ تحریریں اسی خیال پر مجبور کرتے ہیں جو (حقیقت اس شخص ۳۵ تا ۳۹) میں لکھا گیا ہے۔ اسے غور سے ملاحظہ کر کے انصاف کیا جائے۔

۴..... ”بنی اسرائیل کے چار سونبی نے ایک بادشاہ کے فتح کی خبر دی اور وہ غلط نکلے۔ یعنی انبیاء کی باتیں بعض غلط بھی ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی نبی کی بات پر سچائی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ چونکہ مرزا قادیانی کی اپنی بہت پیشین گوئیاں غلط ہوئیں۔ اس کے جواب کے لئے یہ پیش بندی ہے۔

جناب رسول اللہ ﷺ کی تو ہیں

۵..... مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا  
منم محمد واحد کہ مجتبیٰ باشد

(درخمن فارسی ص ۱۳۸)

یعنی میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد مجتبیٰ ہوں، تمام انبیاءوں کا مرتبہ مجھے ملا ہے۔ یہ صراحتاً برابری کا دعویٰ ہے اور ظاہر ہے غلام اگر مولیٰ کی برابری کا دعویٰ کرے تو مولیٰ کی سخت توہین ہے۔ بعض کو یہ بھی کہتے سنا کہ مرزا قادیانی فنا فی الرسول تھے۔ اس لئے ایسا کہتے تھے۔ جس طرح منصور نے انا الحق کہا ہے۔ مگر ان حضرات کو حالات صوفیائے کرام سے واقفیت نہیں ہے۔ فنا فی الرسول کا لفظ سنا ہے اور مرزا قادیانی کے معتقد ہو گئے۔ اس لئے تاویل کرنے لگے میں ان سے یہ دریافت کرتا ہوں کہ تنے اولیاء کہا گزرے ہیں۔ فنا فی الرسول تو سب ہوتے ہیں۔ کسی نے بھی ایسا کہا ہے۔ انا الحق تو حالت سکر میں کہا ہے۔ مگر انا محمد کسی نے نہیں کہا۔ یہ عجب راز الہی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے اور دعویٰ کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ جن سے وہ اپنی فوقیت جناب رسول اللہ ﷺ پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فنا فی الرسول کی ایسی حالت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ملاحظہ ہو۔

لہ خسف القمر المنیر وان لی

عسا القمران المشرقان اتنکر

(درخمن عربی ص ۲۳۰)

ترجمہ: اس کے لئے چاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔

اس شعر سے مرزا قادیانی اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور انور کے لئے ایک نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے دو نشان ظاہر ہوئے۔ غرضیکہ اسی قسم کے دعویٰ اور تعلیوں سے مرزا قادیانی کے رسالے اور اشتہارات بھرے ہیں۔ یا ان میں مخالفین پر سب وشم ہے۔ ہدایت

دارشاد کی کوئی بات اتفاقیہ ضمناً آگئی ہے ورنہ نہیں۔ اس وقت کے مناسب تہذیب نفس کا کوئی طریقہ مخلوق کو نہیں بتایا جاتا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک جس مرزائی کو دیکھو جھگڑنے کو آمادہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حیات و ممات پر کچھ باتیں ان کو یاد کرا دی گئی ہیں اور باہم ان ہی کی مشق کیا کرتے ہیں۔ تہذیب نفس اور طلب حق سے کچھ بحث نہیں جو کتابیں ان کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہیں۔ انہیں مطلقاً نہیں دیکھتے جو حالت فرقہ باطنیہ کی کتابوں میں لکھی ہے اور حسن بن صباح اور اس کے مریدین کا جو حال لکھا ہے۔ اسی طرح حال مرزا اور اس کے مریدین کا ہے۔ اس نے فردوس بریں بنایا تھا۔ مرزا قادیانی نے بہشتی مقبرہ تعمیر کرایا۔ ناظرین مطہر دنگداز لکھنؤ سے حسن بن صباح کا حال منگا کر دیکھیں۔

۶..... (ازالہ اوہام حصہ دوم، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳) میں مرزا قادیانی آنحضرت ﷺ کے لئے عیسیٰ ابن مریم اور دجال اور یاجوج ماجوج اور دابۃ الارض کی حقیقت کے منکشف نہ ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی پر تو ان کی حقیقت منکشف ہوئی۔ لیکن ان کا علم اور کشف سید المرسلین ﷺ کے علم سے بڑھ گیا۔ (معاذ اللہ) اس قول میں مرزا قادیانی کی تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی توہین کو اہل اسلام ملاحظہ کریں۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے نمونہ کے موبہ و منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہے اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کا حقدہ ظاہر فرمادی گئی اور صرف اس قریہ اور صورت مشابہہ اور امور متشاکلہ طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قوت کے ممکن پر اجمالی طور پر سمجھایا گیا جو تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔“

حضرات ناظرین! خیال رکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی انہوں نے کامل مدح نہیں کی یا اپنے آپ کو حضور کا غلام نہیں کہا۔ مگر اپنی تعلیٰ میں یہ کلمات بھی ان کے ہیں۔ اب ایسے سخت اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ میرے خیال میں اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ غالب وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں خودی اور علو اس قدر سا گیا ہے۔ جس کی انتہاء نہیں وہ نبوت سے گذر کر مرتبہ خدائی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ کسی مقام پر دبی زبان سے اپنا علویان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعریف زور و شوہار سے اس لئے ہے کہ جس قدر لوگ ان پر ایمان لائے ہیں۔ وہ سب امت محمدی ہیں۔ کوئی عیسائی یا آریہ یا ہندوان پر ایمان نہیں لایا اور آئندہ بھی مسلمانوں ہی کے ایمان لانے کی امید ہوگی۔ اب اگر حضور ﷺ کی مدح نہ ہوتی تو کون ان کے دام میں آتا۔

اہل بیت اطہار و اولیاء کرام اور علماء عظام کی تحقیر

..... تمام اولیاء امت اور علماء ورہتہ الانبیاء کی نسبت (اعجاز احمدی ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱) میں مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

تکدر ماء السابقین وعیننا

السی آخر الایام لا تکدر

پہلے جتنے گذر گئے ان کا پانی میلا اور مکدر ہو گیا اور ہمارا پانی آخر زمانہ تک مکدر نہیں ہوگا۔ جس عربی شعر کا یہ ترجمہ ہے وہ ایسا عام ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء کو شامل ہے۔ یعنی ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گذرے ان کا پانی مکدر ہو گیا۔ ان کی شریعت میلی ہو گئی۔ عمل کرنے کے لائق نہ رہی۔ مرزا قادیانی جو شریعت بیان کریں وہ صاف ہے اور قیامت تک صاف رہے گی اور اولیاء کرام جن میں تمام صحابہ کبار اور آل اطہار داخل ہیں۔ سب ہی کی عظمت و شان مرزا کے مقابلے میں جاتی رہی۔ مرزا قادیانی کی عظمت قیامت تک نہیں جائے گی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ان تعلیموں کی کچھ انتہاء ہے۔ اس کے بعد خاص مہام حسین کی نسبت مرزا قادیانی کے کلمات گستاخانہ اور بے ادبانہ (جس کے اعادہ کرنے سے قلم لرزتا ہے) اگرچہ نقل کفر کفر نباشد اس کے عربی اشعار ملاحظہ ہوں۔

وقالوا علی الحسنین فضل نفسه

اقول نعم واللہ ربی سیظہر

مطلب یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو امام حسن اور حسین پر فضیلت دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں خدا کی قسم میرا خدا عنقریب ظاہر کر دے گا۔

واللہ لیس فیہ منی زیادة

وعندی شہادات من اللہ فانظروا

خدا کی قسم حسین میں کوئی بزرگی مجھ سے زیادہ نہیں۔ بلکہ میرے پاس خدا کی شہادتیں ہیں جو حسین کے پاس نہیں۔

اتحسبہ اتقی الرجال وخیرہم

فماذکم من خیرہ یا معذر

اس شعر میں غور کرو کیا تو تمام دنیا سے اسے زیادہ پرہیزگار سمجھتا ہے۔ یعنی تیرا سمجھنا غلط ہے اسے مبالغہ کرنے والے بھلائیہ تو بتانا کہ تجھے دینی فائدہ اس سے یعنی حسین سے کیا پہنچا ہے۔

یعنی مسلمانوں کے لئے حضرت امام حسینؑ کا وجود بیکار تھا۔ مرزا قادیانی سے دینی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لئے وہ افضل ہیں۔ (نعوذ باللہ) مرزا قادیانی کے نزدیک فائدہ جب پہنچتا کہ حضرت امام کمالات ولایت سے گذر کر نبوت کا دعویٰ کرتے اور بذریعہ اشتہارات و رسائل اپنے نانا کی امت سے منواتے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے کیا اس وقت دینی فائدہ ان سے پہنچتا۔ قرب الہی اور فیضان ولایت جو ہزاروں اور لاکھوں امت محمدیہ کو آپ کی ذات بابرکات سے پہنچا اور مسلمانوں کے دل صاف ہو کر آئینہ خدا نما ہو گئے اور سچی تہذیب سے مہذب ہو کر سچائی اور حقانیت کی صورت بن گئے۔ یہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس فائدے سے آشنائی نہیں اور سنئے مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

شتان مابینى و بین حسینکم

فانى اويد کل آن وانصر

مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر وقت مدد اور تائید مل رہی ہے۔

واما حسین فانذکروا دشت کربلا

الہی هذا الایام تبکون فانظروا

اور حسین کے دشت کربلا کو یاد کرو۔ (کہ وہاں کس قدر مصیبت اسے پہنچی) جسے تم خیال کر کے اب تک روتے ہو۔ اس میں غور کرو۔ ناظرین پہلے تو اس میں غور کریں کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے۔ اس کلام سے معلوم ہوا کہ قرۃ العینین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسینؑ ہمارے ہیں۔ (الحمد للہ) اور مرزا قادیانی کے نہیں ہیں۔ یہاں سے ہمارے ان کے جو فرق ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ جو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فانی الرسول ہیں۔ ان کی زبان سے ان کے قلم سے جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسے کلمات گستاخانہ نہیں نکل سکتے۔ نہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور ان کے قرۃ العینین کو اپنا نہ سمجھے۔ بلکہ یوں کہے کہ تمہارے حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی کون اور کیسے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کلام کا جواب سنئے۔ اگر ایسی ہی مدد ملنا افضلیت کا باعث ہو سکتا ہے تو اس وقت کے منکرین اسلام اور دھریئے وغیرہ تمام مسلمانوں پر اور خصوصاً مرزا قادیانی پر اپنی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھئے کس عیش و عشرت اور حکومت میں زندگی ان کی بسر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات میسر نہیں خصوصاً مرزا قادیانی اور ان کے مریدین کو اور زیادہ مناسبت تو مرزا قادیانی کے حال سے فرعون کو ہے۔ دیکھئے اس قسم کی مدد کئی سو برس تک اسے ملتی رہی ہے۔ بلکہ اس سے بہت زیادہ کیونکہ اس نے بادشاہی کی اور خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور ماننے والوں نے اسے مان بھی لیا اور بہتوں نے مانا۔

مرزا قادیانی کے پاس صرف قلیل جائیداد تھی اور مریدوں کے طفیل سے تو رسمہ پلاؤ کھانے کو غنیمت و مشک و زعفران استعمال کو مل جاتا تھا۔ پھر اس میں اور بادشاہت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے ماننے والوں نے تو مرزا کو امام اور نبی ہی مانا۔ فرعون کے ماننے والوں نے اسے خدا مان لیا۔ پھر خدائی اور نبوت میں تو بہت ہی عظیم الشان فرق ہے۔ اس لئے فرعون کو مرزا قادیانی پر بہت زیادہ فضیلت ہوئی۔ البتہ مرزا قادیانی نے اپنے کو خدا منوانے کی تمہید شروع کر دی تھی۔

چنانچہ (کتاب البریہ ص ۸۵ خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳) میں لکھتے ہیں کہ: ”میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور (اہم مورخہ ۳۲ فروری ۱۹۰۵ء) میں ان کا الہام ہے۔ ”انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون“ یہ صفت خاص خدائے تعالیٰ کی ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے۔ اس کا وجود فقط اس کے حکم سے ہو جائے۔ اس الہام سے معلوم ہوا کہ یہ صفت مرزا قادیانی میں ہے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عنایت کر دی ہو۔ غرضیکہ خدائی کشف بھی انہیں ہو چکا اور الہام بھی ہوا اور پہلے سے کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کے معنی اور صحت کا مدار میرے کشف والہام پر ہے۔ پھر خدائی کا ثبوت کیا دشوار ہے۔ مگر دیر آید درست آید کا مضمون پیش نظر رہا اور مریدین کے استقامت کا امتحان بھی درپوش ہوگا۔ اس لئے خدائی کا صریح دعویٰ ملتوی رہا۔ اگر کچھ دنوں عمر اور وفا کرتی تو یہ مرحلہ بھی طے ہو جاتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی نے بتدریج اپنے مراتب کو منایا۔ صرف ایک درجہ خدائی کا رہ گیا تھا کہ خود ہی خاک میں مل گئے۔ مریدوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی قبول کر لیتے اور قرآن مجید و حدیث شریف سے اسے ثابت کرنے کو موجود ہو جاتے۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ اب اور سنئے۔ مرزا قادیانی اپنے عیش و عشرت اور امن و عافیت سے رہنے کو خدا کی تائید اور مدد بتا کر حضرت امام حسینؑ کی مصیبت کو دکھا کر فخر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب میں کیا دوں واقف کار انبیاء اور اولیاء کی مصیبتوں اور ان کے دشمنوں کی کامرانیوں سے واقف ہیں اور اب بھی منکرین اور مسلمین کی حالت معائنہ کر رہے ہیں۔ غضب ہے کہ ان امور سے چشم پوشی کر کے قرۃ العینین رسول الشقلین کی مذمت ہو رہی ہے اور اسلام کا دعویٰ ہے اور ان کے ماننے والے آنکھ بند کر کے انہیں فغانی الرسول اور رسول مان رہے ہیں۔ (استغفر اللہ بعود باللہ) حضرات! اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو ایمان ندارد، امت محمدیہ یقین کہہ لیں کہ معرکہ دشت کربلا عشق و محبت کا ایک تماشا تھا اور حضرت قرۃ العینین رسول الشقلین کو سید اشہداء کا مرتبہ دینا تھا۔ ایسے موقع پر عشاق کے زبان حال پر یہ شعر جاری ہوتا ہے۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک بیعت  
سردوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

قتیل الحب یہی حضرات ہیں جن کی محبت کا امتحان عالم کے رو برو ہو گیا اور سارے زمین و آسمان نے اس کی شہادت دے دی اور قورمہ پلاؤ کھا کر اور مٹک وزعفران کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کو قتیل الحب کہنا محض جھوٹا دعویٰ کرنا اور نادانوں کو دھوکا دینا ہے۔ مسلمانو! حضرت امام ممدوح کی نسبت جو گستاخی اور تحقیر کی گئی اس کا بہت بڑا اثر حضرت رسول کریم ﷺ اور مذہب مقدس اسلام پر پڑتا ہے۔ اس لئے کہ مخالفین اسلام جب مرزا قادیانی کے ان اقوال کو دیکھتے ہوں گے تو ضرور کہتے ہوں گے کہ تمام دنیا کے مسلمان جنہیں دینی امام بڑے زور و شور سے مان رہے ہیں۔ ان سے افضل اور بہتر مرزا غلام احمد ہیں۔ لاکھوں مسلمان اسے مان چکے ہیں اور مرزا قادیانی کیسے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے۔ اس کا پتہ ان کے خاص مرید ڈاکٹر عبدالکلیم خان اسٹنٹ سرجن اور ان کے مخصوص رفیق ممدوح منشی الہی بخش صاحب کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے۔ جسے خواص و عوام دیکھ ہے ہیں اور ہر طرف سے مرزا قادیانی پر نہایت نفرت سے نظر پڑ رہی ہے۔ اسی پر امام صاحب کے حال کو قیاس کرنا چاہئے۔ یہ خیال کر کے مخالفین کو اس کہنے کا موقع ضرور ہے کہ جب مسلمانوں نے ایسی ناپاک حالت والے شخص کو نبی مان لیا اور حسینؑ کو دینی امام مان لیا جو مرزا قادیانی سے بھی کم مرتبہ ہیں تو ان کے مذہب کی حالت معلوم ہوئی۔

اس وقت میں اسی مختصر تقریر پر اکتفا کرتا ہوں اور حق کے طالبوں سے یہ منت کہتا ہوں کہ غور سے ملاحظہ کریں اور کتابوں میں مرزا قادیانی کے عقائد تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ انہیں ضرور ملاحظہ کیجئے۔ آخر میں مجھے اس کی اطلاع دینی بھی ضرور ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال میں بہت اختلاف ہے۔ مثلاً کہیں نبوت کا دعویٰ سے انکار اور کسی مقام پر بڑے زور و شور سے دعویٰ ہو رہا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ حضرات امین کی تعریف میں کوئی اشتہار چھپوا رکھا ہے۔ جہاں اس کی ضرورت دیکھتے ہیں۔ اسے پیش کر دیتے ہیں۔ یا چونکہ یہ زمانہ پولیٹیکل چالوں کا ہے۔ اس کا برتاؤ مرزا قادیانی اور ان کے پیرو جملب منفعت کے لئے کرتے ہیں۔ تاکہ سادہ لوحوں کو ہر پہلو سے گمراہ کر سکیں۔ واللہ اعلم! اس وقت مسلمانوں کو عموماً اور اہل علم کو خصوصاً نہایت ضرور ہے کہ جن کتابوں کا حوالہ اس تحریر میں دیا گیا اور جن کے نام رسالہ اظہار حق کے آخر میں لکھے گئے ہیں۔ انہیں ضرور دیکھیں اور جب کسی بات میں شک ہو تو کسی ایسے ذی علم سے دریافت کریں جو مرزا قادیانی اور ان کی تصانیف سے واقف جیسے مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری اور مولانا سید محمد ناظم دارالاشاعت رحمانی سے دریافت کریں اور کسی مرتد کے بہکانے میں نہ آئیں۔ واللہ الموفق والمعين!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلَدُ التَّحْقِيقِ فِي سِيَرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَرْجُمَانُ السُّنَنِ

# تاریخی

(جناب حاجی سید عبدالرحمن مونگیری)

وما توفیقی الا باللہ!

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

”حامداً ومصلياً على رسولہ الکریم . والہ وصحبہ اجمعین“

مجھے ہمیشہ اس امر کی کوشش رہتی ہے کہ تحریروں میں تہذیب قائم رہے۔ مخالفین کا جواب نرم لفظوں میں دیا جائے۔ بازاری لہجہ سے بچتا رہوں۔ مگر جب اخبار بدر مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۱۲ء کو دیکھتا ہوں تو خواہ مخواہ من حیث بشریت طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور ترکی بہ ترکی جواب دینا نامناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آہن بہ آہن تو ان کو درزم۔ مشہور مقولہ ہے جب دارالغد رقادیان کے اخبار کا ایسا گندہ مضمون نکلتا ہے اور زبان قلم کو اپنے اندرونی نجس الفاظ سے ناپاک کرتے ہیں۔ باوجودیکہ خلیفہ صاحب وہیں موجود ہیں اور مضمون ان کی منظوری سے درج اخبار ہوتا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ اس گندگی پر ذرا بھی ان کو اعتنا نہ ہوئی۔ نو پھر دوسرے مرزائیوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ لہذا جماعت احمدیہ مجھے ترکی بہ ترکی جواب دینے میں معذور سمجھے۔ اے باد صبا ایس ہمہ آدرہ تست جب سے رسالہ فیصلہ آسمانی شائع ہوا ہے۔ قادیانیوں میں پھیل چکی ہوئی ہے۔ ہر طرف دیکھتے پھرتے ہیں۔ جواب دینے کے نام سے ان کے دلوں میں لرزہ آتا ہے۔ موگیہ اور بھاگلپور کی مرزائی مشنری کا شیرازہ ٹوٹا جاتا ہے۔ جدھر دیکھتے ہر طرف سے ان پر نفرس کی بوچھاڑ پڑ رہی ہے۔ نیا لکھنؤ دام میں نہیں آتا۔ چندیں شکل برائے اکل کا قافیہ تک ہونے لگا۔ فریاد و زاری کی صدائیں قادیان تک پہنچنے لگیں۔ مرزائی مشین ڈھیلی پڑ گئی۔ تمام صوبہ بہار میں اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں فیصلہ آسمانی کا چرچا ہے۔ مرزا قادیانی کی منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی پر ۱۰ برس کے بچے سے لے کر ۸۰ برس کا بڑھا بھی مضحکہ اڑا رہا ہے۔ مگر مخالفین کی غیرت خدا جانے کس جزیرہ میں روپوش ہو گئی کہ ان کو ذرا شرم نہیں آتی اور بڑی ڈھٹائی سے کبھی ایک مدرس صاحب کسی اخبار میں بے سردتال کی الاپ اپنے بھائیوں کی حمایت میں لاپتے ہیں۔ کسی میں مفتی صاحب ڈفالیوں کی طرح پرہانہ لے کر بے سراتان لگاتے ہیں۔ مگر اس سے ہوتا کیا ہے۔ فیصلہ آسمانی کا جواب دیں اور اشتہار کے مطابق ہزار روپیہ کی تھیلی مفت راجہ بایدگفت حاضر ہے۔ ابی آپ تو کیا اگر مرزا قادیانی آنجنمانی بھی زندہ رہے تو فیصلہ آسمانی کا جواب ہرگز نہ دے سکتے۔ بات بنانا دوسری بات ہے اور جواب باصواب دینا اور شے ہے۔ لازم تو یہ تھا کہ خود جناب خلیفہ

اس صاحب اپنے رسول کی گردن سے اس منکوحہ آسانی کی پیشین گوئی کے جھوٹ ہونے کا الزام اتارتے۔ مگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ پبلک کی نظر میں اس بدیہی واقعہ کا بطلان مشکل نہیں بلکہ محال ہے۔ دروغ رافروغ نباشد مقولہ مشہور ہے۔

چند ہفتے ہوئے کہ نام نہاد مولوی اسماعیل صاحب مدرس مدرسہ قادیان نے ایک مضمون اخبار بدر میں لکھا تھا جس کی سرخی نکاح والی پیشین گوئی تھی۔ اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ دوسرا پرچہ بدروز ۱۹ ستمبر ۱۹۱۲ء میری نظر سے گذرا۔ جس میں کرشن قادیانی کی جوتیوں کی خاک مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر بدر نے فیصلہ آسانی کے عنوان سے ایک مضمون لکھ کر اپنی بے بصری اور مرزا قادیانی کے لائق مرید ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بازار یوں کا انداز۔ بدتہذیبوں کا شعار اختیار کیا ہے۔ اس پر جھوٹا دعویٰ یہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا طریق عمل یہ ہے کہ جو گالی دے اس کو ہم دعاء دیتے ہیں۔ اس قدر موٹا جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ جس گروہ کے مفتی کا یہ حال ہو اس گروہ کے مقبرہ پر تبسم کے چند پھول میں بھی چڑھا دیتا ہوں کہ ان کی ارواح خوش ہو جائیں۔ سچ ہے۔

گر یہ میردسگ دزیروموش دربانی کند

انتہیں ارکان مذہب باعث خواری بود

ایڈیٹر صاحب کو غالباً خبیث مادہ کا تخمہ ہو گیا ہوگا اور ان کے معالج الحکیم نے یہی تدبیر بتائی کہ اس خبیث مادہ کو استفرغ کر کے نکال دو۔ تدبیر دو واقعی مناسب تھی۔ مگر مادہ ایسا خبیث تھا کہ ان کے منہ سے نکلا تو سہمی مگر اس کی گندگی سے لوگ پریشان ہو گئے۔ البتہ ایڈیٹر صاحب اور ان کے تیار داران کو اب کچھ سکون ہو گیا ہوگا۔ کیونکہ مریض نے جان توڑ کر اندرونی فاسد زہر یریلہ مادہ اگل دیا۔ یہ سب کچھ سہمی، بھونکو، کائو، برالچہ اختیار کرو، کوسو، اپنی جھوٹائی پر ڈھٹائی کرو۔ اس سے اب کچھ نہیں بنتا۔ پبلک کو انتظار ہے کہ منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی کو سچ کر دکھاؤ۔ یا بقول خود مرزا قادیانی کے ”ان کو جھوٹا مانو“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۱، خزائن ج ۱۱ ص ۲۱) اور ”ہر بد سے بدتر ٹھہراؤ۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶۰، ۶۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۸) فیصلہ آسانی کا جواب خود حکیم صاحب خلیفہ اسح بن کر علی حیثیت سے کیوں نہیں دیتے یہ تو انہی کا منصب ہے۔ نہ کہ بازاری کتوں کا۔ یہ تو فقط اسی کام لکے ہیں کہ دور ویشاں سامنے پھینک دیں دم ہلا کر لگے کھانے اور بھونکنے۔

اب جناب خلیفہ اسح صاحب کے سکوت پر یقین ہوتا جاتا ہے اور پبلک پر اظہر من

التمس ہورہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی فیصلہ آسانی کے دلائل قاطع ہیں۔ اس کا جواب وہ ہرگز نہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ذی علم مناظر ہیں۔ دلائل قاطعہ کے جواب میں زل قافیہ اڑانا ان کی شان سے دور ہے۔ لہذا کبھی کبھی احمد کی پگڑی محمود کے سر پر رکھ دیا کرتے ہیں اور اپنے گروہ کو خوش کر لیا کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی احقاق حق کے خلاف ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ سچ کوچ مان لیجئے اور دنیاوی شرم و لحاظ کو لات مار دیجئے۔ شرم تو خدا سے چاہے جو ”مالک یوم الدین“ ہے جس کے سامنے ایک روز جو بدیہی کے لئے کھڑا ہونا ضرور ہے اور وہاں یہ دکھلایا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ اور عیسیٰ بن مریم (علیہما الصلوٰۃ والسلام) یہ ہیں نہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس وقت کیا جواب دیجئے گا۔ اس کو بھی آپ از روئے علم خوب جانتے ہیں کہ وہاں نہ تو جھوٹی شہادتیں کام آویں گی نہ بات بنانے کی کسی کو جرات ہوگی۔ اب حکیم صاحب خود تجلیہ میں اس ناچیز کی تقریر کو غور سے سوچ کر اپنا فیصلہ آپ کر لیں۔ زیادہ حد ادب ”وما علینا الا البلاغ المبین“ اڈیٹر صاحب البدر نے جو زہرا لگا ہے۔ انہیں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آگے چل کر پبلک کو واضح طور پر دکھایا جائے گا کہ ایڈیٹر صاحب نے کس قدر موٹا جھوٹ اپنے کالموں میں بھرا ہے اور مناظرہ کا کیا بازاری لہجہ رکھا ہے۔ ہاں پبلک مجھے اس جواب کے طرز تحریر بدلنے اور کچھ سختی سے کام لینے میں معذور سمجھے گی۔ کیونکہ ان کی بدزبانی کا جواب ہے۔ ورنہ فیصلہ آسانی آئینہ قادیانی وغیرہ موجود ہے۔ اس کو دیکھ لیا جائے کہ کس شانگسی سے اس کا انداز رہا ہے۔

ایڈیٹر صاحب یوں دیکھتے ہیں۔ آسانی باتوں کی مثالیں بہت کچھ دنیوی حالات میں ملتی ہیں۔ جب کوئی سرکاری سپاہی کسی گاؤں میں جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ کسی ظالم اور بدکار کے لئے باعث خوف اور کسی مظلوم اور نیکو کاروں کے واسطے خوشی کا موجب ہو۔ بدکار اس سے بھاگتے ہیں۔ گالیاں سناتے ہیں اور بدکاروں کے مظہر گاؤں کے کتے سب سے اول اس پر بھونکتا شروع کرتے ہیں۔ بلکہ عوام کو اس کے آنے کی خیر بھی اسی سے لگتی ہے۔ یہی حال روحانی نامورین کے آنے کے وقت ہوتا ہے۔ ہر ایک متکبر جفا کار اس کے مقابلہ کے لئے اٹھتا ہے اور اپنے گھمنڈ میں جوش مارتا ہے کہ اسے کچل ڈالے۔ مگر پرہیزگارانہ شیطان کی طرح آخر اس کا اپنا ہی سر پکلا جاتا ہے۔ ایسا ہی تمام انبیاء کے وقت ہوتا آیا ہے اور یہی واقعہ حضرت مسیح کے وقت میں بھی ہوا۔ سب سے پہلے تو پنجاب کے ہی پھلاء اٹھے۔ کسی نے یہاں سر رکھ لالا اور کچل گیا۔ کوئی وہاں اٹھا اور مارا گیا۔ کوئی

چند روز ابال کھا کر سوڈا واٹر کی جھاگ کی طرح ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا۔ سب نے باری باری اپنا حصہ پورا کیا۔ آج کل یہ جوش بہار کے علاقہ میں ابال کھا رہا ہے۔ وہاں کسی مولوی نے جو یہ سب بزدلی اور نامردی کے اپنا نام ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے ایک رسالہ چھاپا ہے۔ جس کا نام فیصلہ آسمانی رکھا ہے۔ یہ تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ایک رسالہ ہمارے پاس لے بھیج دیتا۔

مفتی صاحب آپ کی حالت پر افسوس ہے۔ اتنے دنوں سے تو ایڈیٹری کرتے ہو۔ مگر ابھی تک اخباری تہذیب کا بھی ڈھنگ نہ آیا۔ لاہور جاؤ چند دنوں پیسہ اخبار، وکیل، وطن، زمیندار، یا المشیر مراد آبادی کے یہاں رہ کر سبق لو پھر ایڈیٹری کرو۔ بات یہ ہے کہ لقمہ چرب نے عقل سلیم کو زائل کر دیا۔

لقمہ چرب شد گلو گیرش  
زانکہ بسیار مال مردم خورد

کیا آپ کے نزدیک جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں کی مخالفت بھی ایسی ہے۔ جیسی سچے انبیاء علیہم السلام کی۔ ذرا ہوش سنبھال کر جواب دیا کرو۔ اگر مرزا قادیانی جیسے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کی مخالفت نہ ہوتی اور علماء حقانین ان کے ناپاک اثر اور خباثت کو زائل کرنے کی کوشش نہ کرتے تو حضرت جی آج دنیا سے اسلام کا فورہ وار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان علمائے صالحین کو جزائے خیر عنایت کرے اور ساتھ ہی ان کے ان باشاہان اسلام کو بھی جزائے خیر دیوے۔ جنہوں نے اسلام کی حمایت کر کے ایسے جھوٹے نبیوں اور کذاب مہدیوں کا نام غلط صفحہ ہستی سے مٹا کر اسلام کو قائم رکھا۔ کیا آپ کے نزدیک کسی جھوٹے مدعی نبوت، ابلہ فریب، مکار، دغا باز، برہم کن اسلام کی مخالفت کرنی، متکبر، جفا کار کا کام ہے تو پھر مسیلمہ کذاب، اسود غنسی، عبید اللہ مہدی، ابن تومرت، محمد احمد سوڈانی، علی محمد بابی، سید محمد جو پوری وغیرہ جو اپنے اپنے دعویٰ نبوت اور مہدویت میں جھوٹے تھے ان کی مخالفت کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے۔ ماشاء اللہ آپ کو قطع نظر ایڈیٹری اخبار کے علم تاریخ میں بھی پوری دستگاہ معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو آخر مفتی ہیں نا۔

کیا ان لوگوں کے نبوت و مہدویت و روحانی پیشوا اور ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں

ہے۔ تمہارے گرد و گھنٹال کرشن قادیانی کے خلیفہ جی کے پاس تم ایک رسالہ مانگتے ہو۔ یہاں سے تم بھیجے لئے تینوں ان سے لے کر دیکھو۔

کیا؟ شاید آپ کے نزدیک تو وہ لوگ بھی مرزا قادیانی کی طرح مامور من اللہ ہوں گے۔ (اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو حضرت خلیفۃ المسیح صاحب سے اپنے دریافت کیجئے) ان کی مخالفت بھی موجب کفر ہوگی۔ نعوذ باللہ! اور کیسے کفر سے بچنے کے لئے مرزا قادیانی آنجہاں پر آپ لوگوں سے پہلے ان مدعیان نبوت ملہم من اللہ کی دعوت اسلام قبول کرنی لازم آتی تھی۔ یہ ہے آپ کی تحریر کا نتیجہ۔ آپ ہی جیسے، ضعیف الایمان، آزاد منش اصول دین سے ناواقف جدت پسند طبیعت والوں نے ان جھوٹوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ مامور من اللہ مانا ہوگا۔ جن کی تعداد دس لاکھ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہاں تک کہ سلطنت کے مالک ہو گئے اور بیچارہ مرزا قادیانی کو تو بوجہ سطوت اور جبروت سلطنت، برطانیہ کے کبھی دل میں یہ خیال بھی نہ گذرا ہوگا۔ آپ کی ایسی لچر منطق پر ہنسی آتی ہے۔ مباحثہ مؤتیر میں بھی آپ کے بھائیوں نے اس قسم کی جہالت کی منطق چھانی تھی۔ ”لقد استہزی برسلس من قبلك“ مرزا قادیانی کے ثبوت نبوت میں پیش کیا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا اور مرزا قادیانی کے ساتھ بھی لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی بھی رسول ہیں۔

شان نبوت کجا وائے کجا میرزا

دردنہش خاک باوبازئی طفلانہ کرد

قربان جاییے مرزائیوں کی منطق پر۔ ایسی سمجھ ہے تب تو مرزائی ہوئے۔ ان کی اس منطق سے ہر پاگل، دیوانہ، مخبوط الحواس (نعوذ باللہ) رسول بننے کا استعداد رکھتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر لوگ کرتے ہیں۔ کیوں مفتی صاحب آپ کے بھائیوں کی اس منطق کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ جس کسی کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کیا جائے وہ رسول ہو جائے گا۔ کیونکہ استہزاء شرط اور نبوت مشروط، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ جہالت کی منطق آپ ہی لوگوں کو مبارک رہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم دے۔ ورنہ دنیا میں بہترے حیوان ناطق ہیں۔ مفتی صاحب! ذرا ایمان سے ہٹلائیے تو کون کون غیر احمدی علماء مقابل کا سر مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کچلا گیا ہے۔ میرے سامنے کل مناظرہ کی روئیداد موجود ہے۔ اس قدر بے سرو پا جھوٹ جس کو ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ مرزا قادیانی کے تمام مناظروں کا کچا چٹھا یہاں موجود ہے۔ آپ کو نہ معلوم ہو تو ”چودھویں صدی کا مسیح“ خوب دیکھ جائیے۔ اس وقت حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی کے اشد مخالفین میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، ڈاکٹر مولوی عبدالحکیم خان صاحب

اسٹنٹ سرجن، شمس العلماء مولوی محمد حسین صاحب بنالہی، سیم مظہر حسین مصنف چودھویں صدی کا مسیح، منشی الہی بخش صاحب عصائے موسیٰ، شمس العلماء، مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلی، مولوی محمد بشیر صاحب بھوپالی، مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی، علامہ پیر مولانا مہر علی صاحب وغیرہ وغیرہ سینکڑوں سربراہ و زردہ علماء اور فہمیدہ بزرگوار تھے اور اب تک ان میں سے موجود بھی ہیں۔ جن کے مقابلہ سے دہلی اور لاہور وغیرہ شہروں سے مرزا قادیانی نے فرار و رزی کی اور اپنی بزدلی اور نامردی کو پبلک پر روز روشن کی طرح دکھا گئے اور خلقت پر مرزا قادیانی کی حقیقت کھل گئی۔ بقول خواجہ آتش لکھنوی۔

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا  
کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا

جن کی زوردار تحریروں نے مرزا قادیانی کی ناک میں دم کر دیا۔ ان کی خیالی نبوت کا قلع و قمع کر دیا۔ ان کی تمام مصنوعی عمارتوں کو ڈھا دیا۔ ان کی جھوٹی پیشین گوئیوں پر پانی پھیر دیا۔ پبلک پر از شرق تا غرب جھوٹا نبی ثابت کر دیا۔ ان کی ابلہ فریبوں کو اظہر من الشمس کر دکھایا۔ ان کے کاغذی گھوڑوں کی ٹانگ توڑ دی۔ اس پر ایسا سنہرا جھوٹ کیوں نہ ہو۔ ایڈیٹری اخبار کا منصب اور اس کا فرض خوب ادا کیا۔ شرم، شرم، ہزار شرم، مفتی صاحب! اب اس جھوٹ سے کام نہیں چلتا۔ پہلے مرزا قادیانی کے کرتوت لوگوں کو معلوم نہ تھے۔ اب دنیا پر بخوبی ظاہر ہو گیا کہ مرزا قادیانی کیسے تھے۔ لیجئے! اب مجھ سے اس کی تفصیل سن لیجئے اور خود مرزا قادیانی کی زبان سے۔

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے

جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے

مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کے حق میں سینکڑوں بدعائیں کیں۔ بیوہ عورتوں کی طرح کوسا، کاٹا، ان کے سامنے اپنی موت کو ذلت کی موٹھ قرار دیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

..... اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸)

جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دکھایا کہ مرزا قادیانی کو مولوی ثناء اللہ کی زندگی ہی میں ہلاک

ہجرت کے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ وہ کذاب تھے۔

۲..... اگر طاعون ۱ یا ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی ہی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔

۳..... اے میرے بھیجنے والے میں تیری ہی تقدیس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں فیصلہ فرما اور جو تیری ۲ نگاہ میں مفسد اور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھالے۔

ایڈیٹر صاحب! خدا لگتی فرمائیے۔ ایک بار تو سچ کہہ دیجئے۔ مرزا قادیانی کی اس عاجزانہ اور بیکسانہ دعاء پر نظر کیجئے کہ باوجود ایسی الحاح و زاری کے اس دربار میں کچھ شنوائی نہ ہوئی اور اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ ہے غیرت خداوندی تعالیٰ اللہ عمایہ صفوں۔

ظلم بر خلق چون زحد بگذشت  
غیرت حق فرود و مرگش برد

مرزا سیو! بتاؤ کس کا سر کچلا گیا اور کون شیروں کی طرح اب تک امر تسر وغیرہ میں ڈکارتا ہے؟ اور کون مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو خاک میں ملا کر فائز المرام ہے۔ مولوی ثناء اللہ یا مرزا قادیانی؟ آخر مرزا قادیانی مرض ہیضہ یا اسہال ہی میں راہی برزخ ہو کر اپنے حق میں سچا فیصلہ کر گئے۔ کہتے جناب مفتی صاحب کس کا سر کچلا گیا۔ ”ان بطش ربك لشديد“ تلاوت فرمائیے اور آپ ہی سچ سچ بتا دیجئے کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی ہی میں بقول دعاء مرزا قادیانی کذاب اور مفتری ثابت ہو کر کون ہلاک کیا گیا؟ مرزا قادیانی یا مولوی ثناء اللہ؟ یہ ہے آسمانی فیصلہ کہ مرزا قادیانی کے سارے افتراء کی تار و پود کو تار عنکبوت کی طرح غیرت خداوندی نے دار لبوار کو پہنچا کر دنیا پر ظاہر کر دیا کہ جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ اس طرح ذلت کی موت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ ”سبحان الله الذي لا يطاق انتقامه احد“ یہ ہے فیصلہ آسمانی۔ کہتے ایڈیٹر

۱۔ بحمد اللہ مع الخیر اب تک دنیا میں موجود ہیں اور مرزا قادیانی کا گوشت پوست بھی باقی نہ ہوگا۔

۲۔ ایسا ہی ہے۔ یہ دعاء مرزا قادیانی کی بطور نمونہ کے تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اپنے بندوں کو مرزا قادیانی کے کذب اور فساد سے محفوظ رکھا اور تین طور سے دکھایا کہ مرزا کذاب ہے اور ثناء اللہ صادق۔



صاحب اب تو دل میں آپ شرمائے ہوں گے۔ یہ تو حشر مرزا قادیانی کا ہوا۔ اب ان کے متبعین کی حالت اندوہناک پر بھی ماتم کے لئے تیار ہو جائے اور دو آنسو گرا لیجئے۔ صاحبزادہ عبداللطیف وغیرہ کا کابل میں کیا حشر ہوا۔ پتھر اور گولیوں سے سنگسار اور بھرمار کون ہوا۔ کس کا بھیجا نکلوا دیا گیا بقول آتش۔

جھاڑ دئے مغز سے کبر کے کیڑے جو تھے

خاک برابر کیا پشہ نے نمرود کو

کس کا سر غرور کمرزن پیر و جوان ہوا۔ مرزا قادیانی کے صاحبزادہ کا یا کسی ان کے مخالف کا۔ خیریت یہ ہے کہ اس واقعہ کو آپ کے پیر و مرشد و گرو جی ۲ نے لکھ دیا ہے۔ ورنہ اس کا بھی اپنی عادت کے موافق آپ حضرات انکار ہی کرتے۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

مفتی صاحب! یہ انگریزی سلطنت ہے۔ ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے۔ کوئی طحد بن جائے۔ وہ رہیہ ہو جائے۔ خدائی کا دعویٰ کر لے۔ سلطنت کو اس کی کچھ اعتنا نہیں۔ آپ جیسے آزاد مذہب والوں کے لئے ہندوستان ظل عاقت ہے۔ ہاں ذرا اسلامی سلطنت کی سرحد میں قدم رکھئے اور مرزا قادیانی کی نبوت بگھاریئے تو آٹے دال کا بھاء معلوم ہو جائے۔ صاحبزادہ کی طرح مرزائی نبوت اور جھوٹی مسیحیت کے لئے ہر جگہ پوری خاطر داری اور مہمان نوازی کی رسد و سامان خاطر خواہ مہیا ہو سکتا ہے۔ فقط جانے کی دیر ہے۔ ذرا ہمت تو کیجئے۔ قدم آگے کو بڑھائیے۔ دور نہیں تو صاحبزادہ کے مرقد کی زیارت ہی کر آئیے۔ قادیانی بیت المال خالی ہو گیا ہو تو بخدا میں اپنی طرف سے حسبہ اللہ خیرات زادہ راہ دینے کو حاضر ہوں۔ کیونکہ آپ تبلیغ اسلام کو جانیے گا۔ مگر شرط ہے کہ نبی قادیان کی کل تصانیف آپ کے ساتھ ضرور ہوں اور ہر سالہ کے ٹائٹل پر آپ اپنا پورا

۱۔ مرزا قادیانی کا رسالہ تذکرۃ الشہادتین جو دونوں کے مرثیہ میں لکھا گیا ہے۔ اس سال عشرہ محرم میں ضرور پڑھئے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو تو حضرات حسنین علیہما السلام سے بد عقیدگی تھی۔ غالباً آپ کا بھی وہی برا عقیدہ ہوگا۔

۲۔ گرو جی اس معنی کر کے کہ مرزا قادیانی کرشن بھی تو ہیں۔

دستخط بتد لقیب مفتی مثبت کر کے اس قدر عبارت لکھ دیجئے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور مسیح موعود مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مرگئے۔ جیتے نہیں۔ میں بھی کل اخراجات سفر کا بل دہلی میں جمع کر دیتا ہوں۔ لیجئے ایڈیٹر صاحب یہ چیک حاضر ہے۔ اہمیت ہو تو منظور کر لیجئے۔ پھر مفت کا سفر نصیب ہونے کا نہیں۔

ہاں جناب ایڈیٹر صاحب! اب فرمائیے کس کا سر کچلا گیا اور کون مارا گیا؟ اس قدر سفید جھوٹ سے اپنے اختیار کی کالم کو رو سیاہ کیا۔ اب پبلک کے سامنے آپ کے جھوٹ کی قلعی کھل گئی۔ غیرت ہو تو طرابلس میں جا کر جان دیجئے اور شہیدوں میں نام لکھائیے۔ تب آپ کا کفارہ ہوگا۔ ہندوستان میں بھی باوجود سلطنت انگریزی ہونے کے آپ ہی لوگوں کا سر کچلا جا رہا ہے۔ مگر مرزائیوں کے جسم پر فالج کا سخت مادہ نازل ہو رہا ہے۔ اس لئے جس صحیح ان سے زائل ہو گیا اور برابر سر کچلتے کچلتے درد و الم اس کا مساوات ہو کر احساس باقی نہ رہا۔ ابتداء میں پنجاب کے علمائے حقانین نے مرزائی فتنہ کی پوری مزاحمت کی۔ ان کے عقائد باطلہ سے پبلک کو آگاہ کیا۔ براہین احمدیہ کے سبز باغ کو بوضاحت تمام معلوم کرایا۔ الہامات مرزا، الذکر اکھیم، عصائے موسیٰ سے مرزا قادیانی کی خبر لی گئی۔ اس پر ابھی یہ ڈھٹائی کہ غیر احمدیوں کا سر کچلا گیا۔

واہ! مفتی صاحب حق نمک بھلا ایسا تو ہو۔ روٹی کی خاک جھاڑنا کوئی آپ ہی سیکھے۔ دیکھا! کیسا سر کچلا گیا اور کس کا کس کا بڑی خیریت ہوئی کہ مرزائیوں میں غیرت اور شرم نہیں۔ ورنہ سینکڑوں اس سر کچلے جانے کے بعد دھیلے کی سٹکھیا مانگا کر خودکشی کر کے حرام موت مرتے۔ مفتی صاحب! ازمات کہ برماست پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا کیجئے۔ سابق کے چند رسالے اس ناچیز کے شائع ہو چکے ہیں۔ آئینہ قادیانی، اظہار حق وغیرہ ذرا غور سے ملاحظہ کیجئے اور دکھا دیجئے کہ مرزا قادیانی یا جناب حکیم خلیفۃ المسیح یا دیگر حضرات کی شان میں کوئی خلاف تہذیب یا بازاری لہجہ

۱۔ دہلی میں فتنی قاسم علی نے سراٹھایا احمدی پر چہ جاری کر کے اپنے تمام مخالفین کو عموماً اور مولوی ثناء اللہ صاحب فاتح قادیان کو خصوصاً گالیاں دینا شروع کیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد لدھیانے میں ان کا سر کچلا گیا اور ان کے فریق نے فحوائے ”من قتل قتیلہ فلہ سلبہ“ مبلغ تین سو روپے ان سے وصول کئے۔ جس کی تاریخ اس شعر سے نکلتی ہے۔ شعر، قادیانی کا سر اڑا کے لکھو۔ ماں بیوی نصیب غازی سے۔

سے کام لیا گیا ہے؟ پھر جو آپ نے حضرت مولانا ابوالحسن رحمانی مصنف رسالہ فیصلہ آسمانی کے اوپر دور سے رامپوری گئے ہوٹل کی طرح زور زور سے بھونکنا شروع کیا۔ یہ کیوں؟ جواب باصواب دینا اور شے ہے اور جب لوگ جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو گالیاں سناتے ہیں۔ وہی انداز آپ کا رہا۔ اس لئے میں بھی بشری حیثیت رکھتا ہوں اور اہل قلم ہوں۔ آپ ہی کے لہجہ میں جواب دیا گیا۔ آپ شائستگی اختیار کیجئے گا تو میں بس گنا تہذیب کو برتوں گا۔ رکھ پت رکھاؤ پت۔ محققانہ جواب عالمانہ اعتراضات فلسفیانہ استدلال کیجئے۔ پبلک جس کو میزان عقل سے تولے تاکہ احقاق حق و ابطال باطل ہو جائے۔ شریفانہ روش تو یہ تھی جس کو آپ نے غصہ میں آ کر کالے کوس دور پھینک دیا اور بازاری لہجہ میں خدا جانے کیا اول فول بکا اور ناحق اپنے اخبار کا منہ دروغ بے فروغ سے کالا کیا۔

مفتی صاحب! مونگیر و بھاگلپوری کو دیکھئے۔ مباحثہ کے پیشتر آ کے بھائیوں نے کیا کیا جال پھیلایا۔ کیسے کیسے اشتہارات شائع کر کے مباحثہ کے خواہاں ہوئے۔ پہلے تو علماء کرام نے ان کی طرف مطلق توجہ نہ فرمائی۔ کیونکہ خطاب کے لائق تو وہی ہوتا ہے جس میں کچھ بھی ہوئے صداقت پائی جائے۔ آپ کے گروہ کا تو من اولہ یہی دستور رہا کہ جھوٹ کا تو مار باندھ کر نشانات نبوت قرار دیتے آئے۔ اب جو بعض علماء کرام نے اس کی اشد ضرورت دیکھی تو امر بالمعروف کا حکم بجالایا۔ فقط اشارہ کی دیر تھی۔ مناظرہ کے لئے بڑے پیمانہ پر بجمہ سامان بہم ہو گیا، اور دور دور سے علماء و فضلاء و خواص و عوام مدعو ہو کر قدم رنجہ فرماتے گئے اور بجمہ تعالیٰ اس ہادی گرہاں کے فضل کی ایسی بارش ہوئی اور یہ کر دکھایا کہ پانچ چھ ہزار آدمیوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کو شکست فاش ہوئی اور ذلت کی بو چھاڑنے ان کو ایسا شراہور کر دیا کہ بھاگتے وقت قدم اٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ جناب ایڈیٹر صاحب! ایسا تو ہو گیا کہ بعد مباحثہ مونگیر ہمارے قدیم دوست مولوی ماجد صاحب بھاگلپوری (مرزائیوں کے سرگروہ) عام مجلسوں میں بھی لوگوں سے دیکھتے پھرتے ہیں۔ مقابلہ مولوی سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جدھر نکلے ادھر انگلی اٹھ گئی کہ مولوی ماجد مرزائی ہو گئے۔ حکیم عبدالسلام مرحوم کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی اہمیت موقوف کر دی۔ مسجد سے نکال دیئے گئے یا تو اسی بھاگلپور میں لوگ عزت و توقیر کی نگاہ

سے دیکھتے تھے۔ یا اب جدھر نکلتے ہیں۔ لوگ نفرس کرتے ہیں اور بجائے مولوی ماجد صاحب کے مرزا ماجد پکارتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے ذلت کی مار، جو دشمنان دین کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی مرزائی مشن جو بڑے زوروں پر یہاں چل رہی تھی۔ مباحثہ ہی کے زور سے ٹوٹنی شروع ہوئی اور ہر طرف سے نفریں و لعنت کی آواز کے ساتھ غل تھا کہ سب دھوکا تھا دھوکا۔ یہ ہے علمائے ربانین کے ارادوں کا اثر اور کوشش کے نتیجے اور مرزائی گروہ کی ذلت۔ ایڈیٹر صاحب! اگلے مدعیان نبوت اور مہدویت کی کامیابی کے کارنامے۔ آپ کو معلوم نہیں۔ بڑی بڑی مستند تاریخوں میں دیکھئے۔ جھوٹے تو تھے۔ مگر لاکھوں نے ساتھ دیا۔ بعضوں نے صد ہا برس سلطنت کی تو کیا اس کامیابی سے ان سب کو آپ سچا مان لیں گے؟ دنیاوی کامیابی دلیل برگزیدگی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ گرونا تک جی یا دیانند سرستی جی کا چیلہ بنا پڑے گا۔ ان کی کامیابی کے مقابلہ میں بیچارہ مرزا قادیانی کی کچھ ہستی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ آپ کے یہاں تو چند ڈھمل یقین سادہ لوح ہسیدھے سادے کٹھ ملاؤں نے ساتھ دیا۔ بقول آپ کے لاکھ دو لاکھ (اس تعداد کی صحت کو آپ چاہئے یا آپ کا ایمان جانے) عوام الناس ماننے لگے۔ دو ہزار کا چندہ آنے لگا۔ قلمہ ترکی صورت ہو گئی۔ دس پانچ نفر محفل حاشیہ نشینان نے ہر وقت تعریفیں کر کے مرزا قادیانی کے دماغ کو پریشان کر دیا۔ اسی کو کامیابی اور ان کی صداقت کی دلیل ٹھہراتے ہیں تو پھر جن جھوٹوں مکاروں کو ان سے ہزار گنا کامیابی ہو رہی ہے۔ وہ تو مرزا قادیانی سے بھی بڑھ کر گرو گھنٹال ٹھہریں گے اور آپ لوگوں پر ان کی اقتد لازم ہوگی۔ (نعوذ باللہ)

بس جناب قلمہ چرب اڑائے جائیے۔ معلوم ہو گیا حشر میں پینا شراب کا۔ مگر بھائی صاحب یاد رکھئے آسمانی عدالت کے روبرو ایک دن جانا ضرور ہے۔ جب کا ذمین کے گروہ روبرو حاضر کئے جائیں گے اور ہاتھوں میں فرد قرار واد جرم دیا جائے گا اور فالس پرسنیشن (False Persenation) یعنی جھوٹے نبی کو سچا نبی ماننا کا دفعہ سنایا جائے گا اور جھوٹی شہادت کی مجال نہ رہے گی۔ اس وقت اپنی اپنی شامت اعمال کا افسوس ہوگا اور صدائے ”یا لیتنسی کنت تراباً“ بالکل بے سود ہوگی۔ خدا کے واسطے ذرا تخیلہ میں اس پر غور کیجئے۔ ہٹ دھری، ضد، پاس سن، بیجا تعصب دل سے نکال دیجئے۔ خدا شاہد ہے۔ فقط اسلامی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اپنے

چھڑے ہوئے بھائیوں کو اکٹھا کر دوں اور اللہ کے واسطے جو کچھ ان کے خیالات کی غلطی ہو عام طور سے بلا در رو رعایت ظاہر کر دوں۔ اگر مان گئے تو ان کا بھلا ہوا۔ نہ مائیں تو میں بری الذمہ ہوں۔

”ذک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم“

مفتی صاحب! رسالہ فیصلہ آسمانی گمان نہیں چھپا ہے۔ عینک لگا کر دیکھئے ٹائٹل ہی پر مؤلف کا نام حضرت مولانا سید ابوالاحمد رحمانی صاف طور سے لکھا ہوا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ پبلک کے سامنے اس صریح جھوٹ کا آپ کے پاس کچھ جواب ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ ”کسی مولوی نے جو بسبب بزدلی اور نامردی کے اپنا نام ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے ایک رسالہ چھاپا ہے۔ جس کا نام فیصلہ آسمانی رکھا ہے۔“

یہاں پر ناظرین سے التماس ہے کہ رسالہ فیصلہ آسمانی خود ملاحظہ کر کے ایڈیٹر صاحب کی راست بازی اور نیک دلی کی داد دیں۔ کیا اخبار کے ایڈیٹر کا یہی شیوہ ہے کہ صریح جھوٹ لکھے اور بدیہی واقعات کا انکار کرے۔ شرم ہزار شرم۔ شاباش ایڈیٹری کو بھی بدنام کیا۔ جھوٹ بول کر اپنی وقعت خود انسان کھوتا ہے۔ آئندہ اس کی تحریر پر ذرا برابر وثوق نہیں رہتا۔ اس میں مؤلف صاحب کا کیا بگڑا۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کا خون کرتے ہیں۔ بقول سعدیؒ۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند  
مفتی از دست خویشتن فریاد

لیجے اب بزدلی اور نامردی کا بھی سبق جس کو دل سے بھلا دیا ہے یاد کر لیجے اور ایسا نقش کا لہجہ کر لیجے کہ پھر کبھی سہو اور خطانہ ہونے پائے۔ بزدلی اور نامردی تو خود مرزا قادیانی نے بارہا دہلی کے مناظرہ میں، لاہور میں، قادیان میں بمقابلہ شمس العلماء مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی، پیر مولانا مہر علی شاہ صاحب، مولوی ثناء اللہ صاحب وغیر ہم ایسی دکھائی ہے کہ ناگفتہ بہ۔ اہل حق کے سامنے آنے سے ان کی روح کانپ جاتی تھی۔ اشتہارات تو لہے چوڑے مرقومہ اکتوبر ۱۸۹۱ء شائع کر دیئے تھے۔ مگر جب مقابلہ کے لئے بلائے گئے ایک نہ ایک عذر مجہول و حیلہ نامعقول کر کے کانور ہی ہو گئے۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین، ٹالوی اور مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی بھوپالی کا واقعہ روئیدامناظرہ میں طشت از بام ہو چکا ہے اور چھپ کر تمام

ہندوستان میں شائع ہو گیا ہے۔ ہزار حاجی محمد احمد صاحب نے ان کو روکا۔ مگر اپنے خسر کے مجہول  
 علالت کا حیلہ کر کے فرار کیا۔ علاوہ اس کے چودھویں صدی کا مسیح میں اس کا کچا چٹھہ درج ہے۔  
 اسی کو دیکھ لیجئے اور اپنا بھولا ہوا سبق پھر یاد کر لیجئے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کی نسبت مرزا قادیانی  
 نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ قادیان میں ہرگز نہ آئیں گے۔ مگر وہ شیر مرد قادیان وہاں پہنچ  
 کے مقابلہ کے لئے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا اور ڈنار ہا۔ مگر مرزا قادیانی اپنے زمانہ گھر سے باہر نہ  
 نکلے۔ کہنے مفتی صاحب یہ کس قدر شرمناک بزدلی اور نامردی ہے کہ حریف سیرے گھر پر امر تر  
 سے آوے اور آپ زمانہ سے باہر نہ نکلیں۔ اب فرمائیے بھولا ہوا سبق یاد ہو گیا یا نہیں؟ واہ ری بے  
 حیاتی۔ خدا تیرا ناس کرے تو ان کے ہر رگ و پے میں گھسی ہوئی ہے۔

حیا و شرم و ندامت اگر کہیں بکتیں

تو ہم بھی لیتے کسی اپنے مہربان کے لئے

سیرے مہربان ایڈیٹر صاحب! جناب حکیم خلیفہ المسیح صاحب کی خدمت میں  
 دو رسالے فیصلہ آسمانی کے مونگیر اور ایک کلکتہ سے بھیجے گئے ہیں۔ ان کی رسید موجود ہے۔ مونگیر  
 اور بھاگلپور کے اکثر قادیانیوں میں مفت تقسیم کئے گئے۔ حالانکہ ان کے لئے نصف قیمت رکھی گئی  
 تھی۔ لاہور، امرتسر، پشاور، لائل پور، سڑکپور، سیالکوٹ، گورداسپور، بلوچستان، دہلی، مراد آباد،  
 ممبائے، افریقہ، زنجبار، بریلی، بنارس، لدھیانہ، کشمیر، کلکتہ، عظیم آباد، آرہ، مظفر پور، درہنگہ، گیا،  
 پورنیہ، چانگام وغیرہ وغیرہ سینکڑوں شہر میں یہ رسالہ بہ قبولیت تمام شائع ہوا۔ اس کے متعلق  
 اشتہارات عام شاہراہوں پر لگائے گئے۔ اہل حدیث، اہل فقہ، المشیر میں اشتہار دیئے گئے اور  
 ڈنکے کی چوٹ پر ایڈیٹر صاحب کی سماعت کام نہ دے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔  
 ”ولہم اذان لا یسمعون بہا فرداً فرداً“ مرزائی اخبار کا بھیجنا سیرا فرض نہ تھا۔ آپ کو اگر  
 ضرورت تھی تو خود منگواتے۔ قیامت نہ سہی مفت ہی طلب کرتے۔ کیونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں نہ  
 بھیجتا تو البتہ کوئی الزام عائد ہو سکتا تھا۔

ایڈیٹر صاحب! آپ کہتے ہیں کہ منکوہ آسمانی والی پیشین گوئی پوری ہوئی اور جناب  
 حکیم خلیفہ المسیح صاحب جو آپ کے بجائے مرشد کے ہیں۔ جس کی اتباع آپ سب مرزائیوں

پر لازم اور واجب ہے وہ فرماتے ہیں کہ پیش گوئی ابھی پوری نہ ہوئی۔ ممکن ہے کہ آگے چل کر ان کی اولاد و اتحاد سے پوری ہو جائے۔ اب یہ فرمائیے کہ ان دونوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ آپ یا خلیفہ المسیح۔

اور اس پیشین گوئی پوری ہونے کے کیا معنی مراد ہے۔ ذرا مہربانی کر کے اس کی تفصیل بتائیے کہ کس طرح پوری ہوئی آیا احمد بیگ کا داماد مرگیا اور محمدی کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ ہو گیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر واقعہ صریحہ کے خلاف پیشین گوئی پوری ہونا چہ معنی دارد۔ ایسے صریح جھوٹ کو پورا ہونا کیونکر کہتے ہیں۔ پھر تو دنیا میں جھوٹ کوئی بات باقی نہیں رہ سکتی اور نہ کوئی پیش گوئی کسی کی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ منکوحوہ آسمانی کے متعلق ذرا مرزا قادیانی آنجہانی کے الہامات بکرات و مرآت ملاحظہ کیجئے اور ان کے اقوال موثق پر غور فرمائیے اور اس کا جواب مرزا قادیانی کی کتابوں میں بتلائیے۔ یا جناب حکیم صاحب کو اس کی تفسیر کی تکلیف دیجئے۔ شاید ان کے خیال میں کچھ آجائے۔

”کذبوا بایاتی وکانوا بہا يستهزؤن فسیکفیکہم اللہ ویردہا الیک امر من لدنا انا کننا فاعلین زوجنکھا الحق من ربک فلا تکنون من الممترین لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید . انارادوہا الیک توجہت لفصل الخطاب انا رادوہا“ انہوں نے میری نشانوں کی تکذیب کی اور ٹھٹھا کیا سو خدا ان کے لئے تجھے کفایت کرے گا۔ اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔ یہ امر واپس لانا ہماری طرف سے ہے اور ہم یہی کرنے والے ہیں۔ بعد واپسی کے ہم نے نکاح کر دیا۔ تیرے رب کی طرف سے ہے تو شک کرنے والے میں سے مت ہو۔ خدائی کلمے بدلائیں کرتے۔ تیرا رب جس بات کو چاہتا ہے وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔ آج میں فیصلہ کرنے کو متوجہ ہوا، ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔“

(انجام آتھم ص ۶۰، خزائن ج ۱۱ ص ۶۰، ۶۱)

یہ اردو ترجمہ اور عربی الہامات مرزا قادیانی کے ہیں۔ ان میں بلا شرط اور بغیر کسی قید کے منکوحوہ آسمانی کا نکاح میں آنا بیان ہوا ہے اور اس کے وقوع میں آنے کو اس زور سے بیان کیا

ہے اور یقین دلایا ہے کہ اس سے زیادہ یقین دلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔

اسی طرح احمد بیگ کے داماد کی موت کی پیش گوئی بڑے زور سے کی ہے کہ ڈھائی برس میں مرجائے گا۔ جب نہ مرا تو یہ کہا گیا کہ خوف و ہراس سے میعاد مل گئی۔ مگر میرے سامنے اس کا مرنا ضرور ہے۔ اگر میرے سامنے وہ نہ مرا اور میں مر گیا تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر مرزا قادیانی اپنے الہام کی تفسیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جزو (یعنی احمد بیگ کے داماد کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد سے بدتر ظہر دوں گا۔ اے احمقویہ انسان کا افتراء نہیں یہ کسی ضبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“

(انجام آہم ص ۵۴، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

پھر مرزا قادیانی اسی (انجام آہم ص ۲۲۳، خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۳) میں فارسی الہام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے۔ باز شماریں نکلنے ام کہ اس مقدمہ برہمیں قدر باتمام رسید نتیجہ آخری همان است کہ ظہور آمد حقیقت پیش گوئی برہماں ختم شد۔ بلکہ اصل امر برہ حال خود قائم است و بچکس باحیلہ خود اور و نخواند کرد و اس تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر ۲ مبرم است و عنقریب وقت آں خواہد آمد۔ پس قسم آں خدائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ برائے ما مبعوث فرمود اور ابہترین مخلوقات گردانید کہ اس حق ست و عنقریب خواہی دید و من اس را برائے صدق خود یا کذب خود معیاری گردانم و من نکلتم الا بعد از آنکہ از رب خود خبر دادہ شد۔

یہ ہیں مرزا قادیانی کے الہامات جن کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا ہے۔ مگر

۱۔ جب ہی تو صاحب فیصلہ آسانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی رسول نہیں اور نہ الہام ربانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسول سے خلاف وعدگی نہیں کرتے۔ اگر مرزا قادیانی رسول ہوتے اور یہ ربانی الہام ہوتا تو ضرور پورا ہوتا اور ان کے سامنے مرتا

۲۔ مرزا قادیانی کی الہامی تقدیر مبرم کو ناظرین دیکھیں کہ کیا معلق اڑ گئی۔ اب عقل والا اس الہام کو ربانی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔



مرزا قادیانی کی قسمت، نہ احمد بیگ کا داماد مرانہ منکوحہ آسمانی لوٹ کر آئی۔ یہ حسرت اپنے ساتھ لے گئے اور پیش گوئی پوری نہ ہوئی اور مستند اقرار سے کاذب بلکہ اکذب ثابت ہوئے۔ بدیہی واقعہ تو یہ ہے کیا اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کسی نے خوب کہا ہے۔

نکاح آسمانی ہو مگر بیوی نہ ہاتھ آئے

رہے گی حسرت دیدار تاروز جزا باقی

اب کہئے مفتی صاحب یہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں؟ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے مر گیا۔ یا مرزا قادیانی اس کے سامنے مر گئے؟ ذرا شرم ہو تو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالئے اور صریح جھوٹ کے بے سری تان اڑایا کیجئے۔ مگر پبلک پر آپ لوگوں کی حقیقت بالکل کھل گئی۔ اب کوئی دھوکے میں نہیں آنے کا۔ فیصلہ آسمان کے ان باتوں کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ دعویٰ تو کر دیا اب مرزا قادیانی کی تصانیف سے اس کا جواب نکال کر پبلک میں پیش کیجئے۔ تب تو مردا گئی ہے۔ ورنہ سکوت اختیار کر کے زنانہ میں بیٹھ رہئے۔ بیفائدہ جھوٹ کا طومار باندھ کر خلائق کی نظر میں کیوں ذلیل ہوتے ہیں۔ اب اس سے کام نہ چلے گا۔

بھائی صاحب ذرا غور کیجئے کہ آپ کے مخالف علماء صالحین نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ براہین احمدیہ کی طرح پیشگی چندہ، سراج سنیر کی زر پیشگی وصول کر کے بندگان خدا کو فریب نہ دیا۔ تائید اسلام اور لشکر خانہ کے نام پر ہزاروں ہزار چندہ نہیں لیا۔ بیواؤں اور یتیموں اور رنڈیوں ل

۱۔ مرزا قادیانی کے حقیقی خسر صاحب کا قصیدہ چھپ کر اشاعت السنہ ۱۳۱۳ میں شائع ہو چکا

ہے۔ ”اہل البیت ہمدی بعا فیہ“ چند شعر بطور نمونہ لکھے جاتے ہیں۔

ہر گھڑی ہے مالداروں کی تلاش  
تاکہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش  
ہو یتیموں ہی کا یا راٹھوں کا ہو  
رنڈیوں کا مال یا بھاڑوں کا ہو  
کچھ نہیں تفتیش سے ان کو غرض  
حرص کا ہے اس قدر ان کو مرض  
بدمعاش اب نیک از حد بن گئے  
بو مسلم آج احمد بن گئے

مرزا قادیانی کی نظر سے یہ قصیدہ گذرا ہوا ہے۔ مگر جواب ندارد۔

کے مال پر دانت نہیں لگائے۔ خیر ان سب رقموں کا حساب تو مرزا قادیانی آنجہاں پر چھوڑیے۔ وہ جانیں اور ان کے کروت۔ اب آپ ذرا ایمان کو راہ دے کر یہ فرمائیے کہ دنیا کا کتا کون ہوا۔ خود بدولت یا مخالف علماء صالحین؟

مرزا قادیانی کی تکذیب کی سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ وقتاً فوقتاً علی الترتیب سکھوں پر روشنی ڈالی جائے گی اور پبلک کے سامنے تنقید کے لئے پیش کی جائے گی۔ ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے اسی پر آپ لوگ گھبرا کر چیخنے لگے۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا

آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا؟

فیصلہ آسمانی میں تو فقط جن باتوں کو مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا عظیم الشان نشان قرار دیا تھا اور وہ سب سرے سے جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ اسی کا ذکر کر کے پبلک کو ہوشیار کیا گیا ہے۔ تاکہ ان کا کذب روز روشن کی طرح دنیا پر ظاہر ہو جائے اور ہر خواص و عام کو مرزا قادیانی کی ابلہ فریبوں پر دھوکہ کھانے کا موقع باقی نہ رہے۔ الحمد للہ علی ذلک!

اس ہادی برحق کے فضل سے ایسا ہی ہو رہا ہے اور فیصلہ آسمانی کی قبولیت علماء و فضلاء و محققین و دانشمندیوں کے گروہ میں پورے طور سے روز افزوں ہے۔ آخر میں اس رسالہ کے ان بزرگواروں کی رائے اور اثر قبولیت کا مضمون درج ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ مفتی صاحب! یہ امر آخر ہے کہ آپ کے نزدیک کسی مخالف کو زکام یا دوسرے ہو جائے تو آپ مرزا قادیانی کی کرامت سمجھتے ہیں یا کوئی اپنی موت سے مر جائے ان کی صداقت کی دلیل ہو جائے۔ یہ وہم کی بیماری ہے اس کی دو افلاطون کے پاس بھی نہیں۔

اس کرامت دلی ماچہ عجب

گر بشاید گفت باران شد

مفتی صاحب! میں اخیر میں موربانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ من حیث ایڈیٹر اخبار جس کو ہر مخالف اور ہر موافق لیتا ہے۔ لہجہ کو بازاری لہجہ نہ بنائیے۔ جو کچھ لکھتے تہذیب سے نہ گذریں، اس کا جواب ویسا ہی مہذبانہ نہ ہو تو قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بدزبانی اور ناشائستگی پہلے تو آپ خود پبلک میں بدنام ہوتے ہیں۔ دوسرے عجیب کو بھی آپ بدتہذیبی کا اشتعال

دیتے ہیں۔ مجھ کو اس امر کا سخت افسوس ہے۔ مہذبانہ برتاؤ رکھنے کے مخالف و موافق کو مضمون سے دلچسپی رہے اور اسلامی تقاضا اور محبت سے کہتا ہوں۔ اگر کچھ گراں خاطر گزرا ہووے تو معاف فرمائیے اور جناب قدیم و جدید صاحب خلیفۃ المسیح کی جناب میں بھی دست بستہ گزارش ہے کہ مجھے ترکی بہ ترکی جواب دینے میں معذور سمجھیں۔ فیصلہ آسانی، آئینہ قادیانی وغیرہ وغیرہ تصانیف میں علمی مذاق کی حیثیت سے داب منظرہ برابر مری رہا۔ لہجہ شریفانہ رکھا گیا۔ آپ کی جناب میں یا مرزا قادیانی آنجمانی کی شان میں کوئی ذاتی حملہ ناشائستہ کبھی نہ ہوا۔ فقط واقعات کا اظہار کرتا رہا۔ شاید مفتی صاحب کو یہ طرز شائستہ پسند نہ آیا اور بازاری لہجہ منظور خاطر ہو گیا۔ اس لئے میں بھی معذور ہو گیا۔ ”والعذر عند کرام الناس مقبول“ میں آپ کی جناب گستاخانہ عرض کرتا ہوں اور تعجب کرتا ہوں کہ آپ جیسے ذی علم مناظر کہنہ مشق خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں دارالصدر قادیان سے اخبار نکلے اور یہ بازاری لہجہ رہے تو پھر اوروں کا کیا حال ہوگا۔ مجھ کو آپ کی جناب میں باوجود مرزائیت کے ہنوز کچھ ایسا حسن ظن ہے کہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ کبھی موقع ہو تو بالمشافہ آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ زیادہ حد ادب۔ والسلام علی من اتبع الهدی!

جناب مفتی صاحب! میں بڑی جرأت سے بے باکانہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے غلط خبر دی کہ فیصلہ آسانی گننام ہے۔ آپ نے بغیر ملاحظہ کئے ہوئے اس خبر کو خلاف منصب ایڈیٹری اخبار باور کر لیا اور مضمون دھر کھیلا۔ اخباری شان سے باہر ہے۔ پہلے اس کو دیکھ تو لیتے۔ وہیں تو حضرت خلیفۃ المسیح کے یہاں موجود تھا۔ فیصلہ آسانی کے مؤلف حضرت مولانا مجمع الکمالات مجدد دوراں مولانا سید احمد رحمانی ہیں۔ (متع اللہ المسلمین بطول بقاۃ) یہ کنیت صاف طور سے ٹائٹل پر درج ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں شائع ہو چکا ہے۔ نظر سے گذر چکا ہے۔ کیسی خفت کی بات ہے کہ آپ نے گننام لکھا ہے۔ پبلک کی نظر میں کیسی سبکی ہوئی ہوگی اور یہ تو فرمائیے کہ اگر کوئی باخدا بین طریقہ سے امر حق کو خلق پر ظاہر کرنے اور اپنی عاجزی اور انکساری سے اپنے نام کی شہرت نہ چاہے اور اس خیال سے اسے اپنے آپ کو مشہور کرنا پسند نہ ہو تو یہ اس کی بے ریا کوشش دینی ہوگی یا نامردی۔ ذرا شرم سمجھئے اور جناب خلیفۃ المسیح سے اس مسئلہ کو دریافت کر کے کہئے۔ اب کھیلہ آسانی کی قبولیت کی بعض سندیں ملاحظہ کیجئے۔

..... ۱ پہلی تحریر جناب مولانا مولوی سید علی محمد (خان بہادر المتخلص بہ شاد) فصیح  
الفصحا بلغ البلاغا صاحب تصانیف کثیرہ ناظم بے مثل، ناشر بے بدل آنریری، مجسٹریٹ پٹنہ جو  
بصلہ ممتاز ادیب ہونے کے پولیٹیکل پنشن گورنمنٹ عالیہ برطانیہ سے سرفراز ہیں۔

رسالوں کا پمفلٹ (فیصلہ آسمانی و نمک سلیمانی وغیرہ) اور سرفراز نامہ پا کر بے حد منت  
گزار جہاں تک اس وقت ممکن ہو ارسالوں کو دیکھا۔ بیچارے قادیانیوں کو تو آپ نے اور دیگر اہل  
علم نے واقعی کہیں کا نہ رکھا۔ روس و جاپان کی جنگ کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی۔ اللہ اکبر!  
مرزا قادیانی اور ان کے اتباع کے تفصیلی حالات کیا معلوم تھے۔ آپ نے واقعی مسلمانوں پر رحم  
کھایا۔ توحید جو اصل اسلام ہے توجہ ہے کہ مرزا قادیانی ضمناً اس کے بھی مخالف نظر آتے ہیں۔  
اگر آپ ان سب باتوں کو بہ تفصیل عام فہم اور فصیح مہذب زبان میں بیان نہ کرتے تو غضب کا دھوکا  
مسلمانوں نے کھایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بتصدق اپنے حبیب برحق کے اس در ماندہ قوم شر آشرا  
و موجدان مذہب کے ہاتھوں سے بچائے۔ آمین!

السید علی محمد شاد!

..... ۲ دوسری تحریر جناب مولانا مولوی حکیم ڈاکٹر سید محمد جواد صاحب عظیم آبادی  
جن کی فصاحت اور بلاغت اطہر من الشمس ہے۔ حبیب لیب ادیب اریب دام لطفکم۔ السلام  
علیکم، رسائل مرسلہ پہنچے۔ سب دلچسپی کے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے تو اس قدر دلکش نہ  
ہوئے۔ مگر حصہ دوم، فیصلہ آسمانی میں خوب جی لگا۔ اردو سلیس طرز تحریر سلجھا ہوا ہے۔ خصوصاً آخر  
حصہ کے مطالعہ سے یہ بھی مستہلہ و مستفاد ہوتا ہے کہ لکھنے والا مشاق اور اس کی نظر وسیع اور قوت  
متفکرہ قوی ہے۔

حقیر محمد جواد عفی عنہ

..... ۳ تیسری تحریر مولانا نور احمد صاحب امرتسری کی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ بعد  
تسلیم نیاز مند انہ المرام بالاجمال آنکہ رسالہ فیصلہ آسمانی کو جن بزرگوں نے دیکھا بنظر وقعت  
و پسندیدگی دیکھا ہے۔ اس کی اشاعت میں حتی الامکان کوشاں ہوں۔ اتنا لا لامرکم الشریف  
اشتہارات مقامات متعددہ میں شائع کئے گئے۔ امرتسر، گورداسپور، پشاور، لائل پور، سڑ پور،  
لدھیانہ وغیرہ قادیانیوں کی عادت ہو رہی ہے کہ اوّل تو ایسی تحریر کو دیکھتے نہیں۔ اگر دکھیں بھی تو نظر  
غور سے نہیں دیکھتے۔ ماہہ انقیاد و تسلیم و اتباع حق ان میں نہیں رہا۔ الا ماشاء اللہ! فضول جھگڑوں  
سے ان کو کام ہے۔ ”وما تغنی الایات والنذر“ نور احمد عفی عنہ

بقیہ اسناد ایک رسالہ کی صورت میں شائع ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اب مہربانی فرما کر  
فیصلہ آسمانی کے ساتھ شہادت آسمانی اور تنزیہ ربانی کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ راقم: ابوالمجد عبدالرحمن!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلَدُ التَّحْقِيقِ فِي تَرْغِيبِ الْعِبَادِ  
إِلَى طَلَبِ الْفَرَادِ

# تطلب تحقیق فراد

(جناب حاجی سید عبدالرحمن مونگیری)

بسم الله الرحمن الرحيم!

”نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین“

انسان ضعیف البدان قدرۃ اپنے دو مختلف خیالات کا بندہ ہے۔ جس کو طریق سلوک میں توفیق اور خذلان سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں استقامت کہئے جو توفیق کا مفہوم ہے اور ذلت جو خذلان کا مقتضی ہے۔ دنیاوی کاروبار میں ان ہی دو مخالف اور متضاد مفہوموں کو پہنچائی اور نکون طبعی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بندوں کے لئے اصل برکات کی ابتداء توفیق ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر توفیق الہی نہ ہوتی تو کوئی کار خیر اس سے سرزد ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم کی تعلیم بھی ایسی ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ”وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب“

پس مبارک وہ بندگان خدا ہیں۔ جن کو اس نے توفیق بخشی اور اس پر استقامت کی قوت بھی عنایت کی۔ ”ذک فضل اللہ یوتیہ من یشاء“ اسی طرح سے شقاوت اور ضلالت کی بنیاد بندوں کی طبیعت میں اس حکیم و عظیم و خیر کی طرف سے اپنی حکمت بالغہ کے مناسب حال ودیعت ہوتی ہے۔ جس سے طرح طرح کے تخیلات لایعنی مضمر صراط مستقیم بندوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے بندہ صراط مستقیم سے دور جا گرتا ہے اور بجائے استقامت اور پہنچائی خیالات سلیمہ کے اس کے دل و دماغ میں نکون کا عجیب و غریب جذر و مدر اور طوفان اٹھاتا رہتا ہے۔ گاہے چنیں گاہے چناں بخور میں کبھی ڈوبتا ہے۔ کبھی نکلتا ہے جس سے اس کی استقامت بالکل جاتی رہتی ہے اور اپنے نفس امارہ کا اس وقت بندہ ہو جاتا ہے اور بعضے وقت اسے خود بھی اس کی خبر نہیں رہتی۔ ”نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ“ اس وقت میرے سامنے ماسٹر مولوی عبد المجید صاحب بے۔ اے ساکن موضع حسینا ضلع موگیئر (جو سیرے بڑے قدیم دوست مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور مجھ کو ان کے ساتھ اور ان کے بھائی مولوی عبد الحمید سلمہ کے ساتھی دلی ہمدردی اور محبت ہے) کے دونوں خطوط پیش نظر ہیں۔ ایک تو وہ خط مرقوم دہم اکتوبر کا جو کلکتہ سے بنام مولانا عصمت اللہ صاحب مدرس سوپول کے لکھا ہے۔ دوسرا وہ خط ہے جو انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا ہے اور چھپ کر مشتم ہو چکا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ یہ خط ہمارے قدیم دوست مولوی عبد الماجد صاحب نے شائع کرایا ہے۔ بنظر خیر خواہی اہل اسلام مجھے نہایت ضروری معلوم ہوا کہ میں پہلا خط بھی شائع کروں تاکہ ماسٹر صاحب کی واقعی حالت معلوم کر کے دیکھنے والے فیصلہ کریں کہ بنظر

تحقیق اور حق پسندی کون سے خیالات لائق قبول ہیں اور اس پر بھی نظر کریں کہ ایک ہی شخص کے دو قسم کے خیالات ہیں۔ پھر ایک شائع کیا گیا اور دوسرے پر پردہ ڈالا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

نقل خط مورخہ ۱۰ اراکتوبر نوشتہ ماسٹر عبدالمجید صاحب

بنام مولانا مولوی عصمت اللہ صاحب مدرس سوپول

۱۰ اراکتوبر، کلکتہ، حضرت مرزا قادیانی کی بعض تحریر، بعض خواب، بعض الہام وغیرہ وغیرہ کے متعلق شبہات ہوتے ہیں۔ اس کو سوالوں کے طرز پر لکھوں گا۔ امید ہے کہ ہمارے دوست میری تفسیح کے قابل جواب دیں گے۔ کیونکہ ہر حیثیت سے وہ ہم سے بہت زیادہ قابل ہیں۔ غرض وہ خط احمدی نقطہ خیال سے ہمارے تاریک پہلو کو ظاہر کرے گا۔ اس خط کا ایک مسودہ تو ضرور اپنے پاس رکھوں گا اور عند الملاقات حضور کو دکھلاؤں گا۔ لیکن اگر ہمت نے یاری کی تو ممکن ہے کہ ایک نقل بھی روانہ کروں۔ وہ خط کیا ہوگا اس کا مضمون کس طرز کا ہوگا۔ نمونہ! کچھ نیچے درج کرتا ہوں۔

نمبر: ..... مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ ”اریک زلزلة الساعة“ یعنی میں تجھ کو قیامت خیز زلزلہ دکھاؤں گا۔ (البشری ج ۲ ص ۱۱۱)

اب سوال یہ ہے کہ اس زلزلے کو آپ کی زندگی میں آنا چاہئے یا نہیں؟ اگر الہام پانے والے کے لئے دیکھنا ضرور نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کے بعد اس کے جانشین کا ایسے زلزلہ کو مشاہدہ کرنا الہام کو سچا کرتا ہے تو اس کی مثال قرآن مجید سے لانا چاہئے۔ اگر الہام پانے والے ہی کو دیکھنا

۱۔ لفظ نمونہ پر خوب نظر رہے۔ اس لفظ سے بخوبی واضح ہے کہ جس خط میں ماسٹر صاحب نے اعتراضات لکھے ہیں۔ وہ طویل خط ہے اور بہت اعتراضات اس میں لکھے ہیں۔ اب بالکل حق پوشی اور تاواقفوں کی کامل بدخواہی ہے کہ ماسٹر صاحب متردد ہوں اور دو قسم کے خیالات مرزا قادیانی کے نسبت رکھتے ہوں اور صرف ایک قسم کے خیالات مشتہر کئے جائیں جو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے مفید ہیں اور عوام اس سے متاثر ہوں اور وہ خیالات جو ان کے مضر ہیں پوشیدہ رکھے جائیں۔ صداقت اور دیانت اور خیر خواہی کا یہ تقاضا تھا کہ دونوں قسم کے خیالات کو مشتہر کیا جوتا۔ تاکہ ہر ایک منصف بطور خود فیصلہ کر لیتا۔ اب ماسٹر صاحب خوف خدا کو دل میں لا کر غور کریں۔ کہ اگر وہ خیالات عند اللہ سچے ہیں جن کا نہ ہوں نے پوشیدہ رکھا تو ضرور گنہگار ہوئے اور حق پوشی کے جرم میں مواخذہ اخروی کے ضرور مستحق ٹھہرے اور جو تاواقف مشتہرہ باطل خیالات سے متاثر ہوگا۔ اس کا گناہ بھی ماسٹر صاحب پر ضرور ہوگا۔ اس پر غور کیجئے میں نہایت خیر خواہی سے کہتا ہوں۔

ضروری ہے تو انصاف فرمائیے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں اس الہام کے بعد کب ایسا زلزلہ آیا۔  
 نمبر: ۲..... مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ ”ما ینتطق عن الہوی ان ہو الا وحی  
 یوحی“ اب سوال یہ ہے کہ:

۱..... اس الہام کے بعد سے مرزا قادیانی وحی الہی سے بولنے لگے تھے۔ یا بچپن  
 ہی سے یا بعثت کے بعد سے؟ اگر اس الہام کے بعد سے وحی الہی کے مطابق آپ بولنے لگے تو  
 اس کے قبل والے کلمات طہیات کو کس نظر سے دیکھنا چاہئے؟

۲..... یہ لفظ ”ینطق“ ۲ یکب پر حاوی ہے یا نہیں۔ یعنی کیا مرزا قادیانی کی زبانی  
 بات ہی الہام سے ہوتی تھی یا جو کچھ وہ لکھتے تھے اور بولتے تھے وہ بھی غرض زبانی باتیں اور لکھی  
 ہوئی باتوں میں سے کون سی عن الہوی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بھی نہیں یعنی اگر ہر دو وحی الہی سے ہوتی

۱۔ مولوی عبد المجید سلمہ کے تعلق نظر اور راست بازی اور صفائی پر میں ان کو مبارک باد دیتا  
 ہوں اور ہر گھڑی دل سے دعاء نکلتی ہے کہ خیالات کی پراگندگی سے جو انسانی خاصہ ہے۔ ان کو  
 یکسوئی اور طریق مستقیم نصیب ہو۔ اس خاکسار کے خیال میں اس سوال کا جواب شافی کوئی  
 صاحب مرزائی جماعت سے دیوے نامکن ہے۔ کیونکہ جس طرح اس الہام میں خاص  
 مرزا قادیانی کو مخاطب کر کے پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کا ظہور مرزا قادیانی کے وقت میں نہ  
 ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں جناب رسول اللہ ﷺ سے خطاب کر کے کوئی پیشین گوئی نہیں کی  
 گئی۔ جس کا ظہور جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں نہ ہوا ہو۔ غرض یہ پیشین گوئی ضرور غلط  
 ہوئی۔ اس کا کچھ جواب نہیں ہو سکتا۔

۲۔ ۱۰ اکتوبر تک تو ہمارے عزیز مولوی عبد المجید سلمہ نے مثل ایک پورے مقفن حج کے  
 معاملات متعلقہ الہام مرزا قادیانی میں نہایت انصافانہ (۹) ایثوائے امور تنقیح طلب قائم کئے  
 ہیں۔ ضمیمہ نمبر میں دو ایثوائے ضمیمہ نمبر ۲ میں (۷) ایثوائے مجھ کو ان کی دیانت اور عدالت سے تعجب یہ  
 ہوتا ہے کہ جس عادل حج کے ایثوائے عمیق اور تجویز طلب ہوں۔ پھر وہی حج چند ہی روز کے بعد  
 بغیر اس کے کہ ان ایثوائے کوئی جواب لیوے اور کچھ ثبوت عدالت میں پیش ہو۔ فریق سے مل کر ایک  
 طرفہ فیصلہ کر کے حق طلب کی فریاد کے نام سے اپنا فیصلہ شائع کرنے۔ اسی خاطر راقم نے دیا چہ  
 میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دیوے۔ یہ کوئی مروت نہیں ہے کہ معرفت دیرنیہ کے خیال  
 سے چہار چشمی کے لحاظ سے فیصلہ غلط کر کے اپنی دیانت پر دھبہ لگائیں۔ بلکہ یہ تو صریح اخلاق  
 کریمہ کا منہ ہے۔



تھی تو نمبر اثناء اللہ والا اشتہار وحی الہی سے تھا یا نہیں؟

۲..... احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کی ہمیشہ وغیرہ کو جو خطوط لکھے گئے وہ وحی الہی سے تھے یا نہیں۔ اگر وحی الہی سے لکھے گئے تو چونکہ ان خطوط کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ اس لئے وحی الہی نے ایک فعل عبث کیا یا نہیں؟

۳..... احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی کے متعلق اور نکاح آسمانی کے متعلق جتنی تحدی کے الفاظ تھے سب وحی الہی سے تھے یا نہیں؟

۴..... دنیاوی امور کے متعلق جو آپ فرمایا کرتے تھے وہ بھی وحی الہی سے ہوتے تھے یا صرف دینی امور کی باتیں واضح ہو کہ الزامی جواب بیکار ہوتا ہے۔ تحقیقی جواب ہونا چاہئے۔

نمبر ۳..... مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ ”انما امرک اذا اردت شیئاً ان یقول لہ کن فیکون“ (البشری ج ۲ ص ۹۴)

اس کے متعلق ذیل کے سوالات ۲ ہیں۔

۱۔ مولوی ثناء اللہ والا اشتہار مرزا قادیانی کے دوسرے قول کے بموجب قطعاً الہام سے تھا۔ مولوی نے لدھیانہ کے مناظرہ میں عام مخلوق کے روبرو ثابت کر دیا اور ایک غیر مذہب تعلیم یافتہ نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اگر طلب حق ہے تو رسالہ فاتح قادیان ملاحظہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ اشتہار الہامی نہ تھا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی عاجزانہ دعاء تھی تو بنظر انصاف مرزا قادیانی کے ان الہامات پر نظر کی جائے جو انہوں نے تقرب الہی میں بیان کئے ہیں اور خاص کر قبولیت دعاء کے نسبت ان کا الہام ہے۔ باہمہ ان کی ایسی عاجزانہ دعاء قبول نہ ہو۔ جس کی قبولیت اور عدم قبولیت پر مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کو منحصر کیا ہے اور قبول نہ ہونے کی تقدیر عام مخلوق کے روبرو مرزا قادیانی اپنے اقرار سے کاذب اور مفتری ٹھہرتے ہیں۔ یہ نہایت تعجب اور حیرت ہی کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ اشتہار ان الہامات کو غلط بتاتا ہے جو انہوں نے اپنے قرب کی نسبت بیان کئے ہیں۔ خصوصاً وہ الہام جسے ہمارے عزیز نے نمبر ۳ میں بیان کیا ہے اور مرزا قادیانی اپنے بیان سے کاذب اور مفتری قرار پاتے ہیں۔

۲۔ ماشاء اللہ کہہ متانت اور غور و فکر بلیغ سے یہ اعتراض کئے گئے ہیں۔ ان اعتراضوں کا کچھ جواب ہو سکتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اعتراضات ہیں۔ جو کسی مخالف کے قلم سے نہیں نکلے۔ جزاک اللہ! یہاں میں اپنے عزیز سے اس قدر کہوں گا کہ اس الہام سے جب رسول اللہ ﷺ پر جزئی فضیلت سمجھنا یعنی تھوڑی سی بات میں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

- .....۱ یہہ الہام مرزا قادیانی کی فضیلت کی دلیل ہے یا نہیں؟
- .....۲ اگر فضیلت کی دلیل ہے تو حضرت رسول اکرم ﷺ (فداہ روجی) کو بھی یہ الہام ہوا تھا یا نہیں۔ اگر نہیں ہوا تھا تو آپ اس فضیلت سے (نعوذ باللہ) محروم رکھے گئے یا نہیں اور اس طرح پر مرزا قادیانی کو حضرت رسول اکرم ﷺ پر فضیلت (اگرچہ جزوی ہی سہی) ہوئی یا نہیں۔
- .....۳ اگر اس الہام کی کچھ بھی اصلیت تھی یعنی اگر صرف بات ہی بات نہ تھی تو کیوں نہیں مرزا قادیانی نے لفظ کن سے اپنا سب کام کر لیا۔ احمد بیگ اور اس کی ہمشیرہ کے پاس خوشامد اور دھمکی کے خط لکھنے کی زحمت اٹھانے کے بدلے کیوں نہیں ایک کن سے سب کو راضی کر کے شادی کر لی۔ بالفرض اگر غیر سے شادی ہو چکی تھی تو ایک یا دو یا حد تین کن سے سب موافق دور کر سکے تھے اور پھر محمدی بیگم کے ساتھ عقد کر لیتے۔ (سبحان اللہ! کیسے سچے اعتراضات ہیں۔)
- .....۴ مرزا قادیانی کے الہامات میں یہ ذیل کے فقرے ہیں: ”اصنع ماشئت“ (خزائن ج ۷ ص ۳۵۵) تو جو چاہے کر۔ کیونکہ تو مغفور ہے؟۔ اس کے متعلق سوالات ذیل کا جواب درکار ہے:

- .....۱ کیا اس آزادی کا اجازت دینے والا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے؟۔
- .....۲ کیا اس الہام کے بنا پر شریعت کا روک مرزا قادیانی پر سے اٹھ نہیں گیا تھا؟۔
- .....۳ کیا ایسے الہام پانے والے کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جس کو حکم ہوتا ہے: ۱..... فصل لربك۔ ۲..... قم فانذر۔ ۳..... وثيابك فطهر۔ وغیرہ وغیرہ!
- (البشری ص ۱۰۹)

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) فضیلت خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایسی عظیم الشان فضیلت ہے کہ فضیلت کلی سے اس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس الہام کا حاصل یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنی خدائی مرزا قادیانی کے حوالے کر دی۔ نہایت ظاہر اور یقینی بات ہے کہ یہ صفت اور قدرت خاص خدائے تعالیٰ کی ہے کہ ہر شے اس کے کن کہنے یعنی حکم کرنے سے موجود ہو جائے۔ جب یہ خاص صفت خدائی مرزا قادیانی کو دی گئی اور وہ مراتب عالی تقرب جو اور دوسرے الہامات میں مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں۔ پہلے سے حاصل تھے۔ تو بالیقین فضیلت کلی ثابت ہوئی اور فضیلت کلی بھی معمولی طور سے نہیں بلکہ نہایت ہی عظیم الشان فضیلت جناب رسول اللہ ﷺ پر ہوئی۔ میں اس کو زیادہ شرح نہیں کرتا۔ ماسٹر صاحب خود ہی غور کریں۔ ہمارے بعض معزز دوست اس الہام کو کلمہ سندھ دعویٰ خدائی کی تمہید کہتے ہیں۔

- ۴..... کیا اس مضمون کا الہام کسی گزشتہ نبی یا ولی کو ہوا ہے؟۔
- ۵..... کیا اس الہام کا مفہوم عقبی کے منکر فلاسفوں کے قول سے نہیں ملتا جلتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کھاؤ پو خوش رہو۔ نقد کو دیکھو، ادھار پر بھروسہ نہ کرو۔ (ضرور ملتا ہے)
- نمبر: ۵..... آتھم ۲ کے متعلق جو مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ

۱۔ (راقم تقریظ) میرے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ نے اس ایک فقرہ اصنع ما شئت مرزا قادیانی کے الہام سے پانچ اعتراضات مرزا قادیانی پر ایسے جمائے ہیں کہ قیامت تک اس کا شافی جواب کسی سے سوائے مان لینے کے نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز نے کیسی سچی باتیں اپنی دیانت اور تفقہ سے نکالی ہیں اور چونکہ ان کو فلسفہ میں نظر عمیق معلوم ہوتی ہے اور منکرین آخرت کے فلاسفوں کے اقوال اور اعتقاد سے واقفیت تامہ رکھتے ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کے فلسفیانہ خیالات کے مغز مخزن تک پہنچ کر جو ایک سچے دیندار اہل اسلام کی رائے سلیم ہو سکتی تھی اس پر قائم ہو گئے۔ مرحبا جزاك الله! اب یہ بھی معلوم کر لیں کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام بعینہ ویسا ہی ہے جیسا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو واقعہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں کہ حضرت ممدوح ایک میدان میں تھے۔ وہ انوار سے بھر گیا اور اس میں ایک عجیب و غریب صورت نظر آئی اور مجھے اس نے پکار کر کہا کہ میں پروردگار تیرا ہوں۔ میں نے تجھ پر سب سے چیزیں حلال کر دیں۔ بگیر انچہ طلبی و بکن ہرچہ خواہی.....

السخ! یہ بالکل ترجمہ ہے۔ اصنع ما شئت کا مگر چونکہ حضرت شیخ کمال علمی کے علاوہ مقبول خاص خداوندی تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے کید شیطانی کو ان پر منکشف کر دیا اور انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس شیطانی فریب سے نجات پائی اور مرزا قادیانی ایسے الہاموں کی وجہ سے اور زیادہ اس کے پابند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ہر طرح کے مکاید شیطانی سے محفوظ رکھے۔ آمین!

۲۔ الہامات مرزا مؤلفہ مولوی ثناء اللہ صاحب مطبوعہ ۱۹۰۴ء میں ص ۱۰/ الغایت ۳۰ آتھم والے مضمون کو اگرچہ بڑے شد و مد سے لکھا ہے۔ مگر میرے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ نے جس متانت اور خوبی سے مرزا قادیانی پر اعتراضوں کا پہاڑ توڑا ہے وہ واقعی معمولی بات نہیں ہے۔ بلکہ قابل تعریف اور آفرین کے ہے۔ لہذا ان مضامین پر ہم نے خط امتیازی دے دیا ہے جزاء اللہ تعالیٰ احسن جزاء فی الدنیا والآخرۃ۔ چونکہ عزیز موصوف نے مختصر لکھا ہے اس لئے پوری کیفیت معلوم کرنے کے لئے الہامات مرزا ص ۱۰ تا ۳۰ ضرور ملاحظہ کرنا چاہئے۔

دونوں فریق میں سے جو عدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ آج سے پندرہ مہینے کے اندر ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ بشرطیکہ رجوع الی الحق نہ کرے۔ اب مضمون صاف ہے کہ اگر آتھم رجوع الی الحق نہ کرے گا تو ہاویہ ۱ میں گرایا جائے گا۔ یعنی اگر رجوع کرے گا تو ہاویہ کی سزا سے بچ جائے گا۔ (خزائن ج ۶ ص ۲۹۲)

رجوع الی الحق اور سزائے ہاویہ ایک ماتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے آتھم کے بھاگے پھرنے اور سراسیمہ ہونے کا نام رجوع الی الحق بھی رکھا ہے اور ہاویہ میں گرنا بھی۔ اس جگہ عزیز موصوف مرزا قادیانی پر ایک مزے دار سوال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رجوع اور ہاویہ کا جمع ہونا تو الہام کے رو سے ناممکن ہے۔ بیچارہ آتھم اگر رجوع کر چکا تو پھر ہاویہ اس پر کہاں سے آ گیا یا تو رجوع ہی کرتا یا ہاویہ میں گرتا۔ تاویل جس میں اجتماع ضدین ہے۔ ما ينطق عن الھویٰ..... الخ۔ دالے الہام کے ماتحت ہو کر وحی الہی سے ہوا تھا یا نہیں۔ پھر لکھتے ہیں:

نمبر ۶:..... اس آتھم کے متعلق زمانہ کے بعد کشتی نوح میں مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں ”پیشین گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کے رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سو وہ (آتھم) مجھ سے پہلے مر گیا۔“ پیشین گوئی میں جو مضمون تھا وہ تو اوپر نمبر ۵ میں بیان ہو چکا ہے۔ لیکن کشتی نوح میں جو اس کا خلاصہ درج ہوا ہے وہ بھی غور سے ملاحظہ کیجئے اور انصافاً

۱۔ مرزا قادیانی خود ہی بڑی صفائی سے تشریح فرماتے ہیں کہ: ”میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔ ذلیل کیا جاؤں، روسیہ کیا جاؤں، وغیرہ وغیرہ! اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ یعنی آتھم کو ۱۵ ماہ کے اندر ہلاک کر کے ہاویہ میں ڈالے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی پاتیں نہ ٹلیں گی۔“ (جنگ مقدس ص ۲۱۰، خزائن ج ۶ ص ۲۹۲)

تاثرین! انصاف سے ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی نے جس الہامی پیشین گوئی کو حلف کر کے پبلک میں دعوے کے ساتھ ظاہر کیا اس کا یہ حال ہے کیا مرزائیوں کے نزدیک کوئی ایسا بھی خدا ہے جو اپنے پیچھے رسولوں کو اس طرح ذلیل رسوا کیا کرے۔

فرمائیے کہ کیا! اس طرح کا خلاصہ لکھنا جائز ہے؟۔ کیا پندرہ ماہ کی مدت کو پس انداز کرنے سے رجوع الحق کی شرط کو چھوڑنے سے پیشین گوئی کی وہی حیثیت رہی جو پہلے تھی۔ یقیناً نہیں رہی۔ اس طرح کا خلاصہ اور مختصر بیانی سے ایک فریق کو یعنی مرزا قادیانی کو بہت زیادہ نا جائز فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ برسوں کے بعد جب آتھم دنیا سے گزر چکا ہے ایک ناواقف شخص کشتی نوح کی مذکورہ بالا عبارت کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک فریق زندہ موجود ہے اور دوسرا مرچکا۔ وہ فوراً زندہ فریق کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے۔ حالانکہ اگر اصل کیفیت معلوم ہو کہ مدت پندرہ ماہ مقرر تھی۔ شرط رجوع الی الحق تھی اور سزا ہاویہ میں گرایا جانا جس کے معنی صرف گھبرا کر سر اسیمہ پھرنا کہا گیا تھا۔ تو قرینہ غالب ہے کہ وہ اس پیشین گوئی کے بارے میں کچھ اور رائے قائم کر سکتا تھا۔ پس پیشین گوئی کو اس طرح مختصر کرنے سے ایک ناواقف کو دھوکہ لگنے کا احتمال ہے یا نہیں؟۔ میرے خیال میں ضرور احتمال ہے اور قومی احتمال ہے۔ احتیاط اور حزم کے خلاف ہے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں اور یہ توشتے نمونہ از خروارے ہے۔ عاجز راقم عبدالمجید، ۱۰ اراکتور کلکتہ

اب میں تمام اہل حق سے اور بالخصوص اپنے عزیز کاتب خط سے ضرور کہوں گا کہ مرزا قادیانی کی صرف آتھم والی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے کامل معیار ہے۔ اگر انصاف اور حق پرستی کی نظر سے دیکھی جائے۔ اول تو اصل پیشین گوئی کو دیکھا جائے کہ کس زور سے پندرہ ماہ کے اندر مر کر اس کا ہاویہ میں گرایا جانا لکھا ہے اور جب اس وثوق اور یقینی میعاد کے اندر وہ آتھم نہیں مرا تو مرزا قادیانی نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ آخر میں عاجز ہو کر کشتی نوح میں اپنے دعوے کو بالکل بدل کر یہ کہتے ہیں کہ فریقین میں سے جو شخص جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ کہاں پندرہ ماہ کے اندر مرنا اور کہاں اس کے مرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ جھوٹا پہلے مرے گا۔ یہ صریح جھوٹ اور علانیہ بناوٹ ہے جو مرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کے غلط ہو جانے پر کی ہے۔ نہایت روشن طریقے سے ان کے کاذب ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ اس کھلی صداقت کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے علانیہ کذب کی پیروی میں رہے۔

۱۔ میرے عزیز سلمہ کو ابھی تک وہی دنیاوی لحاظ مرزا قادیانی سے باقی ہے۔ اسی وجہ سے لفظوں میں ان کی جانب داری کرتے جاتے ہیں۔ نمبر ۵۵ والی پیشین گوئی کے خلاصہ سے کشتی نوح کے مضمون کو کیا نسبت۔ صاف یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کا خلاف واقعہ جھوٹ لکھنا جائز ہے؟۔ دینی امور میں اس قسم کی رعایت کا نام مہانت ہے اور قانونی اصول کے رو سے خلاف مہانت۔ ارباب نظر کے لئے میری تقریر پر غور لازم ہے۔

اب میں ناظرین! کو اس طرف متوجہ کرنا ہوں کہ ہمارے عزیز نے ابتدائے خط میں لکھا ہے کہ جو کچھ اس خط میں ہم لکھیں گے وہ اس طویل خط کا نمونہ ہے۔ جس میں شبہات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر آخر میں اس سے زیادہ تصریح کرتے ہیں اور جو اعتراضات اس خط میں کئے ہیں۔ انہیں شتے نمونہ از فرورارے بتاتے ہیں۔ اب ہم عزیز ممدوح کی حق طلبی اور خیر خواہی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس طویل خط کو خود شائع کریں گے۔ اگر مولوی عبدالماجد صاحب کی صحبت سے اور ان کی تعلیم سے ان کی ولی سچائی اور حق طلبی زائل نہ ہوگی۔ (خدائے تعالیٰ ایسا نہ کرے) میرا خیال ہے کہ میرے عزیز کے شبہات کثیرہ میں ذیل کے شبہات بھی ضرور ہوں گے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ چھ نمبر تو انہوں نے اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ چار میرے قلم سے لکھے جائیں اور پورے دس کی نصاب ہو جائے اور تک عشرۃ کاملۃ کا پورا مصداق ہو جائے وہ شبہات حسب ذیل ہیں۔

نمبر: ۷..... (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۵۸) میں مرزا قادیانی نے ۵ نومبر ۱۹۰۷ء کو (یعنی اپنے مرنے سے سات مہینے اکیس روز قبل) ڈاکٹر عبدالکیم خان اور اپنے دوسرے مخالفین کے نسبت ایک طویل الہامی اشتہار شائع کیا۔ جس کا نام تبصرہ رکھا اور اپنی جماعت کو حکم دیا کہ اس پیشین گوئی کو خوب! شائع کریں۔ چنانچہ ان کے مریدین نے بھی بموجب حکم مرزا قادیانی کے اچھی طرح سے شائع کی۔ اس الہام کی تفصیل ذیل میں بلفظہ کی جاتی ہے۔

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹۱)

”اپنے دشمن سے کہہ دوے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا۔ میں تیری عمر بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں۔ ان سب کو جھوٹا کر دوں گا اور تیری عمر بڑھا دوں گا۔ دشمن جو

۱۔ مرزا قادیانی کو اپنی ان الہامی پیشین گوئیوں پر اس قدر وثوق کامل تھا کہ یہ سب ان کے مرنے سے پہلے ہی ہو کر رہیں گی۔ اس لئے اس کی اشاعت کے لئے تاکیدی فرمان جاری فرمایا تھا۔ مگر خیر سے ہوا کچھ نہیں۔ کبیر داس کی اٹی بانی ہو گئی اور حکیم مومن خان دہلوی کے مصرعہ کے مطابق ہوا۔ چونکہ مصرعہ برجستہ اس جگہ چسپاں ہو گیا۔ اس لئے ربط کے لئے بنظر دلچسپی کے مصرعہ اولیٰ راقم نے بڑھا دیا ہے۔ معاف فرمائیے گا۔

سچا کا ہوا سب کار الٹا  
ہم الٹے بات الٹی

تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آنکھوں کے رو برو اصحابِ فیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا۔ تیرے مخالفوں کا خزا اور افتا تیرے ہی ہاتھ سے مقدر تھا۔“

راقم ..... کہنے کو تو ایک پیشین گوئی ہے۔ مگر درحقیقت یہ چار پیشین گوئیوں کا مجموعہ خود یہ ایک پیشین گوئی ہے۔ ناظرین ملاحظہ کریں۔

۱..... تیری عمر بڑھا دوں گا۔

۲..... ان سب کو جھوٹا کروں گا۔

۳..... دشمن تیرے سامنے نابود اور تباہ ہوگا۔

۴..... تیرے دشمن کی ہلاکت تیرے ہاتھ سے مقدر تھی۔

اب ہمارے دوست مولوی صاحب جو اب دیویں کہ مطابق الہام کے مرزا قادیانی کی عمر بڑھائی گئی؟ اگر بڑھائی گئی تو کتنی؟ اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان اس پیشین گوئی کے مطابق جھوٹے ہوئے یا مرزا قادیانی؟ ڈاکٹر عبدالحکیم خان مثل اصحابِ فیل نابود اور تباہ ہوئے یا کوئی دوسرا؟ یا خود بدولت؟ عبدالحکیم خان کی ہلاکت یا خزا مرزا قادیانی کے ہاتھ سے جو مقدر تھی وہ پوری ہو گئی؟ یا برعکس مرزا قادیانی ہی اندر میعاد مقررہ عبدالحکیم کے چل بسے۔

جواب ذرا متانت اور شائستگی سے سمجھ بوجھ کر عنایت فرمائیے اور تین مہینے کی کامل مہلت آپ کو دی جاتی ہے۔

نمبر: ۸..... اب تحریر ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرقومہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء جس میں مرزا قادیانی کے مرنے کی پیشین گوئی ڈاکٹر صاحب نے کی تھی مرزا قادیانی نے ۱۶ اگست ۱۹۰۶ء میں مفصلہ ذیل اشتہار دیا کہ: ”میں سلامتی کا شاہزادہ ہوں۔ کوئی مجھ پر غالب نہیں آسکتا۔ بلکہ خود عبدالحکیم خان میرے سامنے آسمانی عذاب سے ہلاک ہو جائے گا۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۵۹)

راقم ..... اب میرے معزز دوست مولوی عبدالماجد قادیانی فرمادیں کہ مطابق الہام کے مرزا قادیانی کے ڈاکٹر صاحب ہلاک ہو گئے یا خود بدولت اندر میعاد مقررہ ڈاکٹر صاحب کے ہلاک ہوئے اور ہمارے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ صرف اس امر پر غور کریں کہ ڈاکٹر صاحب نہ مدعی مجددیت نہ دعویٰ دارنبوت صرف الہام کے مدعی ہیں۔ مگر ان کی پیشین گوئی مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کیسی سچی ہوئی اور مرزا قادیانی کی پیشین گوئی ان کے مقابلہ میں کیسی صریح غلط ثابت ہوئی۔ جس سے مرزا قادیانی اپنے اقرار اور اپنے الہام کے رو سے کاذب ٹھہرے۔ سخت افسوس

ہے کہ ان صریح واقعات کے بعد بھی حضرات مرزائی پیشین گوئی کو معیار صداقت سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو کاذب اور مرزا قادیانی کو صادق مان رہے ہیں۔

بریں عقل و دانش بباہر گریست

نمبر ۹:..... اسی اشتہار میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شریعہ منزی کے سامنے صادق اور مصلح فنا ہو جائے۔“

راقم..... مولوی صاحب براہ دیانت نہر ماویں کہ جیسا مرزا قادیانی کا الہام تھا ویسا ہی وقوع میں آیا یا اس کے بالکل برعکس یعنی شریعہ اور مفتی عبدالحکیم خان کے سامنے صادق اور مصلح مرزا قادیانی تاریخ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور فنا ہو گئے۔ اب فرمائیے کہ صادق اور مصلح کون ہوا۔

نمبر ۱۰:..... اسی اشتہار میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں ایسی ذلت اور لعنت کی موت سے مریں کہ عبدالحکیم خان کی پیشین گوئی کی میعاد میں ہلاک ہو جاؤں۔ (مگر خدا کے فضل سے ہوا تو ایسا ہی مشیت سے کیا زور ہے)“

راقم..... خود ہمارے مولوی صاحب اور دیگر حضرات جماعت مرزائیہ اس الہام کی شدت و ثوق اور تاکید و تکرار پر ایک نظر ڈال کر ارشاد فرمائیں کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام درحقیقت نکلیا بالکل غلط ثابت ہوا۔ مشیت ایزدی نے الہام مرزا قادیانی کے خلاف دنیا پر ظاہر کر دیا کہ خود بقول جناب مرزا قادیانی جس ذلت اور لعنت کی موت سے اپنا مرنا متغیر اور تحقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی میں اس جہان سے کوچ فرمایا اور ذلت کی موت سے اس جہان سے سفر کیا۔ جس کو انہوں نے جھوٹے نشان قرار دیا تھا۔ کیا کوئی مثال ایسی شدید اور مؤکد الہام کے وقوع میں نہ آنے کی ابتداء آفرینش عالم سے تاہم مل سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ واللہ ہرگز نہیں۔ ثم باللہ ہرگز نہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی برگزیدہ رسول ایسی چنگلی سے خبر دے اور ہر بار مختلف عنوان سے بیان کرے اور پھر وہ خبر جھوٹی نکلے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فیصلہ آسانی جس نے مرزا قادیانی کی حالت کو ظاہر کر دیا۔ یہی خواہ مسلمانان عزیز میں اس میں خوب غور کرو اور اچھی طرح سمجھو۔

محمد عبدالرحمن قادری مجددی عظیم آبادی!

۱۔ شریعہ اور مفتی سے غرض مرزا قادیانی کی ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب تھے اور الہامی شان تشدد کو لچا کر میں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔

۲۔ اور صادق اور مصلح سے اشارہ مرزا قادیانی کا اپنی طرف تھا۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مجلد اول  
کتاب الفہم فی التفسیر  
تالیف مولانا محمد نعیم لدھیانوی

تالیف لدھیانوی

کلام خاتمہ

(مرزائیوں سے چند سوال)

(حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی)

بسم الله الرحمن الرحيم!

”ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الى ولم يوحى اليه شئ“ ﴿اور اس شخص سے زیادہ وہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔﴾  
 ”الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى“

## قادیان کا یوم تبلیغ اور اس کی حقیقت

تمام برادران اسلام کی اطلاع کے لئے عرض کیا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت کی طرف سے مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو تمام ہندوستان میں یوم تبلیغ منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جس کا مقصد غیر مذہب میں تبلیغ کرنے کی بجائے صرف مسلمانوں کو دینِ قیم سے نکال کر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا معتقد بنانا تھا۔ جو کہ جمہور اہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق خاتم الانبیاء ﷺ کی علانیہ توہین کا مترادف تھا۔ اسی سلسلہ میں ناظر دعوت و تبلیغ قادیان کی طرف سے ایک دو ورقہ پمفلٹ بھی شائع کیا گیا تھا۔ جس کا عنوان ”کیا آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت غیر تشریحی کے اجراء کا قائل کافر ہے“ تھا۔ جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت قبول کرنے میں جو بڑی دقت اہل اسلام کو امت مرزائیہ کے نقطہ نگاہ کے مطابق پیش آتی ہے کہ: ”مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آنحضرت ﷺ کے بعد چونکہ دعویٰ نبوت کفر ہے۔ لہذا آپ کا دعویٰ قابل قبول اور صحیح نہیں ہو سکتا۔“ کو دور کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور ﷺ کے بعد ہر مدعی نبوت تشریحی کافر ہے اور مدعی نبوت غیر تشریحی کافر نہیں ہے۔ آپ کی خاتمیت نبوت تشریحی کے اعتبار سے ہے۔ نبوت غیر تشریحی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ لیکن جناب مرزا قادیانی نبوت غیر تشریحی کے مدعی ہیں اور تشریحی نبوت کے مدعی کو مرزا قادیانی بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ناظر موصوف نے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی چند تحریریں بھی پیش فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض محدثین، اولیاء اللہ اور بزرگان امت رحمتہ اللہ علیہم کے چند نام تمام اقوال پیش فرما کر نادانقہ حال مسلمانوں کو اپنے دامِ تزویر میں لانے کی بے حد کوشش فرمائی ہے۔

ہم پہلے ناظر دعوت و تبلیغ قادیان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ان عبارات کے مطابق جو جناب نے اپنے پمفلٹ میں شائع فرمائی ہیں۔ حضور ﷺ کے بعد نبوت تشریحی کا مدعی کافر ہے اور نبوت غیر تشریحی کا مدعی کافر نہیں ہے۔ جیسا کہ

آپ کے نبوت کو تشریحی اور غیر تشریحی کی طرف منقسم کرنے اور مدعی نبوت تشریحی کو مندرجہ ذیل عبارت میں کافر قرار دینے سے ظاہر ہے۔ ”نبوت کی دو قسمیں ہیں۔ اول تشریحی جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئے احکام ہوں۔ دوم غیر تشریحی یعنی جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئے احکام نہ ہوں۔ (پمفلٹ ص ۱) ہم نبی ہیں۔ ہاں، یہ نبوت تشریحی نہیں جو کتاب کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے۔ ایسے دعویٰ کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ (پمفلٹ ص ۲) لیکن اگر ہم جناب مرزا قادیانی کو ان کی اپنی عبارات سے نئی شریعت اور نئے احکام لانے والا صاحب وحی اور صاحب شریعت یعنی تشریحی نبی ہونا ثابت کر دیں۔ پھر تو جناب مرزا قادیانی خود اپنے نیز آپ کے اور بزرگان ملت کے اقوال کے ان معنی کے مطابق جنہیں آپ پمفلٹ میں شائع فرما چکے ہیں۔ تشریحی نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے؟ یا پھر تشریحی نبوت کے کوئی اور ایسے معنی بیان کئے جائیں گے جس سے مرزا قادیانی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان ملت کے عائد کردہ کفر سے بچ جائیں۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے وام میں صیاد آ گیا

لیجئے! مرزا قادیانی نے خود ہی اپنی مندرجہ ذیل عبارات میں اپنے صاحب شریعت جدیدہ اور صاحب وحی یعنی تشریحی نبی ہونے کا دعویٰ فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کا انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم یا محدث ہیں۔ گو وہ کسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں۔ ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔“

(تریاق القلوب ص ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۲)

جس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ میں شریعت اور احکام جدیدہ لانے والا نہیں ہوں۔ اس لئے میرا منکر کافر نہیں ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے خود صاحب شریعت صاحب وحی اور اپنی وحی کو مثل قرآن کریم خطا سے پاک اور منزہ اور دیگر انبیاء کے برابر بلکہ ان سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ فرما کر اپنے اس مندرجہ بالا بیان کی خود تعلیل فرمادی ہے۔ جیسا کہ آپ کی مندرجہ ذیل عبارات سے ظاہر ہے۔

مرزا قادیانی تشریحی نبوت کے مدعی تھے

..... ”ماسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی

کے ذریعہ سے چند امر ونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے ہمارے مخالف طرم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔“ (اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۳۵) جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صاحب شریعت یعنی تشریحی نبی تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

.....۲

آنچه من بشنوم ز وحی خدا  
بخدا پاک دانش ز خطا  
بجو قرآن منزہ اش دائم  
از خطا ہمیں است ایمانم

(رسالہ نزول المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱ ص ۳۷)

یعنی میری وحی قرآن کریم کی طرح خطا سے پاک اور منزہ ہے اور یہی میرا ایمان ہے۔ اس میں قرآن کریم کی برابری کا دعویٰ ہے جو قرآن کریم کی مثل نہ لاسکنے کے سراسر مخالف ہے۔ دوسرا ارشاد ہوتا ہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بے  
من بعرفان نہ کمتر ز کے  
کم نیم زان ہمہ بروئے یقین  
ہر کہ گوید دروغ ہست ولعین

(رسالہ نزول المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱ ص ۳۷)

یعنی انبیاء اگرچہ بہت ہو چکے ہیں۔ لیکن خدا کی معرفت میں میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ یہ ایک یقینی امر ہے جو اس کو جھوٹا جانے اور لعنتی ہے۔

ان اشعار میں تمام انبیاء علیہم السلام کی برابری کا دعویٰ ہے۔ جس میں خاتم الانبیاء ﷺ بھی شامل ہیں جو صریحاً کفر ہے۔ تیسرا اعلان فرماتے ہیں۔

آنچه داد است ہر نبی راجام  
داداں جام رامہ اتمام

(رسالہ نزول المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱ ص ۳۷)

یعنی خدا نے اپنی معرفت اور احکام کا جو جام ہر نبی کو دیا ہے وہ تمام کا تمام مجھ اکیلے کو دے دیا ہے۔ چونکہ ہر نبی میں حضور ﷺ بھی شامل ہیں۔ اس لئے اس شعر میں مرزا قادیانی نے آپ سے افضل ہونے کا دعویٰ بھی فرما دیا ہے۔

ان مذکورہ بالا حوالہ جات کے علاوہ مرزا قادیانی نے ہدایت صاف اور واضح الفاظ میں بلا قید تشریحی یا غیر تشریحی یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی عبارات ذیل سے ظاہر ہے۔

۳..... ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“ (اخبار البدور، مارچ ۱۹۰۸ء)

۴..... ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

۵..... ”قادیان اس واسطے محفوظ رہے گا۔ (طاعون سے) کہ یہ اس کے رسول

کی تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔“ (دافع البلاء ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

امرو واقعہ یہ ہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اور مرزا قادیانی کے متعلقین میں سے بھی بہت سے لوگ مرے جو مرزا قادیانی کے کذاب ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے اپنے منکر کو کافر بنا کر اپنے مکفر، مکذب اور متردد کے پیچھے نماز ناجائز قرار دیتے ہوئے ساڑھے تیرہ سو سال کے اسلامی حکم حدیث نبوی ﷺ ”صلوا خلف کل برو فاجر (مشکوٰۃ)“ ﴿ہر

نیک اور گنہگار کے پیچھے نماز جائز ہے۔﴾ کو منسوخ فرما کر نیز اپنے آقا مولیٰ نعمت حکومت برطانیہ

کی خوشنودی مزاج کی خاطر جن کی اطاعت آپ کا جزو ایمان ہے۔ جن کے ساتھ جہاد کا خیال

تک رکھنا سخت بے ایمانی ہے اور جن کا زوال چاہنا خدا اور رسول کے دشمنوں کا کام ہے۔ حدیث

نبوی ﷺ ”الجهاد ماض الی یوم القیمة“ ﴿جہاد کا حکم قیامت تک جاری رہے گا۔﴾ پر

خط تمسیح کھینچ کر مسلمانوں اور ان کے بچوں تک کا جنازہ ناجائز اور ان کو لڑکی دینا ہندوؤں اور

عیسائیوں کو لڑکی دینے کے برابر قرار دے کر اس امر کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ مرزا قادیانی نئی

شریعت نئے احکام لانے والے صاحب شریعت اور صاحب وحی یعنی تشریحی نبوت کے مدعی ہیں۔

جیسا کہ تریاق القلوب اور اربعین کی مندرجہ بالا عبارات سے ظاہر ہے۔ ورنہ اپنے منکرین کو کافر

قرار دینے، مسلمانوں کے بچوں تک کے جنازے ناجائز، ان کے پیچھے نماز ناجائز، ان سے رشتہ

ناطہ ناجائز، نیز قیامت تک جہاد یعنی کافروں پر تلوار اٹھانے کو حرام قرار دینے کے کیا معنی۔ جیسا کہ

مرزا قادیانی اور ان کے قبیحین کی مندرجہ ذیل عبارات سے ظاہر ہے۔

## مرزا قادیانی کا منکر کافر ہے

..... ۱ ”جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا۔“ (یعنی میرا منکر کافر ہے)

(حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸)

..... ۲ ”کفر دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور

آحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا اور دوسرے یہ کفر کہ وہ مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) کو نہیں

مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں

(یعنی مرزا قادیانی کے) خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو

دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

ان عبارات کو تریاق القلوب کی مندرجہ بالا عبارت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے یہ امر

بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی تشریحی نبوت کے مدعی تھے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

ورنہ اپنے منکر کو خاتم الانبیاء کے انکار کرنے والے کے برابر کافر کیوں قرار دیتے۔ چنانچہ یہی

مذہب موجودہ امت مرزائیہ کا ہے۔ جیسا کہ خلیفہ نور الدین صاحب خلیفہ اول کے مندرجہ ذیل

اشعار سے ظاہر ہے۔

### مرزا قادیانی کے منکرین کے متعلق خلیفہ اول کا فیصلہ

اسم او اسم مبارک ابن مریم می نہند

آں غلام احمد است و مرزائے قادیاں

گر کے آرد شکے در شان او آں کافر است

جائے او باشد جنم بیشک وریب و گمان

(الحکم ۷ اگست ۱۹۰۸ء)

جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت میں شک کرنے والا بھی کافر اور

جنمی ہے تو اب منکر کے کافر اور جنمی ہونے میں کیا شک رہا۔ نیز جیسا کہ خلیفہ بشیر الدین محمود خلیفہ

ثانی جماعت قادیان کے ارشادات گرامی سے بھی ظاہر ہے۔

### مسلمانوں کے متعلق خلیفہ ثانی کا فیصلہ

..... ”محکم کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نبی ہیں۔ بلحاظ نفس

نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محمد ﷺ، محکم کیا ہے۔ نبی کا منکر اول تک ہم انکافرون حقا کے

فتویٰ کے نتیجے ہے۔“ (یعنی مرزا قادیانی کا منکر ویسا ہی پکا کافر ہے جیسا کہ حضور ﷺ کا منکر کافر



## مسلمان کافر ہے اور اس کا جنازہ جائز نہیں

۴..... ”غیر احمدی کے جنازے کے متعلق ہم نے حکمت کو دیکھنا ہے۔ محکم کیا ہے۔ مسیح موعود (مرزا قادیانی) نبی ہیں۔ بلحاظ نفس نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ، محکم کیا ہے نبی کا منکر ”اولئک ہم الکفرون حقا“ کے فتویٰ کے نیچے ہے۔ محکم کیا ہے کافر کا جنازہ جائز نہیں۔“

(الفضل ج ۲ ص ۱۲۳، ۱۲۲، مورخہ ۴، ۶، اپریل ۱۹۱۵ء، ص ۳، ۳، ۳۰)

”خاندان احمدی ہے۔ مگر بیوی نے بیعت نہیں کی تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔“

۵..... ”ایک شخص نے دریافت کیا کہ احمدی کی بیوی فوت ہو جائے اور اندیشہ ہے کہ غیر احمدی اس کا جنازہ نہ پڑھیں گے۔ مگر تمام گھر کے آدمی احمدی ہوں اور بیوی مذکور نے بیعت نہ کی ہو تو اس کے جنازہ کا کیا حکم ہے۔ فرمایا جس کا ایمان کامل نہیں۔ اس کے جنازے کا کیا فائدہ؟“

(الفضل مذکور ص ۲)

## مسلمان بچے کا جنازہ جائز نہیں

۶..... ”پس غیر احمدی کا بچہ غیر احمدی ہی ہوا۔ اس لئے اس جنازہ بھی نہ پڑھنا چاہئے۔“

(انوار خلافت ص ۹۳)

## مسلمان ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح کافر ہیں ان کو اپنی لڑکی مت دو

۷..... ”کیا کوئی غیر احمدیوں (مسلمانوں) میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو۔ مگر وہ تم سے اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے۔ مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔“

(ملائکہ اللہ ص ۳۶)

## جہاد قطعاً حرام ہے

۸..... ”ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو سچ موعود جانتا ہے۔ اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔“ (ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۷) ”بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔“

(شہادۃ القرآن ص ۸۱، خزائن ج ۶ ص ۳۸۰)



۹..... ” آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمادیا ہے کہ مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی کے) آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سو اب میرے ظہور (یعنی مرزا قادیانی) کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔“

اشتہار چندہ مینارۃ المسیح

۱۰..... ”یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں۔ نہ اس کی انتظار ہے۔ بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے۔“

(اشتہار و وجب الاظہار ۴ نومبر ۱۹۰۰ء ص ۱۱، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۵۷)

کیا یہ مسیح (مرزا قادیانی) پاگل ہے یا منافق؟

اچھے مسیح آئے کہ جس قوم کو دجال اور یا جوج ماجوج بتلائیں اور اس کو شکست دینے کے لئے اپنی مسیحیت ظاہر کریں اور اسی کی اطاعت اپنا جزو ایمان قرار دیں اور اسی سے قیامت تک کے لئے جہاد حرام فرمائیں۔

ایں کاراز تو آید و مرداں چینیں کند

مشہور مقولے کے مطابق آپ جیسے مدعی مسیحیت سے ایسے متعارض کلمات کی امید تھی جو آپ کے پاگل یا منافق ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ جیسا کہ آپ ہی کی مندرجہ ذیل کلام سے ظاہر ہے ”اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“

(ست بچن ص ۳۱، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۳)

مرزائیوں سے ایک سوال

کیا ابا جان کی اسی بہادری پر صاحبزادہ بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی قادیان اپنے پمفلٹ ”ندائے ایمان“ میں تبلیغ حق کے لئے مسیحی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے ابا جان کے مندرجہ بالا ارشادات گرامی کے مطابق مسلمانوں کے مقابلہ میں خون کی ندیاں بہانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے مندرجہ ذیل تبلیغی ٹریکٹ نمبر ۴ کی عبارت سے ظاہر ہے۔

”حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوؤں پر ایمان لاتے ہوئے احمدیت کو قبول کرو۔“



نبوت کرنے کی وجہ سے کافر ہے اور طالب معجزہ آپ کے آخری نبی ہونے میں شک کرنے کی وجہ سے کافر ہے اور یہی قول امام اعظم ابوحنیفہ کا ہے۔ (خیرات الحسان ص ۵۰) اور بعض نے (یہ تفصیل فرمائی ہے) کہ اگر دوسرے مسلمان نے اس مدعی نبوت کو عاجز اور رسوا کرنے کے لئے معجزہ طلب کیا ہے تو کافر نہیں ہے۔ (آپ کے خاتم النبیین ہونے کے کیا معنی ہیں) اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے یہی معنی ہیں کہ آپ کے بعد مطلقاً منصب نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا اور نہ کوئی نیا نبی آپ کے بعد پیدا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کو کوئی نیا منصب نبوت نہیں عطا کیا جائے گا۔ بلکہ آپ سے پہلے ان کو یہ منصب دیا جا چکا ہے اور وہ آپ سے پہلے پیدا بھی ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ایک صوبہ کا گورنر دوسرے صوبہ میں آئے تو وہ بذاتہ گورنر بھی ہے اور دوسرے گورنر کے احکام کا پابند بھی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں تشریف لائیں گے جو بذاتہ رسول ہیں۔ لیکن تبلیغ احکام میں آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے تاکہ آپ کی فضیلت کو دیگر انبیاء پر عملاً ثابت کر دیا جائے کہ اولوالعزم صاحب شریعت جدیدہ آپ کے ماتحت ہو کر آپ کے احکام کی تبلیغ فرمائیں گے اور کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں دی گئی۔

تحفہ شرح منہاج میں کلمات کفر شمار کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”اوجوز نبوة احد بعد وجود نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ علیہ السلام نبی قبل فلا یرد“ (از انکفار ص ۳۲) (یعنی یہ بھی کفر ہے) کہ کسی کی نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد جائز رکھے اور عیسیٰ علیہ السلام (چونکہ) آپ سے پہلے نبی بن کر منصب نبوت پا چکے ہیں۔ اس لئے ان کے نزول (دوبار آنے) سے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

ختم نبوت کے متعلق خود حضور ﷺ کا فیصلہ

بخاری اور مسلم میں ہے۔ حدیث ”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنه واجمله الا موضع اللبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون ویعجبون له ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنۃ وانا خاتم النبیین (رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء و مسلم فی الفضائل ج ۲ ص ۲۴۸) احمد فی مسندہ ج ۲ ص ۳۹۸، والنسائی والترمذی وفی بعض الفاظہ فکننت انا سدت موضع اللبنۃ و ختم بی البیان و ختم بی الرسل ہکذا فی لکنزا بن عہناکر)“ ﴿حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری مثال پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے نہایت اچھا گھر بنایا۔ مگر اس کے ایک گوشہ

میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لئے جوق جوق آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ (تاکہ مکان نبوت کی تعمیر پوری ہو جاتی) چنانچہ میں نے اس گوشہ کو پر کر دیا اور مجھ سے قصر نبوت مکمل ہوا اور میں خاتم النبیین ہوں یا مجھ پر تمام رسول ختم کر دیئے گئے۔ ﴿

جو لوگ مسئلہ ختم نبوت کو صرف نبوت تشریحہ کے ساتھ خاص کر دینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ امت مرزائی کا خیال ہے۔ اس حدیث کے مضمون پر غور فرمائیں کہ آنحضرت ﷺ نے کیسی بلوغ تمثیل کے ساتھ ان کے اوہام باطلہ کا استیصال فرما دیا ہے۔ کیونکہ اس تمثیل کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح پر ہے۔ جس کے ارکان انبیاء علیہم السلام ہیں خاتم الانبیاء ﷺ کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا۔ لیکن ایک اینٹ کی کمی اس کی تعمیر میں باقی تھی۔ جس کو خاتم الانبیاء ﷺ نے پورا فرما کر قصر نبوت کی تکمیل فرمادی۔ اب اس میں نہ تو نبوت تشریحہ کی اینٹ کی گنجائش ہے اور نہ غیر تشریحہ وغیرہ کی۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ مثل الانبیاء من قبلی کے عموم سے ظاہر ہے۔ جن میں انبیائے شریعت جدیدہ اور پہلے شریعتوں کے متبع سب شامل ہیں۔ کیونکہ ان سب کے مجموعہ ہی سے قصر نبوت بنا تھا۔ جس میں صرف ایک اینٹ کی کمی تھی جسے خاتم الانبیاء ﷺ نے پورا فرما کر ہمیشہ کے لئے اس کمی کا خاتمہ فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔

تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح الرحمن میں ہے:

حدیث نمبر ۲..... ”قال رسول الله ﷺ انا اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث“ ﴿ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں پیدائش میں تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے تھا اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ ﴿

اس حدیث نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی نیانبی مرزا قادیانی کی طرح آپ کے بعد مبعوث ہوگا تو بعثت میں آپ کا سب سے آخر ہونا صحیح ثابت نہ ہوگا۔ جو مضمون حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بخاری میں ہے:

حدیث نمبر ۳..... ”قال رسول الله ﷺ لم یبق من النبوة الا المبشرات“ ﴿ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ نبوت میں سے مبشرات کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ﴿ اس سے بھی زیادہ مفصل حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کنز العمال میں ہے:

حدیث نمبر ۴..... ”عن النبی ﷺ انه قال لا یبقی بعده من النبوة شئی

الامبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرويا الصالحة يراها المسلم او ترى له ﴿﴾ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد مبشرات کے سوا نبوت میں سے کوئی جزباتی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اچھی خواب جو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لئے کوئی اور دیکھے۔ ﴿﴾

حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ہر دو مذکورہ بالا حدیثوں نے بھی اس امر کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد ہر قسم کی نبوت تشریحی ہو خواہ غیر تشریحی سب کا خاتمہ ہے۔ اگر کوئی شخص مبشرات یعنی محض اچھا خواب دیکھنے کی وجہ سے نبی کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے تو پھر اس میں مرزا قادیانی کی کیا خصوصیت ہے۔ حضرت عائشہؓ ہی سے کنز العمال میں ہے:

حدیث نمبر ۵..... ”قال رسول الله ﷺ انا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الانبياء“ ﴿﴾ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں خاتم الانبياء ہوں اور میری مسجد مساجد انبياء کی خاتم ہے۔ یعنی چونکہ میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں اور میری مسجد مساجد انبياء کی ختم کر دینے والی ہے۔ اس لئے میرے بعد نہ تو کوئی نبی بنایا جائے گا اور نہ کوئی نبی کی مسجد بنے گی۔ ﴿﴾

اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ دنیا میں میرے بعد کوئی بھی مسجد نہ بنے گی۔ جیسا کہ امت مرزائیہ اس حدیث کے جواب سے تنگ آ کر ایسا غلط معنی کیا کرتی ہے۔

کیا ان تصریحات کے بعد کسی مسلمان بلکہ کسی منصف انسان کو یہ حق باقی رہتا ہے کہ حضرت عائشہؓ پر افتراء باندھے کہ آپ ختم نبوت سے انکار فرماتی ہیں۔ (العیاذ باللہ) جیسا کہ ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے اپنے پمفلٹ میں ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت عائشہؓ پر مرزائیوں کا جھوٹا الزام اور اس کا جواب

گو مذکورہ بالا صحیح اور معتبر روایات کی موجودگی میں: ”قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لانا نبی بعده“ ﴿﴾ یہ تو کہو کہ آپ خاتم الانبياء ہیں اور یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ﴿﴾ جیسی ضعیف روایت کا جواب (جسے حضرت عائشہؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے) دینے کی چنداں ضرورت اور حاجت نہ تھی۔ لیکن چونکہ قصر مرزائیت کا سنگ بنیاد ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے اپنی تحریر میں اسی روایت کو قرار دیا ہے۔ اس لئے اس کے متعلق جواباً عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ قائل ہیں جیسا کہ جمہور اور جمہوریت کا مذہب ہے اور لانا نبی بعده سے بظاہر اس عقیدہ کی نفی لازم آتی ہے جو جمہور امت کے خلاف ہے۔

اس لئے فرماتی ہیں: ”قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعده“  
یعنی آنحضرت ﷺ کو خاتم الانبیاء تو بے شک کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔  
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کے  
مندرجہ ذیل ارشاد سے حضرت عائشہؓ کی یہ مراد ظاہر ہے:

”حسبك اذا قلت خاتم الانبياء فاننا كنا نحدث ان عيسى عليه السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعده (درمنثور ص ۲۰۴ ج ۵)“  
﴿تمہارے لئے صرف خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے (لانی بعدہ کہنے کی ضرورت نہیں) کیونکہ ہم  
سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نکلنے والے ہیں۔ پس جب وہ نکلیں گے تو وہ آپ  
سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ حضرت مغیرہ کے اس ارشاد نے اس امر کو بھی واضح کر دیا کہ  
آنے والے عیسیٰ علیہ السلام سے وہی مراد ہیں جو آپ سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی ہوں  
گے۔ مرزا قادیانی ہرگز مراد نہیں جو کہ پہلے نہ اور بعد میں ہے۔﴾

حضرت عائشہؓ کے اس ارشاد کا یہ ہرگز فشاء نہ تھا کہ عائشہؓ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام  
کے سوا کسی اور نئے نبی یعنی مرزا قادیانی جیسے کے تشریف لانے کا عقیدہ رکھتی ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا  
حدیثوں سے ظاہر ہے جن کے روایت کرنے والوں میں خود عائشہؓ بھی ہیں۔ (طاہر سندھی کی مراد)  
یہی مراد اس عبارت کی ہے جسے ناظر صاحب موصوف نے سید محمد طاہر سندھی کے حوالہ  
سے کلمہ مجمع البحار سے نقل کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے الفاظ ”هذا ناظر الى نزول عيسى  
وهذا ايضا لا ينافي لانبى بعده“ یعنی حضرت عائشہؓ کا یہ قول ”لا تقولوا لانبى  
بعده“ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کو مد نظر رکھ کر کہا گیا ہے اور یہ حضور کے ارشاد  
”لانبى بعده“ کے بھی مخالف نہیں ہے۔ ظاہر ہے طاہر سندھی کا یہ ہرگز فشاء نہیں ہے کہ عائشہؓ  
صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور نبی کے آنے کی قائل نہیں۔ کیونکہ یہ امر عائشہؓ کی مذکورہ بالا  
روایات کے قطعاً مخالف ہے۔

اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی مراد

اور یہی مراد بزرگانِ ملت کے ان اقوال کی ہے۔ جنہیں ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے اپنا  
دعویٰ ثابت کرنے کے لئے پیش کیا ہے۔ کیونکہ اگر مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے بیان کردہ معنی  
نبوت کے مطابق ان بزرگانِ ملت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور نبی غیر تشریحی کا آنا  
ثابت ہوتا ہے اور روایت ابن ماجہ ”سوعاش ابراهيم لكان نبياً“ اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ

رہتے تو البتہ نبی ہوتے۔ کہ یہ معنی ہوتے کہ آپ کے بعد سچے نبی آئیں گے جو کہ حضرت انسؓ کے بیان کردہ معنی ”ولو بقى لكان نبياً لكن لم يبق لان نبىكم و آخر الانبياء“ اور اگر ابراہیم باقی رہتے تو نبی ہوتے۔ لیکن اس لئے باقی نہ رہے کہ تمام نبی آخری نبی ہیں کے قطعاً مخالف ہے تو ملا علی قاری بلا قید تشریحی آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر قرار نہ دیتے۔ جیسا کہ علامہ موصوف شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ: ”دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)“ ﴿اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی ﷺ کے بعد بالاجماع کفر ہے۔﴾

نیز علامہ موصوف شرح شمائل میں مہر نبوت کو نبوت کی طرف اضافت فرما کر بیت نبوت میں کسی آنے والے نبی کا داخلہ ممنوع نہ قرار دیتے۔ جیسا کہ شرح شمائل میں ہے۔ ”واضافة الى النبوة لانه ختم به بيت النبوة حتى لا يدخل بعده احد“ ﴿مہر نبوت کی اضافت نبوت کی طرف اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے سے محل نبوت پر مہر لگ چکی ہے۔﴾

یہاں تک کہ اس کے بعد کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ نیز آیت قرآنیہ ”لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا“ ﴿اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو البتہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔﴾ کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا کے سوا اور معبود بھی ہو سکتے ہیں۔

نیز ”لو كان للرحمن ولداً فانا اول العابدين“ ﴿اگر خدا کے لئے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔﴾ کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ قطعاً باطل ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا رولیتہ ابن ماجہ کے یہ معنی لینا کہ آپ کے بعد نبی ہو سکتے ہیں۔ بھی باطل ہے۔ ورنہ خدا کا شریک اور خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا۔ جو قطعاً باطل ہے۔

علامہ موصوف کی ان تصریحات نے محل نبوت پر مہر لگا کر مرزا قادیانی کی ایجاد کردہ نبوت تشریحی اور غیر تشریحی دونوں کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ (نبوت تشریحی اور غیر تشریحی کے بیان کردہ معنی غلط ہیں) نیز شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے نزدیک مرزا قادیانی کے بیان کردہ معنی نبوت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اگر کسی غیر تشریحی نبی کا آنا ثابت ہوتا تو اپنی کتاب (فتوحات مکہ ج ۳ ص ۵۱) پر مندرجہ ذیل تصریح فرما کر مرزا قادیانی اور ان کے اذنب و انیاب کی امیدوں پر ہمیشہ کے لئے پانی نہ پھیر جاتے۔ جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاوامر والنواهي فمن ادعا مما بعد محمد ﷺ فهو مدعى شريعة اوجابها الله سواء وانفق بها شرعنا او خالف“ یعنی آج اولیاء کے لئے نبوت اٹھ جانے کے بعد بجز تعریفات کچھ باقی نہیں رہا اور

امر و نواہی کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب جو کوئی محمد ﷺ کے بعد امر و نہی کا مدعی ہو (جیسے مرزا قادیانی اربعین نمبر ۳ ص ۷۶، ۷۷) وہ اپنی طرف وحی شریعت آنے کا مدعی ہے خواہ وہ وحی ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔

شیخ اکبر کی اس عبارت نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے پران کردہ معنی نبوت تشریحی اور غیر تشریحی غلط ہیں۔ بلکہ آپ کے بعد ”ہر مدعی نبوت خواہ اس کی وحی پہلی وحی کے مطابق ہو جسے مرزا قادیانی غیر تشریحی نبی فرماتے ہیں یا مخالف۔ جسے آپ تشریحی نبی قرار دیتے ہیں“ اصطلاح شریعت میں تشریحی نبی کہلاتا ہے۔ جو مرزا قادیانی نیز ناظر صاحب موصوف کے بیان کردہ معنی نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب شعرانی نے (الیواقیت والجوہر ص ۳۳ ج ۲) شیخ اکبر کی مندرجہ بالا عبارت پر عبارت ذیل ”فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والاضر بنا عنه صفحا“ ﴿پھر اگر وہ مدعی نبوت مکلف ہے یعنی مجنون وغیرہ نہیں تو ہم اسے قتل کریں گے اور اگر مکلف نہیں یعنی دیوانہ ہے تو اس سے اعراض کریں گے﴾ کا اضافہ فرما کر اس امر کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ امام موصوف کی عبارت مندرجہ پہنٹ کا وہ مطلب نہیں ہے جسے ناظر قادیان نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ایسی نبوت یعنی غیر تشریحی کے مدعی کو بھی امام موصوف واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ اکبر کی مندرجہ بالا عبارت پر امام موصوف کے اضافہ سے ظاہر ہے۔

شیخ اکبر کی مندرجہ بالا عبارت میں جب یہ امر طے کر دیا گیا ہے کہ ہر مدعی نبوت خواہ احکام جدیدہ لانے والا ہو خواہ پہلی شریعت کا تابع ہو کر دعویٰ نبوت کرنے والا ہو۔ اصطلاح شریعت میں تشریحی نبی کہلاتا ہے تو ناظر موصوف کا عارف ربانی عبدالکریم جیلانی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نیز علامہ لکھنوی کی نقل کردہ عبارات میں انقطاع نبوت تشریحی کا یہ معنی بیان کرنا کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے وغیر تشریحی نبی جو پہلی شریعت پر عامل ہو۔ آسکتا ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت نیز شیخ اکبر کی مندرجہ بالا تصریح کے قطعاً مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے اور یہ ان بزرگان ملت پر امت مرزائیہ کی طرف سے علانیہ احکام شرعیہ کی مخالفت کا جھوٹا الزام ہے۔

اسی طرح مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کی غیر متعلقہ عبارتوں کو اوّل آخر کاٹ کر غلط طریق پیش کرنے سے مولانا موصوف کے خلاف غلط فہمی پھیلاتا ہے۔ جس سے ناظر موصوف کی دیانت کا پتہ چلتا ہے۔ ورنہ مولانا مرحوم کا مقصد آنحضرت ﷺ کے کمالات



امر و نواہی کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب جو کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امر و نہی کا مدعی ہو (جیسے مرزا قادیانی اربعین نمبر ۳ ص ۷۶، ۷۷) وہ اپنی طرف وحی شریعت آنے کا مدعی ہے خواہ وہ وحی ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔

شیخ اکبر کی اس عبارت نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے پران کردہ معنی نبوت تشریحی اور غیر تشریحی غلط ہیں۔ بلکہ آپ کے بعد ”ہر مدعی نبوت“ خواہ اس کی وحی پہلی وحی کے مطابق ہو جسے مرزا قادیانی غیر تشریحی نبی فرماتے ہیں یا مخالف۔ جسے آپ تشریحی نبی قرار دیتے ہیں“ اصطلاح شریعت میں تشریحی نبی کہلاتا ہے۔ جو مرزا قادیانی نیز ناظر صاحب موصوف کے بیان کردہ معنی نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب شعرانی نے (الیواقیت والحوجرہ ص ۳۲ ج ۲) شیخ اکبر کی مندرجہ بالا عبارت پر عبارت ذیل ”فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والاضر بنا عنه صفحا“ ﴿پھر اگر وہ مدعی نبوت مکلف ہے یعنی مجنون وغیرہ نہیں تو ہم اسے قتل کریں گے اور اگر مکلف نہیں یعنی دیوانہ ہے تو اس سے اعراض کریں گے﴾ کا اضافہ فرما کر اس امر کا فیصلہ فرمادیا ہے کہ امام موصوف کی عبارت مندرجہ پمفلٹ کا وہ مطلب نہیں ہے جسے ناظر قادیان نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ایسی نبوت یعنی غیر تشریحی کے مدعی کو بھی امام موصوف واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ اکبر کی مندرجہ بالا عبارت پر امام موصوف کے اضافہ سے ظاہر ہے۔

شیخ اکبر کی مندرجہ بالا عبارت میں جب یہ امر طے کر دیا گیا ہے کہ ہر مدعی نبوت خواہ احکام جدیدہ لانے والا ہو خواہ پہلی شریعت کا تابع ہو کہ دعویٰ نبوت کرنے والا ہو۔ اصطلاح شریعت میں تشریحی نبی کہلاتا ہے تو ناظر موصوف کا عارف ربانی عبدالکریم جیلانی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نیز علامہ لکھنوی کی نقل کردہ عبارات میں انقطاع نبوت تشریحی کا یہ معنی بیان کرنا کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے وغیر تشریحی نبی جو پہلی شریعت پر عامل ہو۔ آسکتا ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت نیز شیخ اکبر کی مندرجہ بالا تصریح کے قطعاً مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے اور یہ ان بزرگان ملت پر امت مرزائیہ کی طرف سے علانیہ احکام شرعیہ کی مخالفت کا جھوٹا الزام ہے۔

اسی طرح مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کی غیر متعلقہ عبارتوں کو اول آخر کاٹ کر غلط طریق پیش کرنے سے مولانا موصوف کے خلاف غلط فہمی پھیلانا ہے۔ جس سے ناظر موصوف کی دیانت کا پتہ چلتا ہے۔ ورنہ مولانا مرحوم کا مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات

## مرزائیوں سے چند سوال

۱..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔ ”میرے زمانہ میں دنیا کی تمام قومیں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائیں گی۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) کیا ایسا ہو گیا؟

۲..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: ”میرے زمانہ میں مکہ مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو جائے گی۔“ (اعجاز احمدی ص ۲، خزائن ج ۱۹ ص ۱۰۸) کیا یہ کام ہو گیا؟

۳..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: ”میں دجال کو مسلمان بنا کر ساتھ لے کر حج کروں گا۔“ (ایام الصلح قاری ص ۱۳۷، خزائن ج ۱۳ ص ۲۱۶) کیا ایسا ہو گیا؟

۴..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: ”میں مدینہ میں روضہ نبویہ میں دفن ہوں گا۔“ (ازالہ ص ۴۷۰، خزائن ج ۳ ص ۳۵۲) کیا ایسا ہوا؟

۵..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔ ”عبداللہ آتھم پادری پندرہ ماہ میں (۶ ستمبر ۱۸۹۳ء تک مر جائے گا)“ (جنگ مقدس ص ۱۸۸) کیا ایسا ہوا؟

۶..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: ”مرزا احمد بیگ کی بیٹی سے میرا نکاح آسمان پر ہو چکا ہے۔ دنیا میں اگر یہ بیوی میرے پاس نہ آئے تو میں جھوٹا۔“ (شہادۃ القرآن ص ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶) کیا یہ منکوحہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے مطابق ان کے گھر میں آگئیں؟

۷..... مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: ”مجھ سے خدا نے فرمایا ہے۔ ”انما امرک اذا اردت شیئاً ان تقول له کن فیکون“ یعنی اے مرزا قادیانی تو جب کسی چیز کو موجود ہونے کا حکم دے گا تو فوراً ہو جائے گی۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) کیا ایسا دعویٰ کسی نبی نے کیا؟

۸..... مرزا قادیانی نے شائع کیا تھا کہ: ”مولوی ثناء اللہ اور میں ہم دونوں میں سے جو خدا کے نزدیک جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔“

(اشہارہ ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸)

مرزا قادیانی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو وفات پا گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب آج نومبر ۱۹۳۳ء تک زندہ ہیں۔ پھر تم کو مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں کیا شبہ ہے؟

نوٹ: ایک آنہ کا ٹکٹ آنے پر یہ رسالہ مفت روانہ کیا جائے گا۔ مؤلف رسالہ ہذا سے طلب فرمائیں۔ نیز رسالہ شعبان المعظم اور شب برأت کے احکام ایک آنہ کا ٹکٹ آنے پر

بندہ محمد نعیم عفا اللہ عنہ، مفتی لدھیانہ پنجاب!



بسم اللہ الرحمن الرحیم!

”الحمد لله الذي بعث الينا اشرف الرسل خاتم النبيين داعيا الى

اقوم السبيل بلسان عربي مبين فصله الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه

اجمعين وعلى الذين اتبعواهم باحسان الى يوم الدين“

اما بعد! واضح ہو کہ اس زمانہ میں جب کہ تمام باشندگان ہند خصوصاً اہل اسلام چند در چند مصائب میں مبتلا اور نہایت اہم افکار میں مشغول ہیں اور ایک مشترک مقصد نے ہندو اور مسلمانوں کو باہم متفق بنا دیا ہے۔ بعض اسلام کا نام لینے والے مگر درحقیقت اسلام کے دشمن اپنی معاندانہ حرکات میں اسی طرح منہمک ہیں جیسا کہ تھے۔ ان دشمنان اسلام میں مرزائی صاحبان کا نمبر شاید سب سے اول ہے۔ سبحان اللہ! مسلم و ہندو باہم متفق شدند لیکن مرزائیوں کا اہل اسلام ہنوز جنگ باقی است۔

ناظرین کو معلوم ہوگا کہ مارچ ۱۹۲۱ء میں جو عظیم الشان جلسہ اہل اسلام کا خاص مقام قادیان میں ہوا اور نامور علمائے ہندوستان نے اس دارالکفر والتفسیر میں کلمہ حق کو بلند کیا۔ کون مرزائی ہے جس کے سینے میں اس کا داغ نہ ہو اور جس کے دل میں اس کا خار حسرت نہ چبھا ہو۔ جلسہ تو بخیر و خوبی بڑی شان و شوکت سے ختم ہو گیا اور کسی مرزائی میں حتیٰ کہ مرزا قادیانی کے فرزند ار جند اور خلیفہ ثانی مرزا محمود میں جرأت نہ ہوئی کہ گھر سے باہر نکلتے اور علمائے اسلام کے مقابلہ میں آتے۔ البتہ جلسہ کے بعد اب اپنے گھروں میں بیٹھ کر زمین آسمان کے قلابے طار ہے ہیں اور رسالے لکھ لکھ کر سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنانے میں مشغول ہیں۔ چنانچہ فی الحال ایک رسالہ موسوم بہ ”خاتمہ مسیح آسمانی“ میاں اللہ دتہ صاحب قادیانی نے شائع کیا ہے جو اپنا نام اب عمر قادیانی ظاہر کرتے ہیں۔ برعکس نہند نام زنگی کا فور۔ اس رسالہ میں اپنے خانہ ساز و پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ تحدید کی ہے کہ ۳۱ جنوری تک اگر علمائے اسلام اس کا جواب نہ شائع کریں تو پھر ہمیشہ کے لئے حیات مسیح کے اثبات میں سکوت اختیار کریں۔ چنانچہ پیر بخش صاحب لاہوری سیکرٹری انجمن تائید الاسلام لاہور جو اصلی مخاطب اس رسالہ کے ہیں۔ انہوں نے فی الفور حسب ذیل اعلان اپنے رسالہ تائید الاسلام بابت ماہ جنوری میں شائع کر دیا ہے۔

۱۔ انجمن تائید الاسلام نے کئی رسالے اثبات حیات مسیح علیہ السلام میں اور کئی رسالے رد وفات مسیح علیہ السلام میں اور کئی ان کے رفع کے ثبوت میں کئی ان کے نزول کے بیان میں شائع ہو چکے ہیں۔ اللہ دتہ صاحب نے کسی کا جواب نہ دیا۔ صرف ان کی تقریر قادیان کا جواب دینا چاہئے۔

”برادران اسلام! قادیان سے ایک چیلنج موسومہ ”خاتمہ مسیح آسمانی“ میرے نام رجسٹری ہو کر آیا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کا جواب ۳۱ جنوری ۱۹۲۲ء تک دو۔ چیلنج کیا ہے ایک ذخیرہ خرافات اور ہفوات الجالبین اور سراسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہتک اور بے حرمتی ہے۔ میاں اللہ دتہ صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حیات مسیح کی تردید کر کے وفات مسیح ثابت کروں گا اور خاکسار کے دلائل کا (جو پہلے انجیل اور پھر قرآن اور احادیث نبوی سے پیش کئے گئے تھے) جواب دوں گا۔ مگر میاں اللہ دتہ صاحب نے میری ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ البتہ علمائے اسلام جو کہ جلسہ قادیان میں شامل تھے اور جنہوں نے تقریریں کی تھیں۔ ایک ایک کا نام لے کر ہتک آمیز اور خلاف تہذیب الفاظ استعمال کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہے اور ”من اکرم علماء امتی فاکرم منی ومن اخذ علماء امتی فاخذ لنی“ یعنی جس نے میری امت کے علماء کی عزت کی میری عزت کی اور جس نے ہتک کی میری ہتک کی۔

ارشاد نبی کریم ﷺ کی خوب مخالفت کی ہے۔ خاص کر میرے پر بہت ہی دل کی بھڑاس نکالی ہے اور دل کھول کر ہتک آمیز خلاف تہذیب کلمات منہ سے نکالے ہیں اور اصل مضمون زیر بحث حیات و وفات مسیح سے گریز کر کے یہودیانہ طرز ۷۲ سوالات من گھڑت ایجاد کر کے جواب طلب کیا ہے اور ایک آیت یا حدیث یا قول سلف صالحین کا بھی پیش نہیں کیا۔ جس میں لکھا ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر موت وارد ہو گئی ہے یا خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبیہ علیہ السلام کو مار دیا ہے۔ ہاں بالکل جھوٹ بلا دلیل لکھ دیا ہے کہ علمائے اسلام حیات مسیح ثابت نہ کر سکے۔ میاں اللہ دتہ صاحب کو واضح ہو کہ انجمن تائید الاسلام لاہور کی طرف سے ان کے چیلنج کا جواب دیا جائے گا۔ مگر میعاد ۲۱ دن کی اس تاریخ سے محسوب ہوگی۔ جس تاریخ کا آپ کا جواب موصول ہوگا۔ مگر پہلے آپ ذیل کے سوالات کا جواب دیں۔ آپ کے جواب آنے پر ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔

۱..... آپ نے ص ۸ پر لکھا ہے کہ جس وقت یہود نامعلوم یہ سوالات مسیح سے کریں گے تو مسیح کیا جواب دیں گے۔ آپ کے اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل یہودی ہے۔ آپ سائل کا مذہب بتادیں۔

۲..... خلیفہ صاحب قادیانی کی اجازت سے یہ چیلنج دیا ہے یا خود بخود۔

۳..... جناب اکمل صاحب، سید سرور شاہ صاحب، میر قاسم علی صاحب وغیر ہم کے مشورہ سے یہ ۷۲ سوالات کئے ہیں۔

۴..... جوابات یہودیوں کی کتاب سے دیئے جائیں یا مسلمانوں کی کتابوں سے۔

جواب کا منتظر پیر بخش سیکرٹری انجمن تائید الاسلام!“

اس مضمون کے بعد اب کسی کو حاجت میاں اللہ دتہ کے رسالہ کا جواب لکھنے کی نہ تھی۔

مگر چونکہ حضرت اقدس مخدوم و مطاع مسلمین جناب مولانا سید محمد علی صاحب موگیری دامت برکاتہم و عمت کو بھی مخاطب بنایا گیا ہے۔ اس لئے خانقاہ دین پناہ رحمانی سے ایک رسالہ بنام ”رسائل لاثانی“ شائع کر دیا گیا۔ جس میں علاوہ دوسری مفید اور کارآمد باتوں کے ان چودہ کتب و رسائل کے نام مع مختصر کیفیت درج کی گئی ہیں۔ جو علمائے اسلام کی طرف سے حیات مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں شائع ہو چکے ہیں۔ جن کے جواب سے تمام مرزائی عاجز و ساکت ہیں۔ ان میں بعض کتب وہ ہیں جو خود مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئیں اور وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ بعض کتب وہ ہیں جو ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین قادیانی کے وقت میں شائع ہوئیں اور وہ بھی ان کے جواب سے قاصر رہے۔

حق تو یہ ہے کہ اب مسئلہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام پر لب کشائی مرزائیوں کے لئے بالکل خلاف حیا و انصاف تھی۔ تا وقتیکہ وہ ان چودہ کتب کا جواب نہ دے لیں۔ جن میں زبردست براہین و دلائل آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے حیات مسیح علیہ السلام ثابت کی گئی ہے اور مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے جس قدر دلائل و وفات مسیح علیہ السلام کے متعلق پیش کئے تھے سب کا شانی و کافی جواب دے کر روز روشن کی طرح دکھا دیا گیا ہے کہ حیات مسیح علیہ السلام کا منکر نہ صرف اجماع قطعی کا مخالف بلکہ درحقیقت خدا اور خدا کے رسول خاتم الانبیاء ﷺ کا کذب ہے۔

رسائل لاثانی میں سو سے زائد ان کتب و رسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جن میں مرزائیوں کے خانہ ساز پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی کا کذاب و دجال ہونا اور خود اسی کے قول سے اس کا بد سے بدتر ہونا ثابت کیا گیا ہے اور ان کتب کا بھی کوئی مرزائی باوجود ایں ہمہ مشق یا وہ گوئی جواب نہیں دے سکا۔ مرزائیوں کو شرم کرنا چاہئے۔ اب وہ کس منہ سے مسلمانوں کے سامنے یہ لاف و گزاف بکتے ہیں۔ ”فاعتبروا یا اولی الابصار“

الغرض! اب اس رسالہ نوزائید کی طرف توجہ کرنے کی بالکل حاجت نہ تھی۔ کیونکہ جواب کافی بلکہ کئی ہو چکا تھا۔ لیکن محض اس خیال سے کہ ناواقفوں کو یہ کہہ کر بہکایا جائے کہ ہمارے بہتر مطالعات کا جواب نہ دیا گیا۔ یہ رسالہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ جس میں ایک نکتہ ہے اور روایت اور پڑھیک خاتمہ۔

## نکتہ یعنی ایک نہایت ضروری بات

جو مرزائیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے یہ ہے کہ مرزائیوں کا ایک خاص کید ہے جو انہوں نے اپنے خانہ ساز پیغمبر سے سیکھا ہے کہ کبھی حیات و وفات مسیح علیہ السلام کے مسئلہ کی چھیڑ دیتے ہیں۔ کبھی ختم نبوت کی بحث لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان مباحث کو مرزا قادیانی کی ذات سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ان مباحث میں مسلمانوں کو مشغول رکھ کر یہ موقع نہ دیں کہ مرزا قادیانی کے حالات سے ان کو واقفیت ہو اور اس کی وجاہت پر پردہ پڑا رہے۔

الفرض بالفرض کفرض الحمال مسیح علیہ السلام کی وفات مان لی جائے اور تمام دلائل قرآن و حدیث سے آنکھ بند کر دی جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تسلیم المکذوبات کہ نعوذ باللہ نبوت حضرت محمد ﷺ پر ختم نہیں ہوئی تو اس سے یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ایک جھوٹا اور مکار دغا باز نا خدا ترس خدا کے نبیوں کی توہین کرنے والا اور خود اپنے اقوال و افعال کی رو سے بد سے بدتر شخص تھا۔ مسیح موعود بن جائے اور خدا کا نبی و رسول ہو جائے؟

مان لو کہ ایک بادشاہ مر گیا اور اس کا تخت خالی ہے اور بادشاہت کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا تو اس سے یہ نتیجہ کیونکر نکلے گا کہ فلاں چمار یا بھنگلی جس میں نہ کسی قسم کی لیاقت ہے نہ قابلیت۔ بلکہ تمام وہ باتیں اس میں موجود ہیں جو منصب بادشاہی کے منافی و مخالف ہیں۔ اس بادشاہ کا قائم مقام اور تاج شاہی کا مستحق و مالک ہو جائے۔

کس نیاید بزیر سایہ بوم  
ورہما از جہان شود معدوم

لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب کوئی مرزائی ان سے حیات و وفات یا ختم نبوت کی بحث کرنا چاہے تو اس سے کہہ دیں کہ ان مسائل پر بحث اس وقت ہوگی جب تم مرزا قادیانی میں اوصاف نبوت ثابت کرو اور شریعت ربانی کی طرف سے مرزا قادیانی پر جو فرد جرم لگائی گئی ہے۔ اس کی صفائی پیش کر دو۔ ”وانسى لهم ذلك“

مرزا غلام احمد قادیانی کے اوصاف مذکورہ خصوصاً ان کے جھوٹ بولنے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے کے واقعات معلوم کرنے کے لئے منجملہ زائد از یکصد رسائل کے جو خانقاہ عالیجاہ رحمانی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس وقت صرف دو رسالوں کا نام لکھا جاتا ہے جو ہر شخص خصوصاً مرزائی صاحبان کو صرف محصول ڈاک کا ٹکٹ بھیجنے سے بلا قیمت مل سکتے ہیں۔ اول آئینہ

کمالات مرزا دوم چیلنج محمدیہ وصولت فاروقیہ۔

پہلا لطیفہ یعنی اللہ دتہ صاحب کے ۷۲ مطالبات

اللہ دتہ صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ پیر بخش صاحب سیکرٹری انجمن تائید الاسلام کی مطبوعہ ۱۶ صفحہ کی تقریر میں سے ایک تا تمام ٹکڑا ص ۵ سے نقل کر کے اس پر محض بے مغز و بے معنی ۷۲ سوالات قائم کر دیئے ہیں۔ بس یہی دو باتیں پورے رسالے کی کائنات ہیں۔

پہلے ٹکڑے کی حقیقت

یہ ہے کہ پیر بخش صاحب نے اس آیت سے حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔

”وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه“  
 ﴿نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ کو اور نہ صلیب دی ان کو لیکن مشابہ کر دیا گیا۔﴾ (عیسیٰ کے ایک دوسرا شخص) یہودیوں کے لئے اور نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ کو یقین کے ساتھ بلکہ اٹھالیا عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف۔ ﴿

واقعی یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ مسیح علیہ السلام کے مع جسم زندہ اٹھائے جانے پر دلالت کر رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے اور صلیب دینے، دونوں کی نفی کر کے فرمایا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے ان کو اٹھالیا۔ زبان عرب میں لفظ بل اضراب کے لئے آتا ہے۔ یعنی مضمون ما قبل کی نفی کر کے اس کے منافی مضمون ثابت کرنے کے واسطے اور رفع یعنی اٹھالینا قتل کے منافی جسمی ہوگا کہ زندہ مع جسم اٹھالینا مراد لیا جائے۔ ورنہ جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں کہ رفع سے یہاں مراد مرتبہ کا بلند کرنا ہے۔ اس صورت میں رفع منافی قتل کے نہ رہے گا۔ منافات چہ معنی قتل فی سبیل اللہ تو مرتبہ کی بلندی کا ایک اعلیٰ سبب ہے۔ باقی رہا مرزائیوں کا یہ کہنا کہ مقتول ہونا غیر انبیاء کے لئے باعث بلندی رتبہ ہے اور انبیاء کے لئے باعث ذلت اور شان نبوت کے خلاف ہے۔ ایک نامعقول یہودیانہ مقولہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہودیوں سے لیا ہے۔ دین اسلام نے قتل فی سبیل اللہ کو نبی غیر نبی سب کے لئے بلا تفریق باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ سید الانبیاء ﷺ فرماتے ہیں۔ ”انسی احب ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیے ثم اقتل ثم احیے ثم اقتل (بخاری)“ یعنی میں آرزو رکھتا ہوں کہ راہ خدا میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔

قرآن شریف میں ہے۔ ”ویقتلون النبیین بغیر حق“ اور ”وقتلہم الانبیاء بغیر حق“ یعنی یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا اور خاص سرور انبیاء ﷺ کے لئے



فرمایا۔ ”افائن مات او قتل انقلبتم علیٰ اعقابکم“ یعنی اگر محمد ﷺ کو موت آجائے یا وہ قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ قتل ہو جانا خاص کر راہ خدا میں ہرگز منافی شان نبوت نہیں۔ پس رفع کے معنی بلندی رتبہ لینا کسی طرح قتل کے منافی نہیں ہو سکتا اور لفظ بل بتا رہا ہے کہ یہاں رفع منافی قتل ہے۔ لہذا قطعاً ثابت ہو گیا کہ رفع سے مراد زندہ مع جسم اٹھا لینا ہے۔ یہ تقریر استدلال کی اس تقریر سے بالکل جدا ہے۔ جو رفع کی ضمیر سے کیا گیا ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر رہی ہے۔ جن کی طرف ”ماقتلوہ“ اور ”ماصلبوہ“ کی ضمیریں پھر رہی ہیں۔ تو جس طرح وہاں جسم و روح دونوں کے مجموعہ کی طرف ضمیر پھرتی ہے۔ اسی طرح رفع میں بھی دونوں کے مجموعہ کی طرف پھرنا قطعاً ہے۔

اللہ دتہ کا اعتراض اس مقام پر یہ ہے۔

اول ..... تو ”رفع الی السماء بجسده العنصری“ کے الفاظ آیت متذکرہ بالا میں دکھاؤ ورنہ کذب بیانی اور دھوکا دہی سے بچو۔ اب لے دے کر رفع پر رہی کہ رفع آسمان پر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں تو رفع کے ساتھ الی السماء موجود نہیں اور اگر ہو بھی تو تب بھی کوئی شخص رفع کے ہونے سے آسمان پر نہیں جاسکتا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث درج کرتا ہوں۔

”اذا تواضع العبد رفعه الله الی السماء السابعة رواه الخرائط فی مکارم الاخلاق عن ابن عباس“ خرائطی اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں ابن عباسؓ سے روایت کرتا ہے کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان پر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو (کنز العمال ج ۲ ص ۱۲۵)

اگرچہ ہماری تقریر بالا کے بعد اس اعتراض کی کچھ وقعت نہ رہی۔ کیونکہ ہمارا استدلال صرف رفع کے لفظ سے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی چند لطائف اس کے علاوہ علمی اغلاط کے حسب ذیل ہیں۔

..... یہ کہنا کہ جسدہ العنصری کا لفظ آیت میں ہے، معلوم ہوا کہ اگر صرف جسدہ کا لفظ بغیر قید عنصری کے ہوتی۔ تب بھی مرزائی نہ مانتے اور میں کہتا ہوں کہ بالفرض یہ الفاظ بھی ہوتے تب بھی مرزائی نہ مانتے۔ جیسی تاویلات بدتر از تحریفات مرزائیوں کا خانہ ساز پیغمبر کیا کرتا ہے۔ ان کا دروازہ تو اب بھی بند ہوتا۔ کہہ دیتا کہ جسدہ عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ صلیب سے اتار لئے گئے اور ان کے جسدہ عنصری کو یہ رفعت حاصل ہوئی کہ صلیب پر مرنا جو منافی شان نبوت ہے اس سے بچا لیا گیا۔ چنانچہ یہی اس کا قول بھی ہے۔

مرزائیوں کی یہ باتیں کفار مکہ کی باتوں کے مشابہ ہیں کہ وہ رسول خدا ﷺ سے کہتے تھے کہ لکھی لکھائی کتاب آسمان سے اتر آئے۔ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آپ کو نبی مانیں، خدا نے فرمایا کہ یہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہو جائیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں۔ سچ ہے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔

۲..... ایک روایت جو پیش کی ہے کہ اس میں رفع سے بلندی رتبہ مراد ہے۔ (قطع نظر اس سے کہ اس روایت کی صحت ثابت نہیں کی) ایک عجیب کارروائی ہے۔ کسی قرینہ کی وجہ سے کسی لفظ کے کہیں معنی مجازی مراد ہو جائیں تو کیا وہ لفظ اس معنی مجازی کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہی معنی مجازی مراد ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ لفظ اسد کے معنی شیر کے نہیں بلکہ بہادر آدمی کے ہیں۔ اور مثال میں یہ مقولہ پیش کر دے رايت اسد ایرمی یعنی میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تیر مار رہا تھا تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ اسد کے حقیقی معنی شیر کے نہیں ہیں اور یہ لفظ ہمیشہ بہادر آدمی ہی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آدمی کے معنی محض یرمی کے قرینہ سے لئے گئے۔

بالکل اسی طرح کنز العمال کی روایت مذکورہ میں رفع کے معنی رتبہ کی بلندی کے مجازاً بوجہ قرآن کے لئے گئے ہیں۔ منجملہ اور قرآن کے ایک بہت بڑا قرینہ ہے۔ خواہ وہ روایت ہے جو کنز العمال میں روایت مذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال مذکور ہے۔ وہی ہذہ ”من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين“ اس روایت میں صاف درجہ کا لفظ مذکور ہے اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ الحدیث ”يسفر بعضه بعضا“ مگر میاں اللہ دتہ نے اس حدیث کو نقل نہ کیا۔ اب بتاؤ کہ دھوکا دہی یہ ہے جو تم نے کیا وہ جو تم مسلمانوں پر تہمت رکھتے تھے؟ حقیقت و مجاز میں تمیز نہ کرنا مرزائیوں کا موروثی شیوہ ہے۔ بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ معنی حقیقی کس کو کہتے ہیں اور معنی مجازی کس کو موضوع لہ اور مستعمل فیہ میں کیا فرق ہے۔ معنی حقیقی کیونکر ثابت کئے جاتے ہیں اور مجازی کیونکر۔

نفس حکایت

راقم حروف سے اوٹ ایک مرزائی سے اسی آیت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ مرزائی صاحب کہنے لگے کہ قرآن میں رفع کا لفظ جسم کے اٹھانے کے لئے اگر کہیں بھی دکھا دیجئے تو میں مان لوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اٹھالیا گیا۔ اس ناچیز نے یہ آیت پڑھی ”ورفعنا فوقکم الطور“ یعنی ہم نے تم پر کوہ طور کو اٹھایا۔ مرزائی صاحب نے فرمایا کہ کوہ طور تو جسم بیجان ہے۔

کہیں جاندار جسم کے لئے یہ لفظ دکھائیے۔ تو میں ضرور مان لوں گا۔ ناچیز نے یہ آیت پڑھی۔  
 ”ورفع ابویہ علی العرش“ یعنی یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اٹھایا۔ ”فبہت  
 الذی کفر“

۳..... یہ کہنا کہ اب لے دے کر رفعہ پر رہی کہ رفعہ آسمان پر ہوتا ہے۔ کس قدر  
 ابلہ فریب بات ہے۔ کس نے کہا کہ رفع کے معنی آسمان پر اٹھانے کے ہیں اور کس نے کہا کہ  
 صرف رفع کا لفظ مدار استدلال ہے۔ رفع کے معنی تو اونچا کرنے کے ہیں۔ آسمان پر اٹھانا الہ کے  
 لفظ سے مفہوم ہوتا ہے۔ جس کی توضیح احادیث میں ہے۔

ابھی لطائف اس اعتراض کے بہت ہیں۔ مگر نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔  
 دوسرے ٹکڑے کی حقیقت یہ ہے کہ پیر بخش صاحب نے اس آیت کریمہ سے حیات مسیح علیہ السلام  
 ثابت کی ہے۔ ”وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ“ اور نہیں اہل کتاب  
 میں سے کوئی مگر یہ کہ ضرور ضرور ایمان لے آئے گا۔ عیسیٰ پر ان کے مرنے سے پہلے۔ ﴿

یہ آیت بھی صاف بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں ہیں۔ ان کے مرنے  
 سے پہلے یہودیوں کا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ مرے نہیں تو کہاں ہیں  
 اور دنیا میں کیونکر آئیں گے اور یہودی ان پر کیسے ایمان لائیں گے۔ یہ سب باتیں احادیث میں  
 مذکور ہیں۔ یہ آیت صرف حیات کی دلیل ہے۔

دقیقہ

اس مقام پر تین چیزیں جدا جدا ہیں۔ اول، مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا۔ دوم، مسیح علیہ  
 السلام کا زندہ مع جسم آسمان پر اٹھالیا جانا۔ سوم، پھر دوبارہ ان کا دنیا میں نازل ہونا۔ آیات قرآنیہ  
 میں پہلی چیز تو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور دوسری اور تیسری چیز آیات قرآنیہ میں  
 اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ احادیث صحیحہ میں جو حدوتہ کو پہنچ گئی ہیں۔ البتہ تفصیل  
 و توضیح کے ساتھ مذکور ہے۔ مرزائی صاحبان اپنی بے تمیزی سے ان تینوں چیزوں میں کچھ فرق نہیں  
 کرتے اور عجب غلط بحث کر دیتے ہیں۔ جہاں حیات مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں کوئی آیت  
 پیش کی گئی تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ اس میں آسمان کا لفظ تو ہے نہیں۔ اس میں دوبارہ نزول کا تو ذکر  
 ہی نہیں۔ یہ سب اسی بے تمیزی کا نتیجہ ہے۔

اب سنئے! اللہ وہ صاحب اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں اور کیسے نفیس بہتر مطالبات  
 قائم فرماتے ہیں۔ میں ان کی پوری عبارت سے بلفظ نقل کئے دیتا ہوں۔ اگرچہ فضول طول ہوگا۔

ملا۔ اور اس قدر تو معلوم ہو جائے گا کہ حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلہ نے مرزائیوں کو س  
 یہاں پر یہ دیکھا ہے اور اس مسئلہ پر وہ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کے دماغ کی کیا حالت ہو  
 پائی ہے۔ ان ہنتر سوالات کا مختصر مختصر جواب بھی حاشیہ پر انشاء اللہ تعالیٰ دے دیا جائے گا۔

دوسری دلیل جو آپ نے اپنی تقریر کے ص ۴ میں درج فرمائی ہے وہ آپ کی وہی پرانی  
 رام بہانی ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جس کو اہل حدیث کے ایڈووکیٹ محمد حسین بنا لوی نے لدھیانہ میں  
 حضرت اقدس کے سامنے پیش کرنا چاہا تو ایک شخص احمدی ل ہو گیا۔ پھر اسی آیت کو محمد بشیر سہوانی  
 نے دہلی میں پیش کرنا چاہا تو لوگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کیوں وہ جانتے تھے کہ یہ آیت  
 پیش کرنے سے ہم اعتراضات کا یوں بے طرح تختہ مشق بنیں گے کہ یہ روسیای ۳ جو لک  
 وارپالس سے کم نہیں۔ الہی یوم القیامہ دھوئے نہیں دھلے گی۔ وہ تمام اعتراضات آج ہدیہ  
 ناظرین کئے دیتا ہوں۔ وباللہ التوفیق!

آپ (یعنی پیر بخش صاحب) فرماتے ہیں۔ اسی حیات مسیح کی تصدیق قرآن شریف  
 بھی فرماتا ہے۔ ”وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته“ یعنی کوئی اہل کتاب  
 میں سے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے گا۔ اس کی موت سے پہلے۔ جس کا مطلب یہ ہے  
 کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور کوئی اہل کتاب یعنی یہود اور  
 نصاریٰ سے نہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور عیسیٰ علیہ السلام  
 ان پر قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ (بلفظ سطر ۱۸:۲۱)

۱۔ پیش کرنا چاہا اس پر تو ایک شخص مرزائی ہو گیا اور شاید پیش کر دیتے تو سارا لدھیانہ  
 مرزائی ہو جاتا۔ لعنة الله على الكاذبين۔

۲۔ مطبوعہ تحریرات کے خلاف بھی جھوٹ بولتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی۔ خیر یہ تو سنت  
 تمہارے پیغمبر کی ہے۔ رسالہ الحق الصریح مطبوعہ انصاری دہلی دیکھو۔ جناب مولانا محمد بشیر صاحب  
 مرحوم نے یہ آیت پیش کر دی تھی۔ پوری تقریر ان کی رسالہ مذکورہ میں درج ہے۔ جس کو سن کر  
 مرزا غلام احمد قادیانی اپنے عزیز کی بیماری کا جھوٹا بہانہ کر کے دہلی سے بھاگ گیا۔ غضب تو یہ ہے  
 کہ تم خود اپنے پیغمبر کی چھپوائی ہوئی روئیداد مباحثہ دہلی کے بھی خلاف لکھ رہے ہو۔ دیکھو الحق  
 مطبوعہ قادیان۔

۳۔ یہ روسیای تمہارے پیغمبر اور اس کے دونوں خلیفہ کے لگ چکی ہے۔ اس سے تم کو

تجربہ

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اول تو آپ نے ترجمہ ہی نہایت غلط کیا ہے۔ واللہ  
 اعلم آسمان پر اٹھائے گئے کس آیت کا ترجمہ ۱ ہے۔ خیر بہر کیف کچھ بھی ہو ہمیں آپ کا ترجمہ  
 منظور ۲ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نزول مسیح کے وقت سے لے کر ان کے مرنے تک تمام  
 یہود و نصاریٰ کا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ  
 جب تمام یہود و نصاریٰ مسلمان ہو جائیں گے تو ”جاعل الذین اتبعوک فوق الذین  
 کفروا الی یوم القیامۃ“ کی پیش گوئی ۳ کس طرح پوری ہوگی۔ جب کہ ان تاکید یہ اور  
 نون ثقیلہ ہے اور نون ثقیلہ شاذ و نادر کے طور پر بھی یہود کو باہر نہیں رہنے دیتا۔ دوسری بات جو میں  
 آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نزول مسیح کے وقت اگر یہودنا مسعود بغیر کسی قسم کی  
 حیل و حجت کے اس کو قبول کر لیں گے تو کیا ۴ وجہ ہے کہ وہ اب قبول نہیں کرتے۔ آپ تو اس  
 بات کا جواب جب دیں گے اور جو بھی دیں گے اس وقت انشاء اللہ تعالیٰ غور کیا جائے گا۔

فی الحال یہودیوں کا جواب درج کرتا ہوں وہ اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ  
 سلاطین باب ۲ درس گیارہ میں لکھا ہے۔ ”ایلیاہ بگولے میں ہو کر آسمان پر جاتا رہا“ اور ایلیاہ کی  
 نسبت ملاکی نبی نے اپنی کتاب کے باب ۴ درس ۵ میں یوں پیش گوئی کی ہے۔ ”دیکھو خداوند کے  
 بزرگ اور ہولناک دن آنے سے میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ سو جب تک ایلیاہ نہ آئے  
 مسیح کا آنا محال بلکہ بعید از خیال ہے۔“ باز آدم بر سر مطلب۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر مسیح علیہ

۱۔ یہ تو ترجمہ نہیں مطلب کے لفظ سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تم کو ترجمہ و مطلب کا  
 فرق بھی معلوم نہیں تو مصنف بننے کی ہوس کیوں کی۔

۲۔ منظور کیوں نہ ہوتا پیر بخش صاحب نے اس کو بائبل سے ثابت کر دیا۔ جس پر ایمان  
 رکھنے کی تمہارے پیغمبر نے تاکید کی ہے۔

۳۔ یہ پیشین گوئی تو اس حالت میں پوری نہ کہی جائے گی کہ متبعین اور کافرین دونوں  
 موجود ہوں اور متبعین کو کافرین پر فوقیت نہ ملے اور جب کہ دونوں فرقہ موجود نہ رہیں یا دونوں میں  
 سے ایک موجود نہ ہو تو پیشین گوئی کے پورے ہونے میں کیا خلل؟ ذرا ہوش کی باتیں کیجئے۔ پھر الی  
 یوم القیامۃ کا لفظ بمعنی ابد بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تحدید خاص مقصود نہیں ہوتی۔

۴۔ ایسے امور کی وجہ سے ہمیں پوچھ سکتا ہے جو خدا اور خدا کی قدرت و وسیلت پر ایمان  
 رکھتا ہو؟ اور پھر یہاں تو ظاہری وجہ بھی موجود ہے۔ یعنی ان کے نزول کا مشاہدہ۔

السلام بقول آپ کے آسمان سے تشریف لے آئیں تو یہودی تو یقیناً ۱۔ نہیں مانیں گے۔ کیونکہ وہ اب تک الیاس کا انتظار کر رہے ہیں اور سخت مضطرب ہیں کہ دیکھیں وہ کب آسمان سے اترے۔ اب اگر مسیح آسمان سے اتریں تو انکو نصف النہار کی طرح یقین ہو جائے گا کہ ایلیاہ یقیناً یقیناً آسمان ہی پر گیا ہے اور عنقریب آئے گا۔ کیونکہ مسیح جو آسمان پر سے آ گیا ہے۔ اب اگر یہودیوں نے وہی سلاطین کی پیش گوئی پیش کی کہ تم کو تو ایلیاہ کے بعد آنا تھا۔ پہلے کیوں آ گئے تو وہ کیا جواب دیں گے۔ نیز اگر کہیں کہ تمہاری بابت تو مسیحیہ نبی نے اپنی کتاب کے باب ۷۷ میں یوں پیشین گوئی کی تھی کہ: ”ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور اس کا نام عمانوئیل رکھے گی۔“ آپ بجائے کنواری کے پیٹ سے نکلنے کے آسمان سے کیسے تشریف آور ہوئے۔ اب اگر مسیح علیہ السلام اپنی آمد اولیٰ کا ذکر کریں تو ان کا آمد ایلیاہ کا سوال ۲ بحال ہے۔

اب بتاؤ مسیح علیہ السلام یہودیوں کو کیا جواب دیں گے۔ آخر وہ بھی دماغ ۳ رکھتے ہیں اور ان میں عقل بھی ہے۔ قصہ مختصر اب میں پوچھتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام یہودیوں سے کس طرح جان چھڑائیں گے اور اگر یہودیوں نے کہا کہ جائیے آپ واپس تشریف لے جائیے اور براہ نوازش ایلیاہ کو بھیجئے۔ کیونکہ سلاطین سے ثابت ہے کہ وہ بھی آسمان پر ہے اور اگر تم خود آسمان سے آ گئے ہو تو وہ کیوں نہیں آ سکتا۔ لہذا اب آپ جائیے اور انہیں بھیج دیجئے۔ بعد میں اب اپنے وقت پر تشریف لائیے۔ لیکن یاد رکھئے آپ کی نسبت مسیحیہ نبی کی پیش گوئی ہے کہ وہ کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ لہذا اگر آپ آسمان سے آئیں گے تو تب بھی قابل قبول نہ ہوں گے۔ کیونکہ

۱۔ یہودی یقیناً یقیناً مان جائیں گے کہ ان کا عقیدہ نزول الیاس علیہ السلام کا غلط تھا اور ان کی بائبل محرف تھی۔

۲۔ آمد ایلیاہ کا سوال یہودی ہرگز نہ کریں گے۔ کیونکہ ان کو بائبل کے محرف ہونے کا یقین ہو جائے گا اور بالفرض تمہارا جیسا کوئی یہودی یہ سوال بھی کرے تو مسیح علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے بے حیا تو بائبل کا حوالہ میرے سامنے دیتا ہے۔ جس کا محرف ہونا علمائے اسلام نے ایسے زبردست دلائل سے ثابت کر دیا تھا کہ تیرے اسلاف سب مہبوت ہو گئے تھے تو اس جواب سے وہ یہودی کس طرح چان چھڑائے گا۔

۳۔ یہاں سے لے کر بہت دور تک مکرر اور فضول باتوں کے علاوہ خدا کے نبی اولوالعزم حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے۔ جس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے کہ جزاک اللہ جزاء وافیقاً

آپ کے لئے کنواری کے پیش سے نکلنا مقدر ہو چکا ہے اور اگر کہو کہ میں وہی مسیح ہوں جو اب سے ۱۹۲۱ء برس پہلے مریم دوشیزہ کے پیٹ سے نکلا تھا تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے کہ ایلیاہ کے آنے سے پہلے ہی نکل آئے اور اب بھی آنے میں جلدی کی۔ لہذا تم کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ کیا ہم سلاطین اور یسعیاہ اور ملاکی نبی کی کتابوں کو جلا لیں۔

نیز بتاؤ کہ آداوولی میں اگر تم ہی مریم کے پیٹ سے نکلے تھے تو تمہارے لئے میکہ نبی نے اپنی کتب کے باب ۶ میں یسعیاہ نے باب ۴ درس دوم میں اور یرمیاہ باب ۲ درس ۵ میں تجھے اقبال مند عادل بادشاہ لکھا ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ آداوولی میں قابل قبول نہ تھے۔ لہذا آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ براہ نوازش تشریف لے جائیے کہ خیر اسی میں ہے۔ ورنہ ابھی صلیب پر کھینچ دیں گے اور تم پڑے ایلی ایلی لیا لیا پکارو گے۔ آپ جائیے اور ایلیاہ کو بھیجئے تا وہ آپ کا راستہ صاف کرے۔ بعد میں کسی کنواری کے پیٹ میں سے ہو کر آئیے اور زمین میں سے برآمد ہو جائیے۔ تب کہیں جا کر آپ قابل قبول ہوں گے۔ ایسے اناپ شناپ دعاوی اور بے موقع دیدار دینے سے کام نہیں بنے گا۔ ہاں سبب سے تشریف لا۔ ئے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ۳ اعظم ہونے کے دعویدار ہیں۔ لہذا ہمیں ظالمودی اس پیش گوئی کا مطلب بھی سمجھاتے جائیے۔ جس میں دو مسحوں کا جدا گانہ ذکر ہے۔ پس اگر آپ پرانے مسیح ہیں تو بھی قابل قبول نہیں۔ کیونکہ دوسرے مسیح کا وجود ہی الگ ہے اور اگر نئے ہو یعنی پہلے مسیح تم ہی ہو تو پھر تمہارا کنواری کے پیٹ سے برآمد ہونا ضروری ہے اور تم آسمان پر سے ہو۔ خواری کرتے ہوئے آئے ہو۔

۱۔ بیشک یہ کتابیں اگر بالفرض محرف بھی نہ ہوتیں تو حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی تشریف آوری کے بعد بیکارتھیں۔ جس کی شان یہ ہے کہ: ”لوکان موسیٰ حیالما وسعه الا اتباعی“ یعنی موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو سوامیری پیروی کے چارہ کار نہ ہوتا۔

۲۔ چلئے اب تو صاف معلوم ہو گیا کہ یہودی انکار مسیح علیہ السلام میں بے قصور ہیں۔ کیونکہ آداوولی میں بھی ازروئے بائبل قابل قبول نہ تھے اور چونکہ مرزائی بھی جعظیم مرزا بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا مرزائی بھی مسیح علیہ السلام کے آداوولی کے منکر ٹھہرے۔ اب تو مرزا قادیانی کی یہودیت بالکل آشکارا ہو گئی۔

۳۔ اے یہودیوں کے وکیل اگر تو سچا ہے تو حضرت مسیح کا مدعی خلافت موسوی ہونا قرآن شریف یا حدیث سے ثابت کر۔ نعوذ باللہ وہ مستقل پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ مگر یہودیوں کو قرآن وحدیث سے کیا واسطہ؟

اب میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت یہودنا مسعود یہ سوالات حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کریں گے تو:

- .....۱ مسیح علیہ السلام کیا جواب لے دیں گے۔
- .....۲ گرنہیں دیں گے۔ جیسا کہ یقیناً نہیں دیں گے تو کیا واپس تشریف لے جائیں گے۔
- .....۳ اورواپس تشریف لے جائیں گے تو کیا فرشتوں کے کندھوں پر یا کسی غبارہ اور ہوائی جہاز میں۔
- .....۴ اس ناکام واپسی کے بعد از نزول کی خبر قرآن شریف اور احادیث کے کن کن مقامات سے ثابت ہے۔
- .....۵ اور اگر بفرض محال وہ آسمان پر واپس چلے بھی جائیں تو کیا کسی کنواری (نعوذ باللہ کس قدر فحش گستاخی ہے) کو بھی ہمراہ لے جائیں گے یا یہیں کسی دو شیزہ کے حلق میں گھس جائیں گے۔
- .....۶ اور اگر گھسیں گے تو ہوا بن کر یا کسی اور طریق سے۔ کیونکہ یہودیوں کے نزدیک مسیح علیہ السلام کا کنواری کے پیش سے نکلنا مقدر ہو چکا ہے۔
- .....۷ یہ کنواری کون ہوگی۔ اس کی ولدیت قومیت سکونت قرآن کریم اور احادیث سے کہاں بیان کی ہے۔
- .....۸ اور اگر کہو کہ آمد مسیح بہر کیف نزول ایلیاہ کے بعد ہے۔ وہ دو الگ الگ مسیحیوں کے وجود کے قائل ہیں اور دونوں کی آمد بعد از نزول ایلیاہ ہے۔ پس کہو کہ مسیح ایلیاہ کو جا کر بھیجیں گے یا نہیں۔
- .....۹ اگر بھیجیں گے تو آپ بھی ان کی اتباع کریں گے یا نہیں۔
- .....۱۰ اور اگر کرو گے تو مسیح اور محمد ﷺ اور انجیل اور قرآن پر آپ کا ایمان ہوگا یا نہیں۔

۱۔ حواشی سابقہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہودی ایسے لاطائل ان سے کر ہی نہ سکیں گے۔ کیونکہ ان کو بائبل کا محرف وغیر معتبر ہونا تسلیم ہے اور پھر تسلیم کرنا پڑے اور اگر تمہارا جیسا کرے بھی تو حضرت مسیح علیہ السلام کو تکلف فرمانے کی حاجت نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ بائبل کا محرف ہونا ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں۔

۲۔ یہ خوب کبھی مسیح علیہ السلام کو بھی تم نے مرزا سمجھا ہے۔ نبوت و رسالت کوئی ٹیل کس ہے۔ تمہارا ایمان کسی سچے نبی پر ہوتا تو تم کو شان نبوت معلوم ہوتی۔



- ۱۱..... اگر ہوگا تو کیوں۔ کیونکہ ایلیاہ کا نہ آنا مسیح اور دوجی کے آنے میں مانع ہے۔
- ۱۲..... اس صورت میں انجیل اور قرآن شریف کو کس کی طرف منسوب کرو گے۔
- ۱۳..... اور اگر ان پر ایمان نہ ہوگا تو کیا تم یہودی کہلاؤ گے یا مسلمان؟
- ۱۴..... اگر مسلمان کہلاؤ گے تو کیوں؟
- ۱۵..... باز آدم، برسر مطلب اور اگر مسیح ایلیاہ ۲ نہ پہنچیں گے تو آپ پھر آئیں گے یا نہیں۔
- ۱۶..... اگر آئیں گے تو یہودی پھر نہ مانیں گے۔
- ۱۷..... اگر یہودی نہیں مانیں گے تو قرآنی پیش گوئی پوری ہوگی یا نہیں۔
- ۱۸..... اب پوری نہ ہونے کی صورت میں اس کی کیا تاویل کرو گے۔
- ۱۹..... اور اگر نہیں آویں گے تو قرآن کریم اور احادیث کی پیش گوئیاں جو دربارہ مسیح ہیں ان کا کیا مطلب سمجھا جائے گا۔
- ۲۰..... اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ آئیں گے تو غلط ہے۔ اگر یہ مانو کہ نہیں آئیں گے تو آنحضرت ﷺ کو صادق سمجھو گے یا (معاذ اللہ) دروغگو۔
- ۲۱..... ناکام واپسی بعد از نزول کے بعد نزول کا ذکر قرآن کریم اور احادیث میں کہاں کہاں پر آیا ہے؟
- ۲۲..... جاتے وقت مسیح اپنی تیسری بار آنے کا وقت اور علامات کیا کیا بتائیں گے۔
- ۲۳..... اگر یہی علامات بتائیں گے جو اب بہت سی ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ جن کو تو اب صدیق حسن خان صاحب بھی مانتے ہیں تو یہ ان کے نزول کا وقت ہے۔ مگر اس وقت میں تو وہ ایلیاہ کو بھیجیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ وقت اور علامات جو آپ اپنے تیسری بار آنے کے متعلق بیان کریں گے خود تراشیدہ ہوں گی۔ پس ان من گھڑت ڈھگوسلوں کو
- 
- ۱۔ تمہارے نزدیک مانع ہے۔ لہذا تمہارا اور تمہارے مرزا کا ایمان نہ مسیح علیہ السلام پر ہو سکتا ہے نہ محمد ﷺ پر نہ انجیل پر نہ قرآن پر۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اس کے بعد بھی نمبر ۱۵ تک اپنے سوالات کے جوابات تمہارے ذمہ ہیں۔ کیونکہ بائبل پر تمہاری ایمان نہ ہو۔
- ۲۔ کیسا ایلیاہ کا بھیجنا یہ کہاں کی خرافات کہتے ہو۔

- .....۲۳ آپ احادیث اور قرآن شریف کے کن کن مقامات سے تطبیق لے کر دیں گے۔  
بفرض محال اگر ایلیاہ آجائے تو یہودیوں کی کتابوں میں جو مسیح اور وہ نبی کی پیش گوئی ہے وہ کہاں سے تشریف لائیں گے۔
- .....۲۵ اگر آئیں گے تو آپ کے پاس مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا دلائل ہیں۔
- .....۲۶ اگر نہیں آئیں گے جیسا کہ یقیناً نہیں آئیں گے تو یہود مسلمان کیسے ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو پہلے ایلیاہ پھر مسیح پھر وہ نبی کے منتظر ہیں۔
- .....۲۷ اگر وہ نبی نہ آیا تو مسیح کی آمد ثانی غلط کہے یا صحیح جب کہ مسیح کی آمد ثانی وہ نبی کے بعد ہے۔
- .....۲۸ اگر بفرض محال مسیح کی آمد ثانی ہو بھی جائے تو وہ وہی پرانا مسیح ہو گیا کوئی دوسرا۔
- .....۲۹ اگر وہی دو ہزار برس کا پرانا مسیح ہو گا تو علاوہ وہ حواس درست نہ ہونے کے قابل قبول ہو گیا نہیں؟ کیونکہ یہودی از روئے طالمود دو مسیحوں کے منتظر ہیں۔ جن میں سے ہر ایک نیا ہے۔
- .....۳۰ پرانا مسیح ہونے کی صورت میں یہود طالمود کی اس پیش گوئی کا کیا مطلب سمجھیں گے۔
- .....۳۱ یہودی مسیح کے آسمان سے آنے کے قطعاً قائل نہیں۔ اس صورت میں وہ پرانے مسیح کو کس طرح مانیں گے؟
- .....۳۲ اگر پرانا مسیح ہو تو یہودی نہیں مانیں گے اور اگر نیا ہو تو تم نہیں مانو گے۔ اس گورکھ دھندے کو کون سلجھائے ۲ گا۔
- .....۳۳ جو بھی سلجھائے گا اس کا نام بمقام ولدیت، سکونت، کسی معتبر کتاب سے پیش کرو۔
- .....۳۴ بتاؤ وہ طالمود کی تردید کرے گا یا قرآن شریف اور احادیث کی۔
- .....۳۵ اگر احادیث کی کرے گا تو کوئی سند پیش کرو کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ایک ثالث کے ذریعے نبوی پیش گوئیاں ردی میں پھینک دی جائیں گی اور طالمود کو ترجیح دی جائے گی۔
- .....۳۶ اگر بقول تمہارے اہل کتاب مسیح کومان لیں تو ”فاغونینا بینہم العداۃ والبغضاء“
- 
- ۱ نمبر ۱ سے یہاں تک کے سوالات کی بناء اس پر ہے کہ مسیح علیہ السلام یہودیوں کے نہ ماننے سے واپس چلے جائیں۔ حالانکہ یہ سب تمہارا طبع زاد ہے۔ قرآن وحدیث ناطق ہے کہ یہودی سب ایمان لے آئیں گے۔
- ۲ اس گورکھ دھندے کی بناء اس پر ہے کہ بائبل غیر محرف ہو اور بحوالہ بائبل جو مضامین تم بیان کرتے ہو وہ بھی صحیح ہوں۔ لہذا اس کے سلجھانے نہ سلجھانے کے ذمہ دار تم خود ہو۔

کے کیا معنی! ہوئے؟

- .....۳۷ ہاں اگر طالمودی پیش گوئیاں ثالث ردی کرے گا تو ایک تو اس لحاظ سے اور دوسرے سے جواب نہ بن آنے کے لحاظ سے یہودی یقیناً مسیح پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ اسے واپس جانے اور ایلیاہ کو بھیجے کو کہیں گے اور ایلیاہ کا نہ آنا قطعاً ناممکن ہے۔ وہ الی یوم القیام نہیں آسکے گا اور اگر آئے تو بہت سے فسادات لازم آتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے دکھایا جا چکا ہے تو کیا مسیح اور یہودی یوم القیام زندہ رہیں گے؟ کیونکہ بقول تمہارے یہود کا ایمان نہ لانا فریقین کی زندگی کا باعث ہے۔
- .....۳۸ اگر فریقین زندہ رہیں گے تو کوئی شرعی سند پیش کرو اور بتاؤ کہ کب تک زندہ رہیں گے۔
- .....۳۹ اگر اسی کشمکش میں قیامت آگئی تو کیا پھر بھی یہود اور مسیح فنا نہیں ہوں گے؟
- .....۴۰ اگر نہیں ہوں گے تو قرآن شریف سے ثبوت پیش کرو۔
- .....۴۱ اور اگر ہوں گے تو اس صورت میں آیت ”ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ“ کی تصدیق کس طرح ہوگی۔
- .....۴۲ کیا اللہ تعالیٰ ۲ اس مشکل کو جو حضور کی کم نہی اور بد قسمتی سے غلط معنی سمجھنے سے پیش آگئی ہے آپ سے سمجھوائے گا یا میرسیا لکھوٹی کے در دولت پر حاضر ہو گا یا حضرت شیر پنجاب کی منت سماجت کرے گا یا مونگیری پیرمغان سے مشورہ کرے گا یا پیر گولڑوی سے اس مشکل کا حل چاہے گا۔ (معاذ اللہ) الغرض کرے گا تو کیا اور جائے گا تو کہاں؟
- .....۴۳ کیا قیامت کو ملتوی کر دے گا؟
- .....۴۴ اگر دے گا تو ثبوت دو۔
- .....۴۵ اور اگر نہیں کرے گا تو کیا اپنا کلام واپس لے گا؟
- .....۴۶ اگر واپس نہیں لے گا تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا؟
- .....۴۷ اور جو سمجھا جائے گا وہ کس کو سمجھائے گا۔ اس کی ولدیت، سکونت، قومیت کسی مستند کتاب سے پیش کرو۔

۱۔ اس وقت یہود و نصاریٰ ہی باقی نہ ہوں گے۔ وہ باقی ہوتے اور ان میں عداوت نہ ہوتی تو البتہ اس کے معنی پوچھنے کی ضرورت ہوتی۔

۲۔ یہ تم اپنے فرضی خدا کا حال بیان کر رہے ہو۔ جو مرزا قادیانی پر وحی بھیجتا تھا۔ وہ بیچارہ البتہ ایسی مشکلات میں ہے کہ مرزا قادیانی بھی بائیں ہمہ کیادی اس کی مشکل کشائی سے عاجز رہا۔

- ۳۸..... اگر پیش کرو گے تو پہلے اس سوال کا جواب سوچ رکھو کہ وہ تفہیم کس طرح ہوگی۔ اگر کہو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد یہ میرا زمین میں آخری دفعہ کا آنا ہے۔ اب وحی بند ہوگئی۔ اب مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ (معیار عقائد قادیانی ص ۷۷ سطر ۱۲-۱۳)
- ۳۹..... پس اگر کسی شخص واحد کو تفہیم ہوگی تو کیونکر کیا خدا خود زمین پر آ کر سمجھائے گا؟
- ۵۰..... اگر خود خدا اترے گا تو بشر کو یہ رتبہ حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر وحی اور حجاب کے بلا واسطہ کلام کرے۔ (معیار ص ۷۷ سطر ۹۷)
- ۵۱..... اگر نہیں اترے گا تو کیسے اس آیت کا مطلب درست سمجھا جائے گا؟
- ۵۲..... اگر کہو کہ کشف اور الہام کے ذریعے تو نصوص شرعیہ یعنی قرآن شریف وحدیث کے مقابلہ میں کشف والہام حجت شرعی نہیں ہے۔ (معیار ص ۲۲، ۲۳) نیز جب وحی بند ہے تو الہام کیسا؟
- ۵۳..... پس اب آخری صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو واپس لے یا قیامت کو موقوف کر دے۔ اگر یہ دو صورتیں نہیں تو تیسری صورت پیش کرو۔
- ۵۴..... اگر وہ اپنا کلام واپس لے تو اس کامل ذات میں نقص لازم آتا ہے اور یہ نقص اس کی خدائی کا ابطال کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ کلام شیطان ہوگا یا رخصن۔
- ۵۵..... اگر کلام رخصن ہوگا تو یہ سقم کیوں ہے۔
- ۵۶..... اس سقم کی صورت میں قرآن تو (معاذ اللہ) کلام شیطان ٹھہرا۔ اب خدا کی خدائی کا اہل اسلام کے ہاتھ میں کیا ثبوت ہے؟ غالباً اس کا جواب یہی ہوگا کہ انجمن تائید الاسلام۔
- ۵۷..... دوسری صورت قیامت کے موقوف کردینے کی ہے۔ اس پر اول تو شرعی سند پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت مجبور ہو کر قیامت موقوف کر دے گا؟ دوم پھر آخرت پر ایمان لانے سے کیا مزید فائدہ ہوگا؟ اور جزا و سزا کا علم عین الیقین کے رتبہ کو کیسے پہنچے گا۔
- ۵۸..... کیا پھر بھی آخرت پر یقین رکھو گے یا تاسخ کو مانو گے؟ اگر نہیں مانو گے تو کیوں؟
- ۵۹..... اگر مانو گے تو کیا آریوں کے دیگر عقائد بھی اختیار کرو گے۔

۶۰ ..... تناخ! ماننے کی صورت میں (کیونکہ اگر قیامت موقوف ہوگی تو تناخ کا قائل ہونا ضروری ہے) تمہارا رہنما قرآن ہوگا یا دید۔

۶۱ ..... اگر وہید ہوگا۔ کیونکہ یہی تناخ کی تعلیم دیتا ہے تو قرآن شریف کو مکمل کتاب مانو گے یا ناقص۔ ہر دو کی کیا وجوہ ہیں؟

۶۲ ..... اگر تیسری صورت پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خود بخود ایک راستہ کی طرف پھیر دے گا تو اس آیت کا کیا مطلب سمجھو گے۔ ”ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين (ہود)“

۶۳ ..... اگر ثابت کرنے کی کوشش کر دے تو واقعات صحیحہ سے ثابت کرنے پڑے گا کہ مخلوق کو خود بخود ایک راستہ پر چلانا قدیم سے سنت الہی ہے۔

۶۴ ..... اگر یہ واقعی سنت رہی ہے تو ۱۹۱۰ء میں اس کا ظہور کیوں نہ ہوا۔ جب کہ گروہی اختلاف سے نیچے اتر کر شخصی اختلافات اس درجہ پر تھے کہ الامان والحفیظ۔ ایک ہی فرقے کے ایک ہی مذہب کے دو پیرو اتنا اختلاف رکھتے تھے کہ دیکھنے والا باور نہیں کر سکتا کہ ایک نوع یا ایک صنف کے دو فرد ہیں۔ (اہل حدیث ۱۸ مارچ ۱۹۱۰ء)

۱۔ تناخ کا قائل خود تمہارا مرزا قادیانی تھا جو اپنے کو بہت لوگوں کا بروز کہتا تھا۔ حتیٰ کہ اپنے کو کرشن بھی کہتا تھا اور خواجہ کمال الدین کرشن کے اس مقولہ کو۔  
کہ چون تیرہ از ظلم گرو بے  
نمائیم خوردرا بشکل کے  
کا مصداق بھی کہتے ہیں۔

۲۔ سنت الہی کی کوئی کتاب یعنی ایسی کتاب جس میں سنت الہی تمام وکمال بیان کی گئی ہو۔ پیش کرو۔ اس کے بعد کسی چیز کو خلاف سنت کہنا زیبا ہے اور اگر آپ اسی طرح کی سنت پر چلیں گے تو پھر قیامت اور قیامت کے تمام عجیب اور انوکھے واقعات خلاف سنت قرار پا کر ناممکن ہو جائیں گے۔ لیجئے آپ بھی کیا یاد کیجئے گا۔ میں قرآن مجید سے ثابت کئے دیتا ہوں۔ آدمیوں کا مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے۔ ”کان الناس امة واحدة“ یعنی شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ پس جب شروع میں سب مسلمان تھے تو آخر میں ایسا ہونا بالکل مطابق فطرت ہے۔ اول آخر نسبتی ست۔

- ۱۵ اس صورت میں جب کہ اختلاف کا یہ حال تھا تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔  
 ”کثرت الاختلاف فی شئ دلیل کذبھا“ یعنی کسی شے میں اختلاف کی  
 کثرت اس شے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔
- ۶۶ ..... پھر بتاؤ کہ آپ لوگ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بہو جب آیت ”ان الذین  
 فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منہم فی شئ“ مسلمان ہیں۔
- ۶۷ ..... اگر ہیں تو پھر آپ درست کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ؟
- ۶۸ ..... اگر اللہ تعالیٰ کا قول صحیح ہے تو آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔
- ۶۹ ..... اور اگر آپ کا قول صحیح ہے تو قول الہی درست ہے یا نہیں۔
- ۷۰ ..... ہر دو اقوال میں سے کون سا قول صحیح ہے۔
- ۷۱ ..... اگر قول الہی صحیح ہے جیسا کہ یقیناً صحیح ہے تو آپ کے اس مسلمان ہونے کے کیا دلائل ہیں۔
- ۷۲ ..... اور اگر قول الہی صحیح نہیں تو کیوں؟ یا تو جلدی جواب دیجئے یا میری طرح از سر نو  
 مسلمان ہو جائیے۔ سچ ہے۔

چوداں خسروی آغاز کردند  
 مسلمان را مسلمان باز کردند

### میاں اللہ دتہ صاحب

آپ کے قابل قدر بہتر مطالبات سب تمام ہو گئے۔ جن کی بنیاد محض آپ کے اس  
 وہمی و اختراعی بات پر تھی کہ مسیح علیہ السلام کا نزول بلکہ ان کی پہلی آمد بھی بائبل کے خلاف ہے اور  
 یہودی بائبل سے کسی طرح نہ ہمیں گے۔ بلکہ بعض مطالبات تو آپ نے اپنی خوش فہمی سے خود اپنے  
 ہی اوپر وار کر لئے ہیں۔ لیکن اب ہم آپ کو قسم دلاتے ہیں۔ آپ کے اس خانہ ساز پیغمبر کی جس  
 نے آپ کو یہ رشک یہودیت تعلیم دی اور قسم دلاتے ہیں۔ اس کی حکم ساز وجیوں کی اور قسم دلاتے  
 ہیں آپ کے اس فرضی خیالی خدا کی جس کی وحیاں آپ کے مرزا قادیانی پر اترتی تھیں کہ اب  
 ہمارے مطالبات پر توجہ کیجئے۔

۱۔ الحمد للہ تم نے اقرار کر لیا کہ تمہارا فرضی اسلام ایک نیا اسلام ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے  
 جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور تمام مسلمین کا اب تک رہا ہے اور معلوم ہوا کہ تمہارا مقولہ بھی تمام  
 سلف صالحین کی بابت وہی ہے جو کفار و منافقین کا اصحاب نبی علیہ السلام کی بابت تھا کہ ”انؤ من  
 کما امن السیما“

دوسرے علمائے اسلام کے مطالبات کو ابھی رہنے دیجئے۔ صرف خانقاہ عالی جاہ رحمانیہ سے جو رسائل آپ کے پیغمبر صاحب کے ابطال میں شائع ہوئے۔ اگر ہر رسالہ کو ایک مطالبہ سمجھتے تو ایک سو سے زائد مطالبات ہوئے اور اگر ان رسائل کے مضامین کا لحاظ کیا جائے تو ایک ایک رسالے میں بیسیوں مطالبات موجود ہیں۔ اس حساب سے کئی ہزار مطالبات ہو گئے۔ اگر کچھ بھی معیار انصاف ہو تو اپنے خلیفہ صاحب اور ان کے تمام ذریعات کو مجبور کیجئے کہ وہ ان رسائل کا جواب ایک ماہ نہیں بلکہ ایک سال میں لکھ دیں۔

اور اگر نہ لکھیں اور ہرگز نہ لکھ سکیں گے۔ ”ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا“ تو آپ پر لازم ہے کہ اپنی توبہ کا اعلان کیجئے اور صدق دل سے تائب ہو کر مرزا ایت کی ظلمت و حرص سے نکل کر اسلام کے ظل رحمت و نور میں آجائیے۔ حضرت رحمۃ اللعالمین ﷺ کے دامن عاطفت میں پناہ لیجئے۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ ”وما علينا الا البلاغ“  
دوسرا الطیفہ..... یعنی دلائل حیات مسیح علیہ السلام

جاننا چاہئے کہ مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر قریب قیامت دنیا میں نازل ہونے کا عقیدہ اہل اسلام کا انماعی عقیدہ ہے۔ رسول خدا ﷺ کے وقت سے لے کر صحابہ کرام تا بعین تبع تابعین غرضکہ آج تک کسی عالم دین اسلام نے اس عقیدہ سے انکار نہیں کیا اور اس اجماع کی روایت بھی متواتر ہے۔ جیسا کہ انجم لکھنؤ ج ۱۰ نمبر ۱۳ میں ثابت کیا گیا ہے اور سند اس اجماع کی آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ پر ہے۔ وفات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ نہ صرف اجماع امت بلکہ قرآن شریف کی آیات کثیرہ اور احادیث صحیحہ بلکہ متواتر کے بالکل خلاف ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے سرسید علی گڑھی نے یہ مسئلہ ایجاد کیا۔ مرزا غلام احمد اس مسئلہ میں انہیں کے مقلد ہیں۔ مرزا غلام احمد پہلے خود بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح معتقد حیات مسیح تھے اور ابتداء اپنا عقیدہ بدلنے کی وجہ اپنی خانہ ساز و حیواں کو بیان کرتے تھے۔ مگر آخر میں آیات قرآنیہ کو بھی کھینچ تاک کر اپنے مدعا پر منطبق کرنے لگے۔ لہذا اب میں نمونہ کے طور پر بعض آیات و احادیث کی تقریر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ جن سے حیات مسیح علیہ السلام ثابت ہوتی ہے۔

آیات قرآنیہ

..... ”ویکلم الناس فی المهد وکھلا ومن الصالحین“ اور عیسیٰ کلام کیوں گے لوگوں سے گہوارہ میں یعنی حالت نوزائیدگی اور بڑی عمر میں نیکوں میں سے

ہوں گے یعنی نبی ہوں گے۔ ﴿

ف:۱..... حضرت مریم صدیقہ گو جب بشارۃ فرزند کی سنائی گئی تو اس فرزند ارجمند کے فضائل و مناقب بھی ان کو بتائے گئے کہ وہ کوئی معمولی لڑکا نہیں بلکہ وہ بڑے رتبہ کا انسان ہوگا۔ اس میں یہ یہ اوصاف ہوں گے۔

ف:۲..... ظاہر ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر رہی ہے۔ لہذا تین چیزیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان تینوں سے ان کی فضیلت ثابت ہونی چاہئے۔ چنانچہ پہلی چیز یعنی گہوارہ میں کلام کرنا اور تیسری چیز یعنی نیکوں میں سے ہونا بلا اختلاف غیر معمولی فضیلت ہے۔ کیونکہ حالت نوزائیدگی میں کلام کرنا اور نیکوں میں سے ہونا یعنی نبی ہونا ایک فوق العادہ وصف ہے جو ہر انسان میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ منکروں کو بھی اس پر تعجب تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کیسے کلام کر سکتا ہے۔ ”قالوا کیف نکلّم من كان في المهد صبيا“ یہ پورا واقعہ قرآن شریف میں ہے۔ پس ضروری ہوا کہ دوسری چیز یعنی بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کرنا غیر معمولی وصف کے معنی میں لیا جائے اور اس کا غیر معمولی وصف ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ موافق عقیدہ اہل اسلام وہ ایک ایسی مدت دراز تک زندہ مانے جائیں کہ عمر تک عادۃ انسان نہ پہنچتے ہوں۔ ورنہ جو عمر ان کی بوقت رفع یا بقول مرزا یہ بوقت موت بیان کی جاتی ہے۔ اس عمر میں کلام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ اکثر و بیشتر انسان اس عمر تک پہنچتے ہیں اور لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہی کیا ہوا۔ نعوذ باللہ آیت لغو ہوگئی۔ جیسا کہ ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں کہتا ہے۔

دندان تو جملہ ورد ہاں اند

پشمان تو زیر ابروان اند

یعنی تیرے دانت منہ کے اندر ہیں اور تیری آنکھیں ابرو کے نیچے ہیں۔ بھلا کہے تو کہ یہ کیا تعریف ہوئی۔ سب کے دانت منہ میں اور سب کی آنکھیں ابرو کے نیچے ہوتی ہیں۔ مرزا لے چاہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اسی شعر کے مثل ایک لغو اور بے فائدہ کلام ہو جائے۔ خدا کا کلام لغو ہو جائے تو ہو جائے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ثابت ہو جائے۔ استغفر اللہ منہ!

ف:۳..... اس آیت سے دو تین ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایسی دراز چاہئے کہ اس عمر تک پہنچنا مثل کلام فی المہد کے خلاف عادت انسانی ہو۔



دوسرے یہ کہ وہ پھر دوبارہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور ان سے کلام کریں گے۔  
اب باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام کہاں ہیں اور پھر اس دنیا میں کیونکر  
آئیں گے۔ اس کی تفصیل رسول خدا ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ آپ ہی اصل مفسر کلام الہی  
کے ہیں۔ ”ولا بیان بعد بیانہ علیہ السلام“ ناظرین اس آیت کی تقریر کو بغور دیکھیں۔ شاید کہ منظور  
نظر چیز ہو۔

۲..... ”وانہ لعلم نلساعة فلا تمتدن بها“ تحقیق عیسیٰ علیہ السلام  
نشانی قیامت کی ہیں۔ لہذا تم اس میں ہرگز شک مت کرو۔ ﴿  
ف:۱..... اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علامت قیامت قرار دیا اور ظاہر  
ہے کہ ان کی آمد اول علامت قیامت نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ دوبارہ ان کا نزول پھر دنیا میں  
ہوگا اور وہ نزول بالکل قرب قیامت ہوگا اور قیامت کی علامت قرار پائے گا۔ جیسا کہ احادیث  
صحیحہ میں بیان ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علامت قیامت ہونا بغیر ان کی حیات اور نزول کے مانے  
ہوئے ناممکن ہے۔ لہذا اس آیت سے ان کی حیات اور ان کا نزول دونوں کا ثبوت ہوا۔  
ف:۲..... انہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بلا قرینہ و بلا دلیل قرآن شریف  
کی طرف پھیرنا خلاف قواعد لغت عرب ہے اور ایسی ہی تاویلات کا نام تحریف معنوی ہے۔ اگر  
ایسی تاویلات کا دروازہ کھل جائے تو کسی شخص کا کوئی کلام اپنے معنی پر قائم نہیں رہ سکتا۔

دو آیتوں کی مکمل تقریر ہم نے یہاں لکھ دی اور دو آیتوں کی تقریر پہلے لطیفہ میں بیان  
ہو چکی۔ آیت ”بل رفعہ“ کی مکمل اور ”لیومنن“ کی مختصر کیونکہ لیومنن کی تقریر مباحثہ دہلی میں  
خود مرزا قادیانی کے سامنے مولانا محمد بشیر صاحب نے ایسی کامل و مکمل بیان فرمائی ہے کہ اس کے  
بعد کسی دوسری تقریر کی حاجت نہیں رہی۔ دیکھو۔ رسالہ الحق الصریح مطبوعہ انصاری دہلی۔ پس یہ  
کل چار آیتوں کی تقریر ہوئی۔ نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ اب حدیثیں سنئے۔

### احادیث شریف

۱..... ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسہ  
جسدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً مقسطاً فیکسر الصلیب ویقتل

الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنيا وما فیها ثم یقول ابوهریرة اقرءه وان شقتم وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی) ﴿﴾ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور ضرور عنقریب اتریں گے تمہارے درمیان میں ابن مریم۔ حاکم منصف ہو کر پھر توڑ دیں گے وہ صلیب کو اور قتل کر دیں گے وہ خنزیر کو اور موقوف کر دیں گے جزیہ کو اور مال (کی یہ کثرت ہوگی کہ) بہتتا پھرے گا یہاں تک کہ نہ قبول کرے گا اس کو کوئی اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔ (یعنی عبادت مالی کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے عبادت بدنی کی طرف تمام تر توجہ ہو جائے گی) پھر حضرت ابوہریرہؓ فرماتے تھے کہ اگر (قرآن شریف سے اس کی سند) چاہو تو یہ آیت پڑھو ”وان من اهل الكتاب“ یعنی نہ ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر یہ کہ وہ ضرور ضرور ایمان لے آئے گا۔ عیسیٰ پر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے۔ ﴿﴾

ف..... مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث پر ایک اعتراض کیا ہے کہ: ”کیا ان احادیث پر اجماع ہو سکتا ہے کہ مسیح آ کر جنگوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔“

(ازلہ الادب ص ۲۳۸، خزائن ج ۳ ص ۳۳۸)

اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ تو نے کوئی کتاب علم معانی کی نہیں پڑھی تو کیا قرآن بھی نہیں دیکھا۔ ”یذبح ابناء ہم“ کا کیا یہی مطلب ہے کہ فرعون اپنے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا پھرتا تھا۔ بادشاہوں کے یہ کام نہیں۔ بلکہ ان کے حکم سے کام ہوتے ہیں اور وہ کام انہیں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام حکم دیں گے کہ دنیا بھر کی صلیب توڑ دی جائے۔ خنزیر قتل کر دیئے جائیں۔ چونکہ یہ کام ان کے حکم سے ہوں گے۔ لہذا ان کی طرف منسوب ہوئے۔ علیٰ هذا!

جزیہ کے موقوف کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی ابلہ فریبی کر کے اعتراض کیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی غیر مسلم باقی ہی نہ رہے گا۔ لہذا جزیہ موقوف ہو جائے گا۔ مرزا یوں! یہی تمہارا پیغمبر ہے جو ایسی جاہلانہ اور ابلہانہ باتیں کرتا ہے۔

۲..... ”عن جابر قال قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من

امتى یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامة فینزل عیسیٰ ابن مریم  
 فیقول امیرہم تعال صل لنا فیقل لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة اللہ  
 تعالیٰ لہذہ الامۃ (صحیح مسلم) ﴿ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے  
 فرمایا۔ ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ دین برحق کے لئے قتال کرتا رہے گا۔ (دشمنوں پر) قیامت  
 تک غالب رہے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم آئیں گے تو مسلمانوں کا سرداران سے کہے گا  
 کہ تشریف لائیے۔ ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ (میں امام نہ بنوں گا) تم  
 آپس میں ایک دوسرے کے امام بنو۔ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بزرگی دی ہے۔ ﴿  
 ۳..... ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ کیف بکم اذا  
 نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم (سنن بیہقی) ﴿ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے  
 کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور اس  
 وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ ﴿

۴..... ”عن ابی ہریرۃ مرفوعاً لیس بینی و بین عیسیٰ نبی  
 وانہ نازل فاذا ارأ یتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الی الحمرة والبیاض ینزل  
 بین مصرتین کان راسہ یقطر وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام  
 فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویهلك اللہ فی زمانہ الملل کلہا  
 الا الاسلام ویهلك اللہ فی زمانہ المسیح الدجال فیمکث فی الارض اربعین  
 سنة ثم یتوفی فیصلے علیہ المسلمون (ابوداؤد) ﴿ حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً یعنی  
 رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان  
 میں کوئی نبی نہیں ہو اور بیشک وہ نازل ہوں گے۔ پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا وہ ایک میانہ  
 شخص ہوں گے۔ رنگ ان کا سرخ سفید ہوگا۔ دور تکین کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔ (جسم ان کا  
 ایسا شفاف ہوگا کہ) گویا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ اس میں تری نہ پہنچی ہو۔ پھر وہ  
 اسلام کے لئے لوگوں سے قتال کریں گے۔ صلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور  
 جزیہ موقوف کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں اللہ سب مذاہب کو مٹا دے گا۔ سو اسلام کے اور ان  
 کے زلہنے میں اللہ مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس برس  
 رہیں گے۔ اس کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ﴿

ف..... شیخ الاسلام حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی شرح بخاری میں اس حدیث کی  
 مات کھتے ہیں۔ ”روی احمد و ابوداؤد باسناد صحیح یعنی امام احمد حنبل“

۵..... ”عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ لقيت ليلة  
 اسرى بي ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فذكر وامر الساعة فردوا  
 امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي  
 بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها فلم يعلم بها احد الا الله وفيما  
 عهد الى ربي ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا ارانى ذاب كما يذوب  
 الرصاص (مسند امام احمد مصنف ابن ابى شيبه سنن بيهقى) ﴿ حضرت ابن مسعود  
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ شب معراج میں میں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام  
 سے ملا تو انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا اور سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع  
 کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف  
 رجوع کیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو  
 انہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا علم تو کسی کو سوا اللہ کے نہیں ہے۔ مگر جو احکام مجھے خدا نے دیئے  
 ہیں۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور اس وقت میرے پاس دو کڑیاں ہوں گی۔ جب  
 وہ مجھ کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسہ پگھلتا ہے۔ ﴿

۶..... ”عن ابى هريرة مرفوعا ليهبطن عيسى بن مريم حكما  
 واماماً مقسطاً وليس لکن فجأحاجاً او معتمراً وليأتين قبري حتى يسلم على  
 ولا دون عليه (مستدرک حاکم) ﴿ حضرت ابو ہریرہؓ سے رسول خدا ﷺ روایت کرتے  
 ہیں کہ آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم ضرور ضرور اتریں گے۔ حاکم ہو کر سردار منصف ہو کر اور ضرور وہ  
 سفر کریں گے۔ حج یا عمرہ کے لئے اور ضرور وہ آئیں گے میری قبر کے پاس اور مجھے سلام کریں گے  
 اور میں ان کو جواب دوں گا۔ ﴿

۷..... ”عن الحسن انه قال فى قوله تعالى انى متوفيك يعنى  
 وفاة المنام رفعه الله فى منامه قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود ان  
 عيسى لم يموت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (تفسير ابن كثير) ﴿ حضرت

امام حسن بصری سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت انی متوفیک میں توفی کے معنی خواب کے بیان کئے۔ یعنی خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب کی حالت میں اٹھالیا۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے کہ آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور تحقیق وہ قیامت سے پہلے پھر لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گے۔ ﴿

۸..... ”عن مجمع بن جارية عن رسول الله ﷺ قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع ابن عيينة وابي رزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله بن عمرو وسمره ابن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان (ترمذی)“ ﴿ حضرت مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ابن مریم دجال بابل (دمشق میں ایک جگہ ہے) میں قتل کجیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس باب میں عمران بن حصین اور نافع ابن عیینہ اور ابو ہریرہ اور حذیفہ بن اسید اور ابو ہریرہ اور کيسان اور عثمان بن ابی العاص اور جابر اور ابو امامہ اور ابن مسعود اور عبد اللہ بن عمرو اور سمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان اور عمرو بن عوف اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے حدیثیں منقول ہیں۔ ﴿

حدیثیں تو ابھی بہت ہیں۔ نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ ورنہ ان حدیثوں کے جمع کرنے کا ارادہ کیا جائے تو ایک بڑا ضخیم دفتر تیار ہو جائے۔ کیونکہ حیات نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں حد تو اترو کو پہنچ گئی ہیں۔ حافظ ابن کثیر محدث اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله ﷺ انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماماً عادلاً“ یعنی متواتر حدیثیں رسول خدا ﷺ سے منقول ہیں کہ آپ نے خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے سردار منصف ہو کر نازل ہوں گے۔

اور علامہ شوکانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتے ہیں۔ ”وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع فتفرد بجميع ما سقناه في هذا الجواب اربع الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث الواردة في الدجال متواترة والحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة“

جی سب وہ روایتیں جو ہم نے بیان کیں حد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں۔ چنانچہ جس کو مزید اطلاع کتب حدیث پر ہے اس سے بات پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری اس تمام تقریر سے جو جواب ہذا میں ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ امام مہدی کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ دجال کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ نزول عیسیٰ کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔

### اب مرزا قادیانی کی دلیری دیکھئے

پہلے تو آپ کو یہ سودا سمایا کہ ان روایات پر محمد ثناء جرح کریں۔ مگر اس کی گنجائش نہ ملی تو صحابہ کرامؓ پر زبان طعن کھولنا شروع کی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی نسبت لکھ دیا کہ وہ غبی شخص تھا۔

(اعجاز احمدی ص ۵۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود کی نسبت لکھا کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔

(اعجاز احمدی ص ۸، خزائن ج ۱۹ ص ۳۲۲)

مگر جب علمائے اسلام نے احادیث حیات مسیح علیہ السلام کا ایک دفتر پیش کر دیا تو مرزا قادیانی کی آنکھیں کھلیں کہ ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ چنانچہ سولہ نام صحابہ کرام کے ترمذی کی روایت منقولہ میں درج ہیں تو مرزا قادیانی نے ایک دوسری چال سوچی۔ کہہ دیا کہ آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی تھی۔

(ازالہ الاہام ص ۵۹۶، خزائن ج ۳ ص ۷۷۳)

مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ حدیثیں حد تو اتر کو پہنچ چکی ہیں۔ نہ ان کی صحت پر کوئی حملہ کار گر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی بات بتائے بن سکتی ہے تو یہاں تک گستاخی پر اتر آیا کہ (اعجاز احمدی ص ۲۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰) میں لکھتا ہے کہ جو حدیثیں ہماری وحی کے خلاف ہوں ان کو ہم رومی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔

احادیث نبویہ کے متعلق مرزا قادیانی یہاں تک دریدہ ذہنی کی کہ (قصیدہ اعجازیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۸) میں لکھتا ہے۔

هل النقل شه بعد ايجاء ربنا

فله حدیث بعدہ نتخیر

اور خدا کی وحی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدا تعالیٰ کی حدیث کے بعد کس حدیث کو مان لیں۔

وقد مزق الاخبار كل ممزق

وكل بها هو عنده يستبشر

اور حدیثیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اور ہر ایک گروہ اپنی حدیثوں سے خوش ہوتا ہے۔

اخذنا عن الحی الذی لیس مثله

وانتم عن الموتی رویتم ففکروا

ہم نے اس سے لیا کہ وہ حی قیوم وحدہ لا شریک ہے اور تم لوگ مردوں سے روایت

کرتے ہو۔

کیوں میاں اللہ دتہ یہی تمہارا انجمنبر ہے جو اپنے کو غلام احمد کہتا تھا۔ یہ شخص اگر غلام تھا تو

سخت نمک حرام غلام تھا۔ جس نے اپنے آقا کی توہین کی اور اس کی برابری کا دعویٰ کیا۔

بدان بندہ کہ مولے را نہ بیند

رود بر مند مولے نشیند

مرزا قادیانی نے ان سب حرکتوں کے بعد حیات مسیح علیہ السلام پر تمسخر بھی بہت کیا کہ

وہ آسمان پر کھاتے کیا ہیں۔ بول و براز کی حاجت کہاں رفع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان

ہذلیات کا نام عقلی دلائل رکھا۔ اب ہم اس لطیفہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔

خاتمہ..... مسیح قادیانی کا اپنے قسمیہ اقرار سے جھوٹا ہونا

جس طرح رسائل لاجانی کے آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کا خود اسی کے قول سے جھوٹا

اور بد سے بدتر ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کی تفریح طبع اور میاں اللہ دتہ صاحب کے

ہتھیہ دماغ کے واسطے ایک اور اقراری جھوٹ مرزا قادیانی کا یہاں بھی درج کیا جاتا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ضمیر انجام آتھم (جس کو اب مرزائیوں نے بڑے

اہتمام سے مخفی کرنے کی کوشش کی ہے) مورخہ ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء میں لکھتے ہیں۔ ”پس اگر ان

پہنات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ

ہوں اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے یہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے۔ یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور رنگ پکڑ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئیں کاذب خیال کروں گا۔“

یہ عبارت ضمیرہ انجام آہم مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان ص ۳۰ سے شروع ہو کر ص ۳۵ پر ختم ہوئی۔  
(نوائن ج ۱۱ ص ۳۱۶)

بسم الله الرحمن الرحيم!

### بقیہ رسالہ صاعقہ آسمانی

یہاں تک تو میاں اللہ دتہ کے نظم و نثر کا کامل جواب دیا گیا۔ کوئی بات ان کی باقی نہیں رہی اور اس سے پہلے ان کی ایک مہینہ کی میعاد کے اندر چھ ہی سات روز میں جو ایک رسالہ بھیجا گیا جس کا نام رسائل لاثانی ہے۔ جس میں انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کے مرشد اور فریب دہندہ کے کاذب ہونے کے ثبوت میں ۱۴ رسائل لکھے گئے ہیں۔ جن میں یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت مسیح اسرائیلی زندہ ہیں۔ جن سے کامل طور سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح قادیانی بالیقین جھوٹے ہیں۔

اب آپ کو چاہئے تھا کہ خدا سے ڈرتے اور اپنی عاقبت کی خبر لیتے اور ان رسالوں کو منگا کر دیکھتے۔ مگر گمراہوں اور بے دینوں کی صحبت نے آپ کے دل کو ایسا خراب و سیاہ کر دیا ہے کہ کسی بھلے کام کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ مگر خیر خواہانہ میں اور رسائل پیش کرتا ہوں۔ جن سے آفتاب کی طرح مرزا قادیانی کا کاذب اور جھوٹا ہونا روشن ہو رہا ہے۔ مگر خدا کے لئے دل سے تعصب اور ہٹ دھرمی کو علیحدہ کر کے ملاحظہ کیجئے۔

چودہ رسالوں کا نام تو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ پندرہواں رسالہ ہے۔ یعنی صاعقہ آسمانی، فیصلہ آسمانی۔ اس کے تثنیٰ حصے ہیں اور ہر ایک حصہ مستقل رسالہ ہے۔ اس لئے ان کو تین رسالے سمجھنا چاہئے۔ اس میں مرزا قادیانی کے نہایت عظیم الشان منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی کو جھوٹا دکھا کر مختلف طور سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے اور بہت سے ان کے جھوٹ دکھائے ہیں۔



اس کا پہلا حصہ تین مرتبہ چھپا ہے۔ پہلی بار ۱۳۳۰ھ میں چھپا تھا۔ اسے بھی گیارہ برس ہوئے دوسری بار ۱۳۳۲ھ میں چھپا ہے۔ تیسرا حصہ پہلی مرتبہ ۱۳۳۲ھ میں چھپا ہے۔ جس کو دسواں برس ہوتا ہے۔ دوسری بار ۱۳۳۷ھ میں چھپا ہے۔

اب کوئی مرزائی بتائے کہ اس رسالے کو چھپے ہوئے اس قدر برسین گزر گئیں۔ کسی نے اس کا جواب دیا، مولوی عبدالماجد صاحب نے دوسرے حصے کے جواب میں کچھ باتیں بتائیں تھیں۔ جس کے جواب میں چھ رسالے لکھ کر مشتہر کئے گئے۔ مگر کسی رسالے کے جواب میں کچھ نہیں لکھ سکے۔

(۱۹، ۲۰) شہادت آسمانی، دوسری شہادت آسمانی ان دونوں رسالوں میں ان کی آسمانی شہادت کو خاک میں ملا کر مرزا قادیانی کا جھوٹا اور فریبی ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ دوسری شہادت آسمانی ۱۳۳۳ھ میں چھپی ہے اور شہادت آسمانی اس سے پہلے کی چھپی ہوئی ہے۔ مگر اس کے جواب میں تمام مرزائیوں کے قلم سوکھ گئے۔

(۲۱) صحیفہ انواریہ۔ (۲۲) حقیقت المسیح۔ (۲۳) معیار المسیح۔ (۲۴) دعویٰ نبوت لے مرزا۔ (۲۵) مسیح قادیان کی حالت کا بیان۔ (۲۶) تزییہ زبانی۔ (۲۷) معیار صداقت۔ (۲۸) دوستانہ نصیحت۔ (۲۹) رسالہ عبرت خیز۔ (۳۰) حقیقت رسائل اعجازیہ۔ (۳۱) نامہ رشد و ہدایت۔ (۳۲) مسیح کاذب۔

(۳۳) تائید ربانی۔ ان رسائل میں مختلف طریقوں سے قرآن و حدیث اور ان کے خود پختہ اقراروں سے مرزا قادیانی کا جھوٹا اور ہر بد سے بدتر ہونا ثابت کر کے دکھایا گیا ہے۔ (۳۴) ابطال اعجاز مرزا حصہ اول۔

(۳۵) ایضاً حصہ دوم۔ پہلے رسالہ میں مرزا قادیانی کے مایہ ناز قصیدہ اعجازیہ کی غلطیاں اور ان کے بکثرت جھوٹ و فریب دکھائے ہیں اور دوسرے میں ایک لاجواب اور نہایت عمدہ قصیدہ ہے۔ مرزا قادیانی کے قصیدہ کے جواب میں اسے چھپے ہوئے بھی نواں برس ہے۔

ہمارے بھائی مسلمان بالخصوص اہل علم اس کو ضرور دیکھیں تاکہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کی حقیقت آپ پر روشن ہو جائے۔

(۳۶) حکمات ربانی۔ (۳۷) انوار ایمانی۔ (۳۸) اغلاط ماجدیہ۔ (۳۹) صحیفہ رحمانیہ

نمبر ۱۰۔

(۴۰) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۲، ۱۱۔ ان میں مولوی عبدالماجد صاحب بھاگلپوری کے رسالہ القائے قادیانی کی غلطیاں خوب واضح کر کے دکھائی ہیں۔ ان کو چھپے ہوئے آٹھ برس کے قریب ہوئے مگر مولوی صاحب دم بخود ہیں۔ جس طرح ان رسالوں کے جواب سے عاجز ہوئے۔ اسی طرح وہ زبانی مناظرہ میں جو ان کے مکان پر مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤی سے ہوا علانیہ جلسہ میں ایسے عاجز ہوئے کہ مرزائی مذہب سے بیزار ہو کر اپنے بیٹے کے سامنے مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ مگر بیٹے نے ایسی دھمکی دی کہ ان کا ایمان تحمل نہ کر سکا اور جہنم میں جانا قبول کر لیا۔

(۴۱) تعبیر رویائے حقانی۔

(۴۲) جواب حقانی۔ اس میں بد زبانی حکیم ظلیل احمد مرزائی کے اسرار نہانی کا نہایت مہذبانہ جواب ہے اور مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔

(۴۳) تذکرہ یونس۔ مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی پیشین گوئی پر پردہ ڈالنے کے لئے حضرت یونس علیہ السلام پر جھوٹی پیشین گوئی کا الزام لگایا ہے۔ اس رسالہ میں ان کی سچی حالت دکھا کر مرزا قادیانی کی جہالت اور جھوٹ دکھائے ہیں۔ ۱۳۳۳ھ میں چھپا ہے۔ جسے ساتواں برس ہے۔

(۴۴) چشمہ ہدایت یعنی مسیح قادیان پر اقراری ڈگریاں۔

(۴۵) چیلنج محمدیہ یعنی صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۸۔ پہلے رسالہ میں پندرہ اقوال نقل کئے ہیں اور دوسرے میں مرزا قادیانی کے سات پختہ اقرار لکھ کر دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے ان اقراروں سے نہایت کاذب اور ہر بد سے بدتر ٹھہرتے ہیں۔ چیلنج میں تو اسی کے قریب جھوٹ بھی دکھائے ہیں۔

(۴۶) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۴۔ (۴۷) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۵۔ (۴۸) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۶۔ (۴۹) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۷۔ (۵۰) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۱۔

(۵۱) مرزا محمود کی تشریف گزوری میں ختم نبوت کی بحث ہے۔ جس میں ہر طرح پر دکھا دیا گیا ہے کہ حضور انور ﷺ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بہت بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ مگر ابھی چھپا نہیں۔

(۵۲) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۲ میں مرزا قادیانی کے عقائد کا مخالف قرآن و حدیث ہونا دکھایا گیا ہے۔ اس نمبر میں اور نمبر ۲۱ میں ان کا دہریہ ہونا بھی ثابت کیا ہے۔ مذکورہ نمبروں کے علاوہ دوسرے دس نمبروں میں مرزائیت کا قلع و قمع کیا گیا ہے۔ یہاں تک باسٹھ رسالے ہوئے۔ (۷۵) صحائف محمدیہ۔ یہ تیرہ نمبروں میں ہے اور ہر ایک نمبر مرزائی دجل کے اظہار میں ایک مستقل رسالہ ہے۔ نمبر ۱۳، ۸ میں تو مرزا قادیانی کے بیسٹھ جھوٹ دکھائے ہیں۔ چونکہ یہ بڑے دو ورقوں پر چھپا ہے۔ اس لئے شروع کے پانچ نمبروں کو جمع کر کے رسالہ کی صورت پر چھپوایا ہے۔ نظر ثانی کے بعد کچھ تغیر بھی ہو گیا ہے۔ جس کا نام۔ (۷۶) آئینہ کمالات مرزا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی رسالے ہیں۔ گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ان کے نام نہیں لکھے گئے۔ جنگلی مستقل فہرست علیحدہ ہے۔ ان رسالوں کو چھپ کر مستہر ہوئے برسین گزر گئیں۔ مگر کسی ایک کا بھی جواب کوئی مرزائی نہ دے سکا۔ چونکہ خلیفہ مسیح قادیانی کی گزراوقات اس پر ہے اور تمام مریدین چندہ دیتے رہتے ہیں۔ اس لئے خدا سے نہیں ڈرتے اور اپنے قلموں کو نہیں توڑتے اور اپنے مبلغین کی کوئی نچ نہیں کاٹتے۔ وما علینا الا البلاغ!

المستہر: محمد یعسوب عفی عنہ


### قطعہ

کون کہتا ہے مرے حضرت مسیح  
ہم کو بس قرآن پر حجت تمام  
پڑھ لے ماقتلوہ کو قرآن میں  
رفعه اللہ سے ترفع ہے بحکم  
قرب حق میں آسمان پر ہیں مکیں  
جھوٹ تہمت سولی کی عیسیٰ پہ ہے  
ابن حمیرم آئے گا حق کی قسم  
تب مرے گا اور گڑے گا میرے پاس  
ہو نہیں سکتا خلاف اس میں کبھی

افتراء پر جس کا کاروبار ہے  
 قبر میں اس پر الہی مار ہے  
 جھوٹا تھا اور جھوٹوں کا سردار ہے  
 جھوٹ لکھنے پر ترے پھنکار ہے  
 فیض ایلسی کی یہ پھوہار ہے  
 یا فقط الہام یہ دم دار ہے  
 جو میجا اور کرشن اوتار ہے  
 مرگ پر عیسیٰ کے کیوں اصرار ہے  
 زیت عیسیٰ، میرے حق میں خار ہے  
 مرگ عیسیٰ ہی گلے کا ہار ہے  
 جھوٹ بکنے کا اسے آزار ہے  
 قبر میں اس پر بڑی بھرمار ہے  
 عالم برزخ میں گیردار ہے  
 نسل چنگیزی بڑی خونخوار ہے  
 پھر تو وہ اک غول مردم خوار ہے  
 مکسن کژدم دمورومار ہے  
 عاقبت میں بھی خدائی خوار ہے  
 اس میں ہجری سال کا اظہار ہے  
 واہ بھی، واہی کے سر پر بار ہے

اک صفت ہے خاص مرزا میں بھی

مرزا واہی پیغمبر خوار ہے



۱۔ لطیفہ، عجیب، دمدار اور مرزا قادیانی کے اعداد بالکل متصل یعنی فقط مرزا کھادم جو  
 ہے اس کی کثیر ہے۔ ورنہ برابر۔ دمدار: ۲۳۹، مرزا: ۲۳۸۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مجلد اول  
تالیف مولانا محمد یعقوب مونگیری

# عبدالاحد قادری

کا کلی چٹھی کا

# مفصل جواب

(حضرت مولانا حکیم محمد یعقوب مونگیریؒ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

حامداً ومصلياً

ناظرین! اس چٹھی کا اجمالی جواب مولانا ابن شیر خدا دے چکے ہیں۔ میں تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے کہ حسب خواہش بعض مخلصین کے حضرت اقدس مولانا مولوی سید ابوالاحمد صاحب رحمانی عم فیضہم پورینی تشریف لے گئے۔ یعنی جہاں مولوی عبدالماجد قادیانی کا مکان ہے۔ چند معتقدین قادیانی ان کے وہاں ہیں۔ حضرت کے ہمراہ جناب مولانا مولوی سید مرتضیٰ حسن صاحب بھی تھے۔ ان کے وعظ بھی وہاں دھوم دھام سے ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر مولوی صاحب گھبرائے۔ خیال کیا ہوگا کہ چند ہمارے یہاں ہم خیال ہیں۔ اگر یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو دشواری پیش آئے گی۔ اس لئے یہ چٹھی مشتہر کی تاکہ معتقدین ہمارے دام میں پھنسے رہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ چار برس سے آپ کہاں سو رہے تھے۔ حضرت اقدس قبلہ عالم عم فیضہم کا رسالہ فیصلہ آسمانی حصہ اول کو چھپے ہوئے چار برس سے زیادہ ہوئے۔ ۱۳۳۰ھ میں چھپا ہے۔ اس وقت ۱۳۳۲ھ ہے اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی کسی شرمناک حالت دکھائی ہے۔ کیسے بدیہی الزامات انہیں کے قول سے انہیں دیئے ہیں۔ ان کے الہامات کی غلطی دکھائی ہے۔ جس سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا یقینی طور سے ثابت ہو گیا اور رسالہ یہاں سے قادیان تک بھیجا گیا۔ چیلنج اسے کہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے اس رسالہ میں اپنے دعویٰ کے ساتھ نہایت مستحکم دلیل کو پیش کر کے ساری دنیا میں جواب کے لئے مشتہر کیا۔ آپ کے پاس بھی بھیجا گیا۔ مگر اس وقت تک مولوی صاحب سرگرم بیان مہر بدہاں ہو کر حیران ہیں۔ کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ پھر اب حضرت ممدوح سے کیا بیان کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت موصوف تو بہت کچھ بیان کر چکے اور کئی برس سے مفصل چیلنج دے رہے ہیں اور صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کے ارشاد کی سچائی دہن یاد دیکھ رہی ہے کہ کئی برس ہوئے اس وقت تک نہ آپ نے کچھ جواب دیا نہ آپ کے کسی برادر کھلانے اور نہ خورد نے۔ پھر مولوی صاحب کا یہ جھوٹا چیلنج دینا کس قدر شرم کی بات ہے۔

ناظرین! کچھ ایک ہی رسالہ تو حضرت اقدس نے نہیں لکھا۔ متعدد رسالے لکھے ہیں۔ حصہ اول کے علاوہ حصہ دوم و حصہ سوم بھی لکھا اور مشتہر کیا۔ حصہ دوم کے جواب میں کچھ قلم فرسائی کر کے اپنی قابلیت اور ریانت اور راسخی کا نمونہ دکھایا تھا۔ مگر جب ان کی قابلیت کا اظہار اہل حق کی طرف سے ہوا تو پھر بجز بجز از رسکوت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس وقت تک مولوی صاحب کے القاء کے جواب میں اٹھ رسالے لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے رسائل ذیل طبع ہو کر انہیں پہنچ چکے ہیں۔

(۱) انوار ایمانی۔ (۲) حکمت ربانی۔ (۳) نمونہ القاء قادیانی جو صحیفہ رحمانیہ کے نمبر ۱۰ نمبر ۱۱، ۱۲ میں چھپا ہے۔ (۴) رسالہ عبرت خیز جو صحیفہ رحمانیہ نمبر ۸، ۹ میں چھپا ہے۔ ان مختصر رسالوں میں کاتب چٹھی کی جو بیانتیاں دکھائی گئی ہیں اور ان کی قابلیت کی پردہ درری کی گئی ہے وہ لائق دید ہے۔

ان رسالوں کے چھپے ہوئے دو برس ہو گئے۔ ان میں علانیہ چیلنج بھی دیا گیا ہے۔ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۱، ۱۲ صفحہ ۴۴ دیکھا جائے۔ مگر کاتب چٹھی کا یہ حوصلہ تو نہ ہوا کہ اپنے الزامات کو اٹھائیں اور سامنے آئیں۔ ان کے کسی شاگرد یا نام کے فاضل ایم۔ اے کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ اپنے بزرگ اور بڑے کی شرم رکھیں اور کچھ جواب دیں۔ ابتداء میں اس رسالہ کی نسبت حکیم نور الدین کے وقت میں اخبار بدر میں ایک مضمون نکلا تھا۔ جس کے جواب میں حضرت مولانا غم فیضہم نے دور سنا لے لکھے۔ تزیہ ربانی۔ معیار صداقت۔ مگر اس کے بعد تو علمائے قادیان کا بھی ناطقہ بند رہا اور اب تک ہے۔ اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ فیصلہ آسانی حصہ دوم بھی اسی طرح لا جواب ہے۔ جس طرح اس کا پہلا حصہ لا جواب ہے۔ اس کا تیسرا حصہ تو اپنی عظمت اور شان میں ان سب سے بڑھا ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ دیکھئے کہ اس میں مرزا قادیانی کے اعجاز المسح اور اعجاز احمدی پر کیسی گہری نظر ڈال کر مرزا قادیانی کے راز کو فاش کیا ہے اور پبلک پران کا اصلی منشاء ظاہر کر دیا ہے۔ مگر کسی قادیانی کو اس سیاہ داغ مٹانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر کس منہ سے کاتب چٹھی۔ حضرت مولانا کو چیلنج دیتے ہیں۔ حضرت اقدس نے تو مرزا قادیانی کا کذاب ہونا ایسی ایسی دلیلوں سے ثابت کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ باوجود آپ کو کمال تکبر علم کے ان کے جواب سے عاجز ہیں۔ اس رسالہ میں ایک بنظر تحقیق خلف وعدہ وعید میں کی گئی ہے اور نہایت کامل طور سے آیات قرآنی سے ثابت

کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی وعدہ اور وعید میں خلف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کوئی وعدہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اس کے حتمی وعدہ بھی نہیں ملتی۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ خوف کی وجہ سے وعدہ کا ٹل جانا سنت اللہ ہے۔ محض غلط ہے۔ (ص ۷۱ سے ۸۹ تک ملاحظہ ہو)

پھر منکوہ آسمانی والی پیشین گوئی کا غلط ہونا اظہر من الشمس کیا ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو اس جھوٹی پیشین گوئی کے سچ بنانے میں کوشش کی ہے اور حضرت مولانا نے اس کا غلط ہونا بیان کیا ہے۔ وہ نہایت ہی لائق دید ہے۔ (ص ۱۱۵ سے آخر تک ملاحظہ ہو)

اس پیشین گوئی کے پورا نہ ہونے کی بڑی وجہ سب سے پہلے مرزا قادیانی حقیقت الوحی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی شرطی تھی۔ جب وہ شرط پوری کر دی گئی تو نکاح فسخ ہو گیا۔ اس جواب کے غلط ہونے کی نو وجہیں نہایت مفصل اور مدلل ایسی بیان کی ہیں کہ قیامت تک ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بلکہ جس کے دل میں کچھ بھی نور ایمان ہے وہ انہیں دیکھ کر نہایت کشادہ پیشانی سے مرزا قادیانی کو جھوٹا یقین کرے گا۔ یہ رسالہ اسٹیم پریس امرتسر میں ۱۳۳۲ھ میں چھپا ہے۔

ناظرین! دیکھیں کہ حضرت اقدس کی طرف سے کیا مفصل چیلنج ہوا ہے۔ مگر مولوی صاحب کو اسے دیکھ کر بھی غیرت نہ ہوئی کہ جواب لکھے اسے چھپے ہوئے تیسرا برس ہے۔ کہئے مولوی صاحب یہ چیلنج تو میرا یا کسی دوسرے ذی علم کا نہیں ہے۔ بلکہ انہیں بزرگ کا ہے جنہیں آپ اپنا مخاطب صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر اب تک کیوں نہیں جواب دیا۔ اب ان سب سے آنکھ بند کر کے ۱۳۳۲ھ میں یہ چٹھی چھاپنا کس قدر بے غیرتی کی بات ہے۔ کاتب چٹھی سے کہئے کہ حضرت اقدس تو بہت چیلنج دے چکے ہیں اور ساری دنیا میں مرزا قادیانی کا کاذب ہونا نہایت مستحکم دلیلوں سے ثابت کر کے مشتہر کر چکے ہیں۔ کیا آپ خواب غفلت میں پڑے سوتے تھے اور اب جان بوجھ کر اپنے گرفتاروں کو پھسلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم چیلنج دیتے ہیں اور وہ سامنے نہیں آتے۔ سچ ہے ”بے حیاباش ہرچہ خواہی کن“

جماعت احمدیہ! اگر ہمارے رسالوں کے دیکھنے سے تمہیں ممانعت کی گئی ہے تو ان کی چٹھی کا جواب تو دیکھ لو اور اپنے جانوں پر رحم کر کے مولوی صاحب کے فریب کو ملاحظہ کرو کہ جب



حضرت اقدس متعدد رسالے مرزا قادیانی کے کذب میں لکھ کر شائع کر چکے ہیں اور برسوں سے وہ رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اب انہیں تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ میں اگر لکھنے کی قدرت نہیں ہے اور ڈرتے ہیں کہ اگر بیہودہ اور غلط باتیں لکھ کر شائع کیں تو ملک میں اور زیادہ بدنامی ہوگی اور اگر چند آدمیوں کے روبرو کچھ بیہودہ گوئی کی تو بہت کم حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ اس لئے اس پر اصرار ہے کہ جلسہ عام میں بیان نہ ہو۔ خاص جلسہ ہونا کہ کم لوگ واقف ہوں۔ اس لئے میں حاضر ہوں کہ آپ مجمع کریں یا ہمیں اس کی اجازت تحریری دیں کہ ہم مجمع کریں اور ہم مذکورہ رسالوں میں سے ایک کو کھڑے ہو کر سنادیں اور آپ اس کا جواب دیں۔ مگر اتنا کہنا ہمیں شریعت محمدیہ کے رو سے ضرور ہوگا کہ اگر آپ کے بیان میں کوئی بات قرآن مجید یا صحیح حدیث کے رو سے غلط ہوگی تو ہم علانیہ طور سے کہہ دیں گے کہ مولوی صاحب یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ قرآن وحدیث میں یہ نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی بات غلط کہیں گے تو ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں گے کہ مولوی صاحب یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے بیان کے بعد اگر حاضرین جلسہ غلطی کی وجہ بیان کرنے کے لئے کہیں گے اور ہم سے غلطی کا ثبوت چاہیں گے تو ہم اسے ظاہر کر دیں گے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے اور جماعت احمدیہ ہی انصاف کرے کہ کیسا فیصلہ کن چیلنج ہے اور یہ تو ایسا ہے کہ حضرت اقدس ہی سے مناظرہ ہوا۔ کیونکہ انہیں کا بیان پڑھا جائے گا۔

اب مولوی صاحب کے فریب آمیز چیلنج کو ملاحظہ کیجئے۔ لکھتے ہیں کہ کسی جلسہ میں حضرت اقدس خود مرزا قادیانی کے متعلق زبانی اعتراض کریں اور ہم اس کا جواب دیں۔ لیکن جانین سے صرف ایک ایک گھنٹہ تقریر ہو۔ یعنی اعتراض کے بعد ایک گھنٹہ آپ کا جواب ہو اور بیان کی حالت میں یا اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولے۔ چاہے آپ جھوٹی باتیں اور جھوٹا حوالہ اپنی تقریر میں کیوں نہ بول جائیں اور جھوٹی باتیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کیوں نہ کر دیں۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ اس شرط کے ساتھ آپ کے چیلنج کا سوائے اس کے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے کہ پبلک پر اپنی مستعدی دکھائیں اور دھوکا دیں۔ نہیں تو ایسی شرط لگانا کیا معنی؟ کوئی حق پسند ایک

منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے مرشد محض جھوٹی باتیں قرآن و حدیث کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں اور آپ نے بھی اپنے مرشد کی پیروی سے بعض جگہ بیان کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو دھوئیں صدی میں مسخ موعود آوے گا۔ حالانکہ کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں ہے۔ جب آپ کا یہ مذہب ہے اور آپ کی یہ حالت ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقریر کو جس میں جھوٹ کے ذخیرہ ہونے کا ظن غالب ہو، علمائے حقانی آپ کا بیان اس شرط پر سننا گوارا فرمادیں اور جھوٹی باتیں سنتے رہیں اور اس کے بعد ان کو جواب کا بھی موقع نہ دیا جائے اور خواہ مخواہ الساکت عن الحق شیطان اخرس کا مصداق بنیں۔ آپ کی کھلی چٹھی کا یہ پہلا فریب تھا۔ دوسرا فریب آپ کا یہ ہے کہ آپ حضرت اقدس کے رسالوں پر جو چار پانچ برس سے مرزا قادیانی کی پیشانی پر سے جھوٹ و کذب و افتراء و دجل کے بڑے بڑے بدنام داغ مٹانے کے لئے آپ کو چیلنج دے رہے ہیں۔ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کا یہ خیال محض خام اور باطل ہے۔ آپ چاہے جس قدر اپنی جھوٹی اور مصنوعی مستحی زبانی گفتگو کے لئے دکھائیں۔ لیکن اس سے وہ کتابیں ضائع نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مشعل ہدایت بن کر مسلمانوں کو راہ مستقیم دکھاتی رہیں گی۔ چاہے اس سے مرزا قادیانی کی ہڈیاں قبر میں جل کر خاک سیاہ کیوں نہ ہو جائیں۔ غرض کہ آپ ہزار جتن کریں۔ لیکن کتابوں پر پردہ نہیں پڑ سکتا اور اس طور سے آپ کی دوسری غرض بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

سوم، آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے اشتہار کا جواب حضرت ہی تحریر فرمائیں۔ کسی اور کے جواب کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے۔ آپ کا یہ قول بھی دجل کے پورا کرنے میں کم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قول صاف بتا رہا ہے کہ آپ کو اظہار حق مقصود نہیں ہے۔ بلکہ آپ صرف برابری دکھانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اولاً اظہار حق کے لئے کسی کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے کوئی طالب حق کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ بھالپور میں جس ڈرانے والی صدا سے قادیانیوں کی ہڈی لرزہ میں آئی تھیں۔ جو مولانا مولوی سید مرتضیٰ حسن صاحب کی صدا تھی اور وہ بھالپور میں تھے۔ نیز آپ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت مولانا بوجہ صنف پیری کے ایک گھنٹہ مسلسل مجمع میں تقریر نہیں فرما سکتے اور

اب تو مدت سے مجمع میں جانا ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کسی وقت چند آدمی کا مجمع آپ کے سامنے ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو رخصت کر دیتے ہیں۔ انہیں باتوں کو معلوم کر کے خاص حضرت مولانا کو تقریر کے لئے چیلنج دیتے ہیں اور جواب کے لئے بھی حضرت ہی کی تخصیص کرتے ہیں اور مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب کی طرف آپ ایک اشارہ بھی نہیں کرتے۔ اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ مرزا قادیانی کے متعلق گفتگو کرنے سے جان چراتے ہیں اور حضرت مولانا کے نام چیلنج صرف برابر دکھانے کے لئے اور پبلک پر اپنی ظاہری مستعدی ثابت کرنے کے لئے دیتے ہیں۔ اگر کچھ قابلیت جواب کی ہے تو مذکورہ رسالوں کا جواب لکھو۔ ورنہ گمراہی سے توبہ کرو۔

واضح رہے کہ آپ کی یہ دونوں غرضیں بھی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ آپ اپنی برابری حضرت قبلہ سے کیا دکھائیں گے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ سینکڑوں آپ کے ہم رتبہ اور افضل علماء حضرت مولانا کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ یہاں سے چانگام تک پورب میں اور پچھان میں کابل وغزنی تک سینکڑوں علماء حلقہ بگوش ہیں۔ ہوشیار پور کے ایک مشہور عالم آکر ابھی بیعت کر گئے ہیں۔ فیض صحبت کی غرض سے کئی ماہ صحبت میں رہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حضرات داخل سلسلہ میں کچھ عرصہ ہوا کہ مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے امام و خطیب آکر مرید ہو گئے ہیں۔ صرف چانگام کے متعدد علماء کے نام میں جانتا ہوں۔ جو حضرت قبلہ کے مرید ہیں اور ان میں سے بعض آپ سے افضل ضرور ہیں۔ جیسے مولانا اشرف علی صاحب جو وہاں کے استاذ الاساتذہ ہیں۔ مولانا مولوی واجد علی صاحب بانی مدرسہ واجدیہ و مولانا ابوالحسن صاحب و مولانا مولوی جمال الدین صاحب پروفیسر کالج چانگام و مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب نواکھالی۔ اسی طرح دوسرے ضلعوں میں بھی بعض کے نام جانتا ہوں۔ مثلاً مولانا ابواللیث صاحب پرنٹنڈنٹ سرکاری کالج سلہٹ جو عربی اور انگریزی دونوں میں ماہر ہیں اور غالباً تین سو پچھپہ ماہوار پاتے ہیں۔ بتائیے یہ لوگ کس بات میں آپ سے کم ہیں۔ جب ایسے ایسے ذی مرتبہ پور ذی شان لوگ حضرت کے مرید ہیں تو آپ برابری کا دعویٰ کریں؟ خدا کی شان۔

ہاں اب میں آپ کے دوسرے مضامین کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ غور سے ملاحظہ فرمائیں۔

۱..... آپ بہت خفا ہیں کہ رؤف العالم صاحب کا توبہ نامہ کیوں شائع ہوا۔

مولوی صاحب اگر اس وجہ سے آپ خفا ہیں کہ آپ کی پردہ دری ہوئی اور اندرونی بات آپ کی پبلک پر ظاہر ہوگئی تو اس میں آپ حق بجانب ہیں۔ لیکن اس کے کیا معنی کہ آپ رؤف عالم صاحب کے بیان کو بلا ثبوت تو کہتے ہیں۔ لیکن اس سے انکار کرنے کی ہمت آپ کو نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حقیقت میں وہ لفاظ استعمال نہیں کئے ہیں تو آپ کو چاہئے تھا کہ جس طرح سے رؤف عالم صاحب نے حلیہ اپنا اظہار شائع کیا تھا۔ آپ بھی اس کے مقابل حلیہ انکار کرتے، نہ یہ کہ آپ کو انکار سے بھی انکار ہے اور اس پر یہ خواہش ہے کہ لوگ رؤف عالم صاحب کے بیان کو غلط سمجھ لیں۔ مولوی صاحب یہ ناممکن ہے۔

۲..... حضرت اقدس نے کہیں پر حکیم نور الدین صاحب کے متعلق ایک روایت

بیان فرمائی تھی۔ اپنے اشتہار میں آپ اس کو بھی بے ثبوت کہتے ہیں اور گویا ثبوت چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ثبوت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ خلیفہ جی تو درکنار جب آپ کے اصل پیر مرزا قادیانی کا اسی قسم کا واقعہ اور ایک کسن لڑکی سے عشق ظاہر کیا گیا اور ثبوت میں انہیں کے اقوال اور انہیں کے خانگی خطوط دکھائے گئے اس وقت آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ جو اس وقت امید کی جائے۔ علاوہ بریں خلیفہ جی کے متعلق جو روایت بیان کی گئی ہے اس سے ان کے متعلق کوئی ناپاک الزام تو صراحتہ لگایا نہیں گیا تھا۔ جس سے آپ کو ان کے نام کے بعد قدس سرہ بڑھانے کی ضرورت پڑی۔

ناظرین! آپ کو مرزا قادیانی اور محمدی بیگم کا واقعہ مفصل معلوم نہ ہوگا۔ اس لئے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اگر پوری تفصیل آپ کو مقصود ہو تو الہامات مرزا ایچو دھویں صدی کا مسیح ملاحظہ فرمائیں۔

مرزا قادیانی کے لڑکے کے سسرال میں ایک لڑکی نہایت حسین و خوبصورت تھی۔ وہ ان کے لڑکے کے یہاں کسی تقریب پر آئی اور مرزا قادیانی دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اگرچہ سینہ میں

حسرت و تمنائوں کا طلاطم ہو گیا۔ لیکن اظہار محبت و پیغام نکاح کا کوئی موقع سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ وہ لڑکی ابھی کمسن ہے اور یہ اس وقت بڑھے فروت ہو گئے تھے۔ اس لئے ڈرتھا کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تم بڑھے ہو اور وہ کمسن ہے۔ تمہارا اس کا میل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مذہبی مخالف ہو گیا۔ مرزا قادیانی اسی خوف سے مدتوں اپنے اوپر فراق کی مصیبتیں سہتے رہتے۔ لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور ہمیشہ فکر میں مبتلا رہے۔ (اسی موقع پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ہم آسمانی نشان کے لئے دعاء میں مصروف تھے) آخر خدا خدا کر کے مرزا قادیانی کو اظہار محبت کا ایک موقع ہاتھ آ گیا اور جو کچھ ان کے جی میں تھا کہہ بھی سنایا۔ وہ موقع یہ تھا کہ لڑکی کے باپ کو ایک ہبہ نامہ پر ان سے گواہی کرانے کی ضرورت پڑی اور یہ گواہی ان کی ایسی تھی کہ بغیر اس کے وہ کاغذ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بس پھر کیا تھا فوراً کہہ دیا کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں دو، تب ہم گواہی کریں گے۔ (ان کے الفاظ یہ تھے)

”چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہمارے رضامندی کے بیکار تھا۔ اس لئے مکتوب الیہ نے بتا متر عجز و انکسار سے ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس ہبہ نامہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے۔ لیکن یہ خیال آیا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا آسمانی نشان کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایہ میں ظاہر کر دیا۔ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا۔“

(آئینہ کمالات اسلام، خزائن ج ۵ ص ۵۷۳)

ناظرین! ملاحظہ کریں کہ یہ مرزا قادیانی کی کیسی صریح بناوٹ ہے۔ واقف کار حضرات جانتے ہیں کہ استخارہ وہیں کرتے ہیں جہاں انجام کی حالت معلوم نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا اور جو امر خیر باعث ثواب ہے۔ ان میں ان میں استخارہ کرنا چہ معنی۔ نہایت مشہور مقولہ ہے کہ درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست۔ یعنی نیک کام میں استخارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو نیک کام جس

وقت پیش آوے اور اس سے ہو سکے بے تامل کرے۔ اس میں استخارہ کی کیا ضرورت۔ اس کا انجام یقینی معلوم ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ مثلاً کسی غریب محتاج کو کچھ دینا ہے تو اس کے لئے استخارہ کرنا س قدر حماقت کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کے ایک عزیز نے اپنی ایک حاجت پیش کی تھی۔ مرزا قادیانی کو چاہئے تھا کہ اسے پوری کر دیتے۔ جیسا کہ اہل اللہ کا شیوہ ہے۔ نہ کہ اس کی حاجت روائی سے انکار کر کے ایک طوفان برپا کر دیا اور انجام کار زلت اٹھائی۔ کیونکہ ان کی حالت ظاہر ہو گئی اور معلوم ہوا کہ اس کی لڑکی پرفریفتہ تھی۔ آخر عمر تک اس کی آرزو میں تدبیریں کرتے رہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت مخلوق کو اس گمراہی سے بچانا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کی آرزو پوری نہ ہوئی اور دست حسرت ملتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور ساری دنیا کے نزدیک کاذب و مفتری ٹھہرے۔ اگر کسی ایسے بزرگ کا کوئی خواب بالفرض اچھا نہ ہو جس کی ولایت کے سینکڑوں شواہد لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ان کی ولایت نہیں جاتی۔ فتوحات مکہ وغیرہ دیکھو، اور جس خواب کو آپ بار بار پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی تفصیل تو جواب حقانی میں دیکھئے۔ وہ چھپ کر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ کیا اندھیر ہے کہ باوجود صریح جواب مشتہر ہو جانے کے عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔

میاں عبدالماجد صاحب! اس خواب کو تو حضرت مخدوم الملک شرف الدین بہاری علیہ الرحمہ کمال اسلام کا نشان بتاتے ہیں اور حضرت مجدد الف ثانی بھی انہیں کے ہم زبان ہیں۔ حضرت زبیدہ خاتون نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔ جس قسم کے خواب پر آپ بہکے ہوئے ہیں اور حضرت امام مالکؒ نے اس کی نہایت عمدہ تعبیر دی تھی۔ پہلے ان کا طین اولیاء اللہ کے جھوٹے ہونے کا اعلان دیجئے اور چونکہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو مجدد الف ثانی آپ بھی مان چکے ہیں۔ اس لئے اپنے آپ کو بھی جھوٹا ٹھہرائیے۔ اس کے بعد اس خواب میں گفتگو کیجئے گا۔ آپ کے اسرار نہانی کے دو جواب ہونے چکے ہیں۔ یہ نہ سمجھئے گا کہ جس طرح آپ اور آپ کی جماعت اہل حق کے جواب سے عاجز ہے۔ اہل حق بھی کسی باطل پرست کے جواب سے ساکت ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ ولی التوفیق!

خاکسار: محمد یعسوب عفی عنہ!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَجْلِدِ اَوَّلِ سِتِّیْنِ اَبُو یَعْقُوْبَ  
مَدْرَسَةِ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ

مزاحمت کے متعلق  
جزیرہ طینی طوطا کے  
مسائلوں کے  
سات سوالات کے جوابات

(حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیریؒ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

بعد حمد و نعت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام، یہ خاکسار ہمدردان اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ خدا کے واسطے آپ حضرات اس پر غور فرمائیں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد چالیس پچاس کروڑ کہی جاتی ہے۔ مگر باوجود اس کثرت کے ان کا ضعف ایمانی اور اپنے دین پاک سے بے پرواہی کم تعجب انگیز نہیں ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ مسلمان بہت ہی کم تھے اور ساری دنیا مخالفین اسلام سے بھری پڑی تھی تو کیا مسلمان مقدس اسلام کی خدمت و حفاظت سے باز رہے۔ ہرگز نہیں۔ اگرچہ اس وقت مسلمان کمزور اور غریب تھے۔ مگر اپنے پاک مذہب کی حفاظت میں انہیں جان و مال کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ جو کچھ کھاتے تھے اسلام پر قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگرچہ تعداد میں کم تھے۔ مگر مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیئے اور تمام دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ انہیں کی بدولت اس وقت دنیا میں پچاس کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر میں تو جماعت بہت بڑی ہے۔ مگر افسوس و حیرت ہے کہ چاروں طرف سے دشمنان اسلام کے حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے مقدس مذہب کو کس کس طرح مٹایا جا رہا ہے۔ مگر یہاں احساس تک نہیں۔

جان تو کیا دے سکتے ہیں تھوڑا سا مال صرف کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ صدمہ تو اس کا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عیسائی عرصہ سے اسلام کے فنا کرنے کے لئے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے مذہب کی اشاعت میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان ان کے فریب میں آ کر عیسائی بن گئے اور آئے دن ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف آریوں کا زور ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں جان و مال سے ہر جائز و ناجائز کوشش کو عمل میں لارہے ہیں اور ہزاروں مسلمان آریہ ہوتے جاتے ہیں۔ تیسرا دشمن مگر سب سے زیادہ خطرناک دشمن مرزا غلام احمد قادیانی کا گروہ ہے جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان و قلم سے اسلام اور بزرگان اسلام کی سخت توہین کی ہے۔ مرزا قادیانی نے صاف طور پر اپنے کو رسول کہا ہے اور اپنی رسالت کا زوروں کے ساتھ دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دفع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)



اس کے ماسوائے بہت سے ان کے اقوال ہیں۔ رسالہ دعویٰ نبوت مرزا ملاحظہ ہو۔  
 دعویٰ نبوت ہی پر بس نہیں۔ کیا بلکہ اپنے کو تمام انبیاء کرام سے افضل کہا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ  
 سے بھی اپنے کو افضل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جو میرے لئے نشان ظاہر ہوئے ہیں وہ  
 تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔ (تتر حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

(اخبار البدرد قادیان مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۶ء) اور آقائے دو جہاں کی نسبت لکھتے ہیں کہ  
 تین ہزار معجزے ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔ (تحدہ گولڈ ویس ص ۳۰، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳)  
 اب دیکھنا چاہئے کہ مرزا قادیانی کس صفائی کے ساتھ حضور پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے  
 ہیں کہ میرے نشانات اور معجزے تین لاکھ سے زیادہ ہیں اور نبی کریم ﷺ کے تین ہی ہزار ہیں۔ سو  
 حصے سے زیادہ اپنی فضیلت ظاہر کی ہے۔ دوسری جگہ کس بیباکی کے ساتھ حضور ﷺ پر اپنی فضیلت  
 کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ”آنحضرت ﷺ براہین مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ  
 موجود ہونے کسی نمونہ کے موبہ مومناکشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت  
 کھلی اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کما ہی  
 ظاہر فرمائی گئی۔“ (ازالۃ الاذہام ص ۲۸۲، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ﷺ پر تو حقیقت نہ کھلی۔ مگر مرزا قادیانی پر پورے طور  
 سے کھل گئی۔ اس قسم کے اقوال اور بھی ہیں جو دوسرے رسالوں میں دکھائے گئے ہیں۔

اب ناظرین خود سمجھ لیں کہ مرزا قادیانی اور ان کے تبعین کے دل میں کس قدر وقعت  
 اسلام اور بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے۔ ایسا گستاخی کرنے والا انسان کبھی بزرگ یا نبی  
 ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ تمام مسلمان بھی نہیں کہا جاسکتا۔ محض مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے  
 اسلام کا دعویٰ ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے ظاہر میں محض ذاتی اغراض کی بنیاد  
 پر دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک مرزا قادیانی کے صاحبزادے مرزا محمود صاحب کا گروہ ہے جو محمدی  
 پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کھلم کھلا مرزا قادیانی کو نبی کہتا ہے اور ان کے نہ ماننے والے کو کافر  
 قرار دیتا ہے۔ یہ جماعت جنوبی امریکہ اور افریقہ وغیرہ میں اپنی دروغ بانی کی اشاعت کر رہی  
 ہے۔ دوسرا گروہ خولجہ کمال صاحب کا ہے جو لاہوری پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسلمانوں  
 سے روپیہ وصول کرنے اور اندرونی طور پر مرزائیت کی تبلیغ کرنے کی غرض سے بالا اعلان  
 مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتا۔ مرزا قادیانی کے صریح قول جو دعویٰ نبوت کے متعلق ہیں۔ ان میں

تا وہ ملیں کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ جیسے بعض بزرگوں نے حالت جذب میں انا الحق وغیرہ کہا۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی دعویٰ نبوت اور دعویٰ خدائی وغیرہ کئے۔ حالانکہ یہ محض ان کا فریب ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ ثابت کرے کہ جن بزرگوں سے اضطرابی حالت میں وہ الفاظ نکلے۔ ان کا انہوں نے کبھی دعویٰ بھی کیا اور اس پر اصرار اور زور بھی دیا یا انہوں نے اس کی اشاعت رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ سے کی۔ ہرگز نہیں اور انہوں نے کہیں یہ بھی کہا کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے اور مرزا قادیانی کی طرح انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرا اپنے الہاموں پر ویسا ہی ایمان ہے۔ جیسا قرآن مجید پر، کوئی سمجھد مرزا قادیانی کے ان زوردار دعوؤں کو دیکھ کر ایک لحظہ کے لئے اسے نہیں مان سکتا کہ مرزا قادیانی کے اس قسم کے زوردار دعویٰ جس میں دفتر کے دفتر سیاہ ہوئے ہوں اور اپنے مخالفین کو ان کے نہ ماننے پر سخت برے الفاظ استعمال کئے ہوں۔ یہاں تک کہ ان کو کافر کہا ہو جو ایک بھلا آدمی زبان پر نہیں لاسکتا۔ جذب اور بیہوشی کی حالت پر محمول کئے جاسکتے ہیں؟

یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جن بزرگوں نے انا الحق وغیرہ اضطرابی حالت میں کہا تو انہوں نے بظاہر دعویٰ خدائی کیا۔ مگر دعویٰ نبوت کسی سچے مسلمان نے نہیں کیا۔ کیونکہ دعویٰ خدائی مدہوشی میں کرے گا یا اس طور پر ہوگا کہ اس کا جھوٹا ہونا خاص و عام سب سمجھ لیں گے۔ دعویٰ نبوت جو کرے گا وہ جھوٹ و فریب سے کرے گا اور عوام پر اس کا جھوٹ فریب چھپ سکے گا۔ جیسے کہ بہت سے جھوٹے مدعیوں نے کیا اور بہت سے لوگ ان کے فریب میں آ گئے اور انا الحق کہنے والوں کو کسی نے خدا نہیں مانا۔ لاہوری پارٹی کا اس سے انکار کرنا اور اس قسم کی باتیں بنانا محض اس غرض سے ہے کہ کہیں مسلمان برافروختہ ہو کر ان کے دام تزدیر سے نکل نہ بھاگیں اور جو ان کا مطمع نظر ہے وہ حاصل نہ ہو۔

خواجہ صاحب بڑے شان دار لفظوں میں کہتے ہیں اور اس کا شور و غل ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی اشاعت کرتا ہوں۔ مگر افسوس مسلمان اس ظاہر داری پر فریفتہ اور خاموش ہیں کہ فی الحقیقت خواجہ صاحب حقیقی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس خبر سے پھولے نہیں ساتے اور ان کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ اسلام کی مدد نہیں ہے۔ بلکہ گمراہی اور دہشت کی شان ہے اور اسلام کے دشمنوں کی مدد ہے جو اسلام کی تباہی میں کوشاں ہیں۔ کیونکہ یہ تو اس کی تبلیغ ہے۔ جس کے بانی نے قرآن مجید میں تحریف کی اور احادیث نبوی علیہ الصلوٰۃ

والسلام کو ردی قرار دیا۔ خدا پر اور اس کے رسولوں پر الزام لگائے اور اس کے رسولوں کی توہین کی۔ اسی کو خواجہ صاحب اسلام کہتے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ جب خواجہ صاحب علی گڑھی میں گئے تو وہاں کی شاندار مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ بلکہ قادیانی لڑکوں کے ساتھ ایک کوٹھری میں جو ان لڑکوں نے اپنی نماز کے لئے مخصوص کر رکھی تھی نماز پڑھی۔ مسلمان طلباء نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور ہے۔ یہ نہایت صحیح واقعہ ہے۔ علی گڑھ کے طلباء اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو ان سوالات سے جو آپ آگے چل کر ملاحظہ کریں گے۔ ان کے اسلام اور تبلیغ کی حالت اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ یہ بات جدا ہے کہ خواجہ صاحب کو کام کرنے کا ڈھنگ خوب معلوم ہے۔ بہت مستعد اور دھن کے پکے آدمی ہیں۔ کام کرنا اور مستعدی اور بات ہے اور سچائی اور خلوص کے ساتھ حقیقی اسلام کی خدمت کرنا دوسری چیز ہے۔ کیونکہ تجربہ اور واقعات عالم اس کے شاہد ہیں اور بہت سی ایسی نظیریں ہیں کہ وہ لوگ جو زہد و تقویٰ اور اسلام کی خدمت میں مشہور تھے اور اس صورت سے ایک عالم کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیا۔ مگر دیکھا کہ ہمارا اسکے پورا جم گیا تو اپنے اصلی مقصد کا اظہار کیا اور لوگ انہیں مان گئے۔ ایسے لوگوں کے مختصر حالات (رسالہ فیصلہ آسمانی حصہ دوم اور رسالہ عبرت خیز میں ملاحظہ ہوں)

### رسالہ لکھنے کا سبب

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رسالہ کے لکھنے کا کیا سبب ہوا۔ شمالی امریکہ میں ایک جزیرہ ٹرینی ڈاؤ ہے۔ جہاں حبشی اور ہندوستانی مسلمان مزدور آباد ہیں۔ ایک مذہبی جھگڑے کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں نے محض اس خیال سے کہ یہ باہمی جھگڑا دور ہو اور مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک خط ندوۃ العلماء میں لکھا اور ایک خواجہ کمال الدین صاحب کو، مگر افسوس اور صدمہ اس کا ہے کہ ہمارے علماء نے بہ اکتفا ہی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا کچھ خیال نہیں کیا اور اسے بے حقیقت بت سمجھ کر وہاں کے مسلمانوں کی ذہنی اور ان فریاد و زاری نہ سنی۔ جس کا انجام یہ ہوا کہ خواجہ صاحب نے اس موقع کو غیبت سمجھ کر اپنا ایک مبلغ فضل کریم خان بی اے قادیانی کو وہاں بھیج دیا۔ اس مبلغ نے وہاں پہنچ کر بڑے زور و شور سے مرزائی اسلام کی اشاعت شروع کر دی اور وہاں کی روش کے موافق باتیں کیں۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ پچارے بہت سے مسلمان ان کے دام میں آ گئے۔ مگر چونکہ (مرزائی اسلام کی تبلیغ) میں گمراہی کی تعلیم تھی۔ وہاں کے صاحب بصیرت

مسلمان چونک پڑے اور کہا یہ کیسا اسلام ہے۔ ایسی تعلیم تو قرآن و حدیث نے نہیں دی ہے۔ تو مبلغ صاحب فرمانے لگے کہ علمائے اسلام نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ (معاذ اللہ) یہ کیسی گمراہی کی بات ہے۔ علمائے اسلام تو وہ بزرگ ہیں جن کی شان میں جناب رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ: ”العلماء ورثة الانبياء“، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انہیں حضرات کے علم و فضل زہد و اتقاء اور علم و ہمتی کی بدولت قرآن و حدیث کی سچی اور پاک تعلیم باسانی گھر گھر پہنچتی نور ہدایت چمکا گمراہی دور ہوئی۔ اگر یہ حضرات ماہرین قرآن نہ ہوتے تو اس وقت دنیا گمراہ رہتی۔

ناظرین! مرزا قادیانی کی گمراہ تعلیم کو خوبصورت صاحب اسلام کہتے ہیں اور اسی کی اشاعت میں اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بہت سی باتیں اور ان کے دعویٰ ایسے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور ان کے جھوٹ فریب تو بیٹھار رسالوں میں دکھائے گئے ہیں۔ اس رسالہ میں محض آپ کی آگاہی کے لئے دو تین قول ان کے دکھادیئے گئے ہیں۔ جن کو پڑھ کر دنیا مرزا قادیانی کو ایک اچھا آدمی بھی نہیں کہہ سکتی۔ مجدد اور امام ہونا تو بڑی بات ہے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ خوبصورت صاحب ظاہر میں ان کو نبی تو نہیں مانتے۔ مگر مجدد اور امام اور مصلح ضرور مانتے ہیں۔ مجدد اور امام کی تو بڑی شان ہے۔ ان کو تو ایک ادنیٰ مؤمن کہنا یہ بھی مؤمن کی تو ہیں ہے۔ مگر خوبصورت صاحب تو مرزا قادیانی کے وہ اوصاف بیان کرتے ہیں جو خاص نبیوں کی شان ہے۔

مرزا قادیانی میں نبیوں کے تمام فرضی آثار بتاتے ہیں۔ مگر نبی کا لفظ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے استعمال نہیں کرتے۔ مگر افسوس کہ ہمارے بھائی مسلمان ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور اپنے سچے ہی خواہوں کی نہیں سنتے اور اپنی مالی مدد سے کفر و ضلالت کی اعانت کر رہے ہیں اور اس ارشاد خداوندی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ”لا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ گناہ اور سرکشی کی (باتوں میں) معین و مددگار مت ہو۔ بلکہ ایسے لوگوں سے ترک موالات کی تاکید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ: ”یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء وایسای فاتقوا“ اے مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ میں ٹرینی ڈاڈ کے ان مسلمانوں کا اور بالخصوص میاں رکن الدین صاحب پنجابی کا جنہوں نے محض اپنی قوت ایمانی اور اخلاص سے بہت مستعدی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ یہاں سے اور دوسرے جگہوں سے کتابیں منگا کر وہاں کے بہت سے مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا اور اسی طرح میاں گوہر علی صاحب بھی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور اخلاص میں ترقی دے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین!

ان حضرات کا میں نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے خواجہ صاحب کے بھیجے ہوئے مبلغ کے تعلیمی عقائد چند سوالات کی صورت میں میرے پاس بھیجے۔ جن میں بعض ایسے سوال ہیں۔ جن کو ہر وہ مسلمان جو کچھ بھی اپنی مذہبی معلومات رکھتا ہے خوب جانتا ہے۔ اس لئے ان سوالوں کا جواب ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً:

- ۱..... جانور کا گلا کاٹ کر خون بہا دینے سے اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے۔ خواہ اس کا ذبح کرنے والا کوئی بھی ہو۔
- ۲..... غلام احمد قادیانی ایک اعلیٰ پایہ کے بزرگ تھے۔
- ۳..... غلام احمد قادیانی نے جو اپنے کو نبی وغیرہ کہا ہے وہ مجذوبانہ حالت میں کہا ہے۔ جس طرح حضرت منصور نے انا الحق کہا تھا۔
- ۴..... نماز ایک قسم کی ورزش ہے۔
- ۵..... روزہ بھوکا مرنے کا ہے۔

مسلمانو! غور کرو یہی اسلامی تعلیم ہے جو وہاں پھیلائی جا رہی ہے۔ یا رسول کی تعلیم کو مستحکم بنایا جا رہا ہے اور درپردہ فرائض خداوندی سے انکار ہے اور اسی کا نام تبلیغ اسلام رکھ چھوڑا ہے۔ بس یہی مرزا قادیانی کے ماننے کا نتیجہ ہے جو سراسر دہریت کی تعلیم ہے۔ مگر چونکہ آزادی کا زمانہ ہے۔ اس لئے اس قسم کی باتوں کو ہمارے بھائی مسلمان بھی پسند کرتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہیں۔

جب میں نے دیکھا کہ یہ سوالات قرآن و حدیث اور مسلمانوں کے مسلمہ عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور معاذ اللہ سراسر کفر و ضلالت کی کھلی اشاعت ہے تو ان کے جوابات رسالہ کی صورت میں قرآن و حدیث اور اجماع امت سے مدلل کر کے لکھ گئے جو عین اسلام کی تعلیم اور جمہور مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ ان کا ترجمہ انگریزی میں بھی کرایا گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ چھپوا کر بھیجا جائے گا۔ اب جو اس کے مخالف باتیں بنائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ٹرینی ڈاڈ کے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ کو دریافت کرنی ہو بلا تکلف مجھ سے دریافت کر لیا کریں۔ حتیٰ الوسع اس کے جواب دینے میں پوری کوشش کی جائے گی۔

اور آپ اپنی ہمت کو نہ ہاریں اور ان دشمنان اسلام کے فریب سے بچتے رہیں۔ مرزا قادیانی اور خواجہ صاحب کے مختصر حالات معلوم کرنا چاہیں تو کم از کم ذیل کی کتابیں فیجر کتب خانہ خانقاہ رحمانیہ موگیئر صوبہ بہار سے منگا کر ضرور ملاحظہ کریں۔

سخ قادیان کی حالت کا بیان

ہدیہ عثمانیہ

دوسری شہادت آسمانی

دعویٰ نبوت مرزا وغیرہ

فیصلہ آسمانی حصہ اول، دوم، و سوم

معیار سخ

چنگ محمدیہ

رسالہ عبرت خیز

(نوٹ: بجزہ تعالیٰ احتساب قادیانیت کی سابقہ جلدوں میں یہ تمام کتب و رسائل شائع

ہو گئے۔ مرتب)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین ان مسئلوں میں۔

سوال نمبر: ۱

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا ان کے باپ یوسف نجار تھے۔  
قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے کیا ثابت ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ یوسف نجار ان کے باپ  
تھے۔ اس کا یہ کہنا از روئے شرع کے کیسا ہے؟

جواب نمبر: ۱

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام  
بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس پر نص صریح ہیں۔ یوسف نجار یا  
دوسرا کوئی شخص ان کا باپ ہرگز نہیں تھا اور جو شخص یوسف نجار کو ان کا باپ کہتا ہے وہ صریح قرآن  
شریف کے خلاف کہتا ہے اور اگر اس کو اس پر اصرار ہے تو بیشک وہ بیدین اور اسلام کا دشمن ہے۔  
پہلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ ہونے پر نصوص قرآنیہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد  
مسئلہ کی دوسری شق پر روشنی ڈالوں گا۔

”وانكر فى الكتاب مريم . اذا انتبذت من اهلها مكاناً شرقياً  
فاتخذت من دونهم حجاباً فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً . قالت  
انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً قال انما انا رسول ربك لا هب لك  
غلاماً ذكياً . قالت انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم اك بغياً قال كذلك  
قال ربك هو على هين وانجعله اية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضياً  
فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً . فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت  
يليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً . فنادها من تحتها الا تخزنى قد

جعل ربك تحتك سرىا وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطباً جنياً .  
فكلى واشربى وقرى عيننا فاما ترين من البشر احداً فقولى انى نذرت  
للرحمن صوماً فلن اكلم ليوم انسياً فاتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد  
جنئت شيئاً فزىا . يااخت هارون ماكان ابوك امرا سوء وماكانت امك بغياً  
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبياً قال انى عبدالله اتنى  
الكتب وجعلنى نبياً وجعلنى مبركاً اين ماكنت واوضنى بالصلوة والزكوة  
مادمت حياً وبراً بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقيماً ﴿ اس كتاب میں مریم کو یاد کر  
جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں چلی گئی اور سبھوں سے پردہ کر لیا تو (اسی  
حالت میں) میں نے اپنے فرشتے کو بھیجا جو پورے قد کے انسان کے ہم شکل ہو کر مریم کے سامنے  
کھڑا ہو گیا۔ مریم نے (دیکھ کر) کہا میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تو خوف خدا رکھتا  
ہے (اس پر) فرشتہ نے جواب دیا میں اور کچھ نہیں ہوں۔ صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔  
تا کہ تم کو ایک پاک لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا مجھ کو کیونکر لڑکا ہوگا۔ مجھ کو تو نہ کسی مرد نے اب  
تک چھوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں (پھر میرے لڑکا کیونکر ہو سکتا ہے) فرشتہ نے کہا اسی طرح ہوگا۔  
(یعنی بغیر مرد کے چھوئے اور بغیر بدکاری کئے) تمہارے رب نے کہا ہے کہ اس طرح لڑکا پیدا کرنا  
مجھ پر آسان ہے اور ایسا اس لئے کروں گا کہ اس بات کو لوگوں کے لئے ایک نشان اور سبب رحمت  
بناؤں اور یہ حکم اٹل ہے (اس سوال و جواب کے بعد) مریم نے اس کو حمل میں لے لیا (یعنی  
اللہ تعالیٰ نے ان کے شکم میں روح کو ڈال دیا بعد ازاں) وہ کنارے کے مکان میں چلی گئیں۔ اس  
کے بعد دروزہ کا قصہ ہے اور چند آیتوں کے بعد پھر ارشاد ہے۔ بس وہ لڑکے کو اٹھائے ہوئے اپنی  
قوم کے پاس لائیں۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا اے مریم تو خوب تجھ لے کر آئی۔ اے ہارون کی  
بہن نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی (پھر تجھ میں یہ اثر کہاں سے آیا) اس پر مریم نے بچہ  
کی طرف اشارہ کیا (کہ حقیقت حال اس سے پوچھ لو) قوم نے کہا کہ ہم ایک گود کے بچے سے  
کیونکر بات کریں (اس پر) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ بیشک میں خدا کا بندہ ہوں۔  
اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا اور جہاں میں رہوں گا۔ مجھ پر خدا کی برکت رہے گی اور  
خدا نے مجھ کو نماز و طہارت کی وصیت کی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ کو اپنی ماں کا  
خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے منکبر اور شقی نہیں بنایا۔ ﴿

یہاں تک قرآن شریف کی سترہ آیتیں نقل کر کے ان کے صحیح معانی بیان کئے گئے ہیں۔ اب جو ان کے خلاف معنی بیان کرے اور ان معنوں کو غلط بنا کر قادیان کے ترجمہ کو صحیح کہے وہ محض جاہل اور فریب دینے والا ہے۔ وہ ہمارے سامنے آئے۔ ہم اس کی جہالت مجمع کے سامنے بیان کر کے دکھادیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو ایمانداران آیتوں کو اور ان کے ترجمے کو پڑھے گا وہ بلا تامل کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہ مضمون ان آیتوں میں ایک ہی طریقہ سے نہیں بیان ہوا ہے۔ بلکہ چند طریقوں سے بار بار دہرایا گیا ہے۔ اول یہ کہ جب مریم سے فرشتہ نے کہا کہ میں تم کو لڑکا دینے آیا ہوں تو حضرت مریم نے چونکہ وہ مسجد پر وقف تھیں۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ آئندہ شادی کی امید تھی۔ اس لئے فرشتہ کو جواب دیا کہ مجھ کو نہ اب تک کسی مرد نے نکاح کے ذریعہ سے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ پھر مجھے کیسے لڑکا ہوگا۔ اس پر فرشتہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری شادی ہوگی اور تم مرد سے ملوگی۔ بلکہ کہا تو یہ کہا کہ تم کو اسی طرح یعنی بغیر مرد سے ملے لڑکا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ فرشتہ نے مزید اطمینان کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سنا دیا کہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا میرے لئے آسان ہے۔ میں اس پر قادر ہوں۔ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا کیا تو تمہارے پیٹ سے بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ "قال ربك هو علیٰ عین" کا اس کے سوا اور کچھ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی جو روزمرہ ہوتی رہتی ہے تو اس کے لئے نہ حضرت مریم اشکال بیان کرتیں اور نہ خداوند تعالیٰ اپنی شان قدرت بیان کر کے حضرت مریم کو خاموش کرتا اور نہ اس پیدائش کو خصوصیت کے ساتھ اپنی شان خلاقی کا نشان قرار دیتا۔ مگر چونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک انبیاء کی عظمت نہیں ہے۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کی اس وجہ سے وہ اور ان کے مریدین ایسے قدرت والے نشان سے انکار کر کے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ تیسری صورت سے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ جب حضرت مریم بچے لے کر قوم کے سامنے گئیں تو ان کی قوم نے طعنہ دیا اور ملامت کی کہ اے مریم تیرے والدین برے نہ تھے۔ تیرا خاندان ایسا اعلیٰ وارفع ہے کہ تو ہارون علیہ السلام کی بہنوں میں شمار ہوتی ہے۔ پھر تجھ سے ایسا ناروا فعل کیونکر سرزد

۱۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی سخت جھوکی ہے اور انہیں مکار و فریبی بتایا ہے اور ان کی نانی جو غیرہ کو کسبیاں اور زنا کار کہا ہے (نعوذ باللہ) مرزا قادیانی کا (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۲۱۹) ملاحظہ ہو۔



ہوا۔ اب اگر وہ شوہر دار ہوتیں تو کیوں قوم طعنہ دیتی اور ملامت کیوں کرتی۔ ان کی ملامت سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم کے کوئی شوہر نہ تھا۔ بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہوا۔ اس لئے ان کی قوم نے اس بچہ کو ناجائز سمجھ کر ملامت کی اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بغیر مرد کے ملے ہوئے بھی عورت کے لڑکا ہو سکتا ہے۔ جس کا جواب اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود ہی سے قوم کو دے دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جس کی حکمت اور قدرت کے تم بھی قائل ہو۔ لہذا تعجب نہ کرو اور دیکھو خدا کی حکمت اور قدرت ایسی ہے کہ میں اسی کے سہارے اپنی ماں کی گود ہی میں بول رہا ہوں اور اس سے بڑھ کر تعجب انگیز یہ ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ اور اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے یہ چوتھی دلیل ہے۔ اس بات پر کہ بغیر باپ کے تھے۔ کیونکہ اس سورہ کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں و باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ نیز تمام مسلمانوں کو اور بنی اسرائیل کو اور عام بنی آدم کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے صرف ماں ہی تھیں۔ باپ نہیں تھے۔ جن کا تذکرہ کیا جاتا اور ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کو کہا جاتا۔ انجیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ انجیل متی کا پہلا باب ملاحظہ ہو۔

عادة اللہ کے خلاف قدرت الہی کا ظہور

”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین (آل عمران: ۶)“ ﴿اللہ کے یہاں جیسے آدم ویسے عیسیٰ کہ (خدا نے) مٹی سے آدم (کے پتلے) کو بنا کر اس کو حکم دیا کہ (آدم) بن اور وہ (آدم) بن گیا (اے پیغمبر یہ ہے) حق بات جو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے (بتائی جاتی ہے) تو کہیں تم بھی شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ ﴿

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار یہود کو جو اب دیا ہے اور اپنے سچے نبی کی صداقت کو ظاہر فرمایا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بے باپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ جس وقت حاملہ ہوئی ہیں اس وقت ان کا کوئی شوہر نہ تھا۔ کفار یہ واقعہ معلوم کر کے

متعجب ہونے اور حضرت مریم علیہا السلام کو سخت الزام دینے لگے۔ جس طرح کہ اس وقت مرزا قادیانی اور ان کے پیرو دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو جواب دیتا ہے اور حضرت مریم علیہا السلام کی پاکبازی ظاہر فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہایت عجیب و غریب طور پر نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح پر ہے جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ تعجب خیز ہے کہ ان کے تو ماں اور باپ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض مٹی کی تصویر بنا کر اسے آدمی ہو جانے کا حکم کر دیا۔ وہ آدمی ہو گئے۔ جن کا نام آدم رکھا گیا۔ جن کی اولاد تمام عالم میں ہے۔ جن کو آدمی کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں و باپ صرف خدا کے حکم سے پیدا ہوئے پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیا تعجب ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی صورت بنا کر انسانی روح اس میں پھونک دی۔ اسی طرح حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر کسی ظاہری سبب کے شکل بنا کر اس میں انسانی روح پھونک دی اور اسے حسب دستور پیدا کر کے نبوت کا کام لیا۔ اس آیت کی یہی تشریح ہے۔

افسوس ہے مرزا اور مرزا کے مریدوں پر کہ ایسے صریح اور کھلے بیان کو نہیں سمجھتے اور حضرت مریم پر کافروں کے مثل تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو صرف پیدائش میں حضرت آدم کے مثل قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح آدم کو بغیر ماں و باپ کے پیدا کیا تھا اسی طرح حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب کوئی مرزائی بتائے اگر یہ مطلب نہیں ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو پیدائش میں حضرت آدم علیہ السلام کے مثل کا کیا مطلب ہے۔ آیت نے تو صاف طور سے پیدائش میں مثال بیان کی ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آدم بغیر ماں و باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے باپ ہوتے تو پیدائش میں حضرت آدم سے ان کو مثال دینا محض غلط ہو جاتا اور کلام الہی جھوٹا ٹھہرتا۔ (معاذ اللہ)

اس بیان سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کلام الہی کو نہیں مانتا تھا۔ محض دہریہ تھا۔ اپنی محدود عقل کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کا احاطہ کرنا گویا خدا کی قدرت کو محدود کرنا ہے۔ اسی کی قدرت کا یہ دنیا ایک ادنیٰ مظہر ہے۔ وہی حکیم مطلق ہے جو اپنی قدرت کو مختلف طور سے ظاہر کرتا ہے اور اسی کی یہ قدرت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفہ سے پیدا کرتی ہے۔

ہے۔ اسطور سے کہ نطفہ پہلے خون بستہ ہوا۔ اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا۔ پھر صورت انسانی اختیار کی بعد ازاں اس میں روح ڈالی گئی۔ غرضیکہ حضرت آدم کی اولاد تدریجاً پیدا ہوئی۔ مگر خود حضرت آدم علیہ السلام دفعۃً پیدا کئے گئے۔ یعنی مٹی کا سانچا تیار کر کے اس میں روح ڈال دی گئی اور نطفہ کی ضرورت نہیں ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مشابہہ بیان فرمایا کہ جس طرح اس میں نطفہ کی ضرورت نہیں ہوئی۔ صرف لفظ کن سے پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نطفہ کی ضرورت نہیں ہوئی اور لفظ کن سے ان کو بھی پیدا کر دیا۔ مگر حیرت یہ ہے کہ قادیانی حضرات، آدم علیہ السلام کی نسبت تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی صورت بنانی اور اس میں روح پھونک دی۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بے باپ کا پیدا ہونا خائف عقل سمجھتے ہیں تو اگر یہاں حضرت مریم کے پیٹ میں صورت بنا کر روح پھونک دی تو اس میں لیا دشواری ہے۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھی عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر ایمان ہے اور آیت ”ان اللہ علی کل شئی قدير“ ان کے پیش نظر ہے وہ اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں متعدد طور سے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوئیں۔ جن کا ظہور آپ کی پیدائش کے بعد پھر اس وقت تک نہیں ہوا۔ پہلا اعجاز آپ بغیر باپ کے پیدا ہونے۔ دوسرا اعجاز بغیر ماں کے آپ کی پیدائش ہوئی۔ تیسرا اعجاز یہ کہ اس جسم میں خاص طور سے اعضاء بنے۔ جس سے خاص خاص طور کے حوائج متعلق ہیں۔ چوتھا اعجاز ان کے جسم سے حوائج نہیں آتی۔ اب اس میں تو عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ایک مرد سے ایک عورت پیدا ہو گئی۔ اب اگر کسی بے ایمان کو اس سے انکار ہو تو بتا دے کہ حضرت حوا کس طرح پیدا ہوئیں۔

مگر ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح پیدا ہوئی ہوں تمام دنیا کے مشاہدہ اور تمام علوم ظاہری کے خلاف ان کی پیدائش ضروری ہوئی۔ پانچواں اعجاز یہ ہے کہ ان کو یہ قدرت دی گئی کہ بیوی سے صحبت کریں۔ چھٹا یہ کہ ان کے نطفہ میں یہ قدرت دی گئی کہ نطفہ بن کر حوا کے پیٹ میں ٹھہرے۔ ساتواں پھر اس مٹی میں بولنے اور بات کرنے کی قدرت دی۔ آٹھواں اپنی اور دوسروں کی شناخت کی قوت عنایت کی نواں وحی الہی کو معلوم کیا۔ ان نو قدرتوں کے ظہور سے یہ بالیقین ثابت ہوا کہ دنیا میں جو عادت اللہ جاری ہے اس کے خلاف بھی کسی وقت قدرت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔

۱۔ تورات کتاب پیدائش ب ۲ درس ۲۴ ملاحظہ ہو اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔

کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے محض کترجنفی تھا یا کوئی دوسری مخلوق۔ اس نے پیدا کی تھی جو اس آدم علیہ السلام کے علاوہ تھی اور یہ اسی کے علم میں ہے۔ اب نئے عالم کا سلسلہ شروع کیا اور ہزاروں برس گزرنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں دو قدرتوں کا ظہور اپنی معمولی قدرت کے خلاف ظاہر فرمایا۔ یعنی بغیر باپ کے پیدا کیا اور بچپن میں بات کرنے کی قدرت دی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔

الحاصل جس کی قدرت کی کوئی انتہاء نہ ہو اور جس قادر مطلق نے حضرت آدم کی پیدائش میں ایسی عظیم الشان نوباتیں عجیب و غریب ظاہر کی ہوں تو اب اگر اس نے کئی ہزار برس کے بعد منکرین قدرت الہی کو پھر اپنا تماشا دکھایا اور اتنے زمانہ گزرنے پر اپنی معمولی عادت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کوئی دشواری اور تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ اس میں کسی سمجھدار انسان کو شک ہو سکتا ہے۔

یہاں تک تو قرآن مجید کی آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبے باپ ہونے کا ثبوت ہو گیا۔ جو ایک سچے مسلمان کے لئے کافی ہے۔ لیکن مزید اطمینان کے لئے بخوف طوالت صرف ایک حدیث تفسیر درمنثور اور ایک حدیث بخاری شریف سے نقل کرتا ہوں۔ امام بخاریؒ آیت ”یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منه“ کی تحت میں حضرت عبادہؓ سے روایت کرتے ہیں۔

پہلی حدیث

”عن النبی ﷺ قال لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمد عبده ورسوله وان عیسیٰ عبده ورسوله وکلمتہ القاها الی مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة علی ماکان من العمل (بخاری ج ۲، ص ۱۰۶، کتاب بدء الخلق)“ ﴿ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ ﷺ نے کہ جس نے گواہی دی کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی گواہی دی کہ بیشک محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور شہادت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور خدا کا حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام کی طرف بھیجا اور اس کی روح ہیں اور شہادت دی کہ جنت اور جہنم حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ چاہے کسی عمل پر اس کا خاتمہ ہو۔ ﴿

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ شاہ بخاری آیت وکیلا کفی باللہ کے تحت میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

### اصل عبارت

”کافیا تدبیر المخلوقات وحفظ المحدث لا یحتاج معہ الی آلہ آخر  
 یعینہ مستغنیاً عن من یخافہ من ولد او غیرہ (قال ابو عبید) القاسم ابن  
 سلام (کلمتہ) فی قولہ تعالیٰ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ  
 وکلمتہ ہی قولہ جل و علا (کن فکان) من غیر واسطۃ اب ولا نطفۃ (ارشاد  
 الساری ج ۷ ص ۱۹۸)“ ﴿ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے لطم و حفاظت کے واسطے کافی ہے۔ اس  
 کو کسی ایسے شریک کی حاجت نہیں ہے۔ جو اس کی مدد کرے اور بے پرواہ ہے۔ اپنے قائم مقام  
 سے چاہے اولاد دہویا غیر اولاد۔ کہا ابو عبید قاسم بن سلام نے کہ (کلمہ) سے مراد خدا کا حکم کن ہے۔  
 جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ اور نطفہ کے پیدا ہوئے۔ ﴿  
 دوسری حدیث ملاحظہ ہو۔

”أخرج ابن جریر عن السدی قال لما بعث رسول اللہ ﷺ وسمع  
 به اهل نجران اتاه منه اربعة نفر من خيارهم منهم السيد والعاقب وما  
 سرجس وما ربحر . فسألوه ماتقول فی عیسیٰ قال هو عبد اللہ وروحه  
 وکلمة قالوا هم لا ولكنه هو اللہ نزل من ملکہ فدخل فی جوف مریم ثم خرج  
 منها فارانا قدرته وامره فهل رایت انسانا قسط خلق من غیر اب فانزل اللہ  
 ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۷)“ ﴿ سدی سے ابن  
 جریر کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو نجران سے چند معززین سید اور عاقب  
 اور ما سرجس اور ما ربحر نامی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ  
 علیہ السلام کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے بندے اور خدا کی روح  
 اور خدا کے کلمہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ خدا ہیں۔ کیا آپ نے کسی انسان کو دیکھا ہے کہ کبھی  
 بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اس پر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ: ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ  
 مثل آدم“ ﴿ شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی (بغیر باپ کے پیدا ہونے کی) مثال حضرت آدم  
 علیہ السلام کی طرح ہے۔ ﴿

یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ انسان تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انسان ہیں۔ مذکورہ حدیثوں نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پہلی حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نجات کے لئے کلمہ توحید و رسالت کا اعتقاد اور اس پر کامل یقین ہونا ضروری اور داخل ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اس حدیث کو امام بخاری آیت مذکورہ کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور روح فرمایا ہے اور یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا محض اس کے حکم سے ظہور میں آنا ہے۔ جس کو علامہ قسطلانی نے صاف کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بغیر باپ اور نطفہ کے ہوا۔

دوسری حدیث نے اس مضمون کو اور صاف کر دیا۔ کیونکہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ نصاریٰ اہل نجران نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور انور ﷺ سے سوال کیا۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کی روح ہیں۔ اس لئے انہوں نے انکار کیا۔ کیونکہ یہ تو ان کے عقیدے اور مذہب کے خلاف ہے۔ وہ تو خدا کا بیٹا بلکہ خدا مانتے ہیں۔ اس کے جواب میں وحی نازل ہوئی اور آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یہ قرآنی آیت اس مدعا کے ثبوت میں پیش بھی کی جا چکی ہے۔ اس حدیث میں اس آیت کے شان نزول کو بھی متعین فرمادیا۔ جس سے روشن ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ غرضیکہ خود صاحب وحی نے اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر دلیل قرار دیا اور نصاریٰ نجران کو ساکت فرمایا۔

اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمام دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور ہر جاہل سے جاہل بھی اس بات کو خوب سمجھتا اور جانتا ہے کہ عام طور پر لڑکے کی نسبت باپ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ماں کی طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرتا۔ یعنی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا فلاں مرد کا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں عورت کا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ہے کہ آپ کو عام طور پر ابن مریم ہی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے

علاوہ جہاں بھی آپ کا ذکر ہے وہ ابن مریم ہی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے باپ ہوتے تو بالضرور آپ اسی طرح منسوب ہوتے۔ دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف آپ کی نسبت ہرگز ماں کی طرف نہ کی جاتی۔ ماں کی طرف منسوب ہونا ہے۔ اس بات کی بہت صاف اور زبردست دلیل ہے۔ اب جس کو اس کے خلاف دعویٰ ہو تو وہ ثابت کرے اور سامنے آئے۔ اب ایسے بیانات کے ہوتے ہوئے قادیانی نہیں مانتے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ قرآنی آیتوں اور احادیث صحیحہ کا انہیں انکار ہے اور صرف انہیں آیتوں کی وہ مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ جن جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتری اور تقدس کا بیان کیا ہے۔ قادیانی ان سب کی مخالفت اور تکذیب کے لئے ان دونوں مقدسین پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔ ”وجیہا فی الدنيا والآخرة ومن المقربین“ عیسیٰ دین و دنیا دونوں جگہ عزت والا اور مقرب بارگاہ ایزدی ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق ارشاد ہے۔ ”التی احصنت زوجها“ مریم وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ باعصمت رکھا۔

”یا مریم ان اللہ اصطفک وطهرک واصطفک علی نساء العالمین“  
 اے مریم تجھ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور پاک بنایا اور سارے جہاں کی عورتوں سے برگزیدہ کیا۔ اس تعریف کی کچھ حد ہے۔ ایسے برگزیدہ پر مرزا قادیانی الزام بدکاری لگاتا ہے۔ (نعوذ باللہ)  
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کی فضیلت میں اس قسم کی بہت آیتیں ہیں۔ لیکن دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان دونوں مقدسین کو کیسی کیسی گالیاں دیں ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”آپ کے ہاتھ میں سوائے کمر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ آپ کا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا) خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کبھی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدہ عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس ظن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

(ضمیمہ انجام آقہم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہوا۔ اب ملاحظہ ہو کہ حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کی نسبت مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸) میں لکھتے ہیں۔

حضرت مریم پر مرزا قادیانی کا اتہام ”اور مریم کی وہ شان ہے۔ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیر نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدد ذواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی۔ یعنی باوجود یوسف نجار کے پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔“

اب خیال کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اپنی اس عبارت میں حضرت مریم علیہا السلام پر کیا کیا اتہام لگائے ہیں۔ اول! یہ کہ قبل نکاح کے ان کو ناجائز حمل رہ گیا تھا۔ دوم! یہ کہ حمل کی حالت میں ان کا نکاح کرنا توریت کی بناء پر ناجائز تھا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ نکاح کے بعد بھی جو اولاد ہوئی وہ ناجائز نکاح سے پیدا ہوئی تھی۔ سوم! یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کنواری رہنے کا عہد کیا تھا۔ اس کو توڑ ڈالا۔ ان الزامات کے علاوہ اور بھی بہت گندہ گندہ الزامات مرزا قادیانی نے ان دونوں مقدسین پر لگائے ہیں اور مذکورہ آیتوں کا صریح انکار کیا ہے۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو ایسی صورت میں ان سے یا ان کے مبلغین سے اس کی امید رکھنا کہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح اللہ اور آیت اللہ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے کے قائل ہو جائیں گے عبث خیال ہے۔ پس جب کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت کر دیا تو اس مسئلہ کا دوسرا رخ بھی ظاہر ہو گیا۔ یعنی جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ یوسف نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ قرآن مجید کا منکر ہے۔ اس لئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح یقیناً بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ انجیل کی بھی شہادت اوپر گذر چکی ہے۔ اب متی اور مرقس کی تفسیر مصنفہ پادری اے۔ ایف اسکاٹ جلد اول مطبوعہ آلہ آباد ۱۸۶۶ء ص ۲۳ باب اول آیت ۱۸ کی شرح میں مرقوم ہے۔ لوقا کے پہلے باب میں ۲۶ سے ۳۶ تک لکھا ہے کہ جبرئیل فرشتہ خدا کی طرف سے مریم نام ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا اور اسے سلام



کر کے کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ جب وہ گھبرائی تب فرشتہ نے کہا مت ڈر۔ کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا اور دیکھ تو حاملہ ہوگئی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھے گی۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیونکر ہوگا۔ حالانکہ میں مرد سے واقف نہیں ہوں۔ فرشتہ نے جواب دے کر اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر اترے گا اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا سایہ تجھ پر ہوگا۔ اس مضمون میں کنواری کا لفظ صاف موجود ہے۔ اگر حضرت مریم کی شادی ہو چکی تو فرشتہ کی بشارت پر کیسے کہتیں کہ یہ کیونکر ہوگا۔ اس لئے کہ مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اس عبارت سے مطلب روز روشن کی طرح واضح ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم علیہا السلام کے کنوارے پن کی حالت میں ہوئی تھی۔ اس کی مفصل حالت انشاء اللہ دوسری کتاب میں بیان کی جائے گی۔

یہ آسانی کتابیں اور ان کی شرحوں کے فیصلے تھے۔ اب ان کے بعد بھی انکار، نصوص قطعہ کے انکار ہیں اور یہ وہ انکار ہے جس سے انسان یقیناً کافر ہو جاتا ہے۔ اب میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہوں۔ تاریخ (ابن خلدون ج ۲ ص ۱۳۴) اور تاریخ (طبری ج ۲ ص ۱۵) میں حضرت مریم علیہا السلام کا حاملہ ہونا عالم دوشیزگی میں ثابت کیا ہے۔

اب رہیں معقولات کی بحیثیں سوانشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں حاضر خدمت ہوں گی۔ جن میں منقوی بحثوں کے علاوہ فلسفہ کی نادر بحیثیں سائنس کے قیمتی انکشافات سے ثابت کیا جائے گا کہ عورت کو بغیر مرد کے تعلق کے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ قانون فطرت کے مخالف نہیں۔ بلکہ عین قانون قدرت ہے۔ میں مزید اطمینان کے لئے چند فلسفی اقوال نقل کئے دیتا ہوں اور کچھ طبی مشاہدات بھی پیش کرتا ہوں۔ حکیم ارزانی قانونِ نچہ کی شرح مفرح القلوب کے مقالہ الثانی فی التشریح میں لکھتے ہیں کہ: ”حصول ولد از منی واحد جائز بل واقع است لیکن قلیل و نادر۔“ یعنی بلا مرد کے ملے صرف عورت کی منی سے لڑکے کا پیدا ہونا ممکن ہے اور ہوا بھی ہے۔ مگر اس کا وجود نادر و قلیل ہے۔ یہ مقولہ نفیسی کے حاشیہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ ابوعلی سینا نے اپنی مستند کتاب قانون میں جو ایک عرصہ تک یورپ کے شاہی میڈیکل کالجوں میں فضیلت کی ڈگری کے لئے داخل درس رہا اور اب بھی طب یونانی کے نصاب میں یہی آخری کتاب ہے۔ اس پر فضیلت کی بگڑی بندھی ہے۔ پوری بحث کی ہے میں اس کا مختصر خلاصہ لکھتا ہوں کہ عورتوں کی منی میں دو قوت موجود ہے عاقدہ اور منعقدہ۔ منعقدہ کے غلبہ کی وجہ سے عورت بلا شرکت مرد حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اگر با متزاج عناصر عاقدہ کا غلبہ ہو گیا۔ جو ممکن ہے تو بلا قربت مرد صرف عورت کی منی واحد سے بچہ کا پیدا ہونا ممکن ٹھہرے گا۔ شرح

اسباب میں لکھا ہے کہ عناصر کے امتزاج کی خامی کی وجہ سے جو عورتیں حاملہ ہوئیں۔ ان کے بچے ناقص الہمیت پیدا ہوئے۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بلا جوڑے کے تولید نسل بکثرت مشاہدہ میں آ رہی ہے۔ بالوں کے سڑنے کی وجہ سے عناصر کا کچھ ایسا امتزاج ظہور میں آتا ہے۔ جس سے سانپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مختلف گھانسوں کے سڑنے کی وجہ سے بچھو پیدا ہوتا ہے۔ مٹی اور غلوں کے سڑنے کی وجہ سے جوگیس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اخلاط و امتزاج سے چوہے کا وجود ہوتا ہے۔ نباتات اور ایسے جمادات جو آسانی حل ہو سکیں۔ برسات کے پانی کی وجہ سے جب سڑ جاتے ہیں۔ تو ان عناصر کے امتزاج و آمیزش سے مینڈک اور ہزاروں قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے (تفسیر کبیرج ص ۶۳۷) اور تفسیر طبری ملاحظہ ہو۔

علم العناصر، علم الحیات، علم الجراثیم، پھر طول تجارب و مشاہدات کے مطالعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں مخلوقات خدا دنیا میں بلا زوج و مخالطت ہمیشہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہم مختصر عمر اور محدود تجربہ سے موجودات و محدثات عالم کے غیر متناہی سلسلہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم اپنی عادت مستمرہ کو قانون قدرت کے نام سے پکارتے ہیں۔ حالانکہ قانون قدرت وہ غیر محدود و اوصاف الہیہ ہیں۔ جن کا ادراک حیطہ بشریت کے بالکل خلاف ہے۔ قانون قدرت اس کے اوصاف ہیں اور اوصاف اس کی ذات اور اس کی ذات کا احاطہ کرنا غیر ممکن ہے۔ جیسا کہ کتاب العقل کے ص ۱۲۲ میں لکھا ہے۔ کل حکماً قائل ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی مذہب ہے کہ صفات عین ذات ہیں تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی نہ ذات کا ادراک ممکن ہے نہ صفات کا اور ظاہر ہے کہ تخلیق اور ابداع بھی صفت ہے۔ پس عقل کا گھوڑا خلقت کے میدان کو سر نہیں کر سکتا۔ عقل مخلوق اور بعد والی چیز ہے۔ پھر اپنے پہلے کی چیز کو کیسے دریافت کر سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی عادت مستمرہ ہی کو قانون قدرت کہیں تو ہزاروں چیزیں ایسی نظر آئیں گی۔ جن کو ہم اپنی عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قانون قدرت کے خلاف کہہ دیں گے۔ پھر قانون قدرت کہاں رہا۔ میں نہایت ہی اختصار کے طور پر قانون قدرت کے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔

..... کنگ ایڈورڈ میوریل ہسپتال لاہور میں ایک عورت کو پانچ گھنٹہ کے عرصہ میں پانچ بچے ہوئے۔ ماں اور بچے تندرست اور صحیح و سلامت ہیں۔ ہزار ہا لوگ ان بچوں کو دیکھنے کے لئے ہسپتال جا رہے ہیں۔

۲..... کلکتہ میڈیکل کالج ہسپتال میں دولڑکیاں لائی گئیں۔ ایک کی عمر اڑھائی برس اور دوسری کی عمر تین سال کی تھی اور دونوں حاملہ تھیں۔ چنانچہ مدت معمولہ کے بعد بچے بھی پیدا ہوئے۔

۳..... بمبئی صدر ہسپتال میں ایسے دو شخص لائے گئے۔ جن میں سے ایک کو کبھی بھی بول و برازی کی ضرورت نہیں پڑی اور دوسرا غذا کی جگہ آگ کھاتا تھا۔

۴..... ضلع کھنٹا تعلقہ نندیکامہ موضع ہولم پٹی میں ایک بیوہ عورت قوم برہمنی سے عمر ۵۰ سالہ ہنوز موجود ہے۔ اس کا بیان ہے کہ جب اس کی عمر ۳۰ سال سے تجاوز کر گئی تھی اور اس وقت تک تین اولادیں بھی اس کے ہو چکی تھیں۔ یکا یک رحم کے شدید درد میں مبتلا ہو گئی۔ چونکہ درو کی شدت حد درجہ بڑھ گئی تھی اور برداشت کرنا سخت دشوار تھا۔ بغرض علاج روتی پٹنٹی کسی مقام کو جا رہی تھی کہ راستہ میں ایک ساھو سے ملاقات ہوئی۔ جس نے پہلے عورت کی رضا مندی لے کر کہ وہ آئندہ غذا کی متردک ہو جانے کے متعلق شکایت نہ کرے گی۔ وہیں سے کوئی پتی لا کر عرق حلق میں نچوڑ دیا اور کہا کہ جا اب تجھے بالکل آرام آ جائے گا۔ دو تین دن میں درد کو بالکل آرام تو آ گیا۔ مگر ساتھ ہی اشتہاء بند ہو گئی۔ اب یہ عورت عرصہ ۲۰ سال سے نہ تو کچھ کھاتی نہ پیتی ہے۔ حلق سے معدہ تک جسم سخت مثل پتھر کے معلوم ہوتا ہے۔ اگر کچھ پیا جاوے تو حلق سے گذر نہیں سکتا۔ دیگر ضروریات زندگی سے بالکل فارغ ہے۔ اس عرصہ میں سال میں ووردسری کی شکایت بھی نہیں ہوئی اور جسم معمولی رہتا ہے۔ گھر کا کام کاج کرتی بلکہ بغیر کسی تھکاوٹ کے ۱۲،۱۰ میل پیدل چل سکتی ہے۔

ایک عجیب چیزیا کے متعلق جو بلانز کے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حالت صاحب برہان نے اپنی کتاب میں یوں لکھی ہے کہ قفنس نامی ایک چیزیا ہے۔ جس کی آواز سے حکما نے موسیقی کا استخراج کیا ہے۔ اس کی عمر ہزار سال کی ہے۔ جوڑا نہیں ہوتا پیدائش یوں ہوتی ہے کہ جب یہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ لکڑیاں جمع کر کے اس میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنی منقار سے جس میں بہت سے سوراخ ہیں آواز نکالتی ہے۔ اس کے منقار کے ہر سوراخ سے ایک علیحدہ سر نکلتا ہے اور نیز وہ سر جس کو ہندی میں دپک کہتے ہیں بلند ہوتے ہی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ چیزیا جل کر داکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے منقار میں ۳۶۰ سوراخ ہیں۔ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ لکڑیوں میں بیٹھ کر گانا شروع کرتی ہے اور اپنی آواز میں مست ہو کر پڑھاڑنے لگتی ہے۔ جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے۔ قدرت الہی

سے اس تو وہ راکھ پر بارش ہونے لگتی ہے اور اس راکھ سے ایک بیضہ ظاہر ہوتا ہے۔ جس سے وہی جڑ یا پھر پیدا ہو جاتی ہے۔

واقعات مندرجہ بالا نہایت سچے واقعات ہیں تو کیا ان سے مفروضہ قانون قدرت نہیں ٹوٹتا۔ جس کو ہم غیر ممکن کہتے ہیں وہ خدا کے نزدیک ممکن ہے۔ اطباء و حکماً کے اقوال اور مشاہدات کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکے کا بلا باپ کے پیدا ہونا غیر ممکن نہیں۔ لیکن اطباء قدیم کے نزدیک اس کا وقوع بہت قلیل ہے۔ قدرت کا کھیل عجیب ہے۔ اپنی عادت کے آنے سے قدرت کی پیمائش ایسی ہے جیسے بچوں کا چاند کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔

”فبائے حدیث بعدہ یؤمنون“

سوال نمبر: ۲

حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کی قبر کشمیر میں ہے یا نہیں؟

جواب نمبر: ۲

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ موجود ہیں اور ان کی حیات ثابت ہے۔ اس کے ثبوت میں ہمارے علماء نے متعدد رسالے لکھے ہیں۔ چنانچہ (۲۰۱) مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے رسالہ شہادۃ القرآن دو باب میں لکھا ہے اور اس کا پہلا باب ۱۳۳۰ھ میں دوبارہ لکھ کر طبع کرایا ہے اور دوسرا باب ۱۳۲۳ھ میں پہلے باب سے علیحدہ چھپوایا ہے اور چونکہ ہر ایک باب حیات مسیح کے ثبوت میں ایک کامل رسالہ ہے۔ اس لئے دونوں بابوں کو علیحدہ علیحدہ چھپوایا ہے۔ تیسرا رسالہ سیف چشتیائی ہے۔ اس کے مؤلف مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں۔ مطبع مصطفائی لاہور میں ۳۲۶ صفحات پر چھپا ہے۔ چوتھا رسالہ ثمن الہدایت یہ ہے اس کے مصنف بھی مولانا ممدوح ہیں۔ یہ بھی مطبع مصطفائی لاہور میں ۱۳۲۶ھ میں چھپا ہے۔ پانچواں رسالہ بیان للناس ہے۔ یہ ۱۳۰۹ھ میں چھپا ہے۔ اس رسالہ میں مولانا عبدالمجید صاحب دہلوی اور مولوی احمد حسن صاحب امرہوی کی خط و کتابت ہے۔ چھٹا رسالہ شفاء للناس ہے۔ اس کے مؤلف مولانا عبد اللہ صاحب شاہ جہانپوری ہیں۔ ۱۳۰۹ھ میں طبع ہوا ہے۔ ساتواں رسالہ الہام المسیح فی اثبات حیات المسیح ہے۔ اس کو مولوی ابوالحسن میر غلام مصطفیٰ صاحب نے لکھا ہے اور ۱۳۱۱ھ میں چھپا ہے۔ یہ سات رسالے میرے پاس موجود ہیں۔ ان کے سوائے اہل رسالے میرے علم میں اور ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ اٹھواں رسالہ الفتح الربانی، نواں رسالہ البیان المسیح فی حیات المسیح، دسواں رسالہ مذہب الاسلام، گیارھواں

رسالہ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۵، بارہواں رسالہ انجم لکھنوج ۱۰ نمبر ۱۳، تیرہواں رسالہ موازیۃ الحقائق، چودھواں رسالہ درۃ الدرانی علی رد القادیانی، پندرہواں رسالہ السیف الاعظم، سولہواں رسالہ حیات المسیح، سترہواں رسالہ فتح ربانی، اٹھارہواں رسالہ تشہید المبانی لرد القادیانی، انیسواں رسالہ الحق الصریح فی حیات المسیح۔

انیس رسالوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے اور مدلل اور واضح طریقہ سے حیات مسیح علیہ السلام ثابت کی گئی ہے۔ طالبین حق ضروران کو منگوا کر دیکھیں۔ انشاء اللہ تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی اور تسکین خاطر کے واسطے مختصراً چند اقوال جناب رسول اللہ ﷺ کے یہاں بھی لکھے جاتے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہیں۔ بلکہ بقضائے الہی آپ کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ یہ دونوں باتیں محض جھوٹ اور افتراء ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ جملہ صحاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صریح لفظوں میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کے متعلق اتنی صحیح حدیثیں مروی ہیں جو حد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں۔ اتنے سچے لوگوں نے انہیں بیان کیا ہے کہ ان کے سچے ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سچے مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندہ رہنے کے متعلق کیا شبہ رہ سکتا ہے اور کسی مسلمان کا یہ عقیدہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا اور ایسے عقیدہ کی اشاعت کرنی صریحاً حدیث شریف کی تکذیب ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ کو جھٹلاتا ہے۔ کیونکہ جس امر کو جناب رسول کریم ﷺ قسم کھا کر بیان فرمائیں اور جس امر کے متعلق حضور ﷺ کا یہ صاف و صریح ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہو۔

”قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فافروا ان شعتم وان من اهل الكتاب الا ليمون به قبل موته“ ﴿قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ضرور ابن مریم تم میں نازل ہوں گے جو حاکم و عادل ہوں گے۔ پس صلیب کو توڑیں گے اور سور کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھائیں گے اور مال اتنا ہو جائے گا کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا اور یہ حالت ہوگی کہ انہیں ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔﴾

پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اس میں شک ہو تو یہ آیت پڑھو۔ ”وان من“ اس صریح حدیث کا انکار کرنا اور اس کے مقابلہ میں دلیری سے یہ کہنا کہ آپ وفات پا چکے اور آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ کیسی ناپاک جرأت اور بددینی۔ جناب رسول اللہ ﷺ کو جھٹلانا بجز بددین قادیانیوں کے کوئی مسلمان اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ امام شوکانی اپنی کتاب توضیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ ”وقد ورد فی نزول عیسیٰ علیہ السلام من الاحادیث تسعة وعشرون حدیثاً“ ﴿ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسیس حدیثیں مروی ہیں۔ ﴿

اس کے بعد آپ حدیثوں کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ ”و جمیع ما سبقناہ بالغ حد التواتر کما لا یخفی علی من له فضل اطلاع“ ﴿ یعنی یہ حدیثیں جو ہم نے نقل کی ہیں۔ حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ جن کو کامل اطلاع ہے۔ ان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ﴿

اسی طرح فتح الباری میں ہے۔ ”تواترت الاخبار بان المہدی من ہذہ الامۃ و عیسیٰ علیہ السلام یصلی خلفہ و قال الحافظ ایضاً الصحیح ان عیسیٰ رفع و هو حی انتہی“ ﴿ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کے اس امت سے ہونے کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق احادیث تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ﴿

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام شریعت محمدیہ کے پیرو ہوں گے اور دوسری جگہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور آپ آسمان پر زندہ ہیں۔ حاصل یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اور پھر ان کا قریب قیامت کے نزول فرمانا ایسا مسئلہ ہے۔ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ جس کا انکار نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے اور نہ ایسے شخص کو جو متواتر حدیث کا منکر ہو با اتفاق علماء اسلام مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور وہ مسیح جس کی پیشین گوئی اور وعدہ ہے۔ وہ میں ہوں۔ متواتر احادیث کی تکذیب ہے اور جناب حضرت نبی کریم ﷺ کو جھٹلانا ہے۔ جس پر جاہل قادیانی آنکھ بند کر کے ایمان لائے اور اس کی اشاعت کرتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے اور بالفرض کوئی دوسرا بزرگ مسیح موعود ہوگا جس کے برکات بہت کچھ حدیثوں میں آئے ہیں۔

جن کا حاصل یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور سب یہود و نصاریٰ مسلمان ہو جائیں گے اور مال و دولت کی یہ کثرت ہوگی کہ کسی مسلمان کو روپیہ و پیسہ کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے وجود سے ان باتوں کا کہیں نشان پایا گیا۔ ہرگز نہیں۔ جنہوں نے ان کی حالت کو ان کے زمانے کو بغور ملاحظہ کیا ہے۔ وہ بالیقین کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے وجود سے مخالفین اسلام کو اہل اللہ پر جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا گمان ہوا اور ان کے وجود سے دنیا پر ہر طرح کی بلائیں آئیں۔ اور تنگدستی میں مبتلا ہوئے۔ کیا کوئی قادیانی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا سے عداوت اٹھ گئی۔ لوگوں کے دلوں میں بغض و حسد باقی نہیں رہا اور لوگوں کی خوشحالی اس حد کو پہنچ گئی کہ جس کسی کو دنیاوی مالی و متاع دیا جائے وہ اس کے لینے سے انکار کر دے اور کیا لوگوں کی توجہ دینی امور اور عبادت خداوندی کی طرف اس حد کو پہنچ گئی کہ ان کے نزدیک اللہ کے لئے ایک سجدہ ادا کرنا دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ محبوب ہو اور کیا خود مرزا میں یہ کیفیت تھی۔ وہ تو خود نمازیں قضا کرتا تھا اور باتیں بناتا تھا۔ مسلمانوں سے بہت کچھ روپیہ لوٹا مگر حج کو نہ گیا اور کیا دنیا سے صلیب پرستی مٹ گئی اور عیسائیت کی بنیاد کھد گئی اور کیا ساری دنیا میں اسلام کا ایسا تسلط اور غلبہ ہو گیا کہ تمام یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے اور کیا مرزا قادیانی کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حج اور عمرہ کرنا نصیب ہوا اور کیا مرزا قادیانی کو روئے نبوی پر حاضر ہو کر سلام پڑھنے کا موقع ملا۔ یعنی یہ سب وہ علامتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے لئے ضرور ہیں۔ اب اگر ان علامتوں کا ظہور نہ ہو اور ان کو اس کا موقع نہ ملا اور دنیا اس حالت کو نہ پہنچی اور علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پہنچی تو پھر کس قدر حیرت ہے کہ جاہل قادیانی آنکھ بند کر کے ان کو مسیح موعود مان رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حسب ارشاد نبوی ان تمام باتوں کا ظہور میں آنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں ہے۔

”ولتذهبن الشحاء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد“ ﴿یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عداوت دور ہو جائے گی اور بغض و حسد کے جذبات نہیں رہیں گے اور لوگ مال و متاع دینے کے لئے بلاویں گے۔ مگر کوئی شخص اس کو قبول نہیں کرے گا۔﴾

صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں ہے۔ ”ویفیض المال حتی لا يقبله احد حتی يكون السجدة الواحدة خیر من الدنيا وما فیها“ ﴿مال کی افزائش اس قدر

بڑھ جائے گی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا اور ایک سجدہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ ﴿

مسند امام احمد میں حضرت ابوسعید سے مروی ہے۔ ”یکسر الصلیب ویكون الدعوة واحدة“ ﴿یعنی عیسائیت مٹ جائے گی اور ساری دنیا میں دین واحد ہوگا یعنی اسلام۔ ﴿  
حاکم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ: ”لیسلکن فجاء حاجا او معتمرا ولیأتین قبری حتی یسلم“ ﴿یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ میں حج و عمرہ ادا کریں گے اور میری قبر پر حاضر ہوں گے اور سلام پڑھیں گے۔ ﴿

اسی طرح اور بھی بہت سی حدیثیں اس مضمون کی ہیں۔ جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا اور آپ کے عہد میں ان تبرکات کا ظہور میں آنا بتصریح موجود ہے۔ اب اگر ان علامتوں سے آپ انکار کریں گے تو حضرت مسیح کے آنے کا ثبوت بھی کسی طرح نہیں ہو سکتا اور اگر حضرت مسیح کا آنا ضرور ہے تو ایسی صورت میں جاہل قادیانیوں کا مرزا قادیانی کی اس تعلیم پر عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ انتہاء درجہ کی بددینی اور حدیث نبوی کی تکذیب ہے۔ کیونکہ جب اتنی حدیثوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اور نزول فرمانا ثابت ہے جو تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں تو پھر ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ وفات پا چکے اور جب وفات پانا غلط ثابت ہو گیا تو پھر بقول مرزا کشمیر میں آپ کا مزار کس طرح ہو سکتا ہے اور مرزا قادیانی کا یہ دروغ کس طرح فروغ پا سکتا ہے۔ مگر مرزائیوں کی خیر خواہی کے لئے مرزا قادیانی کی اس دلیل پر بھی روشنی ڈالتا ہوں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے۔ اس کے متعلق پہلی دلیل یہ ہے کہ ابھی سطور بالا میں حدیث نمبر ۵ لکھ چکا ہوں۔ جس سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام روضہ اطہر پر پہنچیں گے اور سلام عرض کریں گے۔ اب اس کے بعد دوسری روایت ہے۔ جس میں ارشاد نبوی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص روضہ پاک میں مدفون ہوں گے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے۔ ”ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکرو عمر (مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ)“ ﴿بعده آپ کی وفات ہو جائے گی اور میرے ساتھ میرے مقبرہ میں مدفون ہوں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مقبرے سے ابوبکرؓ اور عمرؓ کے درمیان سے اٹھوں گا۔ ﴿



ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ بطور پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور وہیں آپ کا انتقال ہوگا اور خاص روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ جب حضرت رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمادی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر خاص میرے روضہ شریف میں ہوگی تو اب ایک جھوٹے شخص کا اپنی غرض ثابت کرنے کے لئے یہ کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر فلاں جگہ ہے۔ اس کو ایماندار کیونکر باور کر سکتا ہے اور یہ آخری حدیث کوئی معمولی حدیث بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی صحت اور اس کے خاص فرمودہ حضرت رسول اللہ ﷺ ہونے کے قائل مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہیں۔ چنانچہ (ضمیمہ انجام آختم ص ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷) میں وہ اس حدیث کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں لائے ہیں اور اگر مرزا قادیانی اس کو صحیح نہ بھی مانیں جب بھی اس کے صحیح ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ یہ مضمون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا خاص روضہ مطہرہ میں ہونا پانچ طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث جو اوپر بیان ہوئی۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن سلام سے مشکوٰۃ شریف کے باب فضائل سید المرسلین کی فصل ثانی میں ہے۔ تیسری روایت (ابن کثیر جلد ثالث ص ۲۳۵) میں ہے۔ چوتھی حدیث کنز العمال کی ساتویں جلد کے ص ۲۶۸ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے۔ پانچویں روایت امام زرقانی مالکی نے شرح مواہب لدنیہ کی دوسری جلد کے ص ۵۰۲ میں بیان کی ہے۔ اب غور کرو کہ جو حدیث اتنے طریقوں سے ثابت ہو وہ کیونکر صحیح نہ ہوگی اور اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے حضرت رسول اکرم ﷺ پر ایمان رکھنے والا کیونکر نہ باور کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک خاص روضہ پاک میں ہوگی۔ لیکن مرزائیوں کا تو حدیثوں پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لئے وہ اس کو نہ مانیں تو نہ مانیں۔

اب دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا پتہ کشمیر میں دیا ہے تو وہاں ایک قبر شہزادہ یوز آسف کی ہے۔ اسی کو وہ قبر مسیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ یسوع سے بگڑ کر یوز آسف ہو گیا ہے اور اس کی تصدیق کے لئے وہ کتاب اکمال الدین و اتمام العتمہ کا مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اب جو میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے اور مرزا قادیانی کی ڈھٹائی پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ کس بات کو کیا لکھ دیا۔ اس پر بھی وہ اس کتاب کو دیکھنے کی فرمائش کرتے ہیں۔

چہ دلا درست ذردے کہ بکف چراغ دارد

اسی کو کہتے ہیں، اس جگہ اس کتاب کے چند اقتباسات کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ کشمیر والی قبرس کی ہے اور مرزا قادیانی کی ڈھٹائی کیسی ہے۔ شیخ ابن بابویہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ میں بسند خود محمد بن زکریا سے نقل کرتے ہیں کہ ممالک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا۔ جس امر کو امور دنیا سے چاہتا تھا اسے باسانی میسر ہوتا تھا۔ اس کے ملک میں دین اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جب یہ تخت پر بیٹھا تو اہل دین سے بغض رکھنے لگا اور ان کو ستانے لگا۔ بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو جلا وطن کر دیا اور بعض اس کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ نے ان لوگوں میں سے جو ایک نزدیک نظر عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک شخص کی نسبت دریافت کیا تو وزراء نے عرض کیا کہ وہ چند ایام سے تارک دنیا ہو کر گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی طلبی کا حکم دیا اور اس کو لباس زہاد و عبادت میں دیکھ کر بہت خشکی ظاہر کی۔ اس با خدا کے ساتھ بادشاہ کی بہت باتیں ہوئیں اس نے بہت حکمت آمیز باتیں کیں۔ لیکن بادشاہ کو کچھ اثر نہ ہوا اور اسے اپنی مملکت سے نکلوا دیا۔ بعد اس واقعہ کے تھوڑا عرصہ نہ گذرا تھا کہ بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام یوز آسف رکھا۔ شاہزادے کی ولادت پر منجموں نے اس کے طالع کی نسبت بالاتفاق کہا کہ یہ شہزادہ فرخندہ طلعت نیک اختر نہایت اقبال مند ہوگا۔ لیکن ایک بوڑھے منجم نے کہا کہ اس کا طالع و اقبال دنیوی جاہ و حشم کے متعلق نہیں۔ بلکہ یہ سادت مندی عاقبت کی ہوگی اور گمان قوی ہے کہ یہ شہزادہ پیشویان زہاد و عبادت سے ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت حیران و غمگین ہوا اور اس کی تربیت کے لئے حکم دیا کہ ایک شہر اور قلعہ خالی کرایا جائے۔ جس میں صرف شہزادہ اور اس کے خادم سکونت کریں اور سب کو نہایت تاکید کی کہ آپس میں کوئی تذکرہ دین حق اور مرگ اور آخرت کا ہرگز نہ کریں۔ تاکہ یہ خیالات اس کے کان میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد کئی سو صفحات تک شہزادہ کی تربیت اور دین حق کی طرف اس کی رغبت اور علم دین کی تعلیم اور ترک سلطنت اور اختیار فقہر کا ذکر ہے۔ اس بیان سے صاف واضح ہے کہ شہزادہ یوز آسف ممالک ہندوستان کے شہزادوں میں سے ایک باہدایتہ و باایمان شہزادہ ہوا ہے۔ جسے حق تعالیٰ نے اپنے دین کی راہ دکھائی اور دوسری کتاب شہزادہ یوز آسف اور حکیم بلوہر نامی جس کو ڈاکٹر صفدر علی صاحب نے تصنیف کی ہے اور یہ کتاب حیدرآباد کے مدرسوں میں داخل درس ہے۔ اس کے آخر میں لکھا ہے کہ شہزادہ یوز آسف نے کشمیر کو آباد کیا اور یہیں انتقال کیا۔ نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ملک کشمیر میں آئے اور یہیں فوت ہوئے۔

ہم مرزا قادیانی کے مقلدوں کو پکار کر کہتے ہیں اور چیلنج دیتے ہیں کہ وہ کتاب اکمال الدین اور اتمام العمۃ کو نکال کر کسی مجلس میں ہمارے سامنے یہ دکھادیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر اس میں مدفون ہیں۔ ورنہ اپنے مرشد کے جھوٹ کا اقرار کر لیں اور کہیں۔

جھوٹے پر خدا کی لعنت

یہ کتاب اکمال الدین اور اتمام العمۃ لندن کے سرکاری کتب خانہ میں زبان فارسی موجود ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر صاحب پیر سٹر کا ایک خط جو انہوں نے سفر ولایت کے ایام میں لندن سے لکھا تھا اور پیہ اخبار لاہور میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے دیکھنے کا ذکر کیا ہے اور اس کی بعض عبارتیں اصلی فارسی زبان میں نقل کی تھیں۔ جن کا ذکر ہماری عبارت منقولہ بالا میں آ گیا ہے اور اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنام تنبیہ الغافلین مطبع صحیح صادق میں چھپ چکا ہے۔ لاہور وغیرہ سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ مزید اطمینان کے لئے شائقین کتاب خود منگوا کر تسلی کر لیں۔

تیسری دلیل میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ ہمارے علمائے کرام نے حیات مسیح علیہ السلام کے متعلق میرے علم میں انیس رسالے لکھے ہیں اور دلائل قطعیہ سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحد غرضی اب تک زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی حیات ثابت ہے تو ایسی حالت میں ان کی قبر کا پتہ دینا کیا معنی، کیا زندہ آدمی کی بھی قبر ہوا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیری میں بتاتا ہے وہ جھوٹا ہے اور چونکہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرے علم میں انیس رسالے لکھے گئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے یہ رسالے کم از کم اور انیس دلیلیں ہوئیں۔

سوال نمبر: ۳۰

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف سے یہ ثابت ہے یا نہیں کہ مشرکین کے ہاتھوں سے وہ آگ میں ڈالے گئے تھے یا نہیں۔ یہاں بعض قادیانی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید سے ثابت نہیں اور جو لوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے قرآن شریف غلط سمجھا ہے۔

جواب نمبر: ۳۱

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلانے کے لئے ضرور ڈالے گئے۔ مگر خداوند جل

جلالہ نے نار کو آپ پر گلزار کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر سترہ سو برس سے اس وقت تک تمام علمائے کالمین اور مفسرین ماہرین کا اتفاق ہے تو اب ایک ایسے امر کے متعلق ایک ایماندار مسلمان کا یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان بڑے بڑے مفسروں نے اور ان بڑے بڑے ماہرین علوم عربیہ نے قرآن شریف کے معنی غلط سمجھے ہیں یا اپنی طرف سے اس واقعہ کو تراش لیا ہے۔ پھر ایسی عظیم الشان غلطی میں تمام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین باوجود قرب زمانہ نبوی کے اور تیرہ سو برس کے تمام علماء مبتلا ہیں۔ اگر یہ مان لیا جاوے کہ تیرہ سو برس کے تمام علمائے صالحین غلطی پر رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے احکام جن لوگوں کے ذریعہ سے ہم کو پہنچے ہیں وہ اس قابل ہرگز نہیں ہیں جن پر اطمینان کر کے ان باتوں کو مان لیا جائے۔ تو اب اسلام اور اس کے تمام احکام باطل ہو جاتے ہیں۔ ہم کو جو کچھ اپنے مذہب کی باتیں پہنچی ہیں وہ پہلے علماء کالمین و صالحین کے واسطے سے اور ان کو اپنے پہلے کے لوگوں کے ذریعہ سے اگر اس پورے سلسلہ کو غلط راستہ پر مان لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ان لوگوں نے قرآن شریف غلط سمجھا ہے تو یہ کہنا درپردہ اسلام کو مٹانا ہے۔ ایک دیندار مسلمان کو یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ چودہ صدی تک کے علمائے محققین اور تمام مفسرین ماہرین اس واقعہ کی اصلیت سے بے خبر رہے اور اس پر طرہ یہ کہ اس واقعہ کی حقیقت کھلی تو چند بیدین جاہل قادیانیوں پر جو کہ علوم عربیہ کے ماہر ہیں اور نہ زبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں اور نہ بدقسمتی سے ان کو علماء کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ ان قادیانیوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلامی مسائل کا مدار عقلی ڈھکوسلوں پر ہے۔

انبیاء کرام سے معجزے نہیں ہوئے اور اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ کیونکہ جھوٹوں سے معجزہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ مجھ سے سواتین لاکھ معجزے ہوئے یا قادیانی کا مقصد یہ ہے کہ دراصل یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تاکہ (نعوذ باللہ) قرآن شریف کی تکذیب ہو جو اس مذہب باطل کے بانی کا مقصد اصلی ہے۔ مگر ابھی مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے صرف اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہے۔ دراصل قادیانی جماعت اپنے کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو فریب دیتی ہے اور مسائل اسلامیہ میں بحث کرتی ہے۔ اس جماعت سے پہلے تو مرزا قادیانی کے کفر و ایمان میں بحث کرنا چاہئے کہ ایک ایسا شخص

۱۔ تمام مفسرین و محدثین کے علاوہ تمام مورخین کا بھی اس واقعہ پر اتفاق ہے۔ چنانچہ اس زمانہ جدید کی معتبر تاریخ عالم انسائیکلو پیڈیا ہر شایانہ کا میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ ملاحظہ ہوج ۱۷ ص ۵۱۱ بارنہم۔

جو کہ نبوت کا مدعی ہو اور تمام اولوالعزم نبیوں کی توہین کرنا ہو کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسائل اسلامیہ میں بحث کرنا تو علمائے اسلام کی شان ہے اور جو گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہو تو اس کا اسلامی مسائل پر بحث کرنا یا تو اسلام کے ساتھ استہزاء ہے یا مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے۔ اب میں یہاں مختصر طور پر علمائے مفسرین کے اقوال نقل کرتا ہوں جو مقتضائے اسلام ہے اور ان کے تحت میں بعض وہ حدیثیں بھی نقل کروں گا جو اس بارہ میں مروی ہیں۔ جن کے ملاحظہ سے ہر دیندار مسلمان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعہ ثابت ہے اور یقیناً ثابت ہے۔ سب سے پہلے اس واقعہ کے متعلق حضرت شیخ محی الدین المعروف بہ شیخ زادہ علیہ الرحمۃ کی وہ عبارت نقل کی جاتی ہے جو انہوں نے تفسیر بیضاوی کے حاشیہ میں تحریر فرمائی ہے۔

”کیفیه القصة انه لما اجتمع نمرود وقومه لا حراق ابراهيم حبسوه فی بیت وبنوا بنیاناً کا الخظيرة ثم جمعوا الحطب الكثيرة ثم اوقدوها فلما اشتعلت النار صار الهواء بحيث لو مر الطير فی اقصى الجولا حترق من شدة وهجها ثم عمد رالی ابراهيم عليه الصلوة والسلام فنصعوه فی المنجنيق مقيد مفلولا ورموه الى النار فاتاه جبريل فقال له يا ابراهيم الك حاجة قال اما اليك فلا قال فاستل ربك قال حسبى من سواى علمه بحالى فقال الله تعالى يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم (انتهى ملخصا حصه ۲ ص ۲۵۶، مطبوعه مصر)“ ﴿جب نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا مصمم ارادہ کر لیا تو آپ کو گرفتار کر کے ایک گھر میں مقید رکھا اور ایک احاطہ چار دیواری گھیری اس میں بہت سی لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کی۔ اس کے شعلے کے بھڑکنے سے ہوا اتنی گرم ہو گئی کہ اگر کوئی چڑیا اس کی بلندی سے گذرتی تو جل کر خاک سیاہ ہو جاتی۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کو پابزنجیر کر کے گوپھن میں باندھ کر آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کیا آپ کو کسی بات کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ مگر آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو اپنے خدا سے درخواست کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اسے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور راحت ہو جا۔﴾

اس واقعہ کے متفرق اجزاء مختلف صحابہ عظام سے مروی ہیں۔ چنانچہ تفسیر جامع البیان میں علامہ طبری حضرت کعبؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ”ما احرق النار من ابراهيم الا وثاقه (تفسیر طبری ج ۱۷ ص ۲۹، درمنثور ج ۴ ص ۳۲۲)“ ﴿آگ نے سوائے آپ کے بندھن کے اور کسی چیز کو نہیں جلا یا۔﴾  
ابو یعلیٰ وابو نعیم ابن مردویہ اور خطیب نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔

”قال قال رسول الله ﷺ لما قال ابراهيم في النار قال اللهم انك في السماء واحد وانا في الارض واحد عبدك (درمنثور ج ۴ ص ۳۲۲)“ ﴿جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو آسمان پر یکتا ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔﴾

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ: ”اول كلمة قالها ابراهيم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل (درمنثور ج ۴ ص ۳۲۲)“ ﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں داخل کئے گئے تو سب سے پہلے جو کلام اپنی زبان سے نکالا تھا وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھا۔﴾

ایک روایت ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت منہال ابن عمر سے کی ہے۔ ”ان ابراهيم القى في النار وكان فيها اما خمسين واما اربعين قال ما كنت اياما وليالى قط اطيب عيشا اذ كنت فيها (درمنثور ج ۴ ص ۳۲۲)“ ﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اس میں چالیس یا پچاس دن کے قریب رہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے وہ ایام نہایت آرام سے گزرے۔﴾

اب یہ روایتیں صاف طور پر ثابت کرتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرور آگ میں داخل ہوئے اور ان روایتوں کو نہایت مستند محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی روایتیں ہیں۔ جن سے صراحت اور کنایہ آپ کا آگ میں داخل ہونا ثابت ہے۔ اب اتنی حدیثوں کے بعد کسی مسلمان کو آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بارہ میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اگرچہ اب ایک ویدار مسلمان کو اس میں شک کرنے کا بالکل موقع نہیں اور ایک ایماندار کے لئے اتنی حدیثوں کے بعد اس کی اصلاً ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس کا ثبوت قرآن شریف بھی دیا جائے۔ کیونکہ مسلمان کے نزدیک جناب شارع علیہ السلام کا

ثبوت کافی ہے۔ خواہ قرآن شریف سے ہو یا حدیث شریف سے۔ مگر آپ کی فرمائش کے مطابق قرآن مجید کے ان مقامات کو نقل کریں گے۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہے اور اس کا صاف ترجمہ بیان کریں گے۔ جس سے ذرا غور کر کے بعد منصف مزاج خود سمجھ لے گا کہ قرآن شریف یہی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل کئے گئے۔ بڑے بڑے مفسرین نے جو اس کے معانی بیان کئے ہیں۔ اس کو بھی نقل کر دیں گے۔ اس کے قبل ایک ضروری امر قابل گزارش ہے وہ یہ کہ قرآن شریف چونکہ نہایت فصیح و بلیغ ہے اور ایجاز و اختصار فصاحت و بلاغت کا اہم جزو ہے۔ اس لئے اس کی عبارت اکثر جگہ مختصر واقع ہوئی ہے اور ایسے جملے اور کلمے حذف کر دیئے گئے کہ بغیر اس کے ذکر کئے ظاہر عبارت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب جہاں کہیں قرآن کریم میں اختصار و حذف ہے اور فحوائے کلام اس پر روشنی ڈالتا ہے تو ہر کھجدار ذی علم اس آیت کے پہلے اور بعد کے مضمون کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ فلاں لفظ یا فلاں جملہ محذوف ہے۔ ہاں اکثر پہلے اور بعد کے مضمون کے دیکھنے ہی سے اس بات کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں جملہ یا کلمہ محذوف ہے اور اس کے سوا دوسرا نہیں اور کبھی یہ امر صاف طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پاک کلام جس پاک ذات کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے اس مقدس نفس نے اس موقع پر کون سے لفظ یا جملے کو متعین فرمایا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس تبرک ذات سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے جو خدا کے کلام کو اس سے زیادہ سمجھتا ہو۔ یعنی ہم کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے متعلق جناب رسالت مآب ﷺ سے کوئی حدیث مروی ہے یا نہیں اور اس کو معلوم کریں کہ حدیث نے کس لفظ کو متعین کر دیا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہر مسلمان یقینی طور پر سمجھ لیتا ہے کہ یہاں یہی جملہ محذوف ہے۔ دوسرا نہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر معنی سے اس لفظ یا جملہ کی تعین ہو جاتی ہے اور ہم کو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس کے متعلق حدیث کو تلاش کریں۔ مگر بعض حدیثیں ایسی مل جاتی ہیں جو ہمارے معنی کی تائید کرتی ہیں۔ (یہی ان آیات زیر بحث کا ہے) مثلاً ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے۔

”واذا استسقى موسى لقومه وقلنا اضرب بعصاك الحجر ففانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد اذ كل اناس مشربهم (بقرہ: ۷)“

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی کی درخواست کی تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاشمی پتھر

پر مارو۔ (انہوں نے مارا) پس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور (ان میں سے) سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ﴿

اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس آیت میں دو جگہ حذف واقع ہوا ہے۔ اول تو فاضرب بصاک الحجر کے بعد یعنی حضرت موسیٰ کی درخواست پر جب یہ حکم دیا گیا کہ پتھر پر اپنے عصا کو مارو تو اس کے بعد یہ جملہ کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لکڑی ماری محذوف ہے۔ مگر چونکہ فحوائے کلام خود اس کو بتلا رہا ہے۔ اس لئے حذف کر دیا گیا۔ کیونکہ اس حکم کے بعد کہ پتھر پر مارو، خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ بغیر اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد خداوندی کی تعمیل نہ کی ہو۔ بلکہ ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لکڑی ماری اور پھر پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ سمجھ والا بھی بغیر کسی شک و شبہ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے فضر یہ کالفظ محذوف ہے۔ دوسرے کل اناس کے بعد منہم کالفظ محذوف ہے۔ کیونکہ اگر منہم کالفظ محذوف نہ ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ سارے جہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اس تمثیل کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن شریف میں دو مقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورۃ انبیاء سترھویں پارہ میں دوسری جگہ سورۃ الصافات تیسویں پارہ میں پہلی جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

”قالوا حرقوه وانصروا الهتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نارکونی برداً وسلاماً علی ابراہیم وارادوا بہ کیداً فجعلناہم الاخسرین (انبیاء)“  
﴿مشرکین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم کو مدد کرنی ہے (پھر کافروں نے آگ میں ڈالا) تو ہم نے (آگ کو مخاطب کر کے) کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا موجب بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور انہوں نے آگ میں ڈالنے سے شرارت کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو (ان کی شرارت کے ارادہ میں) ناکامیاب رکھا۔ ﴿

اس آیت میں فاعلین کے بعد فاقوہ محذوف ہے۔ یعنی ان کو آگ میں ڈال دیا اور یہ حذف ایسا ہے کہ ظاہر عبارت سے سمجھ میں آتا ہے اور فحوائے کلام خود اس کو بتلاتا ہے کہ یہاں اتنا جملہ محذوف ہے۔ کیونکہ اگر اس جملہ کو محذوف نہ مانا جائے تو خدائے تعالیٰ کا آگ کی طرف خطاب کر کے یہ فرمانا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا آگ کو حکم دینا



خود اس کو بتلا رہا ہے کہ اس میں آپ داخل کئے گئے اور آپ سے آگ کو تعلق ہوا اور نہ آگ سے ان الفاظ سے مخاطب باری تعالیٰ ”کونی برداً وسلاماً علیٰ ابراہیم“ بالکل لغو ہوگا۔ اس کے علاوہ علیٰ ابراہیم کا لفظ بھی بتلا رہا ہے کہ حضرت اس میں داخل تھے۔ ورنہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ارشاد کہ ابراہیم نامیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا صریح طور پر بتلا رہا ہے کہ آگ کو ابراہیم علیہ السلام سے خاص تعلق تھا۔ ورنہ زیادہ سے زیادہ محض یہ فرما دیا جاتا کہ مجھ جایا ٹھنڈی ہو جا۔ ”علیٰ ابراہیم“ کا لفظ بالکل زائد و لغو ہو جاتا ہے۔ ”کونی برداً وسلاماً علیٰ ابراہیم“ تو اسی وقت درست ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اندیشہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آگ کو آپ سے تعلق ہو اور آپ اس میں داخل کئے جائیں۔ غرضیکہ ماننا ہوگا کہ اس آیت میں ”فاوقدوا الہ نارا ثم القوه فیہا“ مخدوف ہے۔ مختلف حدیثوں اور بڑے بڑے مفسرین کی تفسیروں کے علاوہ خود سیاق مضمون اس کو بتلا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے انکار کرنا تعصب اور جہالت اور ہٹ دھرمی اور فریب نہیں ہے تو اور کیا ہے اور نص صریح اور کلام عرب کے قواعد نے خلاف معنی کرنا گویا اہل زبان کو کلام خداوندی پر مضحکہ کا موقع دینا ہے۔

دوسری جگہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ: ”قالوا نبوالہ بنیاناً فالقوه فی الجحیم فارادو بہ کیداً فجعلناہم الاسفلین“ ﴿مشرکین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک عمارت بناؤ اور (اتنی بلند کہ اس پر چڑھ کر) ان کو دہکتی آگ میں ڈالو۔ پس ارادہ کیا تھا انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے سے شرارت کا تو ہم نے ان کو نچا دکھلا دیا۔﴾ قاضی بیضاوی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”فارادو بہ کیداً بالقائہ فی النار لتہلک فجعلناہم الاسفلین البقہورین فخرم من النار سالمأ“ ﴿یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے سے ان کا مقصود شرارت تھا۔ ہم نے ان کو ناکامیاب رکھا۔ اس طریقہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ رہے۔﴾

اب آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثبوت کے بعد اور متحققین علمائے اسلام کی تحقیق کے بعد بھی کسی مسلمان کو کیا انکار ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس آیت کے تحقیقی معنی جو تھے اور بڑے بڑے علماء کرام اور مفسرین اور محدثین نے جو اس کے معنی بیان کئے تھے اور جس کے ماننے کے لئے ایک مسلمان کو کوئی عذر نہیں ہو سکتا وہ لکھ دیئے گئے۔ یورپ کے مشہور فاضل مستشرق اڈارڈ سخو جو برلن دار الحکومت جرمن کے ملک یورپ اور مشرقیہ کالج کے ڈائریکٹر ہیں خاص ان

کے اہتمام سے ملک پروسیہ میں ایک علمی انجمن بنام الجمعیتۃ العلمیۃ الکبریٰ قائم ہے۔ اس انجمن نے طبقات ابن سعد کو جو دنیا سے ناپید تھی متعدد افاضل علمائے مستشرقین کی تصحیح و تنظیم سے مع جرمنی شرح کے آٹھ جلدوں میں دو قسم پر مطبع بریل شہر لیڈن سے شائع کیا ہے۔ اس کے جلد اول قسم اول کے ص ۲۱ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور سلامت نکلنے کے متعلق ہشام بن محمد بن السائب الکعمی سے مروی ہے۔

”فلما بلغ ابراہیم وخالف قوما ودعاهم الی عبادہ اللہ بلغ ذلک الملك نمرود فجہ فی السجن سبع سنین ثم بنی له الحیر بحمی وواقده بالحطب الجزل والقی ابراہیم فیہ فقال حسبی اللہ ونعم الوکیل فخرج منها سالماً یكلم“ ﴿جب ابراہیم علیہ السلام بالغ ہوئے تو اپنی قوم کی مخالف کی اور ان کو عبادت الہی کی دعوت دی۔ جب یہ خبر نمرود کو ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے سات سال تک قید میں رکھا۔ پھر بڑی حکمت سے ایک احاطہ بنا کر اس میں بڑی بڑی لکڑیوں سے آگ روشن کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسی اللہ ونعم الوکیل پڑھا اور بلا کسی تکلیف کے آگ سے سلامت نکل آئے۔﴾

اس کتاب کا حوالہ جدید تعلیم یافتہ کے مزید معلومات اور جمعیت خاطر کے لئے دیا گیا ہے اور جس کو ضرورت ہو وہ کتب خانہ خانقاہ رحمانیہ مولگیہ میں آ کر دیکھ سکتا ہے۔ اب ان جاہل اور فریب خوردہ قادیانیوں کے لئے ان کے خلیفہ مسیح اور خود ان کے مسیح موعود کا اقرار اس امر کے متعلق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ ان کی کتابوں سے ہم نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانیں تو بس صاف سمجھو کہ مرزا قادیانی کی دہریت کا اثر ہے۔ جس سے ہمیشہ انہوں نے معجزات قرآنی کے متعلق ناپاک تاویلات اور توہمات سے کام لیا ہے۔ دراصل مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ قرآن شریف کی پرواہ تھی نہ حدیث کی۔ مگر اس وجہ سے کہ ان کے ماننے والے سب مسلمان تھے۔ اس لئے صاف انکار نہیں کیا تا کہ چند جاہل جوان کے جال میں پھنس گئے ہیں وہ بھی نہ نکل جائیں۔ ملاحظہ کیجئے۔ ان کے خلیفہ مسیح نور الدین قادیانی ترجمہ قرآن مطبوعہ مطبع مرتضوی آگرہ ۱۳۳۳ھ میں اس آیت کا ترجمہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ ”غرضکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔“

قادیانی جماعت خود اپنے خلیفہ کی طرف سے جواب دے کر انہوں نے یہ کہاں سے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور ایسا ہی مرزا قادیانی (حقیقت الہی

ص ۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲) میں لکھتے ہیں کہ: ”ابراہیم علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفادار بندہ تھا۔ اس لئے ہر ایک ابتلاء کے وقت خدا نے اس کی مدد کی۔ جب کہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا خدا نے آگ کو اس کے لئے سرور کر دیا۔“

سوال نمبر: ۴

آنحضرت ﷺ کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی۔

جواب نمبر: ۴

معراج جناب رسالت مآب ﷺ کو روحانی و جسمانی دونوں ہوئی ہیں۔ چنانچہ علمائے اسلام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ: ”الاظهار ان المعراجہ علیہ السلام اربع وثلاثون مرة واحدة بجسده والباقي بروحه فتوحات مكية (نقلًا عن افادة الالہام ج ۲)“ ﴿آپ کو چونتیس بار معراج ہوئی۔ جس میں ایک بار جسمانی معراج ہوئی۔﴾  
دوسری جگہ حضرت شیخ اکبر (نوتحات مکہ ج ۳ باب ۳۵۳) میں فرماتے ہیں۔ ”ان الاسراء كان بجسده ﷺ“ یعنی معراج لیلۃ الاسراء میں جسمانی ہوئی تھی۔

اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو مختصر طور پر بیان کروں۔ مگر اس سے پہلے چند امور قابل گذارش ہیں۔ معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک ایسا عظیم الشان مسئلہ ہے جو کہ خود آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں کفر و ایمان کا مدار تھا اور اس لئے علمائے اسلام نے اس کے منکر کو کافر لکھا ہے۔ علامہ کستلی شرح عقائد نمشی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔ ”اما انكار اصل المعراج فهو كفر بلا شك“ ﴿اور نفس واقعہ معراج کا انکار کرنا بلا شک کفر ہے۔﴾

یہ ایک واقعہ ہے کہ اس مسئلہ میں اکثر ایسی باتیں ہیں جو معمولی سمجھ والوں کی سمجھ سے بالا ہیں اور ان کو ان امور کا تسلیم کرنا گوارا نہیں۔ مثلاً اتنی قلیل مدت میں دور دراز سفر طے کرنا اور سینے کا شق ہونا، براق پر سوار ہونا اور پھر اس دور ضلالت میں جس کو روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور اس قادر مطلق کی بے انتہاء قدرت کو اپنی معمولی عقل کے اندر محدود سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں آسمان کا وجود تسلیم کرنا اور پھر اس کے طبقات کو ماننا دشوار ہے۔ غرض کہ اس میں بیسیوں ایسی باتیں ہیں جس کی نظیر کسی دوسرے معجزے میں نہیں ملتی اور اسی وجہ سے یہ عظیم الشان معجزہ ٹھہرا۔ مگر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا عقل سے معلوم ہونا ممکن نہیں بلکہ بعض عارف تو اس عالم کے تمام امور کے متعلق یہ کہہ چکے ہیں۔ مصرعہ کہ

کس نکشو و نکشاید بہ حکمت این معمارا

مگر عادت کی وجہ سے نہ ان میں غور کرنے کی نوبت آتی ہے اور نہ خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ دور نہ جائیے۔ روشنی و رنگ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان سے خالی نہیں۔ مگر کیا کوئی ان کی حقیقت بیان کر سکتا ہے اور کسی مادرزاد نابینا کو روشنی کی حقیقت بتلائی جاسکتی ہے۔ بجز اس کے کہ اس نور کے ادراک کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو قوت عطاء کی گئی ہے اس سے مدد نہ لی جائے اور بغیر اس کی حقیقت پر غور کئے اس کو مان نہ لیا جائے۔ اب یہ معمولی امور ہیں کہ جن کی حقیقت گویا راز الہی ہے۔ مگر محض انی وجہ سے کہ ہم ان کو روزانہ برتتے ہیں۔ خلاف عادت نہیں معلوم ہوتے۔ اسی طرح اگر آسمان پر آنا جانا جنت اور دوزخ کی رویت امور عادی ہوتیں تو یہ بھی مستبعد اور محال نہ معلوم ہوتیں۔ اس زمانہ جدید کے فلسفیوں نے روشنی کو ایک جوہر بلکہ ایک جسم مان لیا ہے اور اپنی تحقیق بڑی زور سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ میل کی مسافت طے کرتی ہے اور اسی طرح بجلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ تمام زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ بعض دمدار ستاروں کی صرف دم تین کروڑ بیس لاکھ میل کی ہے اور ان کی رفتار ایک گھنٹہ میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل ثابت ہوئی ہے۔ بیت قدیم میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ فلک تاسع کے نچلے حصہ کا ہر نقطہ ایک دن میں دس کروڑ اکتھ لاکھ میل حرکت کرتا ہے۔

شیدایان مذہب ذرا توجہ کریں کہ آج ہم لوگ ایک ستارہ کی حرکت کو ایک منٹ میں کروڑوں میل تسلیم کر لیتے ہیں اور چون و چرا کی گنجائش بھی نہیں سمجھتے۔ اب اگر خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو اس طریقہ پر تسلیم کر لیا جائے تو کیا محال لازم آتا ہے۔ نہایت افسوس ہے ان لوگوں پر جو معراج اور اس قسم کے مسائل پر ایمان لانے کے لئے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ناپاک تاویلات کرتے ہیں اور کبھی دریدہ ذہنی سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا اور کبھی یوں تاویل کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ وہ ایماندار جس کو خدا تعالیٰ کی قدرت کا پورا پورا یقین ہے اور اس پر ایمان ہے کہ حق تعالیٰ صرف لفظ کن سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ایک منٹ میں بعض اجسام کثیفہ کو کروڑوں میل چلاتا ہے۔ کیا اس کو اس میں شک ہو سکتا ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ جن کا جسد مبارک ہماری جانوں سے بھی زیادہ لطیف تھا۔ ان کو تھوڑے عرصہ میں آسمانوں کی سیر کرائی۔ کیا مسلمانوں کے نزدیک خداوند جل جلالہ اور اس کے سچے نبی ﷺ کی بات کی اتنی بھی وقعت نہیں جو آج وہ اہل یورپ کی کرتے ہیں۔ اب جو کہ ان مسلمانوں کا انکار کرتے ہیں تو دراصل ان کو نہ خدا تعالیٰ کے وجود کا یقین ہے اور نہ نبی کریم ﷺ کی صداقت کا اعتقاد ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر معراج یا

کسی اور معجزہ کے متعلق ہوتی تو مان لی جاتی۔ چہ جائیکہ وہ معجزات جو کہ نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں۔

الغرض یہی حال تمام معجزات کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں داخل ہونا اور آگ سے آپ کو ضرر نہ پہنچنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا سو برس تک مردہ رہ کر پھر زندہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا اور آپ کا آسمان پر اس وقت تک تشریف رکھنا، مگر ان باتوں کو وہی تسلیم کرتا ہے اور وہی مانتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نور ایمان عطاء فرمایا ہو۔ مگر مشیت ایزدی میں یہ امر طے پاچکا تھا اور قرآن شریف میں یہ صفت قرار دے دی گئی تھی۔ ”یضل بہ کثیرا ویبھدی بہ کثیرا“ اس لئے ہزار ہا اشقیاء خود معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس دولت سے محروم رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو خود منظور نہ تھا کہ یہ دولت اتنی عام اور بے قدر ہو جائے۔ ”ولو شاء لهداکم اجعمین“ یعنی خدا چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا۔ کفار کے سوال پر آنحضرت ﷺ نے بیت المقدس کی نشانیاں بتلا دیں۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمادیا۔

”ثم انتبیت الیٰ عیبر بنی فلان فی التنعیم یقدمہا جمل اوردق وماہی ذہ تطلع علیکم من الثنیئۃ فقال الولید بن مغیرۃ ساحر افانطلقوا فنظروا فوجدوا کما قال (درمنثور ج ۴ ص ۱۴۹)“ ﴿کہ آخر میں مقام تنعیم میں مجھ کو ایک قافلہ ملا جس میں آگے خاکستری رنگ کا اونٹ تھا اور وہ یہیں قریب میں ابھی وہ تمہارے سامنے اس گھاٹی سے آئے گا۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ ساحر ہیں۔ کچھ لوگ امتحاناً گئے تو قافلہ کو اسی حالت میں پایا۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔﴾

مبارک تھیں وہ ذاتیں جنہوں نے اس واقعہ کو سنتے ہی کہہ دیا کہ ”صدقۃ یا رسول اللہ“ اور بد نصیب تھے وہ بد بخت جنہوں نے ”اتحدثنا انک سرت مصیرۃ شہرین فی لیلة واحدة“ آپ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دو ماہ کی راہ ایک شب میں طے کر لی۔ کہہ کر مرتد ہو گئے۔

یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ معراج کا واقعہ کسوں نے ہے۔ جس نے اس سے انکار کیا وہ اوندھے منہ گراہی کے گڑھے میں گرا اور اس کی شقاقت ازلی کا حال معلوم ہو گیا۔ معراج جسمانی کا ثبوت قرآنی آیات سے بعد میں عرض کروں گا۔ چند باتوں پر اس وقت میں ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

اول ..... یہ کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو انسان خواب میں لاکھوں بلکہ کروڑوں میل کی سیر کرتا ہے اور ہزاروں عجیب و غریب اشیاء دیکھتا ہے تو اس میں کفار آپ کی کیا تکذیب کر سکتے تھے اور خواب کے متعلق کیا تعجب کا موقع تھا اور وہ بد قسمت لوگ کیوں مرتد ہو گئے۔ یہ سب بڑی دلیل ہے۔ اس بات کی کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا۔ بلکہ اس جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا اور وہاں سے تمام آسمانوں کی سیر کی۔

دوم ..... حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی تصدیق کی بناء پر صدیق کا خطاب عطاء فرمایا تھا۔ ہرگز نہیں کیونکہ خواب کی تصدیق تو ہر موافق و مخالف کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اتنے عظیم الشان خطاب کی سرفرازی محض اس بنا پر ہرگز نہیں ہو سکتی۔

سوم ..... ”عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ ﷺ انا ارید وان اخرج الی قریش فاخبرهم مارایت فاخذت بتوبہ فقلت انی اذکرك اللہ انک تأتی قوما یکذبونک ویدکرون مقالک فاخاف ان یسطوبک قالت فضرب ثوبہ من یدہ ثم خرج الیہم وایتہم وہم جلوس (انتہی ملخصاً درمنثور)“  
حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قریش کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تاکہ جو کچھ میں نے رات کو دیکھا ہے وہ ان سے بیان کر دوں تو میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ایسی قوم کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی پہلے سے تکذیب کرتی ہے۔ مجھ کو خوف ہے کہ وہ آپ پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھ کا مار کر دامن چھڑا لیا اور ان کے پاس چلے گئے اور ان سے سب واقعات بیان کئے۔

اس حدیث میں حضرت ام ہانی کا دامن پکڑنا اور اصرار کرنا کہ آپ شریف نہ لے جائیے۔ یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ آپ خواب کا واقعہ بیان کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ واقعہ بیداری کا تھا۔

چہارم ..... کفار کا آپ سے بیت المقدس اور راستہ کی بعض علاقوں میں دریافت کرنا اور آپ کا جواب باصواب عنایت فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ اپنی بیداری کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں نہ خواب کا۔ خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن شریف میں اپنی تزیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اپنی حمد کے موقع پر اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”سبحان الذی اسرئ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی“  
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔

اس آیت میں نہایت صریح صاف طور پر بتلایا جا رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے۔ عہدہ کا لفظ جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ روح مع الجسم کو کہتے ہیں۔ صرف روح کو عبد نہیں کہتے۔ یہ ایک نص صریح ہے۔ اس بات پر کہ آنحضرت ﷺ اس جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے۔

امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے صاف اور واضح طور پر منقول ہے کہ حضور ﷺ کو معراج جسمانی ہوئی۔

(بخاری شریف ج ۲ ص ۶۸۶، باب قوله وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس) ”حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس قال هي روي عين اريها رسول الله ﷺ ليلة اسرى به“ ﴿وما جعلنا﴾ باب میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ﴿وما جعلنا الرؤيا﴾ سے مراد بیداری کی حالت میں آسمانی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ یعنی آنحضرت ﷺ نے بیداری کی حالت میں لیلۃ الاسریٰ میں دیکھا ﴿اور مواہب لدینہ میں سفيان آسمانی آنکھ کہ یہ خواب نہیں ہے۔

اور (مواہب لدینہ ج ۲ ص ۳) میں ہے۔ ”وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في اخر الحديث ولرويا منام“

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ”ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى . اذ يغشى السدرة ما يغشى . مازاغ البصر وما طغى . لقد راى من آيات ربه الكبرى (النجم)“ ﴿اور بیشک دوسری مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔ جس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جس وقت کہ چھارہا تھا سدرۃ المنتہیٰ پر (فرشتوں کا خاص جلوہ یا محض انوار الہی جو ہمارے بیان اور سمجھ سے باہر ہے) رسول اللہ ﷺ کی نگاہ مبارک یہیں نہیں اور نہ حد سے بڑھی۔ بیشک دیکھیں رسول مقبول ﷺ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں۔ ﴿

اس دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔ زیادہ تاکید کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ بھی بتلادیا کہ سدرۃ المنتہیٰ کہاں ہے۔

۱۔ جناب رسول کریم ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو پہلی بار غار حرا میں دیکھا تھا۔ ان کی اصلی صورت پر، اس مرتبہ دوسری بار دیکھا۔

”عندھا جنۃ الماویٰ“ یعنی سدرة المنتہیٰ جنۃ الماویٰ کے پاس ہے۔ خداوند عالم الغیب کے علم ازلی میں یہ پہلے سے تھا کہ دنیا کے اخیر زمانہ میں گمراہ کرنے والے کثرت سے پیدا ہوں گے اور خدا کی نشانیوں اور معجزات کا صاف انکار کریں گے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ”ما زاغ البصر وما طغی“ (نہ آنکھ ہلکی نہ اچھی) فرما کر اس بات کا موقعہ بھی نہ رہنے دیا کہ گمراہ کرنے والوں کو تاویل کا موقعہ یعنی جناب رسالت مآب ﷺ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس پر آنکھ اچھی طور پر نہ چمی ہو اور اس پر سے اچھٹائی ہو۔ اس طرح کہ ایک چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہوں اور پھر اچانک کسی خیال کے یا کوئی امر پیش ہو جانے کے سبب سے آپ دوسری طرف متوجہ ہو گئے ہوں اور اس وجہ سے سب کو اچھی طرح نہ دیکھ سکے ہوں۔ غرض کہ آپ نے وہاں کی چیزوں کے دیکھنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کی اور ہر چیز کو اچھی طرح دیکھا اور یہ سب چیزیں آنکھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ روح سے اس مضمون کے آخر میں خدا تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لئے یہ بھی فرمادیا۔ ”لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ“ بے شک آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تاکہ ان کو حضرت جبرئیل علیہ السلام اور جنت و دوزخ کے دیکھنے پر تعجب نہ ہو۔ کیونکہ یہ تمام باتیں خدا تعالیٰ نے بطور حجزہ دکھائیں تھیں اور یہ سب خدا کی نشانیاں تھیں۔

ادوسری آیت کا مضمون اس بات کو صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ آپ سدرة المنتہیٰ پر تشریف لے گئے تھے۔ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے لئے ایک دوسرا بڑا قرینہ اور موجود ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ما زاغ البصر“ (آپ کی آنکھ ہلکی نہیں) خدا کا یہ فرمانا کہ آنکھ ہلکی نہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جنت الماویٰ میں اس جسم کے ساتھ تھے۔ کیونکہ آنکھ جسم کے لئے ہوتی ہے۔ روح کے لئے آنکھ نہیں ہوا کرتی۔ اس آیت میں ذرا غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کا بہکنا اور اچکنا بیداری میں ہوا کرتا ہے۔ نہ خواب میں۔

صحیح حدیثیں اس کے متعلق بہت آئی ہیں۔ تطویل کے خیال سے اس کو چھوڑنا ہوں۔ مگر چونکہ اس مسئلہ کا ثبوت قرآن اور حدیث کے علاوہ اجماع امت سے بھی ہے۔ اس لئے میں

۱۔ گویا یہاں تک چار دلیلیں قرآن سے اس بات پر ہوئیں کہ آنحضرت ﷺ کو معراج جسمانی ہوئی اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلی دلیل اسریٰ بعبدہ ہے۔ دوسری دلیل تقدراہ نزلة آخری عند سدرة المنتہیٰ ہے۔ تیسری دلیل خدا تعالیٰ کا یہ فرمایا کہ آپ کی آنکھ ہلکی نہیں۔ آنکھ جسم کے لئے ہوتی ہے نہ روح کے لئے چوتھی دلیل بہکنا اور اچکنا آنکھ کا بیداری میں ہوتا ہے نہ کہ خواب میں۔



علم عقائد کی بعض کتابوں سے اس کے متعلق نقل کرتا ہوں۔ شرح عقائد نسفی میں ہے۔ ”معراج رسول اللہ ﷺ فی الیقظة بشخصه الی السماء ثم الی ماشاء اللہ من العلیٰ حق ای ثابت بالخبر المشهور حتیٰ ان منکره یكون بتدعا“ ﴿معراج رسول اللہ ﷺ کی بیداری کی حالت میں اس جسم کے ساتھ آسمان تک اور پھر وہاں سے جہاں تک خدا کی مرضی ہوئی۔ سچ ہے یعنی حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ اس کا منکر بدعتی ہے۔﴾

تہذیب الکلام میں ہے۔ ”دل الكتاب علیٰ معراجہ ﷺ الی المسجد الاقصیٰ واجماع القرن الثانی علیٰ بالیقظة وبالجسد“ ﴿قرآن شریف اس بات کو بتلاتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو معراج مسجد اقصیٰ کی طرف ہوئی اور قرن ثانی کا اجماع اس بات پر ہے کہ بیداری میں جسمانی معراج ہوئی۔﴾

اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن شریف سے جو بات ثابت ہو اس کا منکر مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ریک تاول کرنا بھی انکار میں داخل ہے۔ اب جسمانی معراج کی کوئی شخص یہ تاول کرے کہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ وہ دراصل نفس واقعہ معراج سے انکار کرتا ہے۔ مگر چونکہ یہ مسلمانوں کا ایسا اجماعی عقیدہ ہے کہ عوام بھی اس عقیدہ سے واقف ہیں۔ اس لئے مرزا غلام احمد قادیانی نے انکار کی یہ صورت اختیار کی۔ تاکہ سیدھے لوگ جو اس کے دام میں آگئے ہیں۔ بھڑک نہ جائیں۔ غرضکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث اور اجماع امت اور جمہور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے۔ چنانچہ عینی فتح الباری، روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، شرح ملا علی قاری میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس مسئلہ کو مولانا انوار اللہ خان صاحب حیدرآبادی نے بہت مفصل طور پر ”افادۃ الافہام“ میں لکھا ہے اور مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے اس کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”سلم الوصول“ ہے اور شائع ہو چکا ہے (نوٹ: یہ دونوں رسائل احتساب قادیانیت کی سابقہ جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ فلحمد للہ! مرتب) اور بعض نے جو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہؓ کا مذہب بیان کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات معراج جسمانی کے منکر ہیں۔ محض غلط ہے۔ جس روایت سے یہ غلطی واقع ہوئی ہے وہ روایت چند وجوہ سے غلط ہے۔

اول ..... یہ روایت صحاح میں نہیں ہے۔ نہ اس کے راوی اس قابل ہیں کہ ان کی روایت قبول کی جائے۔ خصوصاً حضرت عائشہؓ کی طرف جو روایت منسوب ہے اس کے متعلق علامہ زرقاتی شرح مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ روایت منقطع ہے اور اس کا راوی مجہول ہے۔ علامہ

ابن وجیہہ تنویر میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے کہ دوسرے یہ کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں۔ صحابہ کے علاوہ سب ضعیف ہیں۔ اس روایت کے پہلے راوی محمد بن اسحاق ہیں۔ مالک ابن کو ضعیف کہتے ہیں اور ان کے متعلق ان کا قول ہے۔ ”کان دجالا من الدجاجلة“ دجالوں میں سے ایک دجال یہ بھی تھا۔

دوسرے راوی سلمہ بن الفضل الابرش الانصاری کے متعلق امام بخاری لکھتے ہیں۔ ”عندہ منا کثیر“ اس کے پاس مردود روایتیں ہیں۔ امام نسائی ضعیف کہتے ہیں۔ اس روایت کے تیسرے راوی محمد بن حمید بن حبان الرازی کو یعقوب بن شیبہ نے کثیر المناکیر کہا ہے۔ امام بخاری ان کی حدیثوں کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ علامہ جر جانی ان کو بدین اور غیر ثقہ کہتے ہیں۔ امام نسائی کبھی غیر ثقہ اور کبھی کذاب (یعنی بڑا جھوٹا) کہتے ہیں۔

دوم..... اس کے معارض کثرت سے احادیث بڑے بڑے جلیل القدر صحابیوں سے مروی ہیں اور خود حضرت عائشہ سے بھی معراج جسمانی کے متعلق روایت ہے جو صحاح ستہ میں ہونے کے علاوہ سند کے لحاظ سے بھی ان آثار سے نہایت اعلیٰ وارفع ہیں۔ اس حدیث کے متعلق تفصیلی مباحث کے لئے افادۃ الافہام ج ۲ مصنفہ انوار اللہ خان صاحب مرحوم (معین المہام امور مذہبی) ملاحظہ کریں۔ (احساب قادیانیت کی سابقہ جلدوں میں اس کتاب افادۃ الافہام کی دونوں جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ مرتب)

سوال نمبر: ۵

انگریزی لباس ہمیشہ پہنے رہنا اور انگریزی لباس سے نماز پڑھنا کیسا ہے اور جو شخص انگریزی لباس سے نماز پڑھائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔

جواب نمبر: ۵

مسلمانوں کو انگریزی لباس پہنے رہنا اس طرح کہ نصاریٰ سے بالکل مشابہت ہو جائے۔ بہت برا ہے۔ ہرگز ہرگز نہ چاہئے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے مشرکین و یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار کرنے کو سخت منع فرمایا ہے اور ابوداؤد اور مشکوٰۃ شریف میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ ”من تشبه بقوم فهو منهم“ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں شمار کیا جائے گا۔

اس حدیث کو صاحب مشکوٰۃ کتاب اللباس میں لائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لباس کی مشابہت خصوصیت سے قابل توجہ ہے اور صاحب مرقاۃ بھی اس

حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ”ای من شبہ نفسه بالكفار مثلاً فی اللباس وغیرہ فهو منهم“ ﴿یعنی جس نے اپنے کوفروں کی مشابہ لباس وغیرہ میں بنایا وہ انہیں میں شمار کیا جائے گا۔﴾

یہی رائے علامہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلویؒ کی ہے۔ لغات میں فرماتے ہیں۔ ”والمتمعارف فی التشبه هو التلبیس بلباس قوم“ ﴿تشبیہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی قسم کا لباسی بنے۔﴾

اور اسی تشبہ کو جناب رسول اللہ ﷺ صاف طور سے منع فرما رہے ہیں اور اس کا انجام ایسے عنوان اور ایسے عام لفظ سے فرماتے ہیں جو نہایت خطرناک ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ ”فهو منهم“ جس کے صاف معنی تو یہی ہیں کہ وہ انہیں کافروں میں سے ہے۔ اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔

اب خیال کیا جائے کہ اس تشبہ کا انجام کیا ہوگا۔ اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے یہود و نصاریٰ کی مشابہت کرنے کو منع فرمایا ہے۔ چند حدیثیں اور نقل کرتا ہوں۔ ابن حزمہ شرح بخاری شریف میں لکھتے ہیں۔ ”نہی النبی ﷺ عن التشبه باهل الكتاب، ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهو باليهود ولا بالنصارى (جامع ترمذی)“ ﴿یعنی منع فرمایا آنحضرت ﷺ نے اہل کتاب یہودی اور انگریزوں کی مشابہت سے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میری امت سے وہ شخص نہیں ہے جو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ یہود و نصاریٰ کی مشابہت مت کر۔﴾

اس حدیث میں عام تشبہ کو منع کرنے کے بعد خاص طور سے یہود و نصاریٰ کی تشبہ کو منع فرمایا۔ جس سے اس کی تاکید زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم میں بھی اس مضمون کی حدیثیں ہیں اور ان کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں جن میں صاف صاف حضرت رسالت پناہ ﷺ کا حکم ہے۔ مشرکین، منافقین، مجوسین، یہود و نصاریٰ کی وضع قطع و سلام و کلام میں مخالفت کی جائے۔ ایسے صاف و صریح ارشادات نبوی کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے کہ انگریز یا کسی دوسری قوم کی وضع اختیار کرے۔ محبت رسول پاک کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو لباس حضور ﷺ کو پسند تھا وہی لباس اختیار کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے مسنون و مستحب لباس نہیں پہن سکتا ہے تو تقاضائے ایمان سے اتنا تو ضرور ہونا چاہئے کہ غیر قوم خصوصاً دشمنان اسلام کی وضع اور لباس کے اختیار کرنے سے بچے۔ جس کو حضور اکرم ﷺ نے صاف صاف اور مختلف طریقوں سے منع فرمایا

ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شائبہ مشابہت سے تیر کی طرح بھاگتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ جن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ ”ایاکم وزی الاعاجم“ ﴿اپنے کو غیر قوموں کے طریقے اور جسم سے بچاؤ﴾

ان حوالوں سے یہ بات متحقق ہوگئی کہ مسلمانوں کو غیر قوموں کی وضع اختیار کرنا سخت مکروہ اور ناجائز ہے اور ان کو وضع و قطع لباس میں غیروں سے ممتاز رہنا چاہئے اور جب خارج صلوٰۃ تشبہ انصار سے ممنوع ہو تو ظاہر ہے کہ نماز کے اندر خصوصاً جب کہ وہ امام ہو تشبہ بالنصارى یعنی انگریزی لباس اس طرح پہن کر کھڑا ہوتا کہ عیسائی و مسلم میں فرق محسوس نہ ہو۔ بہت زیادہ ممنوع اور ناجائز ہوگا۔ کیونکہ نماز معراج المؤمنین ہے۔ یعنی جس وقت تک بندہ نماز میں رہتا ہے وہ وقت اس کا دربار الہی میں حاضری کا ہوتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جو لباس اللہ تعالیٰ کو غیر اوقات میں ناپسند ہے وہ اپنے دربار میں حاضری کے وقت کیونکر پسند فرمائے گا۔ خصوصاً جب کوئی بندہ مشرکین و دشمنان اسلام اور مخربین اسلام کا لباس پہن کر دربار الہی یعنی نماز میں حاضر ہو تو یہ زیادہ باعث اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوگا۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان مشرکین و دشمنان اسلام سے ترک محبت کا حکم فرمایا ہے اور اس فعل سے ان قوموں کی محبت اور رسول اللہ ﷺ کے احکام سے بے پرواہی چکیتی ہے جو قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم (مائتہ: ۷)“ ﴿اے ایمان والو یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست اور مددگار بنائے وہ بھی انہی میں سے ہے۔﴾

مگر قادیانی حضرات اس آیت کے بالکل خلاف کر رہے ہیں اور آپ کا یہ لکھنا کہ شیخ الاسلام انگریزی ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہ محض غلط ہے۔ ہندوستان میں انگریزی لباس ایسے لوگوں کا ہے جو کہ محض آزاد اور نیچری خیال کے ہیں اور اتباع شریعت سے انہیں کچھ واسطہ نہیں ہے اور اس کرتہ کو ہندوؤں کا لباس کہنا محض جھوٹ ہے۔ جس طرح کا جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کرتہ پہنتے تھے اس طرح کا کرتہ ہندو ہرگز نہیں پہنتے۔ یہ علانیہ جھوٹ بولنا مرزا قادیانی کی بیرونی کا اثر ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا لباس کرتہ ٹخنوں کے قریب تک اور تہ بند اور چادر اسی قدر نیچی اور آپ نے پانچ ماہ بھی پسند فرمایا ہے اور خرید کیا ہے اور خلفائے راشدین کا بھی یہی لباس رہا ہے۔

مگر ترکوں کے لباس پر تہہ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ ان کا خاندانی اور مخصوص لباس ہے۔ اس کے علاوہ ان کا لباس کوئی حجت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فوجی لوگ ہیں۔ ہاں اگر علماء و صلحاء کا لباس ہوتا تو گنجائش تھی۔

سوال نمبر: ۶

قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

جواب نمبر: ۶

قادیانی کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں۔ چاہے وہ قادیانی مرزا محمود کی جماعت کا ہو یا خواجہ کمال الدین کی پارٹی کا۔ اس لئے کہ مرزا محمود اور اس کے ہم خیال صراحتاً مرزا غلام احمد کو صاحب شریعت نبی اور رسول مانتی ہے جو صریح نص قطعی اور ارشاد خداوندی ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ کا انکار ہے اور نص قطعی کا منکر اجماع ملت اسلامیہ کا فر ہے۔ لہذا مرزا محمود اور ان کی جماعت نص قطعی کی منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے اور کافر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ بحر الرائق میں ہے۔ ”وقیدہ فی المحيط والخلاصۃ والمجتبیٰ وغیرہا بان لا تکون بدعتہ تکفرہ فانکانت تکفرہ فالصلوۃ خلفہ لا تجوز (باب الامامۃ ج ۱ ص ۲۷۰)“ یعنی محیط اور خلاصہ اور مجتبیٰ اور اس کے علاوہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں بدعتی کی امامت کے لئے یہ قید لگادی گئی ہے کہ اس کی بدعت نے کفر تک اس کو نہ پہنچادیا ہو اور اگر اس کی بدعت نے اس کو کفر تک پہنچادیا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں۔

اسی طرح در مختار میں اس شخص کے لئے جو اسلام کے ایسے مسئلہ کا منکر ہو جس کا ثبوت نہایت ظاہر ہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ: ”لا یصح الاقضاء اصلاً (باب الامامۃ ص ۴۱۴)“ یعنی ایسے شخص کے ساتھ اقتدا کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، کہ اسی طرح خواجہ کمال الدین اور ان کے ہم خیال لوگ جو بظاہر زبان سے مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتے ہیں۔ مگر اس کو سچا اور بزرگ بلکہ مجدد دیکھتے ہیں اور اس کے دوسرے عقائد کفریہ کو مانتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ حالانکہ قرآن شریف میں نہایت ظاہر طور پر مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار کو کہتے ہیں جو تمام اجماع امت محمدیہ کے خلاف ہے اور مرزا قادیانی کے صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کے صریح دعویٰ کی تاویل کرتے ہیں اور قرآن شریف کے صحیح معنی کو غلط بتاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ اس ثبوت کے بعد کہ مرزا کافر اور دہریہ شخص تھا اور اس کا ایمان نہ قرآن مجید پر تھا نہ حدیث

شریف پر۔ بلکہ قرآن شریف کی صریح اور قطعی آیتوں کا منکر تھا اور جمہوری وحی کے مقابلہ میں حدیث شریف کو ردی بتاتا تھا اور اپنے کو جناب نبی کریم ﷺ سے سو حصہ افضل کہتا تھا اور اپنے معجزے سوا تین لاکھ بتاتا تھا اور آنحضرت ﷺ کے تین ہزار (حقیقت الوحی ص ۶۷) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر تھا۔ خواجہ کمال الدین اور ان کی پارٹی کا مرزا قادیانی کو کافر نہ سمجھنا اپنے کو کافر بنانا ہے۔ شفاء میں ہے۔ ”من لم یکفر من دان بغير ملة المسلمین من الملل او وقف فيه اوشک اوصح مذهبهم وان ظهر مع ذلك الاسلام واعتقده واعتقد ابطل کل مذهب سواه فهو کافر“ یعنی جو شخص کافر کو کافر نہ کہے یا اس کے کفر میں توقف یا شک کرے یا اس کے مذہب کی صحت کے درپے ہو کافر ہے۔ اگرچہ وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرے اور اس کا اعتقاد رکھے اور اسلام کے سوا کُل مذہب کو باطل سمجھے۔

اسی طرح درمختار میں ہے کہ: ”من شک فم، عذابه وکفره کفر“ یعنی جو شخص کافر کے عذاب میں اور کفر میں شک کرے گا وہ کافر ہوگا۔

اب ایسی حالت میں کہ خواجہ کمال الدین اور ان کی جماعت کے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کو مسلمان اور اس سے بھی بڑھ کر اس صدی کے کل مسلمانوں کے لئے مجدد مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کے صریح دعویٰ نبوت اور رسالت کے اقوال میں مرزا قادیانی کے مذہب کو فروغ دینے کے لئے رکیک تاویلات کرتے ہیں۔ ہرگز ان کو مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہو سکتا ہے۔ بلکہ خواجہ کمال اور ان کی پارٹی کا وہی حکم ہوگا جو مرزا محمود قادیانی اور اس کی جماعت کا ہے۔ کیونکہ قطع نظر اس دلیل فقہی کے نص قرآنی کی رو سے بھی خواجہ صاحب کو اسی حالت میں مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ وہ مرزا قادیانی کے کفر کا علم رکھنے کے باوجود ان کی اتباع اور ان کے خیالات و اقوال کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو اپنا مرشد اور راہنما سمجھتے ہیں اور اپنی تقریر اور تحریر میں اس کا صاف لفظوں میں اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے سترھویں رکوع میں ارشاد ہے۔ ”لئن اتبعت اہواءہم من بعد ماجائک من العلم انک اذا من الظالمین“ اگر تم علم و دانست کے بعد بھی کافروں کی خواہشات و خیالات کی اتباع کرو گے تو بیشک ایسی حالت میں تم ان ظالموں سے ہو گے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم و دانست کے بعد کافر شخص کی اتباع اور اس کے خیالات کی پیروی کرے گا وہ انہیں ظالم کافر لوگوں میں سے خدا کے نزدیک شمار کیا جائے گا یعنی وہ کافر سمجھا

جائے گا۔ پس خواجہ صاحب کے پیچھے کسی طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کہ وہ مرزا قادیانی کے پیرو ہیں اور اپنا مرشد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کا کفر قطعی طریقہ پر ثابت ہو چکا ہے اور علمائے اسلام کا متفقہ فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے متعلق شائع ہو چکا ہے۔ مختصر لفظوں میں چند وجوہ اس جگہ بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی انبیائے کرام کی سخت توہین کرتا ہے۔ حضرت سردار انبیائے علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہت عالی مرتبہ کہتا ہے اور فریب دینے کی غرض سے کہیں تعریف بھی کر دی ہے۔ (رسالہ دعویٰ نبوت مرزا قادیانی اور آئینہ کمالات مرزا دیکھئے) اس کے جھوٹے ہونے اور کفر میں متعدد رسالے لکھے گئے ہیں۔ (رسالہ فیصلہ آسمانی اور القول الصحیح فی مکائد المسیح وغیرہ دیکھا جائے) قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے نص صریح سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ آخر النبیین ہیں۔ آپ کی نبوت کا آفتاب قیامت تک سارے جہاں کے لئے درخشاں رہے گا اور آپ کی امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل اس نور سے ساری امت کو مستفید کرتے رہیں گے اور علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کی صداقت ظاہر ہوتی رہے گی۔ مگر آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس مضمون کا ثبوت قرآن مجید کے نص قطعی سے ہے اور کثرت سے احادیث صحیحہ اس کے مؤید ہیں اور اجماع امت بھی اس کا شاہد ہے۔ مگر یہ گروہ ان سب کا منکر ہے اور جھوٹی باتیں بناتا ہے اور چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر کہہ کر خود کفر کا مستحق بناتا ہے اور جب ان کے عقائد کفریہ ہوئے تو ان کے پیچھے کیونکر نماز درست ہو سکتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کفریہ متعدد ہیں۔ ان میں سے بعض کو لکھتا ہوں۔

۱..... ختم نبوت کا منکر اور خود نبوت و رسالت کا مدعی ہے۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء والرسول ہونا نص قطعی ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ اور احادیث متواتر المعنی واللفظ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جن کا انکار کفر ہے۔

۲..... ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے۔ “من کان عدواً للہ ولسنتہ ورسولہ وجبریل ومیکئیل فان اللہ عدو للکفرین (بقرہ)“ ﴿جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا خصوصاً جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہے اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔﴾

مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت گالیاں دیں ہیں۔ جیسا کہ سوال نمبر ۱ میں دیکھا گیا ہے۔ اس لئے وہ مسیح کے دشمن ہوئے اور خدا نے فرمایا ہے کہ رسول کی دشمنی کفر ہے۔

۳..... قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”ومریم ابنت عمران التي

احصنت فرجها ففخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القنتين“ ﴿﴾ عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں (اپنی قدرت سے) روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی رہیں اور وہ فرمانبردار بندوں میں تھیں۔ ﴿﴾

خ۔ ان کو اپنے کلام پاک میں محضہ پاک دامن باعصمت فرماتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کشتی نوح ص ۱۶ میں اس کے خلاف ان کو ناجائز طریقہ پر حاملہ ہونا یعنی بدکار کہتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ ”اور مریم کی وہ شان ہے۔ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔“ پس مرزا قادیانی نے اپنے اس قول سے قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا کا انکار کیا اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔

۴..... اور (کشتی نوح ص ۱۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸) میں مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا بتایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ: ”یوسف کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔“

اور یہ نصوص قطعہ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ جواب سوال نمبر ۱ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے اور اس کا انکار کفر ہے۔

سوال نمبر ۷

شفاعت مسلمانوں کی رسول اللہ ﷺ کریں گے یا نہیں۔

جواب نمبر ۷

گنہگار مسلمانوں کی شفاعت آپ ضرور فرمائیں گے۔ قرآن شریف سے اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً“ ﴿﴾ اور عنقریب اٹھائے گا تمہارا رب مقام محمود میں۔ ﴿﴾

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے مقام محمود کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ یعنی جہاں کھڑے ہو کر میں شفاعت کروں گا اور تفسیر جلالین و تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔ ”هو مقام الشفاعة عند الجمهور“ مقام محمود جمہور کے نزدیک مقام شفاعت ہے۔ فتوحات الہیہ مشہور مجلہ ص ۶۷ میں ہے۔ ”اجمع المفسرون على انه مقام الشفاعة“ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اس کو امام رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں نہایت واضح



طریقہ سے لکھا ہے۔ ”فی تفسیر المقام المحمود اقوال (الاول) انه الشفاعة قال الواحدی اجمع المفسرون علی انه مقام الشفاعة كما قال النبی ﷺ فی هذه الاية هو المقام الذي اشفع فيه لامتي (تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۶۳۰)“  
 ﴿مقام محمود کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ (پہلا قول) بیشک (مقام محمود سے مراد) مقام شفاعت ہے۔ واحدی کہتے ہیں کہ مفسروں کا اس پر اتفاق ہے کہ (مقام محمود ہے مراد) مقام شفاعت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ (یعنی مقام محمود) وہی مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔﴾

تفسیر مدارک میں اس آیت کے متعلق یہ لکھا ہے۔ ”عسی ان یبعثک ربک مقاما محموداً نصب علی الظرف ای عسی ان یبعثک یوم القيامة فیقیمک مقاماً محموداً اوضمن یبعثک معنی یقیمک وهو مقام الشفاعة عند الجمهور (تفسیر مدارک ص ۳۶۰)“ ﴿عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً لفظ مقاماً محموداً کونص ہے۔ یعنی ظرف مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا آپ کو قیامت کے دن اور کھڑا کرے گا آپ کو مقام محمود میں یا لفظ یبعثک معنی میں یقیمک کے ہے۔﴾

جس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا۔ مقام محمود میں اور یہی مقام شفاعت جمہور کے نزدیک، تفسیر حقانی کی پانچویں جلد ص ۹۶، ۹۷ میں اس پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے۔ عسی ان یبعثک مقاماً محموداً کہ خدا تعالیٰ عنقریب تجھ کو شافع محشر بنا کر مقام محمود میں کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ وہ کرامت و عزت ہے کہ بنی آدم میں بجز آنحضرت ﷺ کے کسی کو نصیب نہیں مقام محمود سے مراد اس آیت میں کہ جہاں کھڑا کرنے کا اللہ تعالیٰ جناب محمد ﷺ سے وعدہ فرمایا ہے۔ بالاتفاق تمام مفسرین وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ﷺ قیامت کے روز عاصیوں کے لئے شفاعت کرنے کو کھڑے ہوں گے۔ جس روز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور کسی کو مجال نہ ہوگی کہ کرسی شفاعت پر بیٹھے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحبؒ اپنی تفسیر موضح القرآن کی چوتھی منزل کے ص ۱۹ میں لکھتے ہیں کہ: ”قیامت کے دن حضرت محمد ﷺ مقام محمود میں کھڑے ہو کر امت کو بخشوا میں گے۔“ لغت حدیث کی معتبر اور نہایت قابل وثوق کتاب مجمع البحار میں علامہ طاہر لکھتے ہیں۔ فیوزن له فی الشفاعة وهو مقاما محمودا پھر آپ کو شفاعت کی اجازت دیجائے گی اور یہی مقام محمود ہے۔

شارح مسلم امام نووی اور ان کے علاوہ اور بہت محدثین کا بھی خیال ہے کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ میں مقام محمود کی تفسیر مقام شفاعت کی گئی ہے۔ اگرچہ اطلاق ظاہری اور معنی لغوی کے اعتبار سے مقام محمود کا لفظ ہر مقام کرامت کو شامل ہے۔ جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں ہے۔ ”وہو مطلق فی کل مقام یتضمن کرامتہ والمشہور ہو مقام الشفاعۃ“ یعنی لفظ مقام محمود مطلق ہے اور ہر ایسے مقام کو جو کرامت پر مشتمل ہو مقام محمود کہہ سکتے ہیں۔ مگر مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ اس بناء پر آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا آپ کو مقام محمود میں قیامت کے دن اٹھا کر جگہ دے گا۔ یعنی قیامت کے دن آپ کو ایسی جگہ بارگاہ خداوندی سے ملے گی جس کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ وہ مقام حمد اور سب لوگوں کی تعریف و تحسین کے لائق ہوگا اور وہ جگہ اپنی کرامت کے اعتبار سے جملہ اماکن اور مقام سے محمود ہوگی۔ جس کی حقیقت کو انسان نہ پہنچ سکتا ہے نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتا ہے۔ جبکہ الہام الہی میں خود خدا نے اس مقام کو محمود کہا ہے اور قابل ستائش فرمایا ہے۔

دوسرے مقام میں ارشاد خداوندی ہے۔ ”ولسوف یعطیک ربک فترضنی“

﴿عنقریب تجھ کو خدا دے گا پھر تو خوش ہو جائے گا۔﴾

اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس موقع پر بھی شفاعت ہی مراد ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ اس مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔ ”فالمروی عن علی ابن ابی طالب وابن عباس ان هذا هو الشفاعۃ فی الامۃ یرونی انه علیہ السلام لما نزلت هذه الآیة قال اذا الارض وواحد من امتی فی النار (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۵۹۹)“ ﴿حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اس بخشش و عطاء سے امت کی شفاعت مراد ہے یعنی خدا آپ کی شفاعت پر اس قدر امت عاصی کی بخشش فرمائے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے اور آنحضرت ﷺ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز خوش نہ ہوں گا جب تک میرا ایک اتنی بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔﴾

اس کے بعد امام رازیؒ نے زور سے لکھتے ہیں۔ ”واعلم ان الحمل علی الشفاعۃ“ یہاں شفاعت کے معنی متعین ہیں اور کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں۔ شفاعت اگرچہ قرآن شریف سے صاف طور پر ثابت ہو چکی۔ مگر حدیثوں میں بھی اس کا بیان نہایت صراحت سے کیا گیا ہے اور اس کی تمام صورتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خود صحاح میں اس کے متعلق بہت ہی روایتیں موجود ہیں جن میں سے چند روایتیں نقل کرتا ہوں۔

پہلی روایت بخاری شریف باب صفۃ الجیزۃ والنار میں عمران ابن حصین سے روایت ہے کہ: "عن عمران ابن حصین یخرج قوم من النار بشفاعۃ محمد ﷺ فیدخلون الجنة" ﴿ایک جماعت آنحضرت ﷺ کی شفاعت پر جہنم سے نکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی﴾۔

دوسری روایت کتاب الدعوات میں امام بخاری حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "عن انس عن النبی ﷺ قال لكل نبی دعوة قد دعا بها فاستجیب فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ" ﴿ہر نبی کی ایک دعا تھی جو انہوں نے مانگی اور قبول ہوئی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کے واسطے اٹھا رکھی ہے۔﴾ یہی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔

تیسری روایت باب صفۃ الجیزۃ والنار میں امام بخاری حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں: "عن جابر ان النبی ﷺ قال یخرج من النار بالشفاعۃ" ﴿لوگ قیامت میں شفاعت کے سبب سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔﴾

چوتھی روایت ترمذی والبوداؤد نے حضرت انسؓ سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے: "ان النبی ﷺ قال شفاعتی لا ھل الکبائر من امتی (مشکوۃ شریف ص ۳۲۹، باب الارض بالشفاعۃ)" ﴿جناب رسالت مآب ﷺ نے فرمایا کہ میری شفاعت امت کے بڑے گنہگار لوگوں کے لئے ہے۔﴾

شفاعت کے متعلق ایک بہت بڑی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے صحیحین میں نقل کیا ہے۔ اس کا ضروری اقتباس یہاں پر لکھتا ہوں۔

پانچویں روایت: "عن انسؓ قال قال رسول اللہ ﷺ یجمع اللہ الناس یوم القیامۃ فیقولون لو استشفعنا علی ربنا حتی ینجینا من مکاننا فیاتون آدم فیقولون انت الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیہ من روحہ وامر الملئکۃ فسجدوا لک فاشفع لنا عند ربنا فیقول لست ہناکم (الی ان قال رسول اللہ ﷺ) فیأتونی فاستاذن علی علی ربی فاذا رایتہ وقعت لہ ساجدا فیدعی عنی ماشاء اللہ ثم یقال لی ارفع راسک وسل تعطہ وقل یسمع واشفع تشفع فارفع راسی فاحمد ربی بتحمید یعلمنی ثم اشفع فیحدی حدائم اخرجہم من النار وادخلہم الجنة ثم اعود فاقع ساجداً مثله فی الثالثۃ والرابعۃ حتی

مابقى في النار الا من حبه الايمان (بخاری شریف باب الصفة الجنة والنار) “  
 حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ لوگ کہیں گے کاش ہم لوگ کسی کو خدا کے یہاں شفیع ٹھہراتے پھر یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں خدا سے حضور کی اجازت حاصل کر کے خدا کے دیدار سے مشرف ہو کر سجدہ میں گر پڑوں گا اور جتنی دیر تک خدا چاہے گا مجھ کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ سر اٹھاؤ اور جو کچھ چاہتے ہو مانگو دیا جائے گا اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس اپنا سر اٹھاؤ گا پھر میں دیر تک حمد کرتا رہوں گا۔ پھر شفاعت کروں گا اور میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ پھر میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا اور پھر لوٹ کر آؤں گا اور سجدہ میں پہلے مرتبہ کی طرح تین چار مرتبہ گروں گا۔ یہاں تک کہ جہنم میں بجز ان مسلمانوں کے جن کے عقائد مشرکانہ ہیں کوئی مؤمن باقی نہ رہے گا۔ ﴿

حضرت امام اعظمؒ جو تمام احناف کے سردار اور مقتدا ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ جن کی پیروی اور ان کے طریقہ پر چلنے کا فخر رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی سند میں بہت سی حدیثیں شفاعت کے متعلق نقل کی ہیں۔ ان میں سے بغرض اختصار صرف ایک حدیث نقل کی جاتی ہے۔ ”عن ابی سعید عن النبی ﷺ فی قوله تعالیٰ عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة یعذب اللہ تعالیٰ قوماً من اهل الايمان بذنوبهم ثم یرجی بشفاعة محمد ﷺ (مسند امام اعظم کتاب الايمان ص ۱۶) “  
 حضرت ابی سعیدؓ جناب نبی کریم ﷺ سے عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب نبی کریم ﷺ نے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ خداوند تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کے سبب سے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر حضور ﷺ نبی کریم ﷺ کی شفاعت سے ان لوگوں کو عذاب سے نجات دے گا۔ ﴿

اب میں اس مضمون کو عقائد کی بعض مستند کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے عقائد میں داخل ہے۔ پہلے میں امام صاحب کا ہی قول نقل کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں۔  
 ”شفاعة الانبياء عليهم الصلوة والسلام حق وشفاعة نبينا عليه الصلوة

والسلام للمؤمنين المذنبين ولا هل الكباثر منهم مستوجبين العقاب حق ثابت (فقہ اکبر مطبوعہ مصر ص ۷) ﴿تمام انبیاء اور آنحضرت ﷺ کی شفاعت گنہگار امت کے لئے اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے جو مستحق عذاب کے تھے حق اور ثابت ہے۔﴾

شرح فقہ اکبر میں امام صاحب کی مندرجہ بالا عبارت نقل کر کے لکھتے ہیں۔ ”بالکتاب والسنة واجماع الامة قال رسول الله ﷺ شفاعتى لا هل الكباثر من امتى من كذب بهالم ينلها (ملخصاً ص ۴۰ مطبوعہ ردايرة المعارف حيدر اباد دکن“

﴿یعنی حضور ﷺ کا شفاعت فرمانا قرآن مجید اور احادیث شریف اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میری شفاعت امت کے بڑے گنہگار لوگوں کے لئے ہے اور جو شخص شفاعت کو جھٹلا دے یعنی میری شفاعت سے انکار کرے وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔﴾

حضرت امام اعظم کے وصایا میں ہے کہ: ”شفاعة نبينا محمد ﷺ حق لكل من هو من اهل الجنة وان كان صاحب كبيرة“ ﴿ایسے جنتی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہوں ان کے لئے بھی ہمارے نبی کریم ﷺ سے مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت فرمائی حق اور ثابت ہے۔﴾

اس کی شرح میں شارح لکھتے ہیں۔ ”اقول بان شفاعة نبينا عليه افضل الصلوة والسلام يوم القيامة لعصاة الامة حق كما قال الله تعالى عسى يبعثك ربك مقاماً محموداً (جواهر المنفیه فی شرح وصية الامام الاعظم ص ۳۰)“ ﴿میں کہتا ہوں کہ امت کے گنہگار لوگوں کے لئے نبی کریم ﷺ کی شفاعت قیامت کے دن حق و ثابت ہے۔ جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً۔﴾

امام شافعیؒ اپنی کتاب فقہ اکبر میں لکھتے ہیں۔ ”واعلموا ان شفاعة الرسول ﷺ لا هل الكباثر من امة فى القيامة حق والدليل عليه قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً تعنى الشفاعة وقال ﷺ اذخرت شفاعةى لا هل الكباثر من امتى (مطبوعہ مصر ص ۳۴)“ ﴿سمجھ لو کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی امت کے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے قیامت کے دن جناب رسول اللہ ﷺ کا شفاعت فرمانا حق اور ثابت ہے۔﴾

اور حضور ﷺ کی اس شفاعت فرمانے پر خدا کا ارشاد ہے۔ ”عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً“ دلیل ہے۔ یعنی اس سے مراد شفاعت ہے اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میں نے اپنے امتیوں کے لئے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھا ہے۔

الحاصل قرآن مجید اور مفسرین کے اقوال اور احادیث صحیحہ اور علمائے مجتہدین کے اقوال سے خوب وضاحت کے ساتھ روشن کر کے دکھا دیا گیا کہ جناب رسول کریم ﷺ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور اس مسئلہ پر تمام امت محمدیہ کا اتفاق ہے اور اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب جو شخص اس کے خلاف کہے وہ مسلمانوں کو فریب دیتا ہے اور ور بردہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹاتا ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ کی عظمت و شان کو گھٹاتا ہے۔ ایسا شخص درحقیقت قرآن مجید کی نصوص قطعہ اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت کا منکر ہے اور وہ در پر وہ اسلام کا دشمن ہے۔

سوال نمبر: ۸

قرآن شریف پڑھ کر میت مؤمن کی روح کو بخشا جائز ہے یا نہیں؟

جواب نمبر: ۸

مردہ کو قرآن شریف کا ثواب پہنچانا جناب نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں صحیح اسناد سے اس کے متعلق حضرت ابو خالد سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”یا بنی اذ انامت فالحد لی فاذا وضعتنی فی لحدی فقل بسم اللہ علی ملة رسول اللہ ثم سن علی التراب سنائم اقرء عند راسی بفاتحة البقر وخاتمتها فانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ذلك“ ﴿اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو میرے لئے لحد تیار کیجو اور جب مجھ کو لحد میں رکھو تو بسم اللہ علی ملة رسول اللہ پڑھیو۔ پھر مٹی ڈال کر فارغ ہو جاؤ۔ تو میرے سرہانے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھیو۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کہتے سنا ہے۔﴾

اسی طرح بیہقی کی سنن کبیر میں یہ روایت ان لفظوں میں مذکور ہے کہ: ”ویقرأ علی القبر بعد الدفن اول سورة البقر وخاتمتها“ ﴿بعد دفن کے قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور خاتمہ کی آیتیں پڑھی جائیں۔﴾

اسی طرح حضرت امام غزالی احياء العلوم میں حضرت ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے۔ ”اذا دخلتم المقابر فاقرؤ الفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا ثواب ذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم“ ﴿جب قبرستان میں جاؤ تو فاتحہ یعنی سورہ الحمد اور معوذتین یعنی قل آعوذ برب المفلک اور قل آعوذ برب الناس اور قل هو اللہ پڑھو اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دو۔ اس لئے کہ اس کا ثواب ان مردوں کو پہنچتا ہے۔﴾

اسی طرح حضرت امام نووی مہذب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ: ”وان ختموا القرآن علی القبر کان افضل وكان امام احمد بن حنبل الی حین بلغه“ ﴿قبر پر قرآن شریف اگر لوگ ختم کریں تو افضل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو جب تک۔ اس کے متعلق حدیث نہ معلوم ہوئی تھی۔ اس کا انکار کرتے تھے۔ جب ان کو اس کے متعلق حدیث معلوم ہوگئی تو آپ نے اس خیال سے رجوع کر لیا اور مردے پر ثواب پہنچنے کو ماننے لگے۔﴾

اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اس کو اجامی امر فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں بغیر انکار کے مردوں کے لئے لوگ مجتمع ہو کر قرآن شریف پڑھتے تھے۔ بہر حال قرآن شریف کا ثواب مردہ کو پہنچنا حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر مردہ کے نام کوئی چیز صدقہ یا خیرات کی جائے تو اس کا ثواب بھی مردہ کو پہنچتا ہے۔

جس کے متعلق متعدد حدیثیں صحیح بخاری شریف میں جناب نبی کریم ﷺ سے مروی ہیں۔ ایک حدیث حضرت سعد بن عبادہ سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”ان سعد بن عبادۃ توفیت امہ وهو غائب عنها فقال یا رسول اللہ امی توفیت وانا غائب عنها اینفعها شیء ان تصدقت بہ عنها قال نعم قال فانی اشهدک ان حاططی لمحراب صدقۃ علیہا (بخاری)“ ﴿یعنی حضرت سعید بن عبادہ کی والدہ ان کی عدم موجودگی میں وفات کر گئیں۔ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا ان کو اس صدقہ سے نفع پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس پر سعد ابن عبادہ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لئے باغ صدقہ میں دیتا ہوں۔﴾

دوسری حدیث حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ: ”ان رجلا قال للنبی ﷺ ان امی قتلت نفسہا واراها لو تکلمت تصدقت افا صدق عنها قال نعم تصدق عنها (بخاری)“ ﴿ایک شخص نے جناب نبی کریم ﷺ سے استفسار کیا کہ میری والدہ وفات کر گئیں اور ان کو صدقہ کرنے کے لئے وصیت کرنے کا موقع نہ ملا اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا تو ضرور وہ صدقہ کے لئے کہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اس کی جانب سے صدقہ کرو۔﴾

حاصل یہ کہ مردہ کو قرآن شریف کا ثواب پہنچنا یا کوئی چیز مردہ کے نام صدقہ کی جائے اس کا ثواب ملنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ جس کا انکار کوئی مسلمان قرآن و حدیث پر ایمان رکھ کر نہیں کر سکتا۔

چنانچہ فتویٰ کی کتاب میں انہیں حدیثوں کی بناء پر صاف لفظوں میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ انسان اپنی نماز یا روزہ یا صدقہ وغیرہ کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ شامی میں ہے کہ: ”صرح علماؤ نافی باب الحج عن الغیر للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوما او صدقه او غیرها (شامی ج اول ص ۶۲۵)“ ﴿یعنی غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں علماء کرام نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ ایک شخص اپنی نماز یا روزہ یا صدقہ وغیرہ کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے۔﴾

مرزائیو! میں نے جس قدر حوالے اس کتاب میں دیئے ہیں وہ نہایت صحیح اور ٹھیک ہیں۔ چونکہ مرزائی جماعت کی عادت قدیم ہے کہ وقت پر کہہ دیتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے۔ اس لئے میں ڈنکے کی چوٹ اعلان دیتا ہوں اور تمام جماعت مرزائی کو عموماً اور فضل کریم کھاندان کے ہم خیال اور قبیحین کو خصوصاً چیلنج دیتا ہوں کہ اگر اس کے حوالے کو غلط ثابت کر دیں تو مجھ سے پانچ سو روپے انعام لے لیں۔ مگر میں یقین اور پرزور دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگز کسی مرزائی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کی جانچ اور پڑتال کے لئے ہمارے سامنے آئے۔ کیونکہ یہ حوالے صحیح اور حق ہیں۔ پھر کبھی باطل اس کے سامنے نہیں آ سکتا اور اگر آ جائے تو چور چور ہو جائے گا۔ ”بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغه فاذا هو زاہق“

ہم حق کو باطل کے سر پر کھینچ مارتے ہیں اور وہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور باطل فنا ہو

جاتا ہے۔

سوال نمبر: ۹

مرزائیوں کے نکاح میں مسلمہ عورت کا دینا اور مسلمان مرد کا مرزائیہ عورت سے نکاح

کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب نمبر: ۹

مرزائیوں کے نکاح میں مسلمان عورتوں کا دینا یا مرزائیہ عورت کا اپنے نکاح میں لانا

ہرگز جائز نہیں۔ اس لئے کہ باتفاق علماء اسلام جب یہ لوگ اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو کسی مرزائیہ سے نکاح کرنا یا کسی مسلمہ عورت کو کسی مرزائی کے نکاح میں دینا وہی حکم رکھتا ہے۔ جو حکم ایک کافر کا ہے یعنی جس طرح کسی مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مرزائی سے نکاح بحکم شریعت صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔



قرآن شریف میں ارشاد ہے: ”ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن  
ولامة مومنة خیر من مشرکة ولوا عجبتمک ولا تنکھوا المشرکین حتی  
یؤمنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولوا عجبکم اولئک یدعون الی النار  
واللہ یدعوا الی الجنة والمغفرة باذنه ویبین آیاته للناس لعلهم  
یتذکرون (بقرہ: ۲۷۰)“ ﴿مشرکہ یعنی کافرہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لاویں  
نکاح نہ کرو۔ اگرچہ وہ بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہوں اور مشرکوں یعنی کافروں سے جب تک وہ  
ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو۔ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اگرچہ بظاہر تمہیں  
(دنیاوی اعتبار سے) مشرکین اچھے معلوم ہوتے ہوں۔ یہ لوگ تو جہنم کی طرف دعوت دیتے  
ہیں اور خدا اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آیتوں کو  
بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پذیر ہوں۔﴾

اس آیت میں صاف یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں سے یعنی کافروں سے نکاح نہ کرو۔  
کیونکہ یہ مشرکین یعنی کفار جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پس شب و روز کی صحبت میں اپنے  
عقائد کفریہ سے اس کے خیال کو بدل کر جنم کا مستحق بنا دیں گے۔ اس جگہ ایک بات سمجھ لینے کی یہ  
ہے کہ قرآن شریف میں یہاں لفظ مشرک لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ شرعی معنی  
میں اور شریعت کی اصطلاح میں ہر کافر کو مشرک کہا جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج دوم ص ۳۴۰) میں ہے۔  
”قال الجبائی والقاضی هذا الاسم من جملة الاسماء الشرعية واحتجا علی  
ذلك بانہ قد تواتر النقل عن الرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام انه کان یسمی  
کل من کان کافرا بالمشرک“ ﴿جبائی اور قاضی کا قول ہے کہ یہ لفظ اسماء شرعیہ سے ہے۔  
یعنی لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل اس پر یہ بیان کی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ سے  
حدیث متواتر اس کے متعلق مروی ہے کہ حضور ﷺ ہر کافر کو مشرک فرماتے تھے۔﴾

اسی طرح (تفسیر نیشاپوری جلد دوم ص ۳۱۹) میں مختلف توجیہات کے بعد مذکور ہے کہ:  
”بل یجب اندراج کل کافر تحت هذا الاسم لا سیما قد تواتر النقل عن  
النبی ﷺ بانہ یسمی کل من کان کافرا بانہ مشرک“ ﴿اس لفظ مشرک کے تحت میں  
ہر کافر کا داخل کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ جناب نبی کریم ﷺ سے متواتر مروی ہے کہ آپ ہر  
کافر کو مشرک فرماتے تھے۔﴾

بہر حال قرآن شریف کی اس آیت میں مشرک بمعنی کافر ہے اور مشرک اور کافر کے درمیان اس جگہ فرق کرنا حدیث نبوی اور قرآن شریف کی اصطلاح اور معنی شرعی کے خلاف ہے اور چونکہ یہاں مشرک بمعنی کافر ہے۔ صاحب ہدایہ فرقہ وحمیہ جو بت پرست ہے اور خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتا ہے۔ ان سے نکاح کی حرمت کی دلیل میں اسی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو وہ لکھتے ہیں۔ ”قال ولا الوثنیات لقوله تعالیٰ ولا تنکحوا المشرکات حتی یومن“ یعنی وہیہ عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ﴿

اب میں چند حوالے فقہ کے اس ثبوت میں پیش کرتا ہوں کہ کافروں سے نکاح مسلمان عورتوں کا جائز نہیں۔ (لمطاولی ج دوم ص ۲۱) میں ہے۔ ”وکل مذہب یکفر معتقدہ فلا یجوز مناکحتہم بحروفی النہر من خالف لقواطع المعلومة من الدین بالضرورة کالقائل بقدم العالم ونفی العلم بالجزئیات کافر علی ما صرح بہ المحققون“ ﴿ ہر ایسا مذہب کہ اس کا معتقد عند الشرع کافر ہے۔ ایسے مذہب والوں سے نکاح جائز نہیں اور یہی حکم ہے اس شخص کا جو اسلام کے لئے ایسے مسکوں کا خلاف کرے جو بدایہ اسلام کے قطعی مسائل سے ہیں وہ کافر ہے۔ جیسے قدم عالم کا قائل ہونا اور خدا سے جزئیات کے علم کی نفی کرنی۔ ﴿

۱ فتاویٰ فہمیہ کے ان حوالوں سے صاف لفظوں میں معلوم ہو گیا کہ جو شخص ایسا مذہب رکھتا ہو جس کا اعتقاد شرعاً موجب کفر ہے۔ ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ نیز ایسے شخص سے بھی جو ایسے مسائل کا خلاف کرتا ہو۔ جس کا ثبوت شریعت میں قطعی طریقہ پر موجود ہے۔ نکاح جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ پس ایسی صورت میں مرزائیوں سے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو اور ان کے عقائد کفریہ کے معتقد ہیں اور قطعی آیتوں کے خلاف اپنے باطل مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ نکاح جائز نہیں ہو سکتا ہے اور مرزائیوں کا کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر جملہ علمائے اسلام کا متفقہ فتویٰ چھپ کر شائع ہو چکا ہے اور مختصر اسوال نمبر ۶ میں بھی ان کے کفر کے متعلق دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ فقط کتبہ محمد یسوب، جوابات صحیح ہیں۔ ابو عمر زکریا عینی عنہ از خانقاہ رحمانیہ موئگیر۔ تمام جواب صحیح ہیں۔ غنیمت حسین، باسمہ تعالیٰ حامد ادمصلیا۔ اما بعد! اس ناچیز نے رسالہ ہذا کو دیکھا فی الواقع اسم باقی پایا جوابات سب شانی وکانی تحقیقات سب نفیس و عجیب امید ہے کہ جو شخص انصاف کے ساتھ مطالعہ کرے گا اس پر حق ضرور واضح ہو جائے گا۔ واللہ الموفق!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنَا  
مَعَ رَسُولِهِ الْمُرْسَلِ

# اسلامی تالیفات اساتذہ کرام و پیدایا

یعنی تحقیق المذاہب

(معین المبلغین)

(جناب مفتی محمد شفیع امرتسری)

بسم الله الرحمن الرحيم!

”ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً او قال او حى الى ولم يوحى اليه (انعام)“ ﴿اور بڑا ہی ظالم ہے وہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ حالانکہ اس پر وحی نہ کی گئی ہو۔﴾

”وانه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى (ترمذى ج ۲ ص ۴۰)“ ﴿ضرور میری امت میں تمیں جھوٹے نکلیں گے وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں نبیوں کو ختم کر چکا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔﴾

”مسح نے کہا: ”جھوٹے مسیحیوں اور جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ جو تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں اور باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔“  
(انجیل متی باب ۲۳ آیت ۲۳)

## قادیانی، مرزائی یا احمدی مذہب مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد

### دعویٰ نبوت

.....۱ ”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

.....۲ ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“

(اخبار بدر قادیان مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

.....۳

منم مسح زماں ومنم کلیم خدا  
منم محمد واحمد کہ مجتبیٰ باشد

(تزیان القلوب ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳)

### خدائی دعویٰ

.....۱ ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں

(آئینہ کمالات ص ۵۶۵، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳)

وہی ہوں۔“

.....۲..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”خدا نے مجھے الہام کیا کہ تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا۔“ ”کان اللہ من السماء“ گویا خدا آسمانوں سے اتر آیا ہے۔

(اشہار مرزا ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱)

## خدا کی بیوی

.....۱..... مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد قادیانی اپنے ٹریکٹ نمبر ۳۳ یعنی اسلامی قربانی میں لکھتا ہے کہ: ”مرزا قادیانی نے ایک موقعہ پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔“

.....۲..... ”بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا۔ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔“

(تمتہ حقیقت الوہی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

.....۳..... ”میرا نام ابن مریم رکھا گیا اور عیسیٰ کی روح مجھ میں لفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد جو مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔“

(کشتی نوح ص ۳۶، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

## مرزائی فرشتے

.....۱..... پیچی

بوقت قلت آمدنی ”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے۔ مگر انسان نہیں۔ بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے اور اس نے بہت سا روپیہ میری جھولی میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا کچھ نام نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ نام تو ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ہے ”پیچی۔“

(حقیقت الوہی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۶، مکاشفات ص ۳۸)

.....۲..... خیراتی

”تین فرشتے آسمان کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ جن میں سے ایک کا نام خیراتی تھا۔“

(نزول المسح ص ۲۳۶، تریاق القلوب ص ۹۴، خزائن ج ۱۸ ص ۶۱۴)

.....۳..... انگریزی فرشتہ

”ایک فرشتہ کو میں نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل

انگریزوں کے تھی اور میز کرسی لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں درشنی آدمی ہوں۔“  
 (تذکرہ ص ۳۱)

۳..... مٹھن لال

”خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام جو کسی زمانہ میں بنالہ میں اسٹنٹ تھا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا۔“  
 (تذکرہ ص ۵۱۵)

جیسا نبی ویسے فرشتے

### تمام مسلمان کافر

”سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔“  
 (آئینہ صداقت ص ۳۵، معنیہ مرزا محمود احمد)

کسی! غیر احمدی کا جنازہ نہ پڑھو

”چھٹی بات غیر احمدیوں کے جنازے پڑھنا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو جنازے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہارے جنازہ پڑھنے سے وہ غیر احمدی بخشا جاتا ہے؟ یا تم اس بات کے ذمہ دار ہو؟ کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ اگر نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم کسی غیر احمدی کا جنازہ پڑھتے ہو؟ کیا یہی نہیں کہ تم رشتہ داروں یا تعلق والوں کا منہ رکھتے ہو؟ اور کہتے ہو اگر جنازہ نہ پڑھا تو ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حالانکہ وہی منہ دکھانا قابل عزت و فخر ہو سکتا ہے۔ جو بے عیب ہو۔ مگر جو کافر کا جنازہ پڑھتا ہے اس کا منہ تو چھپانے کے قابل ہے نہ دکھانے کے قابل۔“  
 (رسالہ تقریرِ خلیفہ المسیح ثانی، ۲۷، نومبر ۱۹۲۰ء، ص ۲۸، ۲۹)

غیر احمدیوں میں لڑکیوں کے رشتے نہ کرو

”پانچویں جو اس زمانہ میں ہماری جماعت کے لئے نہایت ضروری ہے وہ غیر احمدی کو رشتہ نہ دینا ہے۔ جو شخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا ہے وہ یقیناً حضرت مسیح موعود کو نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا کسی عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو۔ مگر اس معاملہ میں وہ تم سے اچھے رہے کہ کافر

! اسی لئے کسی مرزائی نے حتیٰ کہ سر ظفر اللہ نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان وغیرہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے۔ مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔“  
(رسالہ تقریر فضل عمر خلیفہ المسیح ثانی ۲۷ دسمبر ۱۹۲۰ء ص ۶۶)

## مسلم لیگ کی مخالفت

”ہمیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے مصلح حقیقی اور دنیا کے سچے ہادی حضرت مسیح موعود مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ کے حضور میں جب اس مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور (مرزا قادیانی) نے اس کی نسبت ناپسندیدگی ظاہر فرمائی تھی۔ پس کیا کوئی ایسا کام جسے خدا کا برگزیدہ مامور ناپسند فرمائے۔ مسلمانوں کے حق میں سازگار و بابرکت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی اگر مسلمانوں کو اپنے حقیقی نفع و ضرر کی کچھ فکر ہے تو ایسے فضول مشاغل سے باز رہیں۔ جن کے نتائج نہ ان کو دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ نہ دین کا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کئی سال سے یہ نیشنل کانگریس کی نقل ہوئی ہے۔ اس سے مسلمانوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔“ (اخبار الفضل قادیان ج ۳ ش ۷۸، مورخہ ۸ جنوری ۱۹۱۶ء)

## اکھنڈ ہندوستان

”ممکن ہے حاضری طور پر افتراق پیدا ہو اور کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدا رہیں۔  
(اخبار الفضل ۱۵ اپریل ۱۹۲۷ء، ج ۳۵ ش ۸۲)

## فتح بغداد اور مرزائی خوشیاں

”فتح بغداد کے وقت ہماری فوجیں مشرق سے داخل ہوئیں۔ دیکھئے کس زمانہ میں اس فتح کی خبر دی گئی۔ ہماری گورنمنٹ برطانیہ نے جو بصرہ کی طرف چڑھائی کی اور تمام اقوام سے لوگوں کو جمع کر کے اس طرف بھیجا۔ دراصل اس کے محرک خدا تعالیٰ کے وہ فرشتے تھے۔ جن کو اس گورنمنٹ کی مدد کے لئے اس نے اپنے وقت پر اتارا۔ تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر کے اس قسم کی مدد کے لئے تیار کریں۔“ (الفضل قادیان ج ۶ ص ۹، نمبر ۳۲، مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۱۸ء)

## فلسطین

”بیت المقدس کے داخلہ پر اس ملک (انگلستان) میں بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میں نے ایک یہاں کے اخبار میں اس پر ایک آرٹیکل دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وعدہ کی زمین ہے جو یہود کو عطاء کی گئی تھی۔ مگر نبیوں کے انکار اور بالاخر مسیح کی عداوت سے یہود کو سزا کے طور پر حکومت رومیوں کو دی گئی۔ جو بت پرست قوم تھی۔ بعد میں عیسائیوں کو ملی۔ پھر مسلمانوں کو جن کے پاس ایک لمبے عرصہ تک رہی۔ اب اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ زمین نکلی ہے تو پھر اس کا مطالعہ تلاش کرنا چاہئے۔ کیا مسلمانوں نے کسی نبی کا انکار تو نہیں کیا؟

سلطنت برطانیہ کے انصاف اور آرا من اور آرا دی مذہب کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ آ زمانہ چکے ہیں اور آ رام پار ہے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی حکومت مسلمانوں کے لئے نہیں ہے۔ اس زمانہ میں کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے۔ بیت المقدس کے متعلق جو میرا مضمون یہاں انگلستان کے اخبار میں شائع ہوا ہے۔ اس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ اس کے متعلق وزیر اعظم برطانیہ کی طرف سے ان کے سیکرٹری نے شکریہ کا خط لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسٹر لائڈ جارج اس مضمون کی بہت قدر کرتے ہیں۔“ (قادیانی مبلغ کا ایک خط مندرجہ اخبار الفضل ج ۵ ص ۸ نمبر ۷، مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۱۸ء)

تو ہیں آنحضرت ﷺ

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت منکشف نہ ہوئی ہو اور دجال کے ستر باغ کے گدھے کی اصل کیفیت نہ کھلی ہو اور نہ یا جورج ماجورج دابتہ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی ہو۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۸۲، خزائن ج ۳ ص ۴۷۲)

مگر اپنے مریدوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”اب رہی اپنی جماعت، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے دمشق کے مینارہ پر مسیح کے اترنے کی حقیقت، دجال کی حقیقت، ایسا ہی دابتہ الارض (کے متعلق) خدا نے تم کو معرفت کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔“ (فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۵۱)

۲..... ”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔“

(ڈائری سرزا محمود احمد خلیفہ قادیان ثانی، مطبوعہ اخبار الفضل ج ۱۰ ص ۵۵، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء)

۳..... ”حضرت مسیح موعود کا جنی ارتقاء آنحضرت ﷺ سے زیادہ تھا۔ اس زمانہ میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو آنحضرت ﷺ پر حاصل ہے۔“ (ریویو قادیان ماہ مئی ۱۹۲۹ء)

۴..... ”نبی کریم ﷺ کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ اسی طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جو سب پر غالب ہے۔ اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا۔ کیا اب تم انکار کرو گے؟“ (اعجاز احمدی ص ۶۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

۵..... ”خدا نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے کہ اگر وہ ہزار نبی پر تقسیم کئے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔“ (پشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)



محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں  
اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں  
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل  
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدر قادیان مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

”یہ وہ نظم ہے جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے حضور میں پڑھی گئی اور خوشخط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ پس حضرت مسیح موعود کا شرف سماعت حاصل کرنے اور جزاکم اللہ تعالیٰ! کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو حق ہی کیا پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان کا ثبوت دے۔“

(افضل مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۳۳ء)

.....۷ ”آحضرت ﷺ اور صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پتیر کھا لیتے تھے۔ حالانکہ مشہور تھا کہ اس پتیر میں خنزیر کی چربی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام منی آلودہ کپڑے کو خشک ہونے کے بعد صرف جھاڑ لیا کرتے تھے۔ ایسے کنوئیں کا پانی پیتے تھے جس میں حیض کے لتے پڑتے تھے۔ کسی مرض کے وقت اونٹ کا پیشاب بھی پی لیتے تھے۔“

(مکتوب مرزا مندرجہ اخبار افضل ج ۱۱ ص ۶۶، ۹ مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۲۳ء)

.....۸ ”کیا تم نہیں جانتے کہ کتنی صدیاں گزر گئیں؟ کہ لوگ مسیح موعود کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء مسیح موعود کو دیکھنے کی حسرت لے کر چلے گئے۔ لیکن تم کو خدا تعالیٰ نے اس کا زمانہ عطاء کر دیا ہے۔ تم کو وہ ہادی ملا ہے۔ جس کی تعریف رسول کریم نے کی ہے اور جس کی تعریف عرش پر بھی کی گئی ہے کہ: ”لولاک لما خلقت الافلاک“ اگر تو (مرزا قادیانی) نہ ہوتا تو میں افلاک کو ہی پیدا نہ کرتا۔“

(رسالہ تقریر فضل عمر خلیفہ ثانی ص ۸۳، ۱۹۲۰ء)

تو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

مرزا قادیانی نے اکثر انبیاء کرام کی توہین کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کھلے طور پر گالیاں دیں۔ حالانکہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔

.....۱ ”اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۱۸، خزائن ج ۲۳ ص ۳۹۰)

۲..... ”وہ شخص بڑا ہی خبیث اور ملعون اور بد ذات ہے جو خدا کے برگزیدہ اور مقدس لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔“

(البلاغ المبین ص ۱۹)

مگر جب مرقا کا دورہ سوار ہوا تو لگے توہین کرنے۔ ملاحظہ ہو:

۱..... ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ بدزبانی میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک وعظ میں یہودی علماء کو سخت گالیاں دیں۔“

(پشمہ سبکی ص ۹، خزائن ج ۲۰ ص ۳۳۶)

۲..... ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ مگر قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا۔“

(کشتی نوح ص ۶۵ حاشیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

قادیان کی فضیلت اور توہین مکہ، مدینہ و مسجد اقصیٰ، بیت المقدس

۱..... ”قادیان تمام بستیوں کی ام (ماں) ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے۔ پھر تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟“

۲..... ”رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کی نمازوں کا اور جگہ کی نمازیں

مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ دیکھو مکہ کے لوگ اب گندے ہو گئے ہیں۔ پانچواں فائدہ قادیان آنے کا یہ ہے کہ یہاں کی نماز یہاں کا روزہ، یہاں کی عبادت، یہاں کا درس باہر کے مقابلہ میں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں ہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی نسبت رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہاں ہی وہ مسجد ہے جس میں خدا کا مسج اترا۔ پھر یہاں ہی وہ مسجد ہے جہاں راتوں رات رسول کریم ﷺ تشریف لائے۔“

(رسالہ تقریر فضل عمر خلیفہ المسیح ثانی ۱۹۲۰ء ص ۵۸، ۵۹)

توہین حضرت امام حسین علیہ السلام

۱..... ”اے قوم شیعہ! اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے۔ کیونکہ میں سچ بچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ اب میری طرف دوڑو کہ سچا شفیع میں ہوں۔“

(دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

.....۲ ”صد حسین است در گریبانم۔ یعنی میرے گریبان میں سو حسین پڑے  
(نزل اسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۳۷۷)

ہیں۔“

یزید کی تعریف

”اصل بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بدنام یزید ہے۔ اگر اس کی شراکت سے امام حسین کی شہادت ہوئی تو برا کیا۔ لیکن آج کل کے شیعہ بھی مل کر وہ دینی کام نہیں کر سکتے جو اس (یزید) نے کیا۔“  
(ملفوظات احمد ص ۳۲۵)

چوہدری ظفر اللہ کا سلام ٹریکٹ

دس نبی اور ایک بندے کا انتخاب:

- .....۱ خدا کے راست باز نبی راجحہ پر سلامتی ہو۔
- .....۲ خدا کے راست باز نبی کرشن پر سلامتی ہو۔
- .....۳ خدا کے راست باز نبی بدھ پر سلامتی ہو۔
- .....۴ خدا کے راست باز نبی زرتشت پر سلامتی ہو۔
- .....۵ خدا کے راست باز نبی کنفوس پر سلامتی ہو۔
- .....۶ خدا کے راست باز نبی ابراہیم پر سلامتی ہو۔
- .....۷ خدا کے راست باز نبی موسیٰ پر سلامتی ہو۔
- .....۸ خدا کے راست باز نبی مسیح پر سلامتی ہو۔
- .....۹ خدا کے راست باز نبی محمد صلعم پر سلامتی ہو۔
- .....۱۰ خدا کے راست باز نبی احمد پر سلامتی ہو۔
- .....۱۱ خدا کے راست باز بندہ بابانائک پر سلامتی ہو۔

(چوہدری ظفر اللہ خان قادیانی پیر شکر ٹریکٹ مارچ ۱۹۳۳ء میں بتدریب یوم التلیغ شائع ہوا)

اس ٹریکٹ سے چوہدری ظفر اللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے نزدیک حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی طرح رام چندر اور کرشن بھی نبی اور رسول تھے۔ اہل اسلام کے نزدیک تو سرور عالم محمد ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو رام چندر اور کرشن کے ساتھ ذکر کرنا سراسر گستاخی اور گمراہی ہے۔ البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کرشن اور رام چندر کے ساتھ ذکر کرنا نہایت مناسب ہے۔ یہ سب کے سب ائمہ الکفر اور کافروں کے پیشوا تھے۔

(روزنامہ زمیندار لاہور ”ختم نبوت نمبر“ ج ۳۱ ص ۲۰۲، ۱۳ مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۵۲ء بروز اتوار)

## توہین حضرت عمرؓ، خلیفہ محمود کو فضل عمر ہونے کا جنون

مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت مسیح علیہ السلام وغیرہ انبیاء پر فوقیت کا جنون ہوا تو بیٹے کو حضرت عمرؓ سے افضل اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہم پلہ ہونے کا مرق سوار ہو گیا۔ چنانچہ جس مرزائی سے دریافت کرو تو وہ کہتا ہے بیشک ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا موجودہ خلیفہ حضرت عمرؓ سے افضل ہے۔ میرے پاس ایک رسالہ موسومہ ”تقریب حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح“ موجود ہے۔ اسی طرح فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، فضل عمر میٹل ورکس وغیرہ متعدد جگہ پر اسی نام سے مراد مرزا محمود کا لقب ہی ہے۔ چنانچہ ہم ناظرین کے روبرو اس جعلی فضل عمر کا اصلی عمرؓ سے موازنہ کئے دیتے ہیں۔

اصلی عمرؓ

حضرت عمرؓ کا حال ایک غیر قوم کے فرد سے سنئے:

مشہور مؤرخ ایڈورڈ گن لکھتا ہے کہ: ”حضرت عمرؓ کی سادگی اور خوبیاں حضرت ابو بکرؓ سے کم نہ تھیں۔ آپ کی خوراک جو کی روٹی یا کھجوریں، پینے کو صرف پانی اور پینے کو ایک پھنسا ہوا یا بارہ پونڈ کا چبہ ہوا کرتا تھا۔“ (دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر ج ۵ ص ۴۰۰)

سنا کی اصل انگریزی عبارت دیکھنا ہو تو اس کتاب کے پہلے باب میں ملاحظہ کریں۔ اسی طرح حضرت عمر کا بیت المقدس کا مشہور سفر متعدد کتب تاریخ میں آیا ہے کہ آپ ایک اونٹ اور ایک غلام لے کر روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور ایک منزل غلام سوار ہوتا اور آپ پیدل چلتے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس کے قریب آ پہنچے اور باوجود غلام کے بار بار اصرار کرنے پر بھی آپ نے غلام کی باری قبول نہ کی اور اونٹ کی باگ پکڑے ہوئے بیت المقدس کے قلعہ تک پہنچے۔

رہائش آپ کی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ایک معمولی مکان میں تھی۔ جس کو ہم نے اسی کتاب کے پہلے باب میں دوسروں کے قول سے ثابت کر دیا ہے۔

نعلی عمر

خلیفہ محمود اکثر کراچی سے لاہور فرسٹ کلاس ایر کنڈیشنڈ کا پورا ڈبہ ریزرو کر کر سفر کیا کرتے ہیں۔ جس میں کم از کم ایک ہزار روپیہ خرچہ آیا کرتا ہے اور غریب مریدوں سے زندگیاں ریزرو کر کر ان کی تنخواہ کا بیشتر حصہ ربوہ پہنچ جاتا ہے۔ زندگی وقف کیا ہو امرید تو متر اسی روپیہ ماہوار پر گزارا کرے اور خلیفہ ایک دن کے سفر میں ایک ہزار روپیہ اڑا دے۔

یہ تو رہا یلوے سفر، اب روزمرہ کا حال بھی سنئے:

”خلیفہ صاحب اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کار میں سفر کیا کرتے ہیں۔ متعدد نوکر، بہترین کوٹھی، رہائش کے لئے غرضیکہ خلیفہ صاحب نے اپنے لئے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں۔“  
برطانیہ کا خود کاشتہ پودا

..... ۱ ”ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام یہ راقم (مرزا قادیانی) ہے۔ پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں موجود ہے۔ میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ اس فرقہ جدیدہ اور نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کا پیشوا ہوں حضور لفتنٹ گورنر بہادر دام اقبالہ کو آگاہ کروں۔ گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے مجھے اور میری جماعت کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ ہے اور مورد مرام گورنمنٹ ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے۔“ (نور الحق حصہ اول ص ۲۸، خزائن ج ۸ ص ۴۰)

..... ۲ ”میر ادعوئی ہے کہ تمام دنیا گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ نہیں۔ جس نے زمین پر ایسا امن قائم کیا ہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت کر سکتے ہیں۔ یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجا نہیں سکتے۔“ (ازالہ اوہام ج ۲ ص ۲۸، خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

..... ۳ ”اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔“ (ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۴۶)

..... ۴ ”میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔“ (تزیان القلوب ص ۲۷، خزائن ج ۱ ص ۱۵۵)

یک جان دو قالب

”تمام سچے احمدی جو حضرت صاحب کو مامور من اللہ اور ایک مقدس انسان تصور کرتے ہیں۔ بدوں کسی خوشامد اور چالپوسی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ ان کے لئے فضل ایزدی اور سایہ برحمت ہے اور اس کی ہستی کو وہ اپنی ہستی خیال کرتے ہیں۔“ (افضل ج ۳ ص ۲۳۸، مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۱۴ء)

## قادیانی اسلام کے دو حصے

”میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔ اس محسن گورنمنٹ کا مجھ پر سب سے زیادہ شکر واجب ہے۔ کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں۔ ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کس اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے۔ اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔“

(تختہ قیصری ص ۲۳، خزائن ج ۱۲ ص ۳۱)

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت  
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

## جہاد فی سبیل اللہ

دین اسلام میں جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو ضروری اور لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو دین اور جان و مال کی حفاظت کے لئے جہاد فی سبیل اللہ بھی عین فرض ہے۔ بلکہ بعض مواقع پر تو تمام فرائض سے افضل قرار دیا ہے۔ مگر چودھویں صدی کے مدعی نبوت نے انگریزوں کی دلجوئی کے لئے جہاد کو حرام اور موقوف کہہ دیا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں ہم ناظرین کے رویہ و ایک طرف اسلامی عقائد اور دوسری طرف مرزائی عقائد لکھ کر پوری حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔

## جہاد کے متعلق اسلامی عقائد

۱..... ”کتب علیکم القتال (بقر)“ ﴿اے مسلمانو! تم پر جہاد فرض

کروا گیا ہے۔﴾

۲..... ”یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم

عشرون صابرون یغلبوا ماتتین وان یکن منکم مائة یغلبوا الفان الذین کفروا بانہم قوم لا یفقیہون (انفال)“ ﴿اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو جہاد کا۔ اگر ہوویں تم میں سے بیس ثابت قدم غالب آویں گے و و صد پر اور اگر ہوویں تم میں سے سو ثابت قدم غالب آویں گے ہزار پر۔ ان لوگوں سے کہ کافر ہوئے۔ سب اس کے وہ قوم ہیں کہ نہیں سمجھتے۔﴾

۳..... ”ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنة

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون (توبہ) ﴿بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اور ان کے ذمہ یہ فرض لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کافروں کو قتل کریں گے اور خود بھی شہید ہوں گے۔﴾

۳..... ”ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص (الصف)“ ﴿پیشک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں صف بہ صف ہو کر اس طرح جنگ کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ سیسہ کی پگھلائی ہوئی دیوار ہیں۔﴾

۵..... ”الجهاد ماضى الى يوم القيامة (حديث)“ ﴿جہاد قیامت تک کے لئے جاری رہتا ہے۔﴾

۶..... ”لن يبر هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة (مسلم، مشکوٰۃ، کتاب الجہاد فصل اول)“ ﴿فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہمیشہ رہے گا یہ دین قائم۔ لڑتی رہے گی اس دین پر ایک جماعت مسلمانوں میں سے۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔﴾

۷..... ”من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (رواه مسلم، مشکوٰۃ، کتاب الجہاد)“ ﴿فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص ایسی حالت میں مر گیا کہ نہ تو اس نے اپنی زندگی میں جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا شوق پیدا ہوا تو وہ نفاق کی سی حالت میں مرا۔﴾

۸..... ”عن ابى هريرة قال وعدنا رسول الله ﷺ غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسى ومالى فان اقتل كنت من افضل الشهداء وان ارجع فاننا ابو هريرة المحرر (نسائی مطبوعہ ج ۲ ص ۶۴ کتاب الجہاد باب غزوة الهند)“ ﴿حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ وعدہ کیا ہم سے آنحضرت ﷺ نے کہ میری امت ہندوستان میں جنگ کرے گی۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں ہوا تو اپنی جان و مال دونوں قربان کر دوں گا۔ اگر میں قتل ہو گیا تو بہترین شہید ہوں گا اور اگر واپس آ گیا تو آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہؓ ہوں گا۔﴾

جہاد کے متعلق مرزائی عقائد

۱..... ”یاد رکھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔“ (تلخیص رسالت ج ۱ ص ۱۲۲، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۸۳)

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال  
 اب آ گیا مسیح جو دیں کا امام ہے  
 اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے  
 دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد  
 لوگوں کو یہ بتاؤ کہ وقت مسیح ہے  
 دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال  
 دیں کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے  
 اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے  
 منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد  
 اب جنگ اور جہاد حرام اور فتنہ ہے

(درئین اردو ص ۵۴)

.....۳ ”میں یقین کرتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔“

(تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۱۷، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۹)

.....۴ ”ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود جانتا ہے۔ اس روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔“

(ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۷، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۳۷)

.....۵ ”میری اور میری جماعت کی پناہ یہ سلطنت ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ منورہ میں اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بد خیال جہاد اور بغاوت اپنے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں۔ ان کو میں سخت نادان بد قسمت اور ظالم سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی ہے۔“

(تریاق القلوب ص ۲۸، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۶)

.....۶ ”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ ختم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر نبی کریم ﷺ کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

(اربعین نمبر ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۳)

.....۷ ”فرقہ احمدیہ کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ نہ صرف جہاد کو موجودہ حالت میں ہی رد کرتا ہے بلکہ آئندہ بھی کسی وقت اس کا منتظر نہیں ہے۔“

(اخبار الحکم قادیان مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۳ء)



۸..... ”دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔“ (رسالہ جہاد ص ۱۲، خزائن ج ۱ ص ۱۵)

۹..... ”اگر فرض بھی کر لیں کہ اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا۔ جیسا کہ ان مولویوں کا خیال ہے۔ تاہم اس زمانہ میں وہ حکم قائم نہیں رہا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہو جائے گا تو مسیحی

جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اے اسلام کے عالمو اور مولویو! میری بات سنو۔ میں سچ کچھ کہتا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے۔ مسیح موعود جو آنے والا تھا آچکا۔“ (رسالہ جہاد ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۹)

۱۰..... ”میں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کو بلا دعب یعنی حرمین اور شام اور مصر وغیرہ میں بھی بھیج دوں۔ کیونکہ اس کتاب کے ص ۱۵۲ میں جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا

گیا ہے اور میں نے ۲۲ برس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلامی ممالک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں۔“ (تلیخ رسالت ج ۱ ص ۲۶)

مرزا قادیانی کے اس خود ساختہ عقیدے کا جو مفکر اسلام حضرت علامہ اقبالؒ نے

خوب دیا ہے  
فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے  
لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں  
تیغ و تفتک دست مسلمانوں میں ہے کہاں  
تعلیم اس کو چاہئے ترک جہاد کی  
باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے  
ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے  
حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات

مرزائی عذر

”ہم جہاد اکبر یعنی تبلیغ یا قلم کا جہاد کرتے ہیں اور تم لوگ جہاد اصغر یعنی تلوار کا جہاد کرتے ہو۔ قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ: ”وجاہدہم جہاداً کبیراً“ (احمدیہ پاکٹ بک وغیرہ)

الجواب

تبلیغ دین کو جہاد اکبر کہنا تمہارے جیسے ہٹ دھرمیوں کا ہی کام ہے۔ جس طرح بعض

انگریزوں کی فتح کے لئے دن رات دعائیں ہو رہی تھیں اور ممالک اسلامیہ بالخصوص

ترکی و بغداد اور فلسطین کے سقوط اور تباہی پر قادیان میں اس وقت چراغاں کیا جا رہا تھا۔

جاہل پیروں نے باطن کی نمازیں گھڑی ہیں۔ تم نے تبلیغ کو جہاد اکبر بنا لیا۔ اس طرح تو ہر احکام خداوندی کا نام تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گویا شریعت تو کھیل بن گئی۔ تمہاری پیش کردہ پوری آیت اس طرح ہے۔ ”لا تطع الکافرین و جاہدہم جہاداً کبیراً (پ ۲۹)“ ﴿یعنی کافروں کی اطاعت مت کرو اور ان سے زبردست جنگ کرو۔﴾

مشکوٰۃ کتاب الجہاد میں ابوداؤد و نسائی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن حبشی کہتے ہیں کہ سوال کئے گئے آنحضرت ﷺ ”ای الجہاد افضل قال من جاہد المشرکین بما لہ و نفسہ“ یعنی کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا کہ جہاد کرے مشرکوں سے ساتھ مال اور جان اپنی کے۔ اسی باب میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ: ”ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف“ یعنی بہشت کے دروازے تلواروں کے سایہ تلے ہیں۔

مرزا قادیانی کا غیر محرم عورتوں سے پیردبوانا

۱..... ”موسم سرما کی اندھیری راتوں میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبوانا اور اختلاط و مس کرنا کارثواب اور موجب رحمت و برکات ہے۔“

(الحکم ۷ اپریل ۱۹۰۷ء دیرۃ الہدی حصہ سوم ص ۲۱۳)

۲..... (اخبار الفضل ۲۰ مارچ ۱۹۲۸ء ص ۷۶) میں ایک مراسلہ زیر عنوان محترمہ عائشہ مرحومہ بنت شادی خان کے حالات زندگی شائع ہوا۔ اس مراسلہ میں لکھا تھا کہ: ”محترمہ عائشہ پندرہ برس کی عمر میں دارالامان میں مسیح موعود کے پاس آئیں۔ حضور (مرزا قادیانی) کو مرحومہ (عائشہ) کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پسند تھی۔“

تھیٹر سنیما

”تھیٹر اور سنیما میں ننگی عورتوں کا ناچ دیکھنا جائز ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔“

(ذکر حبیب ص ۱۸، الفضل ۲۸ جنوری ۱۹۳۳ء)

بشارات اسمہ احمد

”واذ قال عیسیٰ ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصداقاً لما بین یدی من التوراة و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد . فلما جاء ہم بالبینت قالوا هذا سحر مبین (سورہ الصف)“ ﴿اور جس وقت کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل تحقیق میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں۔ تصدیق کرتا ہوں تورات کی جو پہلے مجھ سے آچکی ہے اور خوشخبری دیتا ہوں اس ایک رسول کی جو میرے بعد

آئے گا۔ نام اس کا احمد ہے۔ پس آیا جب وہ ان لوگوں کے پاس ساتھ کھلی نشانوں کے تو کہا انہوں نے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ﴿

مرزائیوں نے اس پیش گوئی کا مصداق مرزا قادیانی کو ٹھہرایا ہے۔

ناظرین! اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کی تھی کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا۔ ”فلما جاء“ ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ”قالوا هذا سحر نبیین“ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ رسول آیا ساتھ نشانوں کے تو ان لوگوں نے اس کی نشانوں کے سبب اسے جادوگر کہہ دیا۔

پھر مرزا قادیانی کا نام تو غلام احمد تھانہ کہہ۔

مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین فصل ثانی میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ

نے فرمایا۔ ”وساخبرکم باول امری دعوة ابراهیم وبشارة عیسیٰ“ ﴿ اور اب خبر دوں تم کو ساتھ اول امر اپنے کے کہ میں دعاء ابراہیم کی ہوں اور بشارت حضرت عیسیٰ کی ہوں۔ ﴿

الزامی جواب

..... ”تم سن چکے ہو کہ ہمارے نبی ﷺ کے دو نام ہیں۔ ایک محمد ﷺ اور یہ

نام توریت میں لکھا گیا ہے جو ایک آتش شریعت ہے۔ دوسرا نام احمد ﷺ ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ”ومبشراً برسول یاتئ من بعدی اسمہ احمد“

(رسالہ الریحین نمبر ۲ ص ۱۳، خزائن ج ۱ ص ۲۳۳)

..... ۲ ”حضرت رسول کریم ﷺ کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے

کیا۔ ”یاتئ من بعدی اسمہ احمد“ من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد فلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔

(کتاب ملفوظات احمد یعنی ڈائری ۱۹۰۱ء، اخبار القلم ج ۵ ص ۲۳، ۱۰، مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء)

چاند و سورج گرہن والی روایت

”ان لمہدینا ایتین لم تکونا منذ خلق اللہ السموات والارض

ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منه“

﴿ ہمارے مہدی کی صداقت کے دو نشان ہیں۔ رمضان میں چاند کو پہلی رات کو اور سورج کو

درمیانے دن گرہن لگے گا۔ ﴿

یہ گرہن مرزا قادیانی کے وقت چاند کو ۱۳ تاریخ اور سورج کو ۲۸ تاریخ لگا۔  
(مرزائی پاکٹ بک ایڈیشن ۱۹۳۵ء ص ۶۲۸، ۶۲۹، بحوالہ دارقطنی ص ۳۸۸)

## الجواب

یہ حدیث نبوی ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ محمد بن علی کا قول ہے جو کہ مجہول ہے۔ اس نام کے کئی راوی ہیں۔ معلوم نہیں کہ کون سا محمد بن علی ہے۔ اس روایت کی سند ص ۱۳۰ پر دیکھو۔  
اس روایت کا ایک راوی عمرو بن شمر سخت ضعیف ہے۔ ”قال الجوز جانی زائع کذاب وقال ابن حباب رافعی . وقال البخاری منکر الحدیث وقال النسائی والدارقطنی وغيرهما متروک الحدیث“ (میزان الاعتدال مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۲۹۱، ۲۹۲)  
جوز جانی نے کہا از حد جھوٹا تھا۔ ابن حبان نے کہا رافعی تھا۔ امام بخاری نے کہا اس کی حدیث سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ امام نسائی اور دارقطنی وغیرہ نے کہا کہ اس راوی کی روایت ترک کر دی جاتی ہے۔

اس روایت کا تیسرا راوی جابر ہے۔ اس نام کے بھی بہت سے راوی ہیں۔ مثلاً ایک جابر جعفی ہے۔ جس کی نسبت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا اور عطا سے زیادہ افضل کوئی نہ دیکھا۔ امام نسائی نے کہا متروک ”وقال ابو داؤد لیس بالقوی“ (تقریب الجہد ص ۷۶، میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۷۶)

تمہاری پیش کردہ روایت کے مطابق ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند کو اور ۱۵ تاریخ کو سورج کو گرہن لگنا چاہئے تھا۔ مگر وہ حسب معمول ۱۳ اور ۲۸ کو لگا۔ حالانکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ اس وقت سے لے کر مہدی کے زمانہ تک ایسا کبھی گرہن نہ لگے گا۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۲۷ میں گرہن کے متعلق ۶۳ برس قبل مسیح سے ۱۹۰۱ء تک کا تجربہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ گرہن ۲۲۳ برس قبل اور بعد اسی قسم کا گرہن ہوتا ہے۔

اس قسم کا گرہن مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے قبل اور بعد بھی لگ چکا ہے۔ مشرکیت کی کتاب یوز آف دی گلوبس مطبوعہ لنڈن ۱۸۶۹ء ایڈیشن کے ص ۲۷۳، ۲۷۴ میں پورے سو سال کی فہرست دی ہے۔ یعنی ۱۸۰۱ء سے ۱۹۰۰ء تک۔ اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ سو برس میں پانچ مرتبہ سورج اور چاند گرہن کا اجتماع ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اس طرح حدائق النجوم فارسی مطبع محمدی لکھنؤ ص ۱۲، ۱۳ میں گرہنوں کی فہرست میں تین مرتبہ چاند سورج کو گرہن ماہ رمضان میں ثابت کیا گیا ہے۔

قمر کا لفظ جس طرح تیسری یا چوتھی یا ساتویں تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مہینہ کی اوّل شب سے لے کر آخر تک کے چاند کو بھی قمر کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھ لو کہ چاند کے نام مختلف اوقات اور منامات کے لحاظ سے مختلف رکھے گئے ہیں۔ ”ہلال، بدر“ وغیرہ اس لئے ضرور ہے کہ اس کا کوئی اصل نام بھی ہو۔ جس پر یہ مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں اور وہ سب میں مشترک ہو وہ لفظ قمر ہے۔

ان مشاہدوں کے علاوہ قرآن مجید کا محاورہ ملاحظہ ہو۔

.....۱ ”والقمر قدرناہ منازل حتیٰ عاد کالعرجون القدیم“ یعنی

قمر کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ اسکے بموجب ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مثل سوکھی ہوئی ٹہنی کے ہو جاتا ہے۔

.....۲ ”هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً وقدرہ منازل

لتعلموا عدد السنین والحساب“ یعنی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو چمکدار اور قمر کو نور بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں۔ تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کر سکو۔

ان دونوں آیتوں میں پورے مہینے کے چاند کو قمر کہا ہے۔ خواہ وہ پہلی رات کا چاند ہو یا کسی دوسری رات کا اور یہ صرف دو ہی جگہ نہیں بہت جگہ پورے مہینے کے چاند کو قرآن میں قمر ہی کہا گیا ہے۔

بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ”ان

الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحياته (مشکوٰۃ

باب صلوة الخسوف فصل اول)“ ﴿تحقیق سورج اور چاند دونوں نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں

میں سے۔ لیکن یہ کسی کے مرنے یا زندہ ہونے کی علامت نہیں ہوتے۔﴾

ایک مشہور واقعہ

محمد ﷺ کے زمانہ میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ آپ کا ایک ہی صاحبزادہ تھا اور اس کا

نام ابراہیم تھا۔ یہ لڑکا ماریہ قبیلہ نامی حرم سے پیدا ہوا تھا۔ جب آپ اکٹھ برس کے ہوئے تو اس

صاحبزادے نے سترہ مہینہ کی عمر میں انتقال کیا۔ البتہ آنحضرت ﷺ کو بہت رنج ہوا اور بقائے

نسل و نام کی امید جاتی رہی۔ جس وقت اس صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اسی لمحہ کسوف آفتاب ہوا۔

عوام الناس نے یہ خیال کیا کہ آسمانوں نے بھی آپ کے صاحبزادے کا غم کیا۔ مگر آپ نے ان کی

اس بد اعتقادی کو رفع کیا اور ان تمام جہلا کو اپنے پاس لایا اور ان کی خوشامد پر متوجہ ہو کر فرمایا۔ اے

ہم وطنو! آفتاب اور ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان کو کسی آدمی کی پیدائش یا موت وغیرہ سے گہن نہیں لگتا۔ (ابالوئی فارمہ اینڈ قرآن ص ۴۰، اردو ترجمہ مصنفہ مسٹر جان ڈیون پورٹ)

پس ثابت ہوا چاند و سورج گرہن کو کسی کی پیدائش یا وفات یا صداقت وغیرہ کی دلیل ماننا کم عقیدہ، رجاہوں کا شیعہ ہے۔ یہ حدیث نبوی نہیں ہے بلکہ محمد بن علی کا قول ہے۔ جیسا کہ اس کی سند سے ثابت ہے۔ ”حدثننا ابو سعید الاصطخری ثنا محمد بن عبد اللہ بن نوفل ثناء عبید بن بعیش ثنا یونس بن بکیر عن عمرو بن شمر بن جابر عن محمد بن علی قال ان اللہدینا (سنن دارقطنی ص ۳۸۸)“

### مرزا قادیانی کی غلط پیش گوئیاں

۱..... ”فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولہ ان اللہ عزیز ذوا انتقام (ابراہیم)“ ﴿ہرگز گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کئے ہوئے وعدہ کا خلاف کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب منتقم ہے۔﴾  
 ۲..... ”ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔“

(کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

۳..... ”کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا لکنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔“ (تزیان القلوب ص ۲۶۸، خزائن ج ۱۵ ص ۳۸۲)

۴..... ”ہمارا صدق یا کذب جانچنے کو ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں۔“ (آئینہ کمالات ص ۲۸۰، خزائن ج ۵ ص ۲۸۸)

### پیش گوئی محمدی بیگم منکوحہ آسمانی

مرزا قادیانی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک صاحب مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری بھی تھے۔ ایک دفعہ کسی ضروری کام کے لئے ان کو مرزا قادیانی کے پاس آنا پڑا۔ مرزا قادیانی نے موقع مناسب جان کر اس وقت استخارہ وغیرہ کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ اگر کچھ دن بعد اس سلوک کا معاوضہ اس کی دختر کلاں کا رشتہ الہامی طور پر طلب کیا۔ مگر اس خلاف تہذیب مطالبہ کا الٹا اثر پڑا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ ادھر مرزا قادیانی کے بیٹی اور خیراتی فرشتوں کو بھی غصہ آ گیا اور جھٹ یہ الہام جڑا۔ ”یہ لوگ مجھ کو میرے دعویٰ الہام میں مکار اور دروغگو جانتے تھے۔ کئی دفعہ ان کے لئے دعاء کی گئی۔ دعاء قبول ہو کر خدا نے یہ تقریب پیدا کی کہ والد اس دختر کا ایک ضروری کام کے لئے ہماری طرف ہلتی ہوا۔ قریب تھا کہ ہم (اس کی درخواست پر) دستخط کر دیتے۔ لیکن خیال

آیا کہ استخارہ کر لینا چاہئے۔ پھر استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا نشان آسمانی کی درخواست کا وقت آ پہنچا۔ اس قادر حکیم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی دختر کلاں کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اسی شرط پر کیا جائے گا۔ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا۔ جس دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کا ہر ایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔“

(اشہار مرزا مورخہ ۱۸۸۸ء منقول از آئینہ کمالات ص ۲۸۱، ۲۸۲، خزائن ج ۵ ص ۲۸۱، ۲۸۸) اس اشتہار میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ اگر دوسری جگہ نکاح کیا تو اس عورت کا خاندان اڑھائی سال تک اور والد اس کا تین سال تک فوت ہوگا۔ یہ بقول مرزا قادیانی کا اٹل فیصلہ ہے۔ جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بالآخر مرزا قادیانی سے نکاح ہو کر رہے گا۔

اور سنئے! مرزا قادیانی رسالہ (شہادت القرآن ص ۸۱، ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶) میں فرماتے ہیں۔ ”بعض عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ یہ تینوں پیش گوئیاں پنجاب کی تین بڑی قوموں پر حاوی ہیں اور ان میں سے وہ پیش گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔“

۱..... مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

۲..... داماد اس کا اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

۳..... احمد بیگ تارو شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔

۴..... وہ دختر بھی تاز نکاح ثانی اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔

۵..... یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو۔

۶..... پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے۔

(شہادت القرآن ص ۸۱، ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۵، ۳۷۴)

اس پیش گوئی میں اول چالاکی مرزا قادیانی نے یہی کہ اصل پیش گوئی میں پہلا نمبر احمد بیگ کے داماد کی موت کا تھا۔ کیونکہ اس کی مدت بھی ڈھائی سال بتلائی تھی اور دوسرا نمبر احمد بیگ کی موت تھی۔ جس کی میعاد تین سال تھی۔ بخلاف اس کے چونکہ اس تحریر کے وقت احمد بیگ جو کہ بوڑھا آدمی تھا۔ بقضا۔ الہی فوت ہو گیا تھا۔ حالانکہ اسے داماد کے بعد مرنا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اس تحریر میں یہ چالاکی کی کہ احمد بیگ کی موت کا پہلے ذکر کیا اور داماد کی موت کا ذکر دوسرے نمبر پر کیا۔

دوسری چالاکی یہ کہ اصل پیش گوئی میں بیوہ کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن اس تحریر کے وقت اس عورت کا دوسری جگہ نکاح ہو چکا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے پیش گوئی کے ایک حصہ با کرہ کو ہضم کر کے صرف بیوہ والا حصہ ظاہر کیا۔

یہ تھیں مرزا قادیانی کی چالیں، بہر حال مرزا قادیانی کی ان دھمکی آمیز پیش گوئیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فریق ثانی نے محمدی بیگم کو مورخہ ۷ مارچ ۱۸۹۲ء کو مرزا سلطان محمد ساکن پٹی سے بیاہ دیا۔ (آئینہ کمالات ص ۲۸۰، خزائن ج ۵ ص ۲۸۰)

اور مرزا قادیانی اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔

مزید سنئے: ”نفس پیش گوئی یعنی اس عورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے۔ ”لا تبديل لكلمات الله“ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔“ (اشہار مرزا مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۸۹۳ء، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۳)

مرزائی عذر

تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے اور اس میں بھی شرط ہوتی ہے۔

## الجواب

یہ سب غلط ہے۔ ہم اس وقت مرزا قادیانی کے الہامات پر بحث کر رہے ہیں۔ پس اس معاملہ میں تقدیر مبرم کی تشریح جو مرزا قادیانی نے کی ہوگی۔ فیصلہ بھی اسی پر ہوگا۔ ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں۔

..... ”گو بظاہر کوئی وعید کی پیش گوئی شرط سے خالی ہو۔ مگر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر شرط ہوتی ہے۔ بجز ایسے الہام کے جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں۔ پس ایسی صورت میں وہ قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے اور تقدیر مبرم قرار پاتا ہے۔“

(انجام آتھم ص ۱۰۰ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۱۰)

..... ۲ ”اس آیت کا مدعا تو یہ ہے کہ جب تقدیر مبرم آ جاتی ہے تو ٹل نہیں سکتی۔“

(اشہار انعامی تین ہزار ص ۸، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۷۳)

..... ۳ ”تقدیر مبرم تو ان لوگوں کی دعاء سے بھی نہیں ٹلتی۔ جن کی زبان ہر وقت

(حقیقت الوحی ص ۱۶، ۱۷، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰، ۲۱)

خدا کی زبان ہے۔“



عذر

سلطان محمد نے توبہ سے فائدہ اٹھایا۔ اس لئے بچ گیا۔ اس کے علاوہ اسے تکذیب کا اشتہار دیئے کو کہا۔ مگر اس نے نہ دیا۔

الجواب

یہ سب جھوٹ ہے کہ سلطان محمد نے توبہ کی۔ مرزا نیوا! اگر لفظ توبہ سلطان محمد کی طرف سے دکھلاؤ تو منہ مانگا انعام پاؤ۔ اس کے علاوہ سلطان محمد کی توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی موت تو تقدیر مبرم تھی اور تقدیر مبرم میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ باقی رہا تکذیب کا اشتہار تو وہ تو اس ہارے ہوئے پہلوان کی مثال ہے۔ جو جتنی مرتبہ ہارے اتنی مرتبہ اپنے مد مقابل سے دوبارہ کشتی لڑنے کی تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح پھر موقع مل جائے۔ پھر تکذیب کے اشتہار پر ہی بس کہاں تھی۔ اس میں بھی تو ایک سال مدت بڑھائی جا رہی تھی۔

محمدی بیگم کو حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ حتیٰ کہ احمد بیگ اور مرزا علی شیر بیگ کو یہاں تک دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ رشتہ نہ دیا تو میں اپنے بیٹے فضل احمد کو کہہ کر تمہاری لڑکی عزت بی بی کو طلاق دلوادوں گا۔ جیسا کہ احمد یہ پاکٹ بک والا بھی تسلیم کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے بیٹک احمد بیگ وغیرہ کو یہ لکھا تھا کہ اگر تم یہ رشتہ نہ دو گے تو میں اپنے بیٹے فضل احمد کو کہہ کر تمہاری لڑکی کو طلاق دلوادوں گا۔ (احمد یہ پاکٹ بک ص ۹۸، ۱۹۳۵ء) وہ رے چودھویں صدی کے بنا پستی نمی خود کورشتہ نہیں ملا تو بے قصور بیٹے کا ہی گھر اجاڑنے لگ گئے۔ القصہ مختصر یہ پیش کوئی قطعی جھوٹی ثابت ہوئی۔

مرزائی عذر

حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش گوئی کی کہ تم پر چالیس یوم میں عذاب آئے گا۔ جو نہ آیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک دھوبی کی موت کی خبر دی۔ مگر اس نے تین روٹیاں صدقہ کر دیں جس کے سبب مرنے سے بچ گیا۔

الجواب

حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ بلکہ خدا کی سنت بتلائی تھی کہ جو قوم نافرمانی کرتی ہے اس پر عذاب آیا کرتا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ: ”لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی (یونس)“ ﴿جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے

عذاب کھول دیا یا دور کر دیا۔ کشف کے معنی کھولنے اور دور کرنے کے ہیں نہ یہ کہ شروع سے ہی عذاب نہ آیا ہو۔ معلوم ہوا کہ اس عذاب کے اٹھ جانے میں توبہ کی شرط تھی۔ مگر عذاب کا نہ آنا ثابت نہیں ہے۔ ﴿

جو پیش گوئی خدا کا نبی اپنی صداقت پر پیش کرتا ہے۔ اس میں اگر شرط مذکور نہ ہو اور وہ ظاہری الفاظ پر ہے۔ نکلیں تو دلیل تو کجا اللہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی رہا تفسیر روح البیان کا حوالہ۔ ہم اس کے منسرح کو نبی یا ملہم نہیں مانتے۔ اس کے کہنے سے ہزاروں سال قبل کا واقعہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر غیر مستند ہے۔

### سلطان محمد کی توبہ کا مرزائی ثبوت

یہ پیش گوئی مشروط تھی۔ جیسا کہ اس الہام سے ظاہر ہے۔ ”توبی توبی فان البلاء علی عقبک“ اے عورت توبہ کر توبہ کر تیری لڑکی کی لڑکی پر بلا آنے والی ہے۔ سلطان محمد نے سر کی موت سے خوف کھا کر توبہ کر لی۔ جیسا کہ اس کے مندرجہ ذیل خط سے ثابت ہے۔

از انبالہ چھاؤنی

۲۱/۳/۱۳

برادر مسلمہ! نوازش نامہ آپ کا پہنچا۔ یاد آوری کا مشکور ہوں۔ میں جناب مرزاجی صاحب کو نیک بزرگ۔ اسلام کا خدمت گزار۔ شریف انفس۔ خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امور کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا۔

نیا زمند

سلطان محمد از انبالہ

(مرزائی پاکٹ بک ۱۹۳۵ء ص ۷۷۷-۷۷۸)

### الجواب

یہ محض دھوکہ ہے کہ سلطان محمد نے توبہ کر لی۔ ”توبی توبی“ والا الہام تو صیغہ مونث ہے جو محمدی بیگم کی نانی کی طرف اشارہ ہے اور محمدی بیگم کی نانی کی توبہ بھی یہی ہونی چاہئے تھی کہ وہ اپنی نواسی مرزا قادیانی کی دلوا دیتی۔ سلطان محمد کی توبہ بھی تب ہی قبول ہونی تھی کہ وہ اس رشتہ کو مرزا قادیانی کی طرف پھیر دیتا۔ سلطان کا قصور ہی صرف یہ تھا۔ ملاحظہ ہو: ”احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تحریف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط پر خط بھیجے گئے۔ ان سے

کچھ نہ ڈرا۔ پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے التفات نہ کی۔ سو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔“ (اشتہار انعامی ۴ ہزار ص ۲۴ حاشیہ، مجموعہ اشتہارت ج ۲ ص ۹۵)

سلطان محمد کا خط

مرزا ایوں کا پیش کردہ خط جعلی اور غیر مستند ہے۔ پھر لطف یہ کہ اس خط میں بھی تو بہ کا لفظ کسی جگہ درج نہیں۔ بلکہ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو میں جیسا پہلے تصور کرتا تھا ویسا اب بھی کرتا ہوں۔ قریبی رشتہ داری جو ٹھہری۔

اب ہم مرزا سلطان محمد کا اصلی اور مستند خط ناظرین کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ جو کہ اخبار اہل حدیث مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۲۳ء و تحقیق لاثانی ص ۱۱۹ میں شائع ہو چکا ہے۔

سلطان محمد کا اصلی خط

جناب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو میری پیش گوئی فرمائی تھی میں نے اس میں ان کی تصدیق کبھی نہیں کی۔ نہ میں اس پیش گوئی سے کبھی ڈرا۔ میں ہمیشہ سے اور اب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیرو ہوں۔

تصدیق دستخط

.....۱ مولوی عبداللہ امام مسجد مبارک۔

.....۲ مولوی مولا بخش خطیب جامع مسجد پٹی بقلم خود۔

.....۳ مولوی عبدالمجید ساکن پٹی بقلم خود۔

.....۴ مستری محمد حسین نقشہ نویس پٹی بقلم خود۔

.....۵ مولوی احمد اللہ صاحب امرتسر۔

(اخبار احمدیٹ امرتسر مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۲۳ء، تحقیق لاثانی ص ۱۱۹)

اس خط کے متعلق اخبار احمدیٹ امرتسر میں اعلان ہوا تھا کہ اگر مرزائی اس خط کو غیر صحیح ثابت کر دیں تو وہی تین صد روپیہ لدھیانہ کا انعام جو مولوی ثناء اللہ صاحب نے میر قاسم علی مرزائی سے جیتا تھا واپس کر دیں گے۔ مگر کسی مرزائی نے دم نہ مارا۔

عذر

(فتح البیان ج ۷ ص ۱۰۰، فردوس الاخبار دیلی ص ۳۵۸) کہ طبرانی اور ابن عساکر نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ اے خدیجہ کیا تجھے معلوم نہیں

کہ خدا نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ۔ حضرت خدیجہؓ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ نیز آنحضرت ﷺ کو الہام ہوا کہ حضرت زینبؓ آپ کی بیوی ہیں۔ پھر بھی حضرت زینبؓ زید کے پاس رہیں۔

(مرزائی پاکٹ بک ص ۹۳، ۹۴، ۹۵، ایڈیشن ۱۹۳۵ء)

## الجواب

یہ ایک کشفی معاملہ ہے۔ کیونکہ مریم صدیقہ وغیرہ آنحضرت ﷺ سے سینکڑوں برس قبل فوت ہو چکی تھیں۔

جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”بعض آثار میں ایسا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ والدہ مسیح علیہ السلام عالم آخرت میں زوجہ مطہرہ آنحضرت ﷺ کی ہوگی۔“

(سرمہ چشم ص ۲۳۲، خزائن ج ۲ ص ۲۹۲)

پس اس نکاح کو محمدی بیگم کے نکاح سے مشابہت دینا سراسر بددیانتی ہے۔ اب سنئے حضرت زینبؓ سے آنحضرت ﷺ کے نکاح والے الہام کی حقیقت۔ فتح البیان اور فردوس الاخبار دیلمی میں حضرت زینبؓ کے نکاح کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ البتہ (جلالین مع کمالین مجہاتی ص ۳۵۳) میں ایک غیر مستند روایت آئی ہے جسے مرزائی پاکٹ بک والے نے درج کیا ہے کہ: ”آنحضرت ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ زینبؓ کا نکاح زید کے ساتھ کر دیں۔ لیکن پہلے حضرت زینبؓ نے کراہت کی۔ پھر بعد میں راضی ہو گئیں۔ پس ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بتایا کہ زینبؓ آپ کی بیویوں میں سے ہے۔“ (مرزائی پاکٹ بک ص ۹۴) مرزائیوں کے پیش کردہ اس حوالہ سے تو مرزا قادیانی کی تکذیب ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی مرضی سے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ کا نکاح زید سے کر دیا۔ حالانکہ حضرت زینبؓ اس نکاح سے کراہت کرتی تھیں۔ مگر حضور ﷺ کے سمجھانے پر خاموش ہو گئیں۔ (یہ تھی سچے نبی کی صداقت) پھر بعد کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ تیری بیویوں میں سے ہے۔ آخر ایسا ہو کر رہا۔ حضرت زینبؓ بغیر کسی کوشش کے آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئیں۔

اسی طرح صحیح بخاری حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو فرشتہ ایک ریشم

کے ٹکڑے پر حضرت عائشہؓ کی تصویر دکھلا تا اور کہتا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے۔ (تجربہ البخاری ص ۷۰۷)

سبحان اللہ! آنحضرت ﷺ کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی۔

پیش گوئی ڈپٹی عبداللہ آتھم امرتسری

”آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے۔ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے۔ وہ انہیں دنوں مباحثوں کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔“

اس پیش گوئی کی تشریح

”میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ (۵ جون ۱۸۹۳ء) سے سزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔“

(جنگ مقدس تقریر مرزا صفحہ ۶ آخری خزائن ج ۶ ص ۲۹۳)

ناظرین! جانتے ہو کہ پھر کیا ہوا۔ یہ کہ آتھم مرزا قادیانی کی تہلکی ہوئی میعاد کے اندر نہیں مرا اور مرزا قادیانی اس مقابلہ میں بھی ہار گئے۔ جب سب طرف سے لوگوں نے پھلکوی اڑانا شروع کی تو مرزا قادیانی نے پھر پینتر ابدلا۔

عذر مرزا

”آتھم کی موت کی پیش گوئی ہماری ذاتی رائے تھی۔ اصل پیش گوئی میں ہادیہ کا لفظ اور پیش گوئی کے دنوں میں عبداللہ آتھم کا ڈرتے رہنا اور شہر بہ شہر بھاگتے پھرنا اس کا ہادیہ ہے۔“

(انوار الاسلام ج ۲ ص ۵، خزائن ج ۹ ص ۵)

الجواب

مرزا ایو! مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے الفاظ ذرا آنکھوں کا پردہ ہٹا کر دیکھو۔ کس قدر زور دار ہیں۔ پھر یہ عاجزی اور بے بسی کیا معنی رکھتی ہے۔ اگر ہادیہ سے مراد موت نہ تھی تو پھر مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل اقوال کے کیا معنی ہوئے۔

.....۱ ”الہامی عبارت میں شرطی طور پر عذاب موت کا وعدہ تھا۔“

(انوار الاسلام ص ۵، خزائن ج ۹ ص ۵)

.....۲ ”آہتم نے رجوع کا حصہ لے لیا۔ جس حصہ نے اس کے وعدہ موت

(انوار الاسلام ص ۲، خزائن ج ۹ ص ۲)

میں تاخیر ڈال دی۔“

.....۳ ”دفنس پیش گوئی تو اس کی موت تھی۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۳)

دوسرا عذر

آہتم کو قسم کھانے کے لئے کہا گیا۔ مگر اس نے نہ کھائی۔

الجواب

.....۱ عیسائی مذہب میں قسم کھانی جائز نہیں۔ ملاحظہ ہو: ”میں تم سے یہ کہتا ہوں

کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ آسمان کی۔ کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی نہ یہوشلم کی نہ اپنے سر کی۔“

(رسالہ شاہی فرمان ص ۶، انجیل حقیقی، یعقوب باب ۱۲ آیت ۵)

.....۲ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”اے مسلمانوں! قرآن تمہیں انجیل کی طرف

(کشتی نوح ص ۲۷، خزائن ج ۱۹ ص ۲۹)

یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھاؤ۔“

ناظرین! مرزا قادیانی کی چالاکی یہ تھی کہ اگر آہتم قسم کھا گیا تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ

دیکھ لو ہماری بات سچی نکلی کہ آہتم عیسائیت سے منحرف ہو گیا ہے۔ کیونکہ عیسائی مذہب میں قسم نہیں

کھائی جاتی اور اگر نہ کھائی تو بھی پوں بارہ کہ دیکھ لو جھوٹا ہے۔ تب ہی تو قسم نہیں کھا رہا۔

دوسرا راز یہ تھا کہ کسی طرح ایک سال مدت اور بڑھ جائے تاکہ موجودہ ذلت اور رسوائی

کا داغ دھونے کے لئے کوئی اور بہانہ تلاش کیا جاسکے۔

ڈوٹی کی موت

ڈوٹی کی موت کی پیش گوئی کہ مہلہ کرے یا نہ کرے تب بھی اس کو اللہ ہلاک کرے

(احمدیہ پبلسٹی کیشن سوسائٹی ص ۶۱۲)

گا۔

الجواب

اس طرح کی بلا میعاد پیش گوئی تو ہر شخص کر سکتا ہے کہ خلیفہ قادیان ہلاک ہوگا۔ کل

مرزائی مرجائیں گے اور ہادیہ میں پڑیں گے۔

## پیش گوئی عالم کباب یا مصلح موعود

مرزا قادیانی کا اکثر یہ دستور رہا ہے کہ اگر کبھی ان کی بیوی حاملہ ہوتی تو بیٹے کی پیش گوئی جڑ دیتے اور اگر بہو کو حاملہ دیکھتے تو پوتے کی خوشخبری گھڑ لیتے۔ اگر کسی مرید کی بیوی حاملہ ہوتی تو اس کے حق میں لڑکا یا لڑکی کی پیش گوئی بنا ڈالتے۔ مگر ساتھ ہی راہ فرار کے لئے ممکن کی آڑ بھی لگا دیا کرتے تھے۔

چنانچہ فروری ۱۹۰۶ء میں مرزا قادیانی کے مرید میاں منظور محمد کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ اس لئے مرزا قادیانی نے فوراً ایک الہام گھڑ لیا: ”دیکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے۔ تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ ”بشیر الدولہ“ فرمایا کہ کئی آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی۔ معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔“ (ریویو قادیان ص ۱۲۲، مارچ ۱۹۰۶ء ج ۵ ش ۳)

اس گول مول الہام میں مرزا قادیانی نے عجیب ہوشیاری سے کام لیا۔ یعنی اگر آئندہ منظور محمد کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو چاندی کھری ہے کہہ دیں کے یہی مراد تھا۔ ورنہ کسی اور پر چسپاں کر دیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ کو مرزا قادیانی کی رسوائی منظور نہ تھی۔ اس لئے اس الہام کے ساڑھے چار ماہ بعد مرزا قادیانی کے قلم سے یہ لکھوا لیا: ”۷ جون ۱۹۰۶ء بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد صاحب کے گھر یعنی محمدی بیگم (زوجہ منظور محمد) کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے دو نام ہوں گے۔ بشیر الدولہ، عالم کباب۔ یہ دو نام بذریعہ الہام الہی معلوم ہوئے۔ بشیر الدولہ سے مراد ہماری دولت و اقبال کئے لئے بشارت دینے والا، عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے چند ماہ بعد تک یا جب تک کہ وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے۔ دنیا پر ایک لخت تباہی آئے گی۔ گویا کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا کے الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سرکش لوگوں کے لئے کچھ مہلت منظور ہے تب بالفعل لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوگی اور لڑکا بعد میں پیدا ہوگا۔ مگر ضرور ہوگا۔ کیونکہ وہ خدا کا نشان ہے۔“ (مخلص ریویو ج ۵ ش ۳ ص ۲۳۳، جون ۱۹۰۶ء)

اگرچہ یہ عبارت بھی پزیریب ہے۔ مگر پھر بھی اتنا ضرور واضح ہو گیا ہے کہ منظور محمد کے گھر ضرور عالم کباب پیدا ہوگا۔ مرزا قادیانی کی اس الہام بازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ایک ماہ دس یوم بعد منظور محمد گھر ۷ جولائی ۱۹۰۶ء کو لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد منظور محمد کی بیوی انتقال کر گئی اور لڑکے کی امید ہمیشہ کے لئے اپنی ساتھ لے گئی۔

## مرزائی عذر

حضرت صاحب نے فرمادیا ہے کہ منظور محمد کی تعین نہیں کی جاسکتی۔ پس منظور محمد سے مراد مسیح موعود (مرزا قادیانی) ہیں اور عالم کباب سے مراد خلیفہ ثانی میاں محمود احمد ہیں۔  
(احمدیہ پاکٹ بک ص ۶۱، ۱۹۳۵ء)

## الجواب

یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیونکہ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت مرزا محمود احمد سترہ سال کے تھے۔ مرزا قادیانی نے مصلح موعود جس لڑکے کو ظہر ایا تھا وہ تو سولہ ماہ کے اندر ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس کی تاریخ پیدائش ۷ اگست ۱۸۸۷ء ہے۔

## مرزائیوں کا دوسرا بہانہ

بعض مخالف کہا کرتے ہیں کہ ۱۹۰۶ء میں جب یہ پیش گوئی حضرت صاحب نے کی تھی اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پیدا ہو چکے تھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ الہام میں ولادت سے ولادت جسمانی نہیں بلکہ ولادت معنوی مراد ہے۔  
(احمدیہ پاکٹ بک ص ۸۷، ۱۹۳۵ء)

## الجواب

ان راویانہ مغالطہ آمیزیوں سے مرزائیوں کا دخل چھپ نہیں سکتا۔ مرزا قادیانی نے ریویو ۱۹۰۶ء میں صاف اور واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ: ”منظور محمد کے گھر یعنی محمدی بیگم (زوجہ منظور محمد) کے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔“

## پیش گوئی ہذا کے جھوٹا ہونے پر مرزائیوں کی بوکھلاہٹ

مرزا قادیانی کے ایک مرید مسی ابوالفضل محمد منظور الہی نے حکیم نور الدین کے عہد خلافت میں مرزا قادیانی کے جملہ الہامات کو ایک رسالہ ”البشری“ میں جمع کیا ہے۔ اس رسالہ کے ص ۱۱۶ ج ۲ میں لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ پیش گوئی کب اور کس رنگ میں پوری ہوگی۔ گو حضرت اقدس نے اس کا وقوع محمدی بیگم کے ذریعہ سے فرمایا تھا۔ مگر چونکہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس لئے اب نام کی تخصیص نہ رہی۔ بہر صورت یہ پیش گوئی قشایہات سے ہے۔“

(البشری ج ۲ ص ۱۱۶)

## مرزا قادیانی کی الہامی بوتل

مرزا قادیانی کی ساری عمر گول مول الہام بازیوں میں گزری۔ جس طرح ایک چالاک



عطار ایک ہی بوتل سے کئی قسم کے شربت گا ہوں کو دے کر اپنا الوسیدھا کر لیا کرتا ہے۔ یہی حالت مرزا قادیانی کی تھی کہ ایک الہام کو متعدد جگہ چسپاں کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ۹ جنوری ۱۹۰۳ء کو الہام ہوا: ”قتل خبیۃ وزید ہیبة“ ایک شخص جو مخالفانہ کچھ امید رکھتا تھا وہ ناامیدی سے ہلاک ہو گیا اور اس کا مرنا ہیبت ناک ہوگا۔ (البشری ج ۲ بحوالہ بدرج ص ۱۲)

اس الہام میں راولاندہ دورنگی ہے۔ یعنی ناامیدی سے مر گیا مگر آگے آتا ہے کہ اس کا مرنا ہیبت ناک ہوگا۔ یعنی آئندہ۔ خدا جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچاتا ہے۔ اس الہام کے چند روز بعد ایک غریب ماشکی مر گیا تو مرزا قادیانی نے جھٹ فرمادیا: ”ایک سقہ مر گیا۔ اسی دن اس کی شادی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ قتل خبیۃ وزید ہیبة جو جی ہوئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔“ (اخبار بدر نمبر ۵ ج ۳ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ کابل میں مرزا قادیانی کے دو مرید سنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے فرمادیا: ”ایک صریح وحی الہی مولوی عبداللطیف کی نسبت ہوئی تھی۔ یہ وحی بدر ۶ جنوری ۱۹۰۳ء کا نمبر ۲ میں شائع ہو چکی ہے جو مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے قتل خبیۃ وزید ہیبة۔ یعنی ایسی حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جانا ہیبت ناک امر تھا۔ یعنی لوگوں کو بہت ہیبت ناک معلوم ہوا اور اس کا بڑا اثر دلوں پر ہوا۔“ (تذکرہ الشہادتین ص ۳۷ حاشیہ، خزائن ج ۲۰ ص ۷۵)

بس ہو چکی نماز مصلے اٹھائیے

ڈاکٹر عبدالحکیم اور مرزا قادیانی کی الہام بازی

مرزا قادیانی کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کا مقام

ڈاکٹر صاحب کو مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ مہدویت و مسیحیت میں بطور دلیل پیش کیا

ہے۔ فرماتے ہیں:

..... ”حدیث میں آچکا ہے کہ مہدی کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی

جس میں اس کے تین سو تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی۔ بموجب منشا

حدیث کے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں اور وہ یہ

ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب پٹیالہ وغیرہم!“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۴۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۵)

.....۲ ”جی نبی اللہ میاں عبدالحکیم خان جوان صالح ہے۔ علامات رشدہ

وسعدت اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ زیرک اور فہیم آدمی ہیں۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔“

(ازالہ اوہام ص ۸۰۸، خزائن ج ۳ ص ۵۳۷)

### ڈاکٹر صاحب کا قبول حق

جب کھل گئی بطالت پھر اس کو چھوڑ دینا  
نیکیوں کی ہے یہ سیرت راہ ہڈی یہی ہے

### الہام ڈاکٹر عبدالکحیم خان

”مرزا مسرف کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا۔“

(اشہار ص ۲، ماحقہ حقیقت الوحی، خزائن ج ۲۲ ص ۴۱۰)

### مرزا قادیانی کا جوابی الہام

..... ۱ ”الہام۔ خدا نے مجھے فرمایا کہ میں رحمان ہوں۔ میری مدد کا منتظر رہ اور اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا اور پھر فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ میں اس کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں۔ یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں سیری فتح اور دشمن کی شکست کا بیان فرمایا ہے اور دشمن جو میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے رو برو اصحاب فیمل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا۔“

(اشہار تبصرہ ۵، نومبر ۱۹۰۷ء، تبلیغ رسالت ج ۱۰ ص ۱۳۱، مجموعہ اشہارات ج ۳ ص ۵۹۱)

..... ۲ ”آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدالکحیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ اس نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور میں اس کو ہلاک کروں گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۲۱، ۳۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۶)

۳..... ”میں امام الزمان ہوں۔“ (ضرورۃ الامام ص ۲۲، خزائن ج ۱۳ ص ۲۹۵)

”امام الزمان کی الہامی پیش گوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ چابک سوار گھوڑے کو۔“

(رسالہ ضرورۃ الامام ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۲)

مرزا بیو! جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے جانے میں اتنی جلدی کی کہ ڈاکٹر صاحب کی بتلائی ہوئی میعاد سے دو ماہ قبل یعنی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو ہی راہی ملک عدم ہو گئے اور ڈاکٹر عبدالکیم ۱۹۲۲ء تک زندہ رہا۔

## اشتہار آخری فیصلہ

### مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم . نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!

”یستنبیثونک احق هو قتل ای وربی انه لحق“ بخدمت مولوی ثناء اللہ

صاحب! ”السلام علی من اتبع الهدی“ مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب و مفتری ہوں۔ جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے۔ تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے

طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو عظیم و خمیر ہے۔ جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میری نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرتا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے۔ حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون، ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میرے رو برو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منہی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین!

میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں۔ جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانوں میں ”لا تقف مالیس لك به علم“ پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص درحقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اسلئے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں سچے ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو جتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین! ”ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ آمین“ بلا خرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ

میں ہے۔ الراقم: عبد اللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود عافاه اللہ واید

مرقومہ: یکم ربیع الاول ۱۳۲۵ھ، ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء

(تبلغ رسالت ج ۱۰ ص ۱۲۰، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸)

اس دعاء کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی جو کہ خدا کی نظر میں جھوٹے تھے ایک سال بعد یعنی ”مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء بروز منگل قریب اوس بجے دن بمرض ہیضہ اس طرح کہ ایک بڑا دست آیا اور نبض بالکل بند ہو گئی۔“

اور مولوی ثناء اللہ صاحب جو خدا کی نظر میں صادق تھے۔ بہ فضل تعالیٰ پاکستان قائم ہونے کے بعد تک زندہ و سلامت رہے۔

دوسری شہادت: بمرض ہیضہ

مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم۔ اے اپنی کتاب (سیرۃ المہدی) میں لکھتے ہیں۔ ”خاکسار نے یہ روایت جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے بعد آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور ایک یا دو دفعہ حاجت کے لئے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ تھوری دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے۔ اس لئے چار پائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشاء ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تھوڑی دیر تک غرغره کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۰)

مرزا قادیانی کی اپنی شہادت

مرزا قادیانی کے خسر نواب میر ناصر فرماتے ہیں کہ: ”حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سوچا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا

گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔“

(رسالہ حیات نواب میر ناصر ص ۱۴)

اس آسمانی شکست کے بعد بھی مرزائیوں کو صبر نہ آیا تو خدا تعالیٰ نے زمینی شکست بھی دے دی۔ وہ اس طرح کہ مرزائیوں نے اپریل ۱۹۱۲ء کو شہر لدھیانہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو تین صد روپیہ کا انعامی چیلنج بابت آخری فیصلہ دے دیا۔ فریقین کی منظوری سے سردار گورچن سنگھ پلیڈر کو ثالث مقرر کیا گیا۔ جس میں مرزائی مناظر میر قاسم علی کو شکست فاش ہوئی اور مولوی ثناء اللہ صاحب تین صد روپیہ انعام لے کر فاج قادیان بن کر امرتسر واپس آئے۔

”قانون قدرت صاف گواہی دیتا ہے کہ خدا کا یہ فعل بھی ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا اور سخت دل مجرموں کی سزا ان کے ہاتھ سے دلواتا ہے۔ سو وہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں۔“

(استفتاء اردو ص ۸۰، ۸۱، حاشیہ، خزائن ج ۱۲ ص ۱۱۶)

ان پے در پے شکستوں کے بعد مرزائیوں کو خدا سے توبہ کرنی چاہئے کہ ایک دن اس خالق حقیقی کو منہ دکھاتا ہے۔

مرزائی عذر

”آخری فیصلہ اگر محض دعا ہوتی تو نہ ٹلتی۔ وہ دعائے مبالغہ تھی۔“

(احمدیہ پاکٹ بک ص ۸۳۰، ۱۹۳۵ء)

الجواب

آخری فیصلہ مبالغہ ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ محض دعا تھی اور محض دعا میں دوسرے فریق کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ آخری فیصلہ مبالغہ اس لئے نہیں کہلا سکتا کہ مرزا قادیانی اس سے کئی ماہ قبل رسم مبالغہ کو ختم کر چکے تھے۔ جیسا کہ وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ ”سلسلہ مبالغات جس کے بہت نمونے دنیا نے دیکھ لئے ہیں میں کافی مقدار دیکھنے کے بعد رسم مبالغہ کو اپنی طرف سے ختم کر چکا ہوں۔“

(حقیقت الہی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱)

یہ تحریر جولائی ۱۹۰۶ء کی ہے۔ جیسا کہ (حقیقت الہی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱) پر اس کی وضاحت ہے۔ حالانکہ اشتہار آخری فیصلہ ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء کا ہے۔ پس آخری فیصلہ کو مبالغہ کہنا آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔

”مباہلہ کے لئے تو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب انجام آتھم میں تمام مولویوں، گدی نشینوں وغیرہ کو دعوت دی تھی۔ جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب کا گیارہواں نمبر تھا۔“

(احمدیہ پاکٹ بک ص ۸۲۲)

جب مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس کا جوابی چیلنج اہل حدیث ۲۹ مارچ ۱۹۰۷ء میں دیا تو مرزا قادیانی نے اس کا جواب اخبار الحکم مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۷ء اور بدر ۳۱ اپریل ۱۹۰۷ء میں یہ دیا تھا کہ: ”ہم آپ (مولوی ثناء اللہ صاحب) سے اس چیلنج کے مطابق اس وقت مباہلہ کریں گے جب ہماری کتاب حقیقت الوحی شائع ہو جائے گی اور وہ کتاب آپ کو بھیج کر معلوم کریں گے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ پھر بعد اس کے مباہلہ کریں گے۔“

(الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۰۷ء، بدر ج ۶ ش ۱۳ ص ۴، مورخہ ۳۱ اپریل ۱۹۰۷ء)

مرزا قادیانی کی اس تحریر نے صاف طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری فیصلہ سے قبل جو سلسلہ مباہلہ کا ذکر اخبارات میں جاری تھا وہ حقیقت الوحی کے بعد ہوگا اور یہ کتاب حقیقت الوحی ۱۵ مئی ۱۹۰۷ء کو شائع ہوئی ہے اور آخری فیصلہ حقیقت الوحی سے ایک ماہ قبل کا ہے۔ پس وہ سابقہ مباہلہ کی کڑی میں داخل نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ جب حقیقت الوحی شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کے نام خط لکھا کہ حقیقت الوحی روانہ کرو تا کہ اسے پڑھ کر مباہلہ کے لئے تیار ہو جاؤں۔ اگر وہ آخری فیصلہ ہی مباہلہ تھا تو مرزا قادیانی صاف کہہ دیتے کہ مباہلہ تو ہو چکا ہے۔ اب مزید مباہلہ کیسا۔ چنانچہ مولوی صاحب کے خط کا جواب اخبار بدر قادیان ۱۳ جون ۱۹۰۷ء میں اس طرح دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمادیں:

..... ”آپ کا کارڈ مرسلہ ۲ جون ۱۹۰۷ء حضرت مسیح موعود کی خدمت میں پہنچا۔ جس میں آپ نے ۳۱ اپریل ۱۹۰۷ء کے بدر کا حوالہ دے کر جس میں قسم کھانے والا مباہلہ بعد حقیقت الوحی موقوف رکھا گیا ہے۔ حقیقت الوحی کا ایک نسخہ مانگا۔ اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوحی بھیجنے کا ارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جب کہ آپ کو مباہلہ کے واسطے لکھا گیا تھا۔ (اب) مشیت ایزدی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑا اور حضرت حجتہ اللہ کے قلب میں آپ کے واسطے ایک دعاء کی تحریک کر کے فیصلہ کا ایک اور طریق اختیار کیا۔ اس واسطے مباہلہ (سابقہ) کے ساتھ جو شرط تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے مباہلہ کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب (حقیقت الوحی) بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی۔“

(اخبار بدر قادیان ج ۶ ش ۲۳ ص ۲، مورخہ ۳۱ جون ۱۹۰۷ء)

.....۲ پھر بدر ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء میں مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ: ”شاء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ رات کو الہام ہوا کہ ”اجیب دعوة الداع“ تیری دعاء سنی گئی۔ صوفیا کے نزدیک بڑی کرامت انبابت دعائی ہے۔“ (اخبار بدر قادیان ج ۶ ص ۷، مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء)

مرزائی عذر۔

مرزا قادیانی تو آخری دم تک اپنی اسی دعاء کے نتیجے پر اڑے رہے۔ مولوی ثناء اللہ نے خود لکھ دیا تھا کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ تمہاری یہ تحریر کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی۔ (احمدیہ پاکٹ بک ص ۸۲۶)

الجواب

مولوی ثناء اللہ کی قبولیت کا سوال تو جب پیدا ہوتا۔ جب کہ آخری فیصلہ مباہلہ ہوتا۔ مرزا قادیانی نے تو محض دعاء کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا تھا۔ اگر مولوی ثناء اللہ صاحب کی منظوری اس دعاء میں لازمی ہوتی تو بقول مرزا قادیانی خدا سے قبول کیوں کر لیتا؟ پھر مرزا قادیانی نے مولانا صاحب کے انکار (جو ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء کے پرچہ میں کیا گیا تھا) کے بعد ۱۳ جون ۱۹۰۷ء کے اخبار بدر میں واضح الفاظ میں آخری فیصلہ مباہلہ نہ تھا صرف دعائی کیوں لکھا؟ ایڈیٹر بدر اور مرزا قادیانی کے تمام خریداروں نے کیوں اس کی تردید نہ کی۔

اسی طرح مفتی محمد احسن کا آخری فیصلہ کو بعد وفات مرزا محض دعائیتا کر عذر کرنا کہ نبیوں کی بعض دعائیں قبول نہیں ہوا کرتیں۔ (ریویو قادیان ج ۷ ص ۷، ۶، ۷، ۸، ۱۹۰۸ء)

آخری فیصلہ کو صرف دعائی ثابت کیا ہے۔

مرزائی عذر

مولوی ثناء اللہ نے خود اس دعا کو مباہلہ لکھ دیا تھا۔

الجواب

مولوی ثناء اللہ صاحب نے شروع شروع میں اسے دعائی فرمایا ہے۔

(دیکھو اخبار الحمد ص ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء احمدیہ پاکٹ بک ص ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸ء)

البتہ چونکہ مرزا قادیانی بعض دفعہ ایک طرفہ دعاؤں کا نام بھی مباہلہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ (تمہ حقیقت الوحی ص ۸۲) پر حافظ مولوی محمد الدین کی نسبت لکھتے ہیں: ”اس نے اپنی کتاب



میں میری نسبت کئی لفظ بطور مبالغہ استعمال کئے اور جھوٹے کے لئے خدا تعالیٰ کے غضب اور لعنت کی درخواست کی تھی۔ پھر مر گیا؟۔“

لطیفہ

ہم مرزائی کتب سے ثابت کر آئے ہیں کہ مرزا قادیانی ہیضہ کی موت اور پھر منہ مانگی موت مرا۔ اور ہیضہ کی موت کا عبرتناک ہونا الفضل سے سنئے: ”محمد عاشق نائب صدر مجلس احرار قصور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں بے حد بدزبانی کیا کرتا تھا ۲۹ جولائی کو ہیضہ سے نہایت عبرتناک موت مر گیا۔ قصور کے دوسرے احرار کو عبرت حاصل کرنی چاہئے۔“ (اخبار الفضل ج ۲۳ نمبر ۳۰، ۳۱ اگست ۱۹۳۶ء)

مرزا نیو! اپنے اس قاعدہ کلیہ کی بناء پر مرزا قادیانی کی موت کو بھی ایک عبرتناک موت تصور کرو۔

سلطنت اغیار را رحمت شمرد

رقصہا گرد کلیسا کرد و مرد

ترجمہ: مرزا قادیانی اپنے دشمن اسلام حکومت نصاریٰ کو رحمت شمار کیا اور تمام عمر صلیب کے گرد ناچ کیا اور مر گیا۔

## مراق مرزا

### تعریف مراق

”مراق مایخو لیا کی ایک شاخ ہے۔“ (بیاض حکیم نور الدین خلیفہ اول قادیانی ص ۲۱۱)

مراقی، وہی اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے

مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے متعلق لکھتے ہیں: ”مگر یہ بات یا تو بالکل جھوٹا منصوبہ اور یا کسی مراقی عورت کا وہم تھا۔“

(کتاب البریت حاشیہ ص ۲۳۹، خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۴)

### مرزا قادیانی کو بھی مراق تھا

پھر یہی مراق اپنی نسبت لکھتے ہیں: ”مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کی دھڑکی۔ یعنی مراق اور ایک نیچے کی دھڑکی۔ یعنی کثرت بول۔“

(رسالہ تشہید الاذہان قادیان ج ۱ ص ۵۰، جون ۱۹۰۶ء)

## مرزا قادیانی کو مراق کے علاوہ ہسٹریا بھی تھا

مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد اپنی کتاب سیرت المہدی حصہ اول ص ۱۳ میں لکھتا ہے:  
 ”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹریا  
 کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا..... والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد  
 آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔“ (سیرت المہدی حصہ اول ص ۱۳)

ہسٹریا کا مریض نبی نہیں ہو سکتا

ڈاکٹر شاہ نواز مرزائی رسالہ (ریویو اگست ۱۹۲۶ء) میں لکھتا ہے: ”ایک مدعی الہام کے  
 متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا مانجھو لیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے  
 لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی  
 عمارت کو بیخ و بن سے اکھیر دیتی ہے۔“

عذر: ۱

”حضرت نے بے شک مراق کا لفظ اپنی نسبت بولا ہے مگر اس سے مراد ہوائے دوران  
 سر کے اور کچھ نہیں۔ حضرت نے کب کہا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ میاں بشیر احمد نے حضرت ام  
 المؤمنین کی زبانی ہسٹریا لکھا ہے۔ مگر آپ کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں کہ جو ترجمہ مراق کا کیا وہ درست ہو۔  
 ڈاکٹر شاہ نواز صاحب ایم بی بی ایس نے (ریویو اگست ۱۹۲۶ء) میں ثابت کیا ہے کہ مراق کا ترجمہ  
 قطعاً ہسٹریا نہیں..... ڈاکٹر شاہ نواز نے طبی نقطہ نگاہ سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت کو قطعاً  
 ہسٹریا نہ تھا۔“ (احمدیہ پبلیکیشن بک ص ۱۳۹۰ ایڈیشن ۱۹۳۲ء)

جواب: ۱

مرزا قادیانی کو دوران سر اور مراق دو بیماریاں تھیں۔ خود ڈاکٹر شاہ نواز نے دونوں  
 بیماریوں کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو: ”واضح رہے کہ حضرت صاحب کی تمام تکلیف مثلاً  
 دوران سر، سردرد، کمی خواب، کثرت پیشاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث کمزوری تھا۔“  
 (قادیانی ریویو ج ۲۶ نمبر ۵ ص ۲۶)

دیگر مرزا قادیانی کی بیوی تو بے شک ڈاکٹر نہیں تھیں۔ مگر مرزا قادیانی تو بڑے مانے  
 ہوئے حکیم تھے۔ یعنی بقول خود: ”ایک ہزار سے زیادہ حکمت کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔“

(حاشیہ راز حقیقت ص ۶، خزائن ج ۱۳ ص ۱۵۸)

۱۔ یہ مرض عموماً نوجوانوں کا ہوتا ہے اگرچہ شہداء و مومنین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (مخزن حکمت ص ۶۹)

عذر: ۲

”حضرت مسیح موعود نے یہ ہرگز نہیں تحریر کیا کہ مجھ کو مراق ہے۔ بدرجہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء جس کا حوالہ معترض نے دیا ہے وہ حضرت کی تحریر نہیں بلکہ ڈائری ہے۔“

(احمدیہ پاکٹ بک ایڈیشن ۱۹۳۵ء ص ۱۰۶۳)

جواب: ۲

یہ عبارت مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کے روبرو ان کی طرف سے ان کے اپنے ہی اخباروں میں شائع ہوئی اور خود مرزا قادیانی کے قلم سے جیسا کہ صیغہ متکلم سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر یہ حوالہ غلط ہوتا تو یقیناً مرزا قادیانی اس کی تردید کر دیتے۔ مگر چونکہ مرزا قادیانی نے تردید نہیں کی۔ اس لئے یہ انہیں کے لفظاً تصور ہوں گے۔ مرزا محمود احمد نے بھی متعدد جگہ ڈائری کے حوالہ پیش کئے ہیں۔ پس مرزائیوں کا یہ عذر بھی باطل ٹھہرا۔

عذر: ۳

اللہ کے نبیوں کو ہمیشہ مجنون ہی کہا جاتا ہے۔

جواب: ۳

کجا بہتان لگانا اور کجا مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں وغیرہ کا خود اقرار کرنا۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

مرزا قادیانی کی بیوی کو بھی مراق تھا

”میری بیوی کو بھی مراق کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔“

(منظور الہی ص ۲۳۳، حوالہ القلم ج ۵ ش ۲۹ ص ۱۳، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

خلیفہ محمود بھی مراقی ہے

ڈاکٹر شاہ نواز مرزائی لکھتا ہے۔ ”جب ناندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں بے شک یہ مرض منتقل ہوا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا۔ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ پڑتا ہے۔“ (رسالہ ریویو آف ریلیجیون ج ۲۵ ص ۸، ۱۱، اگست ۱۹۲۶ء)

نبی کا استاد خدا ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا

”عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ انا امة امیة لا نکتب ولا نحسب (بخاری مسلم)“ ﴿حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

فرمایا کہ ہم پیغمبر ناخواندہ گروہ ہیں۔ نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی ہم نے حساب کتاب سیکھا ہے۔  
یوروپین مورخ سر ولیم میور لکھتا ہے۔

**THE PROPHET HIMSELF NEITHER READ  
NOR WROTE. (LIFE OF MOHD CHAP. 1. MUIR)**

ترجمہ: ”(مسلمانوں کا) پیغمبر نہ تو پڑھا، نہ لکھنا جانتا تھا۔“

(لائف آف محمد باب پہلا، مصنف سر ولیم میور)

انبیاء کرام کی نامراد نقالی

مرزا قادیانی کو اپنے امی اور ناخواندہ ہونے کے دعویٰ کی جرأت تو نہ ہوئی۔ البتہ اپنی طرف سے یہ بیچ لگادی کہ امام الزمان کے لئے لازم ہے کہ وہ دینی امور میں کسی کا شاگرد و مرید نہ ہو۔ بلکہ اس کا استاد و مرشد صرف خدا ہو۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

۱..... ”حالت فاسدہ زمانہ کی یہی چاہتی ہے کہ ایسے گندے زمانہ میں جو امام آخر الزمان آدے۔ وہ خدا سے مہدی ہو اور دینی امور میں کسی کا شاگرد نہ ہو۔ اس لئے ضرور ہے کہ ظاہر ہونے والا آدم کی طرح ظاہر ہو جس کا استاد و مرشد صرف خدا ہو اور نوع انسان میں سے اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد و مرشد نہ ہو۔ بلکہ اس لیاقت کا آدمی کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مہدی کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگرد نہ ہو۔“

(اربعین نمبر ۲ ص ۱۲، ۱۳، خزائن ج ۱ ص ۳۶۰)

۲..... ”آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہے۔ سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہ ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہ ہی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔“ (ایام الصلح ص ۱۲، خزائن ج ۱ ص ۳۹۳)

مسح قادیانی کی تعلیم

(دروغ گورا حافظہ نباشد)

۱..... ”بچپن کے زمانہ میں سیری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریب آدس برس کے ہوئی تو ایک عربی خوان مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد

تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگ وار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی سیر۔ والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔“ (کتاب البریہ ص ۱۳۹، ۱۵۰، حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۸)

۲..... مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد کی شہادت۔ ”آپ کے استاد فضل الہی قادیان کے باشندہ حنفی تھے۔ دوسرے استاد فضل احمد فیروز والہ ضلع گجرانوالہ کے باشندہ اہل حدیث تھے۔ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی (مرزائی) ان ہی کے بیٹے تھے۔ تیسرے استاد سید گل علی شاہ بنالہ کے باشندہ شیعہ تھے۔“ (سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۲۳۲)

ختم نبوت فی القرآن

۱..... ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین (احزاب)“ ﷺ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مگر وہ رسول اللہ کا ہے۔ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔“ (ازالہ وہاب ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۱)

۲..... ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ)“ ﴿آج کے دن میں نے قرآن کے اتارنے اور تکمیل نفوس سے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا۔﴾

”قرآن شریف جیسا کہ آیت ”الیوم اکملکم دینکم“ اور آیت ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ میں صریح نبوت کو آنحضرت ﷺ پر ختم کر چکا ہے۔“ (تحفہ گولڈ ویس ص ۸۲، خزائن ج ۱۷ ص ۲۶۰)

۳..... ”واخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرونہ (بقرہ)“ اور یاد کر کہ جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا۔ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۲)

”خدا نے اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھیجا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہے۔“  
(حقیقت الوحی ص ۱۴۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۵)

۴..... ”وما ارسلنا الا کافة للناس بشیراً ونذیراً (سبا)“  
خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی رسالت کو کافہ بنی آدم کے لئے عام رکھا۔“

(براہین احمدیہ ص ۵۴۵، خزائن ج ۱ ص ۶۵۲)

۵..... ”خدا نے سب دنیا کے لئے ایک ہی نبی بھیجا تا کہ وہ سب قوموں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تا جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی۔ آخر میں بھی ایک ہی قوم بنا دے۔“  
(چشمہ معرفت ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۳ ص ۱۴۳)

### ختم نبوت فی الحدیث

۱..... ”عن ثوبان قال قال رسول اللہ ﷺ انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى (ابوداؤد، ترمذی ج ۲ ص ۴۵، مشکوٰۃ کتاب الفتن)“ ﴿﴾ حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ضرور میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے یہی کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ﴿﴾  
”حدیث لانی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔“

(کتاب البریہ ص ۱۸۴، حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۲۱۷)

”حدیث لانی بعدی میں لانی عام ہے۔“ (ایام الصلح ص ۱۳۶، خزائن ج ۱۳ ص ۳۹۲)

”آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک تمیں کے قریب دجال پیدا ہوں گے۔“  
(ازالہ اوہام ص ۱۹۹، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

۲..... ”كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي“

خلفہ نبی انہ لا نبی بعدی و سیكون خلفاء فيكثرون (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۱۹، مسلم کتاب الایمان، ابن ماجہ مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۷) ﴿﴾ فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین نبی ہی ہوا کرتا تھا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عنقریب خلفاء کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جو کہ بکثرت ہوں گے۔ ﴿﴾

”وحی و رسالت ختم ہوگئی۔ مگر ولایت و امامت و خلافت کبھی ختم نہ ہوگی۔“

(قول مرزا مندرجہ تشہید الاذہان ج ۱ نمبر ۱)

۳..... ”قال رسول اللہ ﷺ لعلي انت مني بمنزلة هارون من

موسى الا انه لا نبي بعدى (صحيح بخارى، صحيح مسلم، مشكوة باب مناقب  
علي) ﴿ فرمایا نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؑ سے کہ اے علیؑ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے ہارون تھا۔  
موسیٰ سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ﴿

۴..... ”وعن ابی هريرة ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی

الانبياء بست اعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنالم  
وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الي الخلق كافة وختم بي  
النبیون“ ﴿ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں ۶ باتوں میں  
جملہ انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہوں، کلمات جامع مجھے دیئے گئے۔ فتح دیا گیا ساتھ رعب کے، حلال  
کی گئیں میرے لئے غنیمتیں، اور کی گئی میرے لئے زمین مسجد اور پاک کرے والی، رسول بنایا گیا  
ہوں میں تمام کافہ ناس کے لئے، ختم کئے گئے میرے ساتھ انبیاء۔ ﴿

۵..... حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ”من محمد

قال آخر من ولدك من الانبياء (كنز العمال ج ۴)“ ﴿ یعنی کون ہے محمدؐ جو جبرائیل علیہ  
السلام نے جواب دیا کہ آپ کی اولاد میں نبیوں میں سے جو سب سے بعد میں پیدا ہوگا۔ ﴿

۶..... ”لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب (مشكوة باب

مناقب عمر، ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹)“ ﴿ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ﴿  
(ازالہ اوہام ص ۲۳۶، جزائن ج ۳ ص ۲۱۹)

عذر

اول تو یہ حدیث غریب ہے۔ دوسرے اس حدیث کے دو راوی ضعیف ہیں۔ پہلا

مشرح بن ہاعان اور دوسرا بکر بن عمرو العافری (مرزائی پاکٹ بک ص ۵۲۸، ۵۲۹)

الجواب

کیا غریب حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں؟ اس حدیث کو ضعیف کہنا مرزا قادیانی

کی تکذیب کرنا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ازالہ اوہام میں ختم نبوت کی تائید میں یہ حدیث لکھی ہے۔

”کسی کے محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں راوی ضعیف ہے۔ درحقیقت وہ راوی ناقابل اعتبار نہیں

ہو جاتا۔ جب تک اس کی تضعیف کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ کیونکہ اس امر میں اختلاف یسیر موجود ہے۔“ (مرزائی پاکٹ بک ص ۳۸۲)

اب سنئے! راویوں کا حال۔

..... شرح بن ہاعان: ”قال عثمان الدارمی عن ابن معین ثقة وقال ابن حبان فی الثقات“ (تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۱۵۵، میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۷۲) ترجمہ: عثمان دارمی نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ یہ راوی ثقہ یعنی قابل اعتماد ہے اور ابن حبان نے بھی اس راوی کو ثقہ راویوں میں شمار کیا تھا۔

اسی طرح (تقریب التہذیب ص ۳۹۳) میں حافظ ابن حجر نے اس راوی کو مقبول لکھا ہے۔ دوسرا راوی (بکر بن عمرو المعافری): ”قال ابن معین وابوزرعة والنسائی ثقة وذكره ابن حبان فی الثقات“ (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۸۶ تقریب التہذیب ص ۶۶) ترجمہ: ابن معین وابوزرعة و نسائی وابن ماجہ نے اس راوی کو ثقہ لکھا ہے۔

..... ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ مثل ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منه موضع لبنة قطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلك اللبنة فکنت انا سدوت موضع اللبنة ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفي رواية قانا اللبنة وانا خاتم النبیین“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، باب فضائل سید المرسلین)

﴿حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایک ایسے محل کی ہے جس کی تعمیر بہت ہی عمدہ ہوئی ہو۔ اس کی تعمیر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ اس عمارت کو دیکھنے والے آتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ سو میں نے اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا۔ میری آمد سے وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طرح ختم ہو گیا میری ذات پر نبیوں کا سلسلہ اور ایک روایت میں ہے۔ پس میں ہوں مثال اس اینٹ کی اور میں ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا۔ دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔﴾ (سرمد چشم آریہ ص ۱۹۸، خزائن ج ۲ ص ۲۳۶)

عذر:

اس روایت میں پہلے طریق میں ..... زہیر بن محمد تمیمی ضعیف ہے۔ دوسرے میں ..... عبداللہ بن دینار مولیٰ عمر۔ ۲..... اور ابوصالح الخوزی ضعیف ہے۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۵۳۶)



اس روایت کے دونوں طریق کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ملاحظہ ہو:

..... ”زہیر بن محمد تمیمی: قال حنبل عن احمد ثقہ وقال ابوبکر المروزی عن احمد لاباس به وقال الجوز جانی عن احمد مستقیم الحدیث وقال المیمونی عن احمد مقارب الحدیث وقال عثمان الدارمی وصالح ابن محمد ثقہ صدوق وقال یعقوب ابن شیبہ صدوق صالح الحدیث وذكره ابن حبان فی الثقات وقال العجلی جائز الحدیث“

(تہذیب الحدیث ج ۳ ص ۳۳۹، ۳۵۰، میزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۵۳)

امام احمد کے نزدیک متعدد اقوال سے یہ راوی ثقہ مستقیم الحدیث مقارب الحدیث اور اس کی روایت لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور کہا عثمان داری و صالح بن محمد نے ثقہ صدوق اور کہا یعقوب بن شیبہ نے صدوق صالح الحدیث اور ذکر کیا ابن حبان نے ثقہ راویوں میں اور عجلی نے کہا جائز الحدیث۔

اسی طرح امام بخاری نے بھی اس راوی کے متعلق لکھا ہے کہ جو روایت یہ راوی اہل بصرہ سے لے وہ صحیح ہوتی ہے۔ (تہذیب الحدیث ج ۳ ص ۳۵۰)

مرزائی پاکٹ بک والے نے اس طریق کے باقی راویوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ وہ انتہائی درجہ کے ثقہ ہیں۔

اسی طرح دوسرے طریق سے بھی صرف دو راوی لکھے ہیں۔ باقیوں کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ باقی راوی بھی اعلیٰ درجہ کے پائیدار راوی ہیں۔

(یہ عاجز طوالت مضمون کے خوف سے مجبور ہے۔ ورنہ تمام راویوں کا مفصل ذکر کر دیتا۔ مضمون بہت زیادہ ہے اور گنجائش کم ہے۔ مولف)

اب سنئے دوسرے طریق کے دو راوی:

عبداللہ بن دینار مولیٰ عمر: ”قال صالح بن احمد عن ابیہ ثقہ مستقیم الحدیث وقال ابن معین وابوزرعة وابوحاتم ومحمد بن سعد والنسائی ثقہ زاد بن سعد کثیر الحدیث وقال العجلی ثقہ وذكره ابن حبان فی الثقات“

(تہذیب الحدیث ج ۵ ص ۲۰۲)

کہا صالح بن احمد نے سنا اس نے اپنے باپ سے کہ ثقہ اور سیدھا تھا حدیث بیان کرنے میں اور کہا ابن معین و ابو زرعد و ابو حاتم و محمد بن سعد اور نسائی اور عجمی نے کہ ثقہ تھا اور ابن سعد نے کہا کہ کثیر الحدیث بھی تھا اور ذکر کیا ابن حبان نے ثقہ راویوں میں۔

ابوصالح الخوزی: ”وقال ابو زرعة لا باس به“ (تہذیب التہذیب ج ۱۲ ص ۱۳۱) ابو زرعد نے کہا کہ اس راوی کی حدیث میں کچھ خطر نہیں۔

جاننا چاہئے کہ اس راوی کو صرف ابن معین نے ضعیف لکھا ہے۔ حالانکہ امام جلال الدین سیوطی جو کہ بقول مرزائی پاکٹ بک ص ۶۳۵ نویں صدی کے مجدد تھے نے ابن معین کے متعلق لکھا ہے کہ: ”ابن معین کذاب“ (موضوعات سیوطی مطبوعہ مصر، کتاب التوحید ج ۱۱ ص ۱۱) یعنی ابن معین بہت جھوٹا تھا۔ پس ابن معین کی بیان کردہ تصنیف ناقابل اعتبار ثابت ہوئی۔

۸..... ”یا ایہا الناس انه لانی بعدی ولا امة بعدکم..... وانتم تسئلون عنی (مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۱)“ ﴿آحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع میں قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نفوس کے سامنے فرمایا اے لوگو یاد رکھو کہ اب میری بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہ ہوگی۔ کیونکہ تم آخری امت ہو اور تم کو قیامت کے دن صرف میری نسبت ہی سوال ہوگا۔﴾

۹..... ”انه ليس يبقی بعدی من النبوة الا الرویا الصالحة (نسائی، ابو داؤد)“ ﴿حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد سوائے نیک خواب کے نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔﴾

۱۰..... ”لانبوة بعدی (مسلم ج ۲ ص ۲۷۵)“ ﴿یعنی میرے بعد نبوت ہی ختم ہے۔﴾

مندرجہ بالا دونوں احادیث سے تشریحی، غیر تشریحی اور مرزائیوں کے فرضی ڈھکوسلے یعنی ظلی بروزی وغیرہ کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

عذر

اس لانبوة بعدی والی روایت کے چار راویوں میں سے تین ضعیف ہیں۔ (۱) قتیبہ۔ (۲) بکیر بن مسار الخ ہری۔ (۳) حاتم بن اسماعیل المدنی۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۵۳۷)

..... ۱ ..... تميمه بن سعيد: "قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة زاد النسائي صدوق قال ابن حبان في الثقات" (تهذيب التهذيب ج ۸ ص ۳۶۰، ۳۶۱) ابن معين اور ابو حاتم نے کہا کہ ثقہ تھا امام نسائی نے کہا کہ ثقہ اور صدوق یعنی سچا تھا اور ابن حبان نے بھی اس کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔

..... ۲ ..... بکیر بن مسمار الزہری: "قال العجلي ثقة وقال النسائي ليس به باس وقال ابن عدی مستقيم الحديث وقال ابن حبان في الثقات"

(تهذيب التهذيب ج ۱ ص ۳۹۵) عجلي نے کہا ثقہ۔ امام نسائی نے کہا کہ اس کی روایت لینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ ابن عدی نے کہا مستقیم تھا اور ابن حبان نے ثقہ راویوں میں شمار کیا تھا۔

..... ۳ ..... حاتم بن اسماعيل المدني: "قال ابن سعد ثقة مامونا كثير الحديث قال ابن حبان ثقة وكذا عنه البخاري ايضا في التاريخ الكبير في الاوسط ايضا وقال ابن المديني روى عن ابيه احاديث مراسل اسندها" (تهذيب التهذيب ج ۲ ص ۱۲۸)

ابن سعد نے کہا کہ ثقہ مامون اور کثیر الحدیث کہا ابن حبان نے ثقہ اور اسی طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں ذکر کیا اور عجلي نے کہا کہ ثقہ تھا اور ابن مدینی (استاد امام بخاری) نے کہا یہ اپنے باپ سے مرسل احادیث سند کے ساتھ لیا کرتا تھا۔  
لفظ حاتم کے معنی، کتب تقاسیر سے

..... ۱ ..... "وخاتم النبيين فهو اخرهم الذي ختمهم" پس وہ سب سے آخری نبی ہے۔ جس نے سب نبیوں کو ختم کر دیا۔ (الجواہر فی تفسیر القرآن ج ۱۶ ص ۲۹)

..... ۲ ..... "وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليهم فلا تفتح لاحد بعده الى قيام الساعة" آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ پس نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس لئے نبوت کا دروازہ آپ کے بعد قیامت تک کسی پر نہیں کھولا جائے گا۔ (تفسیر ابن جریر ج ۲۱)

..... ۳ ..... "وآخرهم الذي ختمهم" اور آپ سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ نے سب پیغمبروں کو ختم کر دیا ہے۔ (تفسیر بیضاوی ج ۲)

## کتب لغت سے

.....۱ ”وخاتم النبیین لانه ختم النبوة اے تمہا بمجیئہ“

(مفردات راغب ص ۱۳۲)

.....۲ ”خاتمہم وخاتمہم آخرہم“  
 ”خاتم وخاتم“ کے معنی آخر ہیں۔

.....۳ ”ومن اسمائه عنیہ السلام الخاتم والخاتم وهو الذی

ختم النبوة بمجیئہ“ اور آپ کے ناموں میں خاتم وخاتم اور وہ ہے جس نے آ کر نبوت کو ختم کر دیا۔

(تاج العروس)

## مرزائی کتب سے

.....۱ ”محمد ﷺ کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۲۳، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۰)

.....۲ ”بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام عیسیٰ ہے۔“

.....۳ ”میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی

پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔“

(تریاق القلوب ص ۳۷۹، خزائن ج ۱۵ ص ۴۷۹)

.....۴ ”اے لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنو اور

خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔“

.....۵ ”آنحضرت ﷺ نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا

اور حدیث ”لا نبی بعدی“ ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے۔ اپنی آیت کریمہ ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ سے بھی

اس بات کی تصدیق کرتا تھا۔ فی الحقیقت ہمارے نبی ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔“

(کتاب البریہ ص ۱۸۳ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۲۱۷)

عذر

”یقتلون النبیین“ میں بعض انبیاء کیوں مراد ہیں۔

## الجواب

اس میں الفل عہد خارجی کا ہے۔ واقعات سے بھی ثابت ہے کہ سب انبیاء قتل نہیں ہوئے بلکہ بعض ہوئے۔

## مرزائی دلائل اجرائے نبوت کی تردید

## پہلی تحریف

”ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً (نساء)“  
مرزائی ترجمہ: جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی پس وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پیروی سے ایک انسان صالحیت کے مقام سے ترقی کر کے نبوت کے مقام تک پہنچتا ہے۔

## الجواب

کتب تفسیر میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبانؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ قیامت کے دن ہم آپ سے کیسے ملیں گے۔ آپ کا درجہ تو ہم سے زیادہ ہے۔ آپ کسی اور پر کے درجے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔  
اگر کوئی کہے کہ زید فلاں مرزائی کے ساتھ کراچی گیا تو کیا کراچی کا سفر ایک ساتھ کرنے سے زید مرزائی بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ مع بھتی من کسی مرزائی لغایت میں ہوگا۔ ہم مرزائیوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی درجات ملنے کا وعدہ ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں آیا۔ بلکہ صدیق تک ہی معاملہ رک گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

۱..... ”والذين آمنوا وعملوا الصلحت لند خلنهم في الصلحين (عنكبوت)“ ﴿جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے وہ صالحین میں داخل کئے جائیں گے۔﴾

۲..... ”ان المصدقين والمصدقات واقترضوا الله قرضاً حسناً يضعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم (حديد)“ ﴿بیشک جو مرد و عورتیں نیرات کرنے والے ہیں۔ وہ گویا قرض دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض میں

زیادہ اجر کریم دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے لئے بڑا اجر اور نور ہے۔ ﴿

حدیث شریف ہے۔ ”التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء (ترمذی ج ۱ ص ۱۴۵)“ ﴿سچا اور دیانت دار تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ ہوگا۔ ﴿

مرزائی بتلائیں کہ ساڑھے تیرہ سو برس سے کتنے لوگ تجارت کرنے سے نبی بن گئے۔

عذر

یہ روایت ضعیف ہے۔ کیونکہ اس روایت کے ایک راوی قبیصہ بن عقبہ کوفی کے متعلق یحییٰ ابن معین کا قول ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ سوائے اس روایت کے جو سفیان ثوری کی ہو۔ احمد کے نزدیک بھی یہ راوی کثیر الغلط ہے۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۳۶۱، بحوالہ میزان الاعتدال)

الجواب

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے اور حسن صحیح ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ حدیث دو طریق سے مروی ہے۔ ایک طریق میں ہناد، قبیصہ، سفیان ثوری، ابو حمزہ، حسن اور ابی سعید راوی ہیں۔ دوسرے طریق میں سوید، عبداللہ بن مبارک، سفیان ثوری، ابی حمزہ راوی ہیں۔

دوسرے طریق کے راویوں کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے؟

تمہاری پیش کردہ دلیل سے اس حدیث کی ساری ذمہ داری سفیان ثوری پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا پہلے ہم سفیان ثوری کے متعلق یحییٰ ابن معین و دیگر محدثین کی آراء پیش کرتے ہیں۔

”قال شعبہ وابن عیینة وابوعاصم وابن معین وغير واحد من العلماء سفیان امیر المؤمنین۔ فی الحدیث وقال الدوری رأیت یحیی ابن معین لایقدم علی سفیان ففتح زمانہ احداً فی الفقه والحدیث والزهد وکل شیء وقال ابن حبان کل من سادات الناس فقہا اتقاناً“

(تہذیب الحدیث ج ۳ ص ۱۱۳، الاکمال فی اسماء الرجال)

کہا شعبہ وابن عیینہ وابوعاصم اور ابن معین وغیرہ نے کہ سفیان علماء میں واحد اور حدیث میں امیر المؤمنین تھا اور دوری نے کہا۔ سنا میں نے یحییٰ ابن معین سے کہ سفیان ثوری اپنے زمانہ میں فقہ اور حدیث اور زہد وغیرہ میں یکتائے زمانہ تھا اور ابن حبان نے کہا کہ سادات الناس اور فقیہ تھا۔

قیصہ: ”صدوق جلیل وسئل ابو زرعة عن ابی نعیم وقبیصة فقال قبیصة افضل الرجلین وقال ابو حاتم لم ارمن المحدثین من تحفظ ویاتی بالحديث علی لفظه لا یغیره سوى قبیصة . قال اسحاق ابن یسار مارأیت شیخا احفظ من قبیصة وقال النسائی لیس به باس“

(میزان اعتدال ج ۲ ص ۳۳۳، ۳۳۵)

قیصہ بن عقبہ سچا جلیل تھا اور سوال کیا گیا ابو زرعة سے ابی نعیم اور قبیصہ کے متعلق تو جواب دیا کہ قبیصہ دونوں میں سے افضل تھا اور کہا ابو حاتم نے کہ نہیں دیکھا میں نے محدثین میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ محفوظ رکھے اور لائے حدیث کو لفظ بہ لفظ کہ جس میں تغیر نہ ہو۔ سوائے قبیصہ کے اور کہا اسحاق بن یسار نے کہ نہیں دیکھا میں نے قبیصہ سے زیادہ حافظ حدیث اور امام نسائی نے کہا کہ اس کی روایت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

دوسری تحریف

”یا بنی آدم اما یتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (اعراف)“

مرزائی ترجمہ: اے بنی آدم البتہ ضرور آویں گے تمہارے پاس رسول..... یہ آیت آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئی۔ اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی آویں گے۔

الجواب

غلط ترجمہ کرنے میں تو مرزائیوں نے یہودیوں کے بھی کان کتر لئے ہیں۔ صحیح ترجمہ یہ ہے۔ ”اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے میری طرف سے رسول آویں اور میری نشانیاں بیان کریں۔ پس جو شخص تقویٰ اختیار کرے تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جب مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے تو ”یا ایہا الذین امنوا“ آتا ہے۔ مگر اس آیت میں بنی آدم کہہ کر آدم کی اولین اولاد کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں یہ آیت آئی وہاں حضرت آدم اور شیطان کا قصہ ملے گا۔ ”اما یتینکم رسل“ میں اگر دوامی طور پر رسولوں کا آنا مراد ہے تو پھر ”اما یتینکم منی ہدی“ میں دوامی طور پر ہدایتوں کا وعدہ ماننا پڑے گا۔

عذر

”یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف)“ ﴿اے اولاد آدم ہر مسجد (یا نماز) میں اپنی زینت قائم رکھو۔﴾  
 ار آیت میں مسجد کا لفظ آ گیا ہے اور یہ صرف امت محمدی کے عبادت گاہ کے لئے ہے۔

الجواب

مسجد کا لفظ ام سابقہ کے لئے بھی آیا ہے۔ اصحاب کہف کے بعد جھکڑا ہوا کہ ان کی یادگار میں کیا بنایا جائے تو فریق غالب نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد بنائی جائے۔ دیکھو سورہ کہف۔

الترامی جواب

”رسول کا لفظ عام ہے۔ جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۲۲، خزائن ج ۵ ص ۳۲۲)

تیسری تحریف

”یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً (مؤمنون)“ ﴿اے رسولو! پاک کھانے کھاؤ اور نیک کام کرو۔﴾ یہ جملہ اسمیہ ہے جو حال اور مستقبل پر ولالت کرتا ہے اور لفظ رسل بصیغہ جمع کم از کم ایک سے زیادہ رسولوں کو چاہتا ہے۔ آنحضرت ﷺ تو اکیلے رسول تھے۔ آپ کے زمانہ میں بھی کوئی اور رسول نہ تھا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد رسول آئیں گے۔ ورنہ کیا خدا تعالیٰ وفات یافتہ رسولوں کو حکم دے رہا ہے کہ اٹھو اور پاک کھانے کھاؤ اور نیک کام کرو؟

الجواب

اس آیت میں بھی یہودیانہ تحریف کی ہے۔ قرآن شریف کھول کر سورہ مؤمنون کے دوسرے رکوع سے اس آیت تک دیکھا جائے تو ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں سابقہ نبیوں کا ذکر ہے اور سب کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔

موضوع روایات کا جواب

..... ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً (ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۳۷، ابن عساکر ج ۱ ص ۲۹۲)“ ﴿آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔﴾  
 (مرزائی پاکٹ بک ص ۳۸۰-۳۸۵-۳۸۵، ۱۹۳۵ء)



## الجواب

اول تو ابن ماجہ کے حاشیہ پر ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں۔ ہذا الحدیث باطل کہ یہ حدیث باطل ہے۔

(موضوعات کبیر ملاحظی قاری ص ۵۸)

آگے چل کر حافظ ابن حجر (جو کہ آٹھویں صدی کے مجدد تھے مرزائی پاکٹ بک ص ۶۳۵) نے اسی صفحہ پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

اس حدیث کا ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان عسی سخت ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو:

”قال احمد ويحيى وابوداؤد ضعيف وقال البخارى سكتوا عنه وقال الترمذى منكر الحديث وقال النسائى متروك الحديث“

(تہذیب الجہد ج ۱ ص ۱۳۳، ۱۳۵، و میزان الاعتدال مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۲۳)

کہا احمد اور یحییٰ وابوداؤد نے ضعیف تھا کہ امام بخاری نے ”سکتوا عنه“ ترمذی نے کہا منکر الحدیث نسائی نے کہا متروک الحدیث۔

یہ روایب ابن عساکر میں ہونے کے باعث ہی کمزور ہے۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۱۳۴)

۲..... ”ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی“

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۳۸)

## الجواب

اس کے آگے ہی لکھا ہے کہ ”هذا الحديث احد ما انكر“ یعنی یہ حدیث جعلی ہے۔ جس پر انکار کیا گیا ہے۔

حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۱..... ”وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما

قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم

به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله اليه وكان الله

عزیزاً حکیماً . وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته . ويوم القيمة

یکون علیہم شہیداً (نساء) ﴿۱۰۷﴾ (یہودی) کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ بن مریم رسول

اللہ کو۔ حالانکہ نہ ہی قتل کیا اس کو اور نہ ہی سولی پر چڑھایا اس کو۔ لیکن شبہ ڈالا گیا واسطے ان کے اور

تحقیق جو لوگ کہ اختلاف کیا انہوں نے سچ اس کے البتہ سچ شک کے ہیں۔ ان کو اس بات کے

متعلق کچھ علم نہیں۔ مگر صرف گمان ہی کرتے ہیں اور یقینی بات ہے کہ اسے نہیں مارا بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنی اور وہ ہے غالب حکمت والا اور نہیں کوئی اہل کتاب سے البتہ ایمان لائے گا۔ عیسیٰ پر (جب کہ وہ دوبارہ نازل ہوگا) عیسیٰ کی موت سے پہلے اور قیامت کے روز وہ ان لوگوں کا (جو ایمان لائے تھے) گواہ ہوگا۔ ﴿

مشکوٰۃ شریف باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں بخاری مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد ثم یقول ابو ہریرة فاقراء وان شئتم وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، باب نزول عیسیٰ)“ ﴿ رسول خدا نے فرمایا قسم بخدا قریب ہے کہ ضرور ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں نازل ہوگا۔ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا اور ٹیکس معاف کرے گا اور مال کو اس قدر عام کر دے گا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد راوی حدیث ابو ہریرہ نے مجمع صحابہ میں کہا نزول مسیح کی تصدیق کے لئے آیت ”وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ“ پڑھو۔ ﴿

اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن حجر نے (جن کو مرزائی پاکٹ بک والے نے (ص ۶۳۵) میں آٹھویں صدی کا مجدد لکھا ہے) فرمایا: ”ولا حمد من وجه اخر عن ابی ہریرة اقراء وہ من رسول اللہ وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته (فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۱۳ ص ۲۸۱)“ ﴿ ابو ہریرہ نے کہا کہ اس آیت کی یہ تفسیر خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے کہ عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان پر اہل کتاب ایمان لے آویں گے جب وہ نازل ہوں گے۔ ﴿

آنحضرت ﷺ قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور مرزا قادیانی راقم ہیں کہ: ”نبی کا کسی بات کو قسم کھا کر بیان کرنا اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی تاویل نہ کی جائے۔ نہ استثناء بلکہ اس کو ظاہر پر محمول کیا جاوے۔ ورنہ قسم سے فائدہ ہی کیا۔“

(حملۃ البشری ص ۱۳، جزآن ج ۷ ص ۱۹۲)

عذر

کئی اہل کتاب نزول مسیح سے قبل فوت ہو چکے ہیں اور کئی نزول مسیح کے بعد مقتول ہوں گے۔ کیا سب کو ایمان یافتہ تسلیم کر لیا جاوے۔

## الجواب

..... اس آیت میں صرف ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو نزولِ مسیح کے بعد ان پر ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ الفاظ ”لیؤمنن بہ“ سے ظاہر ہے۔

.....۲ صیغہ مضارع مؤکد بہ نون ثقیلہ ہے جو مضارع میں تاکید مع خصوصیت زمانہ مستقبل کرتا ہے۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۵۰۲، ۱۹۳۲ء)

”وان من اهل الكتاب احد الا لیؤمنن بعیسیٰ قبل موت عیسیٰ وهم اهل الكتاب الذین یكونون فی زمانه فتكون ملة واحدة وهی ملة الاسلام وبهذا جزم ابن عباس فیما رواه ابن جریر من طریق سعید ابن جبیر عنه باسناد صحیح“ (ارشاد الساری شرح صحیح بخاری)

یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام لائیں گے۔

## اعتراض

ابن جریر میں سعید بن جبیر کے طریق سے صرف دو روایات درج ہیں۔ پہلی روایت میں محمد ابن بشار ضعیف ہے۔ کیونکہ (تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۸۱) میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن سيار کہتے ہیں کہ عمر بن علی نے حلف اٹھا کر کہا کہ محمد بن بشار بنداری کی روایت میں جھوٹ بولتا تھا۔ اسی طرح علی بن المدینی نے محمد بشار کی ابن مہدی والی روایت کو غلط کہا۔ یحییٰ اور واریری بھی اسے پسند نہ کرتے تھے۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۳۹۶، ۳۹۷، ۱۹۳۵ء)

## الجواب

”کسی کے محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں راوی ضعیف ہے اور حقیقت وہ راوی ناقابل اعتبار نہیں ہو جاتا۔ جب تک اس کی تضعیف کو کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ کیونکہ اس امر میں اختلاف یسر موجود ہے۔“ (مرزائی پاکٹ بک ص ۳۸۲، ۱۹۳۵ء)

محمد ابن بشار البصری بنداری کی تضعیف میں مرزائیوں نے انتہائی دھوکہ سے کام لیا ہے۔ یہ راوی تو ایسا جلیل القدر ہے کہ ساری کتب صحاح ستہ اس کی احادیث سے پر ہیں۔ چنانچہ (تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۷۲، ۷۳) میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس راوی سے دو صد

۱ ”ابن جریر جو نہایت معتبر اور آئمہ حدیث میں سے ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۵۰ حاشیہ، خزائن ج ۲۳ ص ۲۶۱)

پانچ احادیث نقل کیں۔ امام مسلم نے چار صد ساٹھ احادیث نقل کیں۔ امام ابو داؤد نے تو پچاس ہزار احادیث اس سے لی ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو اسے کوئی نہ کوئی ناپسند کرنے والا بھی ضرور ہوگا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ناپسند کرنے والا کس پوزیشن کا ہے اور بلند پایہ محدثین کی غالب اکثریت کا فیصلہ کیا ہے؟ راویوں کے پرکھنے کا یہی ایک آسان طریقہ ہے۔

..... محمد ابن بشار البصری بندار کے متعلق عمر بن علی کی قسم باطل ہونے کے دو سبب ہیں۔ اول یہ کہ عمر بن علی بن عطاء البصری کے متعلق محدثین نے لکھا ہے۔ ”یدلس تدریساً شدیداً“ (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۶۶، تہذیب المعجم ج ۷ ص ۳۸۶) اب ظاہر ہے کہ جو راوی از حدیث تدریس کرتا ہو۔ اس کی قسم پر کیا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے۔ عبد اللہ بن سیار نے کہا کہ عمر بن علی نے قسم کھا کر کہا کہ بندار یحییٰ کی روایت میں جھوٹ بولتا تھا۔ اس کے آگے ساتھ ہی اسی صفحہ پر لکھا ہے۔ ”قال ابن سیار بندار وابو موسیٰ ثقتان“ (تہذیب المعجم ج ۷ ص ۷۱)

ابن سیار نے کہا کہ بندار اور ابو موسیٰ دونوں ثقہ تھے۔

گویا عمر بن علی کے حلف کی تردید خود عبد اللہ بن محمد بن سیار ہی نے کر دی۔

ب..... ابن مدینی نے ہرگز بندار کی کسی روایت پر اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے اپنے باپ کا قول نقل کیا ہے جو کہ محدثین صحاح ستہ کے نزدیک بے وقعت ہے۔

ج..... ”وقال ابو داؤد لولا سلامة فيه لتركت حديثه وقال الازدي بندار قد كتب عنه الناس وقبلوه وليس قول يحيى والقوارير مما يجرحه وما رأيت احدا ذكره الا بخير وصدق وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد حدثنا امام اهل زمانه وقال ابن حبان في الثقات وقال العجل بصرى ثقة كثير الحديث وقال ابو حاتم صدوق وقال النسائي صالح لا باس به“ (تہذیب المعجم ج ۷ ص ۷۱، ۷۲، میزان الاعتدال مطبوعہ مصر ج ۳ ص ۳۰)

اور امام ابو داؤد نے کہا کہ اگر بندار ثقہ نہ ہوتا تو میں اس کی حدیث نہ لیتا اور ازدی نے کہا کہ بندار سے لوگوں نے حدیث لی اور قبول کی اور یحییٰ اور قواریری کے قول سے اس پر کوئی حرف نہیں آسکتا اور نہیں دیکھا میں نے کسی شخص کو کہ ذکر کرتا ہو اس کا مگر ساتھ خیر اور صدق کے اور کہا ابن خزيمة نے کتاب التوحيد میں کہ بندار اپنے زمانے کا امام تھا اور ذکر کیا ابن حبان نے ثقہ

راویوں میں اور عجلی نے کہا ثقہ و کثیر الحدیث تھا اور کہا ابو حاتم نے کہ سچا تھا اور کہا امام نسائی نے کہ صالح تھا اور اس کی حدیث میں کوئی خطر نہیں ہے۔

عذر

کسر صلیب اور قتل خنزیر کے اگر ظاہری معنی لئے جاویں تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ حضرت مسیح دنیا بھر کے صلیبی نشانوں اور سوروں کو قتل کرتے پھریں گے جو نبی کی شایان شان نہ ہے۔

الجواب

کسر صلیب اور قتل خنزیر کے معنی بھی ظاہری ہی لئے جاویں گے۔ اس قسم کے دو واقعات آ حضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی ہو چکے ہیں۔

..... صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آ حضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو بھیجا کہ جہاں تجھ کو تصویر اور اونچی قبر نظر آئے پس مٹا دے اس کو۔

..... ۲ اسی طرح مشکوٰۃ باب التصاویر میں صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آ حضرت ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے ملنے کا شب گذشتہ کا۔ کہا کہ ہاں لیکن ہم نہیں داخل ہوتے اس گھر میں کہ ہو اس میں کتاب یا تصویر۔ پس صبح کی آ حضرت ﷺ نے ”فامر یقتل الکلاب“ یعنی پھر حکم دیا مار ڈالنے کا کتوں کے۔

اعتراض

قرآن تو کہتا ہے کہ اہل کتاب میں قیامت تک عداوت رہے گی۔ جب وہ سب ایمان لے آئیں گے تو مسیح کے ماننے والے کن کافروں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔

الجواب

عداوت یہود نصوری کے وجود تک ہے جب وہ سب اسلام لاکر مسلمان ہو جاویں گے۔ اس وقت سب عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ: ”لیس بین اثینین عداوة (مشکوٰۃ باب لا تقوم الساعة)“ الیٰ سے مراد قرب قیامت ہے۔ کیونکہ فنا عالم کے غالباً چالیس سال کے بعد قیامت کا دن ہوگا۔ جیسا کہ مشکوٰۃ باب لا تقوم الساعة صحیح مسلم کی روایت آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد بھی پھر گمراہی پھیل جائے گی اور لوگ اپنے پرانے مذہب کی طرف پھر لوٹ جاویں گے۔

عذر

”قبل موتہ“ کی جگہ دوسری قرأت میں ”موتہم“ آیا ہے۔

الجواب

قرآن مجید کو خلفائے راشدین وزید بن ثابت کاتب وحی وغیرہ کے متفقہ فیصلہ کے بعد یکجا جمع کیا گیا ہے۔ پس ”قبل موتہ“ والی قرأت چونکہ درست تھی۔ اس لئے اسے برقرار رکھا گیا اور دوسری کو ترک کر دیا گیا۔

مرزا سیو! اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ عرصہ کے لئے حکومت آ جاوے تو تم سے کچھ بعید نہیں کہ قرآن میں تحریف کرنے سے باز نہ آؤ گے۔

تمہارا یہ بیان اگر کوئی آریہ یا عیسائی پڑھے تو وہ تم کو یہ منوا کر رہے گا کہ قرآن میں بھی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اسی بات پر شیخیاں مارا کرتے ہو کہ آریوں و عیسائیوں کو جو ہم جواب دے سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں دے سکتا۔

عذر

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا کریں گے؟

الجواب

وہی کریں گے جو مرزا قادیانی براہین احمدیہ میں لکھ چکے ہیں کہ: ”جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔“

(براہین احمدیہ ص ۳۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

عذر

”رفع اللہ الیہ“ میں خدا کی طرف اٹھانا مرقوم ہے۔ آسمان کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔

الجواب

خدا کے لئے فوق علوا کثر استعمال ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ وحی کے انتظار کے وقت آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ”قد نری تقلب وجہک فی السماء (بقر)“ یعنی البتہ ہم دیکھتے ہیں تیرا آسمانوں کی طرف منہ کرنا سو ہم تیری حسب خواہش تیرا منہ اسی قبلہ کی طرف پھیریں گے۔

اسی طرح سورہ الملک میں آیا ہے۔ ”ء امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصباً“ کیا تم خدا سے ڈر ہو گئے ہو جو آسمان پر ہے یا تم اس ذات سے خوف نہیں کرتے جو آسمان پر ہے کہ تمہیں زمین دھنسا دے یا تم پر ہواؤں سے پتھراؤ کرے۔

رفع کا استعمال

”فالرفع فی الاحسام حقیقة فی الحركة والانتقال وفی المعانی علی ما یقتضیہ المقام“ (مصباح منیر مصری ج اول ص ۱۷)

یعنی لفظ رفع جسموں کے متعلق حقیقت میں حرکت اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور معانی کے متعلق جیسا موقع و مقام ہو۔

۲..... ”قال ابوہریرۃ لسارق التمر لا رفعنک الی رسول اللہ“

یعنی ابوہریرہؓ نے (شیطان کو) کہا آج تو میں تجھے ضرور بالضرور رسول اللہ کے پاس تیری شکایت کے لئے چلوں گا۔

اگر رفع کے معنی درجہ بلند کرنا ہوں تو شیطان کا بھی درجہ بلند کرنا مقصود تھا؟

۳..... مشکوٰۃ کتاب الایمان میں حضرت ابی بن کعب نے آیت یشاق عام کی تفسیر میں فرمایا کہ جب اولاد آدم کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا اور ان سے عہد لیا اس کے بعد آتا ہے کہ ”ورفع علیہم ادم ینظر الیہم فرای الغنی والفقیر وحسن الصورة ودون ذالک (مشکوٰۃ کتاب الایمان)“ ﴿اور اٹھائے گئے ان پر آدم پس دیکھتے تھے طرف ان کی پھر دیکھا انہوں نے مالدار کو اور فقیر کو اور نیک صورت اور بد صورتوں کو۔﴾

اس حدیث میں بھی صاف طور پر رفع کا لفظ رفع جسمانی میں استعمال ہوا ہے۔ البتہ بعض جگہ درجات کا ذکر ہے۔ وہاں رفع روحانی مراد ہے۔

۲..... ”ولما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومک منه یرصدون وانہ لعلم للساعة فلا تمترن بها (الزخرف)“ ﴿اے نبی جو ہی ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تیری قوم تالیاں بجاتی ہے۔ لا ریب وہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اس میں شک مت کرو۔﴾

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: ”خروج عیسیٰ قبل یوم القیامة (مسند احمد ج ۱ ص ۳۱۷)“ ﴿یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل واپس آویں گے۔﴾

۳..... ”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون“ عن ابى هريرة رضى الله عنه فى قوله قال حين خروج عيسى (ابن جرير ج ۲۵ ص ۵۴) ﴿اللَّهُ وَذَاتُ هَيْبَةٍ﴾ ”جس نے اپنا رسول ہدایت و دین حق کا حامل بنا کر بھیجا تا کہ غالب کر دے۔ دین الہی کو جمع ادیان باطلہ پر۔ اگرچہ مشرک برائیاں۔ اصحابی ابو ہریرہ۔“

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ غلبہ کاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خروج کے وقت ہوگا۔ ﴿﴾ (احمدیہ پاکٹ بک ص ۶۳۲، ۱۹۳۵ء)

اس آیت کی تفسیر میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں یہ پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع اقطار میں پھیل جائے گا۔“

(براہین احمدیہ ص ۳۹۸، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

”اس کتاب (براہین احمدیہ) کا متبلی اور مہتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس انداز اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔“

(براہین احمدیہ ج ۳ ص ۳ آخری، خزائن ج ۱ ص ۶۷۳)

۴..... ”عن عبد الله ابن عمر وقال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابى بكر وعمر (مشكوة باب نزول عيسى فصل ۳)“ ﴿عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جاوے گی ان کے لئے اولاد اور پینتالیس سال ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور میری قبر کے پاس دفن کر دیئے جائیں گے۔ پس انھوں گا میں اور عیسیٰ بن مریم حشر کے روز درمیان ابی بکر و عمر کے۔ ﴿﴾

”جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ: ”یتزوج ویولد له“ یعنی وہ مسیح موعود ہووی کرے گا۔ نیز صاحب اولاد ہوگا۔ اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان



سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔“

(انجام آقلم ص ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷)

عذر

”فی قبری“ کے معنی تو ہوئے کہ میری قبر میں دفن ہوگا۔

الجواب

”ان کو (ابوبکرؓ و عمرؓ) یہ مرتبہ ملا کہ آنحضرت ﷺ سے ایسے ملحق ہو کر دفن کئے گئے۔ گویا

(نزول صحیح ص ۴۷، خزائن ج ۱۸ ص ۴۲۵)

ایک ہی قبر ہے۔“

۵..... ”عن عبداللہ بن مسعود قال لما كان ليلة اسرى برسول

اللہ ﷺ لقی ابراهیم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدءوا بابراهيم

فسالوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سالوا موسى فلم يكن عنده منها علم

فرد الحديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها اما

وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله وفي رواية

لا حمد قال رسول الله لقيت ليلة اسرى بي (ابن ماجه مصرى ج ۲ ص ۲۶۸،

مسند احمد مصرى ج ۱ ص ۳۷۵)“ ﴿حضرت عبداللہ بن مسعود سے کتاب حدیث ابن ماجہ

میں موقوفاً اور مسند احمد میں مرفوعاً روایت ہے۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے وقت

قیامت کا تذکرہ ہوا۔ سب نے اس سے لاعلمی ظاہر کی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال

کیا گیا تو آپ نے کہا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس آپ نے دجال کا ذکر چھیڑا

اور کہا کہ میں نازل ہوں گا اور اسے قتل کروں گا۔﴾

اس حدیث نے مرزائیوں کی نزول والی بحث کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے اور ثابت

کر دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے معراج والی رات جو صحیح ملا تھا وہی نازل ہوگا۔

عذر

یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے حدیث نبوی نہیں ہے۔

اس روایت کا پہلا راوی محمد بن بشار ضعیف ہے۔ اسی طرح اس روایت کا دوسرا راوی

یزید بن ہارون کے متعلق یحییٰ ابن معین کا قول ہے کہ یہ راوی تو حدیث جاننے والوں میں سے تھا

(مرزائی پاکٹ بک ص ۴۲۲، ۴۲۳، ۱۹۳۵ء)

ہی نہیں۔

مسند احمد میں یہ حدیث مرفوع ہے۔ پس اسے حدیث نبوی نہ کہنا جہالت ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث دوسرے طریق سے مروی ہے۔ جس میں یہ دونوں راوی نہیں ہیں۔

محمد ثین کے نزدیک یہ دونوں راوی بھی نہایت بلند پایہ ہیں۔ ملاحظہ ہو:

۱..... محمد ابن بشار البصری بندار: اس راوی کی مفصل بحث پہلے گذر چکی ہے۔

۲..... یزید بن ہارون: یہ تو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ اس راوی کے متعلق

یحییٰ ابن معین نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یزید بن ہارون اصحاب حدیث میں سے نہ تھا۔ بلکہ دوسرے شخص (ابن ابی خیمہ) نے یحییٰ ابن معین کی طرف منسوب کیا۔ جیسا کہ: ”قال وسمعت یحییٰ

ابن معین“ (تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۶۸) کا لفظ بتلا رہا ہے۔

یحییٰ ابن معین نے تو اس راوی کو ثقہ لکھا ہے۔ جیسا کہ ذیل میں آئے گا۔

محمد ثین کے نزدیک اس راوی کا مقام

”قال ابوطالب عن احمد کان حافظ للحديث صحيح الحديث

وقال ابن مديني هو من ثقات وقال ابن معين ثقة وقل العجلي ثقة ثبت في

الحديث وقال ابو حاتم ثقة امام صدوق لا تسئل عن مثله وقال عمر بن عون

عن هشيم ما بالبصريين مثل يزيد وقال الفضل ابن زياد قيل لاحمد يزيد

بن هارون له فقه قال نعم ما كان افطنه واذكاه وافهمه“

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۶۷، ۳۶۸)

کہا ابوطالب نے کہ سنا احمد سے کہ حافظ حدیث تھا اور صحیح تھا حدیث میں۔ کہا ابن

مدینی نے کہ ثقہ راویوں میں سے تھا۔ کہا ابن معین نے ثقہ تھا اور کہا عجمی نے ثقہ اور مضبوط تھا حدیث

میں۔ کہا ابو حاتم نے ثقہ اور سچا امام تھا۔ اس جیسوں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کہا عمر بن عون

نے سنا اس نے ہشیم سے کہ بصریوں میں یزید بن ہارون کی مثل کوئی نہ تھا اور کہا فضل بن زیاد نے

کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ کیا یزید بن ہارون فقیہ تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں اور نہیں تھا اس جیسا

کوئی سمجھ دار ذکی اور فہیم۔

تردید دلائل وفات صحیح

۱..... ”وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل“ محمد ایک

رسول ہیں۔ ان سے پہلے کے رسول گزر گئے فوت ہو گئے۔ (مرزائی پاکٹ بک ص ۳۳۵)

الجواب

صحیح ترجمہ یہ ہے۔ ”محمد ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔“

(جنگ مقدس تقریر اول ص ۷، خزائن ج ۶ ص ۸۹)

۲..... ”وکننت علیہم شہیدا ما، مت فیہم فلما توفیتنی کنت انت

الرقیب علیہم وانت علی کل شئ شہید (مائدہ)“ ﴿اور جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران تھا۔ جب تو نے مجھ کو موت دے دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔﴾

(مرزائی پاکٹ بک ص ۳۲۵، ۱۹۳۵ء)

الجواب

اگر تو فی بمعنی موت بھی لیا جائے تو بھی موت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ سوال جواب قیامت کو ہوں گے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل ضرور فوت ہو جاویں گے۔

آیت شریف میں مادمت فہم آیا ہے۔ یعنی جب تک میں اپنی قوم میں رہا۔ (اس میں دونوں زمانہ آجاتے ہیں ایک رفع سے قبل اور دوسرا نزول کے بعد) تب تک ان کا نگران رہا۔ لیکن جب میں ان سے جدا ہوا تو پھر تو ہی بہتر جانتا رہا۔

اس آیت کو بھلاؤ فوات مسیح سے کیا واسطہ۔

۳..... ”اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک“ اے عیسیٰ میں تجھے موت

دوں گا۔

الجواب

اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چار وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئے تھے۔ (۱) موت۔ (۲) رفع۔ (۳) تطہیر۔ (۴) غلبہ قبضین۔

اب تک تین وعدے تو پورے ہو گئے۔ البتہ وعدہ موت باقی ہے اور یہ وعدہ بموجب حدیث مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ اس طرح پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ زمین پر اتریں گے۔ شادی کریں گے اولاد ہوگی۔ ۳۵ سال قیام کریں گے۔ ثم یموت یعنی پھر وفات پائیں گے۔

عذر

آیت میں تو پہلے وعدہ موت ہے۔

## الجواب

قرآن شریف میں ہے کہ: ”واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین“ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔

اب تم جیسا کوئی عقل مند جب زکوٰۃ دینے لگے تو پہلے نماز پڑھے اور پھر زکوٰۃ دینے کے بعد رکوع کرے۔ حالانکہ آیت کا مطلب یہ نہیں۔ خود مرزا قادیانی مانتے ہیں۔ ”یہ ضروری نہیں کہ واؤ کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا لحاظ واجب ہو۔“ (تریاق القلوب ص ۳۵۳، خزائن ج ۱۵ ص ۲۵۳)

۳..... ”انه لم یکن نبی الاعاش نصف الذی قبله واخبرنی ان عیسیٰ بن مریم عاش عشرین ومائة وانى لا ارانى الا ذاهبا على رأس الستین (کنز العمال ج ۶ ص ۱۲۰)“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو نبی دنیا میں بھیجا گیا وہ اپنے سے پہلے والے کی نصف عمر پاتا رہا۔ تحقیق عیسیٰ بن مریم ایک سو بیس سال زندہ رہا اور میں ساٹھ سال میں کوچ کر جاؤں گا۔

## الجواب

۱..... اگر حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو مرزا قادیانی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث کے بیان کردہ اصول کے مطابق مرزا قادیانی کو آنحضرت ﷺ کی نصف عمر یعنی تیس سال میں وفات پانی چاہئے تھی۔ مگر وہ تو قریباً ستر سال کے ہو کر فوت ہوئے۔ لہذا مرزائی خود ہی فیصلہ کر لیں۔

۲..... اس حدیث کا ایک راوی عبد اللہ بن لہیعہ ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو:

”قال البخاری عن الحمیدی کان یحییٰ بن سعید لا یراہ شیئاً وقال ابن المدینی عن ابن مہدی لا احمل عنه قليلاً ولا كثيراً وقال عبد الکریم بن عبدالرحمن النسائی عن ابيه ليس بثقة“

(تہذیب المعجم ج ۵ ص ۳۷۲، موضوعات سیوطی مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۱۹۵، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۱۳)

امام بخاری نے حمیدی سے سنا کہ یحییٰ بن سعید اسے ثقہ نہیں جانتے تھے اور ابن مدینی کہتے ہیں کہ ابن مہدی نے کہا کہ اس سے تھوڑا لونہ زیادہ اور عبد الکریم بن عبدالرحمن نسائی کے باپ نے کہا کہ یہ راوی ثقہ نہ تھا۔

ختم شد!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَنْ آتَىٰ مِنْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَهُوَ لِغَدْوٍ مِّنْهُ  
مَنْ آتَىٰ مِنْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَهُوَ لِغَدْوٍ مِّنْهُ

# جوابِ عالی (آئینہ صداقت)

(جناب قاضی اشرف حسین رحمانی<sup>رحم</sup>)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی محمد واله واصحابہ اجمعین!

عزیزم بابو محمد محسن ہدیکم اللہ۔ السلام علیکم!

تمہارا لفافہ پہنچا۔ میں جو کچھ جواب تمہارے خط کا لکھ رہا ہوں اسے بغور پڑھو اور میرے پہلے خط کو بھی اچھی طرح پھر پڑھو۔ میں نے سمجھا تھا کہ میرا پہلا خط تمہارے خیالات کی تبدیلی کے لئے کافی ہوگا۔ مگر تمہارے خط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری سمجھ الٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عنایت کرے اور راہ راست نصیب فرمائے۔ آمین!

جس روز تمہارا خط آیا تھا اس کے کئی روز کے بعد مجھ کو معلوم ہوا کہ تم سوپول آئے تھے اور چار پانچ روز تک سوپول میں مقیم رہے۔ مگر افسوس کہ تم ہم سے نہ ملے۔ اگر ملتے تو پھر اس خط کے لکھنے کی شاید مجھ کو حاجت نہ ہوتی۔ جائے قیام سے تمہارے میرا قیام گاہ صرف ایک دو بیگمہ کا فصل ہے۔ بجز اس کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مضمون خط عزیز کا نہیں تھا کسی دوسرے احمدی کا تھا۔ جس نے تم کو بہکایا ہے۔ اگر مجھ کو تمہارے آنے کی خبر پہلے سے ہوتی تو میں خود تم سے مل کر تمہاری تشفی کر دیتا۔

سنو اور خوب غور سے سنو! مرزا قادیانی نہ نبی تھے نہ مامور من اللہ نہ مسیح موعود اور نہ کرشن جی رودر گوپال۔ بلکہ مطابق اپنے اقرار کے جھوٹے، مفسد و جال، کذاب۔ جیسا کہ ان کے قول سے مفہوم ہوتا ہے۔ ایسے جھوٹے دعویٰ نبوت کرنے والے کے جال پھندے سے نکلنے کی جلد کوشش کرو۔ اپنے ایمان کے دشمن مت بنو۔ واضح ہو کہ قیامت کے دن جس روز اللہ جل شانہ عدالت فرمائے گا اور وہ دن ایسا سخت ہوگا جس کے شان میں ”یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وایبہ وصاحبته وبنیہ“ اس میں بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور بیٹا اپنے ماں باپ سے اور شوہر اپنی بیوی سے اور ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ اس خیال سے کہ اس کی بلا میرے اوپر نہ آجائے۔ وغیرہ وغیرہ آیا ہے۔ تمہارے بہکانے والے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ بلکہ خود جتلائے عذاب ہوں گے اور تمہارے گروہ کے بہکانے والے مرزا قادیانی بھی یہ کہہ کر اس روز تم لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں گے کہ ہم نے بار بار کہہ دیا تھا کہ اگر میری فلاں فلاں پیش گوئی پوری نہ ہو تو میں ہر بد سے بدتر اور جھوٹے سے جھوٹا، مفسد، جال، کذاب ہوں۔

۱۔ کرشن جی رودر گوپال ہونے کا الہام البدی، ۲۹ اکتوبر، ۸ نومبر ۱۹۰۳ء میں درج

ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (البشری ص ۵۶)

سو وہ سب پیش گوئیاں جس کے بارے میں میں نے تحدی کے ساتھ بیان کیا تھا۔ سب کی سب بلاشک و شبہ غلط ہو گئیں۔ اس پر بھی ان لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا اور مجھ کو نبی و رسول مانتے رہے۔ اس کے مجرم یہ لوگ خود ہیں۔ مرزا قادیانی کے اس جواب پر کف افسوس ملو گے اور پچھتاؤ گے۔ مگر اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم کر دی اور خود حضور انور ﷺ نے صاف فرما دیا کہ میرے بعد میری امت میں جھوٹے، دجال، کذاب، دعویٰ نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اب یہ تو بتلاؤ کہ اس فرمان خدا اور رسول کے بعد کیا صالح بن ظریف محمد بن تو مرت، ابو منصور عیسیٰ، حسن بن صباح، ابو عبد اللہ مہدی، مرزا غلام احمد قادیانی ۱ وغیرہ وغیرہ کے دعویٰ نبوت و مہدویت نے ثابت نہیں کر دیا کہ یہ لوگ جھوٹے دجال کذاب تھے؟ بیشک ان لوگوں کے دعویٰ نبوت کرنے سے فرمان حضور انور ﷺ کا سچا ہوا اور یہ لوگ مطابق احادیث صحیحہ کے کذاب ثابت ہوئے۔ افسوس صد ہزار افسوس! ایسی ایسی بین باتوں کو بھی نہیں دیکھتے ہو اور دکھلانے والے کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہو۔

۱۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کا ثبوت ملاحظہ ہو: (۱) قادیان اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (۲) سچا خدا ہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ (دافع البلاء) (۳) میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ (تحریر حقیقت الوہی ص ۶۰) (۴) ہم نے غلام احمد قادیانی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن قوم نے اس سے اعتراض کیا اور کہا کہ جھوٹا ہے۔ (اربعین ص ۱۶، ۱۷) (۵) خدا ہی خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ (اربعین ص ۳۶ تا ۳۷) (۶) مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔ ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ (اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ ﷺ کو اس آیت کا مصداق بتلا رہا ہے اور مرزا قادیانی اس آیت کو اپنے اوپر حصر کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے لوگوں کو دھوکا دے کر اس آیت کا مصداق اپنے کو بتلا کر کس قدر صفائی کے ساتھ دعویٰ نبوت تشریحی و رسالت کیا ہے۔ ان کے ماننے والوں پر تعجب ہے کہ مرزا قادیانی کے اس فریب کو بھی نہیں دیکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو اس آیت کا مصداق سمجھ رہے ہیں) (اعجاز احمدی ص ۷) (۷) مرزا قادیانی نے صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی صاف طور سے دعویٰ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو (اربعین نمبر ۳ ص ۶) میں لکھتے ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

غرض مرزا قادیانی قیامت کے دن صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اس کے مجرم ہم ضرور ہیں۔ مگر جو لوگ مجھ کو بعد حدیث رسول ﷺ و آیت ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ کے پھر بھی نبی مانتے رہے وہ اس کے مجرم خود ہی ہیں۔ مرزا قادیانی تو اپنے ہیچند اتر حرات کو پیش کر کے جماعت مرزائیہ سے علیحدہ ہو جائیں گے اور تم اور تمہارے بہکانے والے خدا کے نزدیک ماخوذ ہوں گے۔

اب اپنے خط کا جواب ملاحظہ کرو

تم قبول کر رہے ہو کہ سلسلہ احمدیہ کے مخالفین خصوصاً ابو احمد صاحب رحمانی اور ان کے حاشیہ نشینوں کے مقابلہ میں مطابق اجازت قرآنی ”جزاء سیئة سیئة مثلها“ کی سختی برتی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل موگیہ نے مرزا قادیانی سے پہلے سختی برتی ہے۔ اب اسرار نہانی والے اس کے بدلے میں سختی برتنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ کیسا صریح جھوٹ ہے۔ حضرات موگیہ کو اس طرف توجہ بھی نہ تھی۔ تمہاری جماعت کی سختیوں اور ہیچادعوؤں نے انہیں متوجہ کیا اور مرزا قادیانی کی کتابوں کو انہوں نے دیکھا۔ علماء کو اور اہل اسلام کو ایسے ایسے سخت الفاظ سے یاد کیا ہے کہ کوئی مہذب شخص ان الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا اور انبیاء اور بزرگوں کی تو بڑی شان ہے۔ حضرات موگیہ نے ہرگز ایسے سخت الفاظ نہیں بولے۔ جیسے مرزا قادیانی نے لکھے ہیں اور اگر کسی نے کچھ لکھا تو بلا شک اس نے ”جزاء سیئة سیئة“ پر عمل کیا۔ اب تمہارا لکھنا صریح ظلم ہے۔ اس کے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم“ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے صاف روشن ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ تھا۔ جس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے سے انکار ہے۔ مگر چونکہ خوف ہوا کہ مسلمان شور مچائیں گے کہ مرزا قادیانی کو آیت قرآنی سے انکار ہے اور رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ اس لئے نہایت صاف و صریح دعویٰ کے بعد کہہ دیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ اے میاں جب مرزا قادیانی کو مستقل نبی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ ہے اور اپنا الہام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین اور آخر النبیین کیسے ہوئے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ ﷺ آخر النبیین بھی ہوں اور مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت بھی سچا ہو۔ جب جناب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں تو مرزا قادیانی ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ بطور نمونہ اس جگہ پر تھوڑا لکھا گیا ہے۔ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶، ۷ دیکھو۔ مرزا قادیانی تو رسول اللہ ﷺ پر بھی اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶



علاوہ میں کہتا ہوں کہ تمہارے کرشن جی روڈر گوپال تو اس کے خلاف ہیں اور سختی برتنے والے کو اپنی جماعت سے خارج کر رہے ہیں۔ ان کی تحریر دیکھو۔ (التوائے جلد ۲۷ دسمبر ۱۸۹۳ء ص ۳) میں تحریر کرتے ہیں۔ ”بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں غصہ کو کھانا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جو انردی ہے۔“

پھر (رپورٹ جلد سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۸۳) میں اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ ”اب خیال فرمائیے یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا کیا منشاء ہے۔ اگر مخالف گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دو۔ بلکہ صبر کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادوم اور شرمندہ ہوگا۔“

اور (ص ۹۹) میں تحریر کرتے ہیں۔ جب کوئی شریر گالی دے تو مؤمن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہی تو وہی کت پن کی مثال صادق آئے گی۔ مطابق قول مرزا قادیانی کے گالی سے اعراض کرنے والا خطابات ذیل کا مستحق ہو سکتا ہے۔

سعادت کے آثار، جو انبرد، صابر، مؤمن اور جو اس کے خلاف عمل کرے اس پر وہی کت پن کی مثال صادق آوے گی۔

اب یہ تو بتلاؤ کہ مرزا قادیانی نے اپنے وقت کے علماء کو خصوصاً مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کو (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۲ تا ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰ تا ۳۳۲) میں لکھا ہے۔ اس زمانہ کے ظالم مولوی خاص کر رئیس الدجال مولوی عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ ”علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرة“ (خدا کی لعنت کی دس لاکھ جوتی ان پر پڑیں) ناپاک اشتہار، اے پلید دجال، تعصب کے غبار نے اندھا کر دیا۔ احمقانہ عذر، ان احمقوں نے، اے نادان، آنکھوں کے اندھے، مولویت کو بدنام کرنے والو، مگر یہ خالی گدھے ہیں۔ جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ گدھا ہے۔ ظالم مولوی، اے اسلام کے عار مولویو، جہالت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ چوکا فرشتا سا تراز مولوی است۔ برین مولویت باید گریست۔ اس احمق، کیا تمہارا نماز جنازہ پڑھو دیا جائے۔ حماقت ظاہر ہوئی۔ تمہارا گندہ جھوٹ۔ مگر تم نے حق کو چھپانے کے لئے جھوٹ کا گواہ کھایا۔ پس اے بد ذات، خمیٹ، دشمن اللہ و رسول، یہودیانہ تحریف، مگر تیرا جھوٹ اے نابکار پکڑا گیا۔ وہ بد ذات خود جھوٹا اور بے ایمان ہے۔ اس نابکار کی تزویر اور تلبیس ہے۔ ان کی عقلوں پر ضلالت کا گرہن لگ گیا۔ تمام دنیا سے بدتر، ایمانی روشنی مسلوب ان کے دلوں پر انکار کی ظلمت کا خسوف و کسوف لگ گیا۔ سب مخالفوں سے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی۔ (یعنی

احمد بیگ کا داماد میرے روبرو مر جائے گا اور اس کی بیوی میرے نکاح میں آ جائے گی) تو اس دن نہایت صفائی سے (مخالفوں کی) ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔

اے عزیز! اب تو وہ باتیں پوری نہ ہوں گی۔ اب کس کے منخوس چہرے بندروں اور سوروں کی طرح ہوئے۔ مرزا قادیانی تو مر گئے۔ قبر میں انہیں کون دیکھے۔ اب تو ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس سخت کلامی کے مصداق وہی ہوں گے۔ نہایت افسوس ہے کہ تم بھی انہیں میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ یہ سخت کلامی تو صرف ان کے ایک رسالہ کے ایک مقام سے دکھائی گئی اور دوسرے مقامات پر بہت کچھ سخت کلامی ہے اور مولوی ثناء اللہ صاحب و مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی وغیرہ وغیرہ کو گالیاں دیتے رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے مرتبہ کے نبی ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان کی شان میں کیا کیا نہ کہا۔ جس کے سننے سے ہر مسلمان کا دل دہل جاتا ہے۔ (ضمیمہ انجام آتھم، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰) یہ کیوں ہوا۔ کیا مرزا قادیانی کو آیات قرآنی و احادیث نیا منیا ہو گئیں تھیں۔ پھر یہ کہ اپنے تحریرات کا بھی خیال نہ رہا۔ بالفرض اگر مولوی عبدالحق صاحب وغیرہ نے مرزا قادیانی کو گالیاں دی تھیں۔ تو مرزا قادیانی کو سعادت کے آثار، جو انمردی کا طریقہ، صبر جس کا نتیجہ دشمنوں کا شرمندہ ہو کر فضیلت کا قائل ہو جانا تھا اور مؤمن کی صفت اختیار کرنا چاہتا تھا نہ کہ گالی کے عوض گالی دے کر وہی کت پن کی مثال اپنے اوپر صادق کرنا لازم تھا۔

پھر مرزا قادیانی (کتاب البریہ ص ۱۵، خزائن ج ۱۳ ص ۱۵) میں تحریر کرتے ہیں۔ اے دوستو! اس اصول کو محکم پکڑو اور ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ طریقہ اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالف کی گالیوں اور سخت گویوں پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت سے چارہ جوئی کرے۔ مگر یہ مناسب نہیں کہ سختی کے مقابل میں سختی کر کے کسی مفسد کو پیدا کریں۔ یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔

مرزا قادیانی ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی و بردباری سے پیش آنے کی بصیحت کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے عقل بڑھے گی۔ گہرے خیال پیدا ہوں گے۔ پھر مرزا قادیانی نے مخالف کی گالیوں پر کیوں نہیں صبر کیا۔ نرمی اور بردباری کو چھوڑ کر ایسی سخت کلامی کیوں کی اور خود جماعت

سے خارج ہونے کے لائق کیوں ہو گئے۔

کتاب البریہ کی تحریر دیکھنے کے بعد اب تم لوگوں کو لازم ہے کہ مطابق قول مرزا قادیانی کے سب سے پہلے مرزا قادیانی کو مولوی عبدالحق صاحب وغیرہ کو گالیاں دینے کے عوض میں اپنی جماعت سے خارج کر دو۔ یا خود ہی ان سے خارج ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ مقولہ کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت ہی صحیح ثابت ہوا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور گالی بکنے والے کو اپنی جماعت سے خارج کرنے ہیں۔ مگر خود ہی جماعت سے خارج ہونے کا کام کر رہے ہیں۔ اس لئے ان کے مریدین سے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مصنف اسرار نہانی نے بھی اسی اثر سے کہ جس درخت کے وہ پھل ہیں۔ ایک خواب کی تعبیر میں اپنی کم علمی اور اس بغض و عداوت کی وجہ سے کہ حضرت مصنف فیصلہ آسانی نے جو مرزا قادیانی پر اہل اعتراضات کئے ہیں کہ جس سے مرزا قادیانی کی نبوت و مسیحیت درہم برہم ہو گئی اور موٹگیر سے قادیان تک جماعت مرزا یہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جو اب سے عاجز ہیں ہر ذی علم مرزا قادیانی سے نفرت کرنے لگا ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ مرزائیوں کے فریب سے بچ گیا ہے۔ ان کی واقعی حالت لوگوں پر روشن ہو گئی ہے۔ سب جان گئے کہ مرزا قادیانی قرآن مجید سے، صحیح حدیث سے اپنے اقرار سے جھوٹے ہیں، اور بالیقین جھوٹے ہیں۔ اصل اعتراضات کے جواب سے عاجز آ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ تاکہ مسلمانوں کو دوسری طرف متوجہ کریں۔ پھر کیا مسیح موعود اور ان کے حواری ایسے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ شرم شرم۔

تم لکھتے ہو کہ جو معیار ولایت و صداقت ابو احمد صاحب رحمانی نے اپنی کتاب ارشاد رحمانی میں تحریر کی ہے وہ بالکل گندہ جھوٹ، فریب اور مکاری ہے اور جو معیار قرآن کریم کے پیش کئے ہیں اس کے رو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بالکل صادق اور راست باز ثابت ہوتے ہیں۔

اے عزیز! حضرت ابو احمد صاحب کی معیار ولایت کی صداقت تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کر رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی بزرگ ہیں۔ جنہیں تمہارے بہکانے والے مجدد اور نبی مان رہے ہیں۔ القا کو دیکھو! مگر تم اپنی سخت نادانی سے قرآن مجید پر سخت حملہ کرتے ہو۔ یعنی یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید ایسے جھوٹے مدعی کی صداقت بیان کرتا ہے جس کا جھوٹا ہونا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ کانوں سے سن رہی ہے۔ جس کی زبان نے جس کی تحریر نے انہیں جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ یہ کیا غضب ہے۔ تمہاری عقل کہاں چلی گئی۔ کیا ایسے جھوٹے کی تصدیق قرآن مجید میں

ہو سکتی ہے۔ توبہ کرو توبہ۔ اب تم اس جگہ پر اپنے مسخ کا ذب کی دروغگوئی اور فریب دہی اور ان کا جھوٹا ہونا ملاحظہ کرو۔ مرزا قادیانی کی گندہ ذنی کو تو اوپر دکھلا چکا ہوں۔ اب اس کے جھوٹ کا نمونہ دیکھو اور خدا کے لئے غور کرو۔

.....۱ مرزا قادیانی (شہادۃ القرآن ص ۷۹، خزائن ج ۶ ص ۳۷۵) میں تحریر کرتے ہیں۔ پیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو انسان کے اختیار میں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ قول سراسر غلط ہے۔ کیونکہ پیشین گوئیاں تو مال، جوار، نجومی، کاہن وغیرہ سب ہی کیا کرتے ہیں۔ ایسی مشترک چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ جل شانہ ہی کے اختیار میں ہے صریح جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کیا مسخ موعود ایسا ہی جھوٹ بول کر لوگوں پر قبضہ حاصل کریں گے۔ مرزا قادیانی کی یہ دروغ بیانی قابل دید ہے۔

.....۲ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ وعید کی پیشین گوئی کا خوف سے ٹل جانا سنت اللہ ہے

.....۳ وعید کی میعاد کا خوف سے ٹل جانے کا ثبوت قرآن وحدیث سے بتانا۔

.....۴ اس کو اجماعی عقیدہ کہنا۔ یہ تینوں دعویٰ متعدد مقامات سے ثابت ہیں۔

مثلاً (انجام آقہم ص ۲۹، ۳۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹، ۲۸) دیکھو۔ حالانکہ یہ تینوں دعویٰ محض غلط ہیں۔ نہ یہ اجماعی عقیدہ ہے اور نہ قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ بلکہ اس کا خلاف ثابت ہے۔ دیکھو فیصلہ آسانی حصہ سوم۔

.....۵ مرزا قادیانی (ازالہ الادہام ص ۷۷، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲) میں تحریر کرتے ہیں۔

علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ

اے برادران دین و شرح متین آپ صاحبان میرے ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مثل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ مسخ موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج میرے منہ سے بنا گیا ہو۔ بلکہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ میں کئی مقامات پر یہ تصریح درج کر دیا ہے۔ جس کو شائع کرنے پر سات سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسخ بن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔

پھر (ازالہ ادہام ص ۸۱، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷) میں تحریر کرتے ہیں۔ میں نے صرف مثل مسخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثل ہونا میرے پر ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار بھی مثل مسخ آجائیں۔

(ازالۃ الاہام) کی تحریر سے روشن ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو صرف مثل مسیح کا دعویٰ تھا۔ جو لوگ مرزا قادیانی کو مسیح موعود خیال کرے وہ مطابق قول مرزا قادیانی کے کم فہم ہیں۔ کیونکہ مسیح موعود تو ایک ہی شخص آنے والے ہیں اور مرزا قادیانی اپنے جیسے دس ہزار تک مثل مسیح کے آنے کی خبر دے رہے ہیں اور مرزا قادیانی مسیح بن مریم بھی نہیں ہیں۔ جو شخص یہ الزام مرزا قادیانی پر لگاوے وہ مطابق فتویٰ مرزا قادیانی کے کذاب و مفتری ہے۔

اس کے بعد (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۱) میں تحریر کرتے ہیں۔ مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں۔ یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بہ تصریح درج کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس دروغ گوئی کی کوئی حد ہے یا نہیں کہ پہلے تو اسی براہین احمدیہ کے الہامات سے انہوں نے اپنے کو مثل مسیح سمجھا اور ازالۃ الاہام میں صاف لکھ دیا کہ میں مسیح موعود نہیں ہوں۔ ایسا خیال کرنے والا کم فہم ہے اور پھر کشتی نوح میں اسی براہین احمدیہ کے الہامات سے اپنے آپ کو مسیح موعود خیال کر لیا اور غلط تحریر کر دیا کہ اس دعویٰ میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چونکہ مسیح موعود ایک ہی ہوں گے اور مرزا قادیانی پہلے لکھ چکے ہیں کہ میرے جیسے دس ہزار تک آسکتے ہیں۔ اس لئے کشتی نوح والی تحریر میں یکدم نئی بات ہو گئی جو ان کی پہلی تحریر سے جھوٹ ہو جاتی ہے۔

۶..... (کشتی نوح ص، خزائن ج ۱۹ ص ۵۲) میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری ہی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان بناویں گے اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض نا فہمی سے ہے۔

عزیزم! دیکھو مرزا قادیانی اپنی پہلی تحریر میں مسیح بن مریم سے انکار کر رہے ہیں۔ جو شخص مرزا قادیانی کو مسیح بن مریم کہے۔ اس کو مرزا قادیانی مفتری اور کذاب کہہ رہے ہیں۔ اب تمہیں ایمان نادل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے کاشفس سے جواب طلب کرو کہ ایسا شخص جس کے ہوش و حواس درست نہ ہوں۔ جس کو اپنی تحریرات کا خیال نہ ہو کہ کہیں کچھ لکھ دیا اور کہیں کچھ۔ جو شخص اپنے ایک ہی الہام کا مطلب کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں صریح اس کے مخالف بیان کرتا ہے۔ پھر جس الہام کے معنی وہ مسیح موعود سمجھے کیا وجہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ اس کے معنی یہ تھے کہ تو مسیح موعود نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے غلطی سے اس کے معنی یہ سمجھ لئے کہ میں مسیح موعود

ہوں۔ اب غور کرو کہ جس کے صریح اقوال اسے جھوٹا بتاتے ہوں وہ مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ جب تعصب سے علیحدہ ہو کر خیال کرو گے تو ضرور دل یہی جواب دے گا کہ مرزا قادیانی جھوٹے تھے اور یہ بھی بتلاؤ کہ ان دونوں تحریروں میں سے کون سی تحریر کو جھوٹی تسلیم کرتے ہو۔ اگر ایک جھوٹی ہے تو پھر دوسری کے جھوٹی نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کی بدحواسی اور دیکھو۔ مرزا قادیانی خود ہی ابن مریم بھی بنے ہیں۔ (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) میں لکھتے ہیں کہ: ”میں پہلے مریم بنایا گیا اور مریم کی طرح عیسیٰ کی ملامت میں نفلح کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ بذریعہ اس الہام کے جو (براہین احمدیہ ص ۵۵۶) میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔“

ذرا غور کرو۔ یہ کیسے مہملات ہیں۔ جو مسیح موعود بننے کے لئے کئے گئے ہیں۔ کسی اور نبی اور رسول نے ایسی باتیں بنائی ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کی شان ایسے مہملات سے مبرا ہے۔ ایسی ہی مہملات کے سنبھالنے کے لئے ایک منہاج نبوت بنایا گیا ہے جس کی حقیقت اور لغویت انشاء اللہ عنقریب ظاہر ہو جائے گی۔

اب یہ تو بتلاؤ! مرزا قادیانی کتنی مدت تک مریم رہے۔ اتنے دنوں تک کسی غیر محرم کے سامنے آتے جاتے تھے یا نہیں اور جب استعارہ کے رنگ میں وہ حاملہ تھے تو کوئی بوجھ حمل کا ان پر ہوا تھا یا نہیں اور جس وقت مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے کوئی تکلیف درد زہ کی ہوئی یا نہیں اور کچھ زمانہ تک نماز روزہ بھی معاف ہو گیا تھا یا نہیں۔ کیونکہ وہ زمانہ عورتوں کے معافی کا ہے۔ پھر عیسیٰ ہونے کے ساتویں دن بعد عقیقہ ہوا تھا یا نہیں۔ کیونکہ یہ ایک سنت ہے اور مسیح موعود سے سنت کا ترک ہونا محال ہے۔ اس عقیقہ کے دعوت میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے۔ بکرا، یا بکری ذبح کی گئی تھی یا نہیں اور پھر جب عیسیٰ ہو چکے اور اپنے کو ظلی عیسیٰ کہنے لگے تو اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر شادی کیوں کر لی اور شادی کرنے کے بعد آخر عمر میں ایک نو سالہ لڑکی پر عاشق کیوں ہو گئے۔ جذبہ عشق میں آ کر عقل سلیم کو بھی خیر باد کہہ کر اس لڑکی کے پھوپھاو پھوپھی کو جو مرزا قادیانی کے سمدھی تھے، اور اس کے والد کو خوشامد چاچا پوسی و دھمکی کے خطوط کیوں لکھے گئے۔ شادی نہیں کر دینے پر اس کے پھوپھا کی لڑکی کو جو مرزا قادیانی کے لڑکے کی بیوی تھی اپنے بیٹے سے طلاق کیوں دلوانے لگے اور پھر طلاق نہیں دینے پر اپنے بیٹے کو عاق کیوں کر دیا اور عاق کر دینے پر ترکہ سے محروم کیوں کر دیا۔ یہ مسئلہ کس شرع کا ہے۔ کیا یہی شان مسیح موعود کی ہوگی؟ نہیں ہرگز نہیں۔

ہائے افسوس! مرزا قادیانی کی حالت پر کوئی مرزائی غور نہیں کرتا ہے اور دکھلانے والوں کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اپنے مسخ کاذب کی درونگوئی، مکاری، فریب دہی کو ملاحظہ کرو کہ کس کس چال سے وہ اپنے کو مسخ موعود منوانا چاہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب اگر جواب میں کسی نے کچھ کہا تو اس نے جزاء سیئۃ سیئۃ پر عمل کیا۔

۷..... یہ بات ثابت کر دی گئی کہ پیشین گوئی کرنا سچے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بہت جھوٹے رمال پیشین گوئی کرتے پھرتے ہیں۔ پیشین گوئی کو نبوت کا نشان کہنا محض غلط ہے۔ مگر انہیں پیشین گوئیوں کو مرزا قادیانی اپنا نشان کہتے ہیں۔ اے عزیز! تمہیں نہیں معلوم کہ پنڈے اور رمال پیشین گوئیاں کرتے پھرتے ہیں۔ پھر جو بات معمولی لوگ کرتے ہیں وہ کسی مقدس یا نبی کا نشان کیسے ہو سکتا ہے۔ ذرا تو سوچو۔

اس کے بعد ہمارے علماء نے یہ بھی دکھا دیا کہ اگر تمہاری غلط بات سمجھانے کے لئے صحیح مان لی جائے تو وہ پیشین گوئیاں جنہیں مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کا معیار اور نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوئیں اور اس میں جو متعدد وعدے خداوندی مرزا قادیانی نے بیان کئے تھے وہ سب غلط ہو گئے۔ اس لئے جو جب ارشاد خداوندی مرزا قادیانی کاذب ٹھہرے۔ ان نصوص کا بیان متعدد رسالوں میں کیا گیا ہے۔ خصوصاً فیصلہ آسمانی ہر سہ حصہ ملاحظہ ہو:

۸..... جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے لئے ضرور ہے کہ تم ہمارے علماء کے رسالے دیکھو۔ مگر تمہارے مولوی نے ان کے دیکھنے کو منع کر دیا ہوگا۔ اس لئے میں مرزا قادیانی ہی کا قول پیش کرتا ہوں۔ اسے تو دیکھو کہ مرزا قادیانی اپنے صاف اقرار سے جھوٹے ہیں۔ (رسالہ البدروس، ۲، مورثہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء) میں مرزا قادیانی کا یہ قول ہے کہ میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور وہ انجام کو نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود، مہدی موعود کو کرنا چاہئے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہو اور مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔

اے عزیز! یہ مرزا قادیانی کا کلام ہے۔ اس میں نہایت صاف طور سے مسیح موعود کے تین کام بتائے ہیں۔ پہلا کام عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑنا۔ دوسرا کام تثلیث پرستی کی جگہ توحید

پھیلا نا۔ یعنی یہ نہیں کہ تثلیث کی جگہ بت پرستی کرائیں۔ بلکہ توحید پھیلائیں۔ تیسرا کام رسول اللہ ﷺ کی جلالت شان کا ظاہر کرنا۔

اب تم بتاؤ کہ مرزا قادیانی نے جو مسیح موعود کے تین کام بتائے تھے۔ ان میں سے ایک کام بھی کیا؟ خدا کے لئے ذرا سر جھکا کر غور کرو۔ تثلیث پرستی کا ستون توڑنا تو بہت بڑی بات تھی۔ ان کی وجہ سے تو سو دو عیسائیوں نے تثلیث پرستی سے توبہ بھی نہیں کی۔ ان کے اس قدر شور و غل سے سو پچاس بت پرست ایمان نہیں لائے اور توحید پرست نہیں ہوئے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی جلالت شان کیا ظاہر کی۔ بلکہ اس کے برعکس اپنے اقوال سے آپ کی توہین ثابت کی اور ان کے مریدین کر رہے ہیں۔ مثلاً ضمیرہ انجام آتھم میں رسول اللہ ﷺ کی دو پیشین گوئیاں اپنی نسبت بیان کیں اور وہ دونوں جھوٹی ہوئیں۔ پھر کہیں رسول اللہ ﷺ کی غلط فہمی ثابت کی جاتی ہے۔ دیکھو (القائے شیطانی ص ۵۴) اے عزیز! آنکھیں کھول کر دیکھو کہ مرزا قادیانی جو کام مسیح موعود کو بتایا تھا وہ ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ برعکس کیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان کے قول کے بموجب تم انہیں جھوٹا نہیں کہتے اور ان کے جھوٹے ہونے پر گواہی نہیں دیتے۔ یہ کیا اندھیر ہے۔ اب میں تمہیں دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں۔ خدا کے لئے غور سے دیکھو۔

مرزا قادیانی کی تحریر سے روشن ہو رہا ہے کہ جولائی ۱۹۰۶ء تک مرزا قادیانی سے یہ کام انجام نہیں پایا تھا اور اس وقت تک یہ علت غائی ظہور میں نہ آئی تھی۔ یعنی اس وقت تک نہ تثلیث پرستی ٹوٹی اور نہ توحید پھیلی تھی۔ اسی وجہ سے صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علت غائی میری زندگی میں ظہور میں نہ آئی تو میں جھوٹا ہوں۔

مرزا قادیانی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء میں مر گئے۔ اب یہ تو بتلاؤ جولائی ۱۹۰۶ء سے مئی ۱۹۰۸ء تک مرزا قادیانی نے عیسیٰ پرستی کے ستون کو کیا توڑا اور اس کی جگہ پر کہاں توحید پھیلائی اور کیا حمایت اسلام کی؟

اب غالباً تمہارے بہکانے والے تمہیں اس طرح بہکائیں گے کہ مرزا قادیانی نے ایک رسالہ لکھ کر ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اس سے تثلیث باطل ہو گئی اور تثلیث پرستی کا ستون ٹوٹ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کیسی نادانی کی بات ہے۔ تم بھی غور کرو کہ چند اوراق سیاہ کرنے سے تثلیث پرستی کا ستون ٹوٹ گیا اور اس کے ماننے والے نہ رہے۔ تثلیث کا بطلان تو اگلے علماء نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح کی موت بھی عیسائیوں کی اور یہود کی کتاب سے ثابت کی ہے۔ پھر اس سے کیا وہ مسیح موعود ہو گئے۔ تمہیں اور تمہاری جماعت کو تو



وہ کام دکھانا چاہئے۔ جو مسیح موعود سے مخصوص ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں۔ اگر تثلیث کا بطلان دیکھنا چاہتے ہو تو مولوی رحمت اللہ مرحوم کی کتابیں دیکھو، جو مرزا قادیانی کے وجود سے قبل لکھی گئی ہیں اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت چاہتے ہو تو مولوی چراغ علی مرحوم اور سرسید کی تحریریں دیکھو۔ انہوں نے عیسائیوں کی عبرانی اور یونانی کتابوں سے ثابت کیا ہے اور قرآن شریف سے بھی، مرزا قادیانی نے تو کچھ انہیں سے چرا کر لمبی چوڑی باتیں بنائی ہیں۔ جن کا رد مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے کر دیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ تمہارے بہکانے والوں کے جواب کا رد تو خود مرزا قادیانی کی تحریر سے ظاہر ہے کیونکہ تثلیث کا ستون توڑنے کے لئے ۱۹۰۶ء میں وعدہ کر رہے ہیں اور اشاعت تو حید اور حمایت اسلام کر دکھانے کا بھی وعدہ دینے پر رہے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کے ثبوت میں جو (ازالۃ الادہام ص ۲۳۶) وغیرہ میں لکھا ہے وہ اس دعویٰ کے پندرہ برس پہلے لکھا جا چکا ہے۔ کیونکہ (ازالۃ الادہام، ۱۸۹۱ء) میں شائع ہوا ہے۔ اگر اس کا لکھنا ستون کو توڑنا تھا تو مرزا قادیانی یہ لکھتے کہ میں نے ستون توڑ دیا۔ مگر یہ نہیں لکھا۔ بلکہ آئندہ توڑنے کا وعدہ کیا۔ جس سے بہکانے والوں کا رد مرزا قادیانی ہی نے کر دیا۔ اس کے علاوہ میں تم سے ایک بڑے پایہ کی بات کہتا ہوں۔ جو تمہارے بہکانے والوں کے خیال میں بھی نہ ہوگی۔ وہ یہ کہ تثلیث پر ستون کا یہ اعتقاد تو نہیں ہے کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ جس کو انیس سو برس ہوتے ہیں۔ اس وقت سے تثلیث شروع ہوئی اور ان کے دنیاوی وجود پر اس کا ثبوت منحصر ہے۔ جب وہ پیدا نہ ہوئے تھے اس وقت تثلیث نہ تھی۔ اسی طرح اگر وہ مرجائیں تو تثلیث باطل ہو جائے۔ یہ خیال نہایت ناواقف اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ تثلیث پر ستون کے خیال میں تو تثلیث خدا تعالیٰ کی ذات میں داخل ہے۔ اس لئے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیاوی وجود سے پہلے ان کے روحانی وجود سے تثلیث قائم تھی۔ اسی طرح اگر ان کا جسمانی وجود نہ رہے تو ان کے خیال کے بموجب ان کے روحانی وجود سے تثلیث قائم رہے گی۔ پھر ان کی موت ثابت کرنے سے تثلیث کا ستون کیسے ٹوٹ گیا۔ یہ نہایت صاف بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے ان کی خیالی تثلیث کا بطلان ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لئے تمہاری جماعت کا مذکورہ جواب بالکل غلط ہے۔ کئی وجہ سے اس کی غلطی ظاہر ہے اور مرزا قادیانی بالیقین اپنے مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ہیں۔ اگر تمہاری جماعت کو ان کے سچے ہونے کا دعویٰ ہے تو ہماری باتوں کا جواب دے اور جو کام مسیح موعود کے خود مرزا قادیانی نے اس قول میں بیان کئے ہیں ان کا وجود دکھلائے۔ انہوں نے توحید کہاں پھیلائی؟ کون سے مشرکوں کو انہوں نے مسلمان بنایا؟

اسلام کی حمایت انہوں نے کیا کی؟ اے عزیز! کیا یہی حمایت کی کہ دنیا میں جو چالیس کروڑ مسلمان تھے ان کو کافر کر کے دینائے اسلام کو گویا ناپید کر دیا۔ یہ اسلام کی تائید ہوئی۔ سبحان اللہ! اس پر غور کر کے کچھ شرم کرو اور یہ کہو کہ مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب تم ان کے جھوٹے ہونے پر گواہی کیوں نہیں دیتے۔ اس میں تمہیں اور تمہاری جماعت کو کیا عذر ہے۔ جو جھوٹا عذر کر سکتے تھے اس کا جواب دیا گیا اور نہایت شافی جواب دیا گیا۔ اب بھی اگر اس سچی شہادت دینے میں کوئی عذر ہو تو ضرور بیان کرو میں اس کے سننے کا مشتاق ہوں۔ ہاں یہ بھی خیال رہے کہ اس قول نے مرزا قادیانی کے سارے نشانات ہی بیکار کر دیئے۔ اب تو تمہارے مرشد بے نشان رہ گئے اور اپنے اقرار سے جھوٹے ہو گئے۔ پھر ایسے شخص کی سچائی قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ شرم شرم!

اس کے بعد ایک اور قول بھی دیکھو جس سے مذکورہ قول کی شرح ہوتی ہے اور ان کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ مرزا قادیانی (ضمیمہ انجام آختم ص ۳۰، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۴ ۳۱۹۲) میں تحریر کرتے ہیں۔ اگر سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے۔ یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے جس سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جاوے اور دنیا اور رنگت نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئیں کاذب خیال کر لوں گا۔

یہ مرزا قادیانی کا قول ہے۔ اس پر خوب نظر کرو۔ اس میں مرزا قادیانی اپنی صداقت کے ثبوت میں تین علامتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ سات برس کے اندر اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر ہوں۔ دوسری یہ کہ اس سات برس کی مدت میں مسیح کے ہاتھ سے یعنی میرے ذریعہ سے ادیان باطلہ یعنی جھوٹے دینوں کا مثلاً عیسائی، ہنود وغیرہ کا مذہب مرجانے گا۔ تیسری یہ کہ عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے گا اور دنیا اور رنگ پکڑ جائے گی۔ یہاں مرزا قادیانی نے نہایت صفائی سے مسیح موعود کے کام اور ان کے نشانات بیان کئے۔ جس سے پہلے قول کی بخوبی تشریح ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ تثلیث پرستی کے ستون توڑنے سے ان کا یہ مقصود تھا کہ تثلیث پرستوں کا مذہب مردہ ہو جائے گا اور عیسائی مسلمان ہوں گے۔ یہاں یہ خوب خیال رہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود کا کام بتاتے ہیں اور حدیثوں سے بھی مسیح موعود کا یہی کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حقیقت اسحٰس میں وہ حدیث لکھی ہے اور جو دینی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے لئے

معین ہو چکا ہے وہ ہر طرح انہیں کرنا ضرور ہے۔ وہ کریں گے۔ خلق انہیں تکلیف دے اور ان کی سنے یا نہ سنے۔ بہر حال اس علامت کا پایا جانا مرزا قادیانی ضروری بتاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اس سات برس کی مدت میں ان باتوں کا ظہور نہ ہو تو میں اپنے تئیں جھوٹا خیال کر لوں گا۔ مرزا قادیانی کا یہ قول ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء کا ہے۔ اس کے بعد پورے گیارہ برس زندہ رہے۔ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساتھ برس کیا گیارہ برس میں بھی ان علامتوں کا نشان بھی نہیں پایا گیا۔ اے عزیز! تم بھی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اسلام کی خدمت میں ان کا کیا اثر نمایاں ہوا؟ ان کی وجہ سے کتنے آریہ اور عیسائی وغیرہ ایمان لائے؟ کون سا جھوٹا دین ان کی وجہ سے مردہ ہوا؟ دنیا نے کون سی اچھی رنگت پکڑی؟ یہ تو نہایت ظاہر ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم انہیں جھوٹا خیال نہیں کرتے اور اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ کیا تمہیں اب بھی خیال نہ ہوگا کہ مرزا قادیانی کی صداقت کے ثبوت میں جو آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ وہ تمہیں اور عوام کو دھوکا دیا گیا ہے۔ بھلا ایسے جھوٹے شخص کی صداقت قرآن شریف میں ہو سکتی ہے؟ جس کا جھوٹا ہونا خود اس کے متعدد اقراوں سے ظاہر ہو۔ تم اس کا یقین کرو کہ مسیح موعود کی جو علامتیں حدیث میں آئی ہیں اور حقانی علماء نے لکھی ہیں وہ مرزا قادیانی میں ہرگز نہیں پائی گئیں اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کی زبان سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی مرزا قادیانی کو سچا نبی اور مسیح موعود مانتے رہنا کس قدر بے ایمانی اور بددیانتی کی بات ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی میں وہ حالت نہیں پائی گئی جو مسیح موعود کے لئے حدیثوں میں آئی ہے اور وہ خود بتلا رہے ہیں۔ بلکہ مطابق اپنے پختہ اقرار کے جھوٹے ثابت ہو گئے۔

غرض کہ اس نو نمبر میں اچھی طرح سے دکھلایا گیا کہ مرزا قادیانی مطابق معیار قرآن مجید و حدیث کے اور اپنے قول و فعل اور اقرار سے مسیح کاذب ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر ایسے مسیح کاذب کو مسیح صادق کہے جانا ”ختم اللہ علی قلوبہم“ کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے۔ یہی لا جواب اعتراضات مرزا قادیانی پر کئے گئے ہیں اور مرزائی جماعت ان کے جواب سے عاجز ہے۔ اس لئے ایک خواب کو پیش کر کے عوام کو دھوکا دینا چاہتی ہے۔

تمہاری تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو خواب حضرت ابو احمد رحمانی مد فیضہم نے دیکھا تھا اور جس کو تم گندگی سے تعبیر کرتے ہو اور مصنف اسرار نہانی نے اپنی تمام کتاب میں اسی جملہ کے

۱ یعنی جنہوں نے سچی بات کو نہ مانا اور اپنے جھوٹے مذہب پر اڑے رہے اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ یہ حق بات کبھی نہ مانیں گے۔

اوپر ان کی ولایت اور رویشی کو غلط ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے معیار قرار دے لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مصنف اسرار نہانی کو جہل مرکب کے علاوہ تعصب اور طمع دنیا نے اندھا کر دیا اور حضرت اقدس کے لاجواب رسالوں کو دیکھ کر وہ اس کے معین اور مددگار سب جواب سے عاجز ہو کر یہ رسالہ لکھتا تا کہ حضرت مولف مد فیضہم کی توجہ دوسری طرف پھرے اور ہم کو اعتراضوں سے مہلت ملے۔ عوام بھی دوسری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ انہیں یہ بھی امید تھی کہ قادیان میں ہماری قدر و منزلت ہوگی۔ چنانچہ ان کی امید پوری ہوئی اور پچاس روپے کی تنخواہ جو ان کی حیثیت سے بہت زیادہ ہے مقرر ہو گئی اور دنیا میں انہیں اس کا نتیجہ تھوڑے دن کے لئے مل گیا۔ جیسا اس وقت بہت بیدینوں اور کافروں کو مل رہا ہے۔ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ دیکھیں گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اور انہیں خوف خدا کے ساتھ کچھ علم ہوتا تو ہرگز ایسا رسالہ شائع نہ کرتے اور نہ تم ایسا خط میرے پاس بھیجتے۔ چونکہ تم لوگوں کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے۔ اس لئے تم لوگوں کو اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو اور خوب غور سے دیکھو۔ اس کو میں واضح طور سے بیان کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو توبہ کی توفیق عنایت فرماوے۔

خواب کی تعبیر نہایت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اگلے بزرگوں میں بعض بزرگ تعبیر دینے میں مشہور ہیں۔ مثلاً ابن سیرینؒ۔ اگر مولف اسرار نہانی کے مثل عام لوگ خواب کی تعبیر دے سکتے تو یہ خصوصیت کیوں ہوتی کہ ابن سیرین خواب کی تعبیر دیتے ہیں۔ بعض خوابوں کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو مردہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ آپ کے مرزا قادیانی بھی جا بجا لکھتے ہیں کہ بعض وقت خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے لحاظ و حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس قسم کے خواب کی مثالیں لکھی ہیں۔ مگر یہاں لکھنا فضول معلوم ہوتا ہے۔ البتہ دو خواب اور ان کی عجیب و غریب تعبیریں نقل کرتا ہوں۔ تم دیکھو۔

حضرت باوا فرید گنج شکر ابن سیرین کی تعریف کرتے ہیں اور بعض خواب لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص ماہ رمضان میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انکسٹری میرے ہاتھ میں ہے اور میں لوگوں کے منہ اور عورتوں کے فرجون پر مہر لگا رہا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا کیا تو مؤذن ہے۔ کہا ہاں فرمایا پھر تو اذان ٹھیک وقت پر کیوں نہیں دیتا۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ روغن تلوں سے نکالتے ہیں اور میں پھر اسی تلوں میں ملا دیتا ہوں۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ جو عورت تیرے گھر میں ہے وہ ایسا نہ ہو کہ

تیری ماں ہو تو اچھی طرح تحقیقات کر۔ وہ شخص گھر میں آیا اور اس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اس کی والدہ تھی۔ اب ان خوابوں میں ان کی تعبیر میں غور کرو کہ بزرگوں نے اسے عجیب و غریب لکھا ہے اور حضرت اقدس کا خواب تو ایسا مشہور اور مستند ہے کہ بہت بزرگوں سے اس خواب کا عمدہ ہونا بیان کیا ہے۔ اگر خوف خدا اور حق طلبی ہے تو دیکھو اور انصاف کرو۔ اس سے تمہارے بہکانے والے کی حالت معلوم ہو جائے گی۔

اول یہ بات نہایت مشہور ہے کہ بی بی زبیدہ خاتون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں لیٹی ہوں اور انسان اور جانور چلے آتے ہیں اور ہر ایک مجھ سے صحبت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جس کی تعبیر حضرت امام مالکؒ نے یہ بتائی تھی کہ اس عورت سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے کثرت سے لوگ و جانور فیضیاب ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بی بی زبیدہ خاتون نے مکہ معظمہ میں نہر بنوائی۔ جہاں شیریں پانی کی نہایت ضرورت تھی۔ جس کی وجہ سے ساکنان مکہ معظمہ اور تمام دنیا کے حاجی اور چرند و پرند فیضیاب ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ خواب کیسا برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کی تعبیر کیسی عمدہ ہے اور ایسا خواب دیکھنے والے سے کس قدر فیض جاری ہوا۔

دوسرے حضرت مخدوم شرف الدین بہاریؒ جو اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے۔ ارشاد السالکین میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”تاسا لک سر بر اور خود رانہ برد مسلمان نشود تا بمادر خود جفت نشود مسلمان نشود۔“ حضرت ممدوح اس خواب پر ولایت و مسلمانی کو منحصر فرماتے ہیں۔ یعنی جو کامل مسلمان اور ولی ہوگا وہ ضرور اس خواب کو دیکھے گا۔

اب اپنی جماعت پر افسوس کرو کہ کیسی عمدہ بات کو گندہ بتا رہی ہے اور ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تک یہاں تک کہ جو مدعی کے صحابی اور خلیفہ ہیں۔ ان باتوں کو نہیں جانتے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھی ہیں اور اپنے گروہ کی بیہودہ گوئی اور غلط بیانی کو نہیں روکتے۔ اس سے ان کی حالت بھی خوب معلوم ہو جاتی ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ جنہیں تمہارے مولوی عبدالماجد دوسری ہزار کا مجدد اور نبی مانتے ہیں وہ اپنے مکتوبات میں حضرت مخدوم شرف الدین صاحب بہاریؒ کے مذکورہ قول کی شرح میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ مکتوبات (مکتوب امام ربانی ج ۳ ص ۳۳) دیکھو۔ اگر کچھ خوف خدا ہے۔ میں نلالت کے خوف سے نقل نہیں کرتا۔ اب دل میں غور کرو کہ ان بزرگوں کے مقابلہ میں میاں خلیل اور مولوی عبدالماجد کی کچھ ہستی ہے؟ جو ان بزرگوں کو چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے۔

حضرت جناب شاہ محمد آفاق صاحبؒ اس خواب کی یوں تعبیر فرماتے ہیں کہ ”جنتِ مادر“ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح سے ماں کے پیش سے انسان کی پیدائش ہے اور ماں اس کی اصل ہے۔ اسی طرح کل انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ اس لئے ماں کے ساتھ صحبت کرنے سے یہ اشارہ ہے کہ اپنے اصل سے جا ملا یعنی خاک ہو گیا اور خاک ہونے کے بعد سالک کمال کو پہنچتا ہے۔ دیکھو کیسی صاف بات فرمائی ہے۔

تشریح قول حضرت شاہ محمد آفاق صاحبؒ جب کوئی انسان مرد کامل بننا چاہتا ہے اور توفیقِ ربانی اس کے شامل حال ہوتی ہے اور ”الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا“ کے مطابق پوری سعی کرتا ہے اور مطابق ارشاد خداوندی ”وانذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا“ کے ہر علق و عوائق کو چھوڑ کر اس معبودِ حقیقی کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے اور ”موتوا قبل ان تموتوا“ کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کامل طور سے اپنے وجود بشریت کی نفی کر لیتا ہے اور پورا امتقی ہو جاتا ہے تو اس وقت مطابق ارشاد خداوندی ”لہم البشری فی الحیلۃ الدنیا“ اس کو دنیاوی زندگی میں بشارتیں دی جاتی ہیں۔ یہ بشارت بہت ذریعہ سے ہوتی ہے۔ کبھی بذریعہ الہام، کبھی بذریعہ کشف کے کبھی بذریعہ روایا صادقہ یعنی خواب وغیرہ وغیرہ مجملہ بشارتوں کے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ بذریعہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ تو اپنی اصل مٹی سے مل گیا۔ یعنی اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا۔ چونکہ صحبت کرتے وقت دو انسان مل جاتے ہیں۔ غیریت باقی نہیں رہتی اور چونکہ مرد کامل بھی اپنے وجود بشریت کو چھوڑ کر اپنی ہستی کی نفی کر چکا ہے اور اپنے اصل یعنی خاک سے جا ملا ہے۔ اس لئے اس کو اپنے اصل یعنی ماں کے ساتھ جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جو اس کی مجازی اصل ہے صحبت کرتے ہوئے دکھلایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس مجازی اصل سے ملنے کے معنی حقیقی اصل مٹی سے ملنا مراد ہوتا ہے۔ چونکہ تمہاری جماعت بزرگی اور بزرگوں کے حالات سے بے بہرہ ہے۔ اس لئے ان باتوں سے واقف نہیں۔

رہوئے عشق کو بتلاؤں میں کیا ملتا ہے

جب خودی اپنی مٹاتے ہیں خدا ملتا ہے

جب فنا اپنے کو کر دیتے ہیں عشاق تمام

پھر ہمیشہ کے لئے ان کو بقا ملتا ہے

اعلیٰ حضرت جناب سیدنا مولانا شاہ فضل رحمن صاحب قدس سرہ العزیز نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ حضرت موصوف ایسے ولی کامل گذرے ہیں کہ آپ کی ولایت کا ڈنکا ہندوستان

کے علاوہ عرب سے عجم تک بیچ گیا اور تمام ملکوں کے لوگ آ کر مرید ہوئے۔ ایک زمانہ آپ کو قطب دورانِ غوث وقت تسلیم کر رہا ہے۔ جس کے ثبوت میں صرف اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ وہاں سے نہ کوئی اشتہار بازی کی جاتی تھی اور نہ کوئی ماہواری رسالہ شائع ہوتا تھا اور نہ کسی کو بذریعہ خطوط بلایا جاتا تھا۔ (جیسے کہ مرزا قادیانی اپنے مشتمہ ہونے کے لئے کارروائیاں کیا کرتے تھے) اس پر بھی حضرت موصوف کے یہاں روزانہ اتنے لوگ جاتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے کہ مرزا قادیانی کو کبھی خواب میں بھی نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ وہاں لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ محض تھوڑی سی جگہ میں بڑے بڑے امیر الامراء غریبوں کے ساتھ رہ کر دال روٹی کھا کر وہاں سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ آپ کے دلی کامل ہونے کا اثر تھا کہ لوگوں کے قلوب خود بخود کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ بہت بڑی کرامت آپ کی تھی۔ جس سے کوئی مرزائی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غیر ملکوں میں بھی بہت ہی مشہور تھے۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد امام مدینہ منورہ نے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا کہ حضرت مولانا فضل رحمن صاحب قطب الہند کا وصال ہو گیا ہے۔ ان کے جنازہ کی نماز ہونی چاہئے۔ چنانچہ سب لوگوں نے آپ کے جنازہ کی عاتبانہ نماز مدینہ منورہ میں پڑھی۔

غرضیکہ یہ بات پوری طور سے ثابت ہو گئی کہ ایسا خواب دیکھنے والی دلی کامل خدا کا بہت بڑا دوست ہے۔ اس کا ثبوت ہم اور جس کی آنکھیں ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت سیدنا مولانا محمد علی صاحب قبلہ مد فیضیم ایک گوشہ میں بیٹھے ہیں۔ نہ اپنی تعریف کا اشتہار کسی وقت دیا نہ تزیانی کسی قسم کا دعویٰ ہے نہ کسی طریقہ سے کسی سے چندہ مانگا۔ (جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنے لئے اختیار کیا تھا) مگر اللہ تعالیٰ مشہور کر رہا ہے اور سارے کاموں کا کفیل ہے۔ خود بخود ہزاروں ہزار مخلوقات حضور کی خدمت مبارک میں آتی ہے اور اپنے اپنے استعداد کے مطابق فائدہ دینی و دنیاوی حاصل کیا کرتی ہے۔ بعض دفعہ دنیا داروں پر ڈانٹیں بھی پڑتی ہیں۔ مگر مخلوق ہے کہ مانتی ہے جو حق در جو حق چلی آتی ہے اور فیض حاصل کر رہی ہے۔ یہ آپ کی ولایت کا اثر اور ولی کامل ہونے کا نہایت کھلا ہوا ثبوت ہے۔ خدا نے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی عنایت فرمائی ہے وہ دیکھتے ہیں اور فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ ”ختم اللہ علی قلوبہم“ کے مصداق ہو چکے ہیں۔ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ درحقیقت وہ اندھے، بہرے گونگے ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”صم بکم عمی فہم لا یعقلون“ اس جگہ پر ایک گودام دار اسمی پنو خان کا خط جو انہوں نے ایک خواب دیکھنے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرحیم ساکن گوگری سے

لکھوا کر بھیجا ہے۔ نقل کیا جاتا ہے۔ جس کے دیکھنے سے حضرت اقدس کی کرامت اور گروہ مرزائیہ کی گمراہی کا پورا پتہ چلتا ہے۔ وہ خط یہ ہے۔

اسرار نہانی کے متعلق ایک خوفناک خواب

قد قادیانی سے دو شخص مقام کاس نگر میں ایک گودام دار چہرہ کے پاس پہنچے اور ایک کتاب موسومہ اسرار نہانی مفت گودام دار صاحب کو اس نے دی اور زبانی بھی اپنی بہت کچھ صفائی دکھلائی۔ یہاں تک کہ گودام دار صاحب کے عقیدہ میں بھی خرابی پیدا ہو گئی۔ خدا کی شان کہ چند روز کے بعد انہوں نے یعنی گودام دار صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دریا بہت بڑا ہے اور میں پار ترنا چاہتا ہوں۔ مگر گھاٹ پر دو بوچے۔ منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں اور مجھ کو نگل جانے کو چاہتے ہیں۔ میں بہت پریشان کھڑا تھا کہ اس اثنا میں حضرت افضل الفصحاء اکمل الکملات جناب مولانا سید محمد علی صاحب عم فیضہم باشوکت و شان تشریف فرمائے اور مجھ سے فرمایا کہ جو ان خوف مت کھاؤ۔ اڑ کر پار ہو جاؤ۔ اس ارشاد کے وقت حضور نے اس نیچف کے پشت پر ہاتھ بھی پھیرا۔ خدا کی شان کہ میں اڑ کر دریا پار ہو گیا اور ان بوچوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس کی صبح سے ہمارا عقیدہ جناب مولانا صاحب کی طرف خوب درست ہو گیا اور سمجھ گیا کہ کم بخت وہ دونوں قادیانی درحقیقت دو بوچے تھے جو مجھے کھا جانا یعنی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں ڈالتے تھے۔ مگر حضرت اقدس نے خدا کے فضل سے دستگیری فرما کر اس سے چھڑایا۔ میں مولانا کا مرید نہیں ہوں۔ مگر خدا نے چاہا تو عنقریب حاضر خدمت ہو کر قدم بوسی حاصل کروں گا۔ (راقم عبدالرحیم ساکن گوگری)

اے عزیز! تم اس خط کو مکرر پڑھو اور غور کرو کہ ہمارے حضرت اقدس کی یہ کھلی کرامت ہے۔ جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ اگلے بزرگوں نے جو مذکورہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ نہایت صحیح ہے۔ یعنی اس خواب کا دیکھنے والا کامل اولیاء اللہ میں ہے اور جو ان کے مخالف ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان سے ایسا ہی بچنا چاہئے۔ جیسے انسان کو بوچہ سے بچنا چاہئے اور یہ بھی اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کے لئے حضرت اقدس ہی کا دامن پکڑنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کے طفیل سے ان دینی دشمنوں سے بچا سکتا ہے۔ اے عزیز! اگر ایسی باتیں بھی دیکھ کر تمہارا ایمان درست نہ ہو تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ خدا سے ڈرو اور بری صحبت سے بچو۔

حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس اللہ سرہ جو متقدمین کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں اپنے رسالہ انیہ کے ص ۳۵ میں تحریر فرماتے ہیں۔



ازان مادر کہ من زادم دگر بارہ شدم بختش  
از انم گبرے خوانند کز ما در زنا کردم

ترجمہ: جس ماں سے کہ میں پیدا ہوا۔ دوسری مرتبہ اس سے جفت ہوا۔ اس وجہ سے مجھ کو گبر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ماں سے زنا کیا۔

ظاہراً مفہوم تو اس کا جو ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ہر بے علم شخص الزام لگا سکتا ہے۔ مگر حقیقت کی نظر سے دیکھئے۔ فرماتے ہیں کہ ماں دراصل خاک ہے۔ جس سے میری طینت ہوئی اور میں پیدا ہوا۔ اب دوبارہ اسی خاک سے ملنا کمال انکساری کی دلیل ہے جو بہر صورت مستحسن ہے۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔ ”مراد زین مادر طبیعت ست و بندہ بترک اختیار خود تقویض جزیات و کلیات بخدا بمقام ”بسی یسمع و بی ببصر می رسید“ حضرت مولانا ابو احمد رحمانی مد فیضہم پر بھی یہی اعتراض مرزائی لگاتے ہیں۔ حضرت ممدوح تو اس کا کچھ جواب نہیں دیتے ہیں اور خاموش ہیں۔ مگر حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمہ اللہ علیہ ایسے الزام لگانے والوں کو گبر کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسی شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ سچ ہے۔

گر خدا خواہد کہ پردہ کس در

میلش اندر طعنہ پاکان برد

خود حضرت رسول اللہ ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ میں سونے کا کنگن پہنے ہوئے ہوں۔ حالانکہ مرد کو سونے کا کنگن پہننا حرام ہے۔ گویہ خواب بظاہر برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر تعبیر اس کی اچھی رہے۔ جس کی تشریح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ طوالت کے خیال سے چھوڑتا ہوں۔

غرض بزرگان دین کے اقوال اور مذکورہ دونوں خواب اسرار نہانی کے مؤلف کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ مرزائیوں کی بے علمی پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی مشہور بات بھی نہیں جانتے ہیں اور ایسے مبارک خواب کو گندگی اور جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ افسوس تو اس پر زیادہ ہے کہ مولوی عبدالماجد صاحب مرزائی بھی ان بے علموں کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ ہاں وہ کیوں سمجھانے لگے۔ وہ تو خود ان سب باتوں سے بے علم ہیں۔ انہیں تصوف کی باتوں سے کیا علاقہ۔ ان کی کتاب القاء شیطانی سے ان کی دیانت و قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔

(رسالہ انوار ایمانی و حکمت ربانی و صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۳۵۸)

تم اور مصنف اسرار نہانی ان سب باتوں سے بے خبر ہوا، اس کو دیکھ کر آئندہ کے لئے متنبہ ہو جاؤ۔ بلکہ مصنف اسرار نہانی کو اپنے رسالہ کی تردید کر دینی چاہئے۔ مگر اب تو اس کی بدولت پچاس روپے ماہوار کے نوکر ہو گئے۔ اب کیوں لکھیں گے۔ اب تو انہیں صرف گمراہ کرنے کے لئے معقول تنخواہ ملتی ہے۔

تم لکھتے ہو کہ محمدی نیگم کا باپ پیش گوئی کے مطابق اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ بعد اس کے مرنے کے اس کے خاندان کے لوگ چلا اٹھے اور مرزا قادیانی سے معافی اور دعاء کے لئے خط پر خط لکھنے لگے۔ کئی شخص اس خاندان کے احمدی ہو گئے اور کئی شخص اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرتے گئے اور خود اس کا شوہر جس نے چند ہی ماہ پہلے مرزا قادیانی کی پیش گوئی کو جھوٹا سمجھ کر نہایت دلیری سے نکاح کر لیا تھا۔ بعد مرنے اپنے سر کے وہ بھی گھبراتا ہے اور لوگوں سے خط حضرت مرزا قادیانی کو معافی اور دعاء کے لئے لکھواتا ہے اور مرزا قادیانی کو دنی اور بزرگ یقین کرنے لگا اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک اسی یقین پر رہا۔ جیسا کہ اس کے خط سے ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنی حالتوں میں تبدیلی کر لی۔ اس لئے اس پر سزا کا حکم جاری نہ رکھا گیا۔ یعنی مرنے سے بچ گیا اور جب وہ مرنے سے بچ گیا۔ اس لئے نکاح آسانی بھی مل گیا۔

عزیزم خوب دل لگا کر سنو۔ ان سب باتوں کا نہایت ہی عمدہ خواب انوار ایمانی، فیصلہ آسانی، ہر سہ حصہ اور انجم الثاقب وغیرہ میں اچھی طرح دیا جا چکا ہے۔ اگر تم ان سب کتابوں کو غور سے پڑھے ہوتے تو ہرگز ایسا خط ہمارے پاس نہیں لکھتے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان سب کتابوں کو بغور پڑھو۔ ان سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے بالکل غلط اور نہایت بناوٹ ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریروں کے مطابق احمد بیگ کے داماد کا مرنا اور اس کی بیٹی کا مرنا قادیانی کے نکاح میں آنا ضرور ہے۔ یہ خدا کا وعدہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ مگر چونکہ تمہاری بھی خواہی مجبور کرتی ہے۔ اس لئے محض مختصر طور سے آن عزیز کو سمجھانے کی غرض سے تحریر کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۷، ۱۸۸۸ء) میں الہاماً پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس قادر مطلق نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی دختر کلاں کے لئے سلسلہ جنابانی کر اور اگر احمد بیگ نے اس نکاح سے انحراف کیا تو یہ لڑکی جس دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے ڈھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور آخر کار وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آوے گی۔ اس جگہ پر غور کرو کہ ان دونوں وعیدوں میں شوہر کے مرنے کی مدت اڑھائی سال اور اس کے والد کے مرنے کی مدت تین سال بتلائی گئی۔ اس

الہام کا اقتضاء نہایت ظاہر طور سے یہ ہے کہ پہلے اس کا شوہر مرے۔ پھر اس کا باپ۔ کیونکہ شوہر کے مرنے کی مدت کم اور باپ کے مرنے کی مدت زیادہ ہے۔ اس لئے یہ الہام صاف بتا رہا ہے کہ پہلے اس کا شوہر مرے گا۔ اس کے بعد اس کا باپ۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ احمد بیگ الہام کے مطابق نہیں مرا اور بالیقین معلوم ہوا کہ یہ الہام ربانی نہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب کو تو ہر شخص کے موت کی خبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا۔ اپنے علم کے خلاف وہ عالم الغیوب الہام نہیں کر سکتا ہے۔ مطابق الہام کے ظہور ہونے میں فائدہ یہ ہوتا کہ پہلے اس کا شوہر مرتا۔ پھر اس کا باپ، تو یہ دونوں وعیدیں بھی پوری ہو جاتیں اور ان دونوں کے مرنے کے بعد مطابق وعدہ خداوندی کے اس لڑکی سے مرزا قادیانی کا نکاح بھی ہو جاتا۔ غرض ہر طور سے الہام اس علام الغیوب کا جو مرزا قادیانی کو کیا گیا تھا۔ پورا ہو جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر اس کے باپ ہی کا پہلے مرنا تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا تھا تو پھر الہام اور اس کے باپ کے مرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو خوف، ہراس، غم، الم کا ہونا اور مرزا قادیانی سے قصور معاف کرانا ان کو خط لکھنا یا لکھوانا اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک اس کے شوہر کا زندہ رہنا اور تازہ رست اپنے بی بی کو اپنے قبضہ میں رکھنا تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ علام الغیوب نے مرزا قادیانی سے ایسا کیوں کہا کہ ڈھائی برس کے اندر اس کا شوہر مرے گا اور تین برس کے اندر اس کا باپ اور انجام کار و آخر کار وہ لڑکی تیرے نکاح میں آوے گی اور سب موانع دور ہو جائیں گے اور بار بار الہام ہوا کہ آخر کار اور انجام کار وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اس قدر اصرار اور تاکید سے وعدہ الہی کیوں ہوا۔

اب خوب غور سے خیال کرو کہ جو مانع پیش آیا تھا اس کا علم بھی تو اللہ تعالیٰ کو تھا۔ اگر تمہاری جماعت کے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ اس مانع کے دور کرنے پر قادر نہ تھا۔ یا کسی وجہ سے وہ دور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا باصرار بار بار یہ کہنا کہ انجام کار وہ لڑکی تیرے نکاح میں آئے گی اور سب مانع دور ہو جائیں گے۔ کیسا صریح غلط ہوا۔ کیا خدائے پاک کی ایسی شان ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا محکم وعدہ کر کے پورا نہ کرے؟ اگر کوئی شریف آدمی اس طرح وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو کس قدر اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس ذات پاک پر ایسا الزام لگانا کس قدر بے ایمانی کی بات ہے۔ چونکہ یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اس کو ضرور خبر تھی کہ سب مانع دور نہ ہوں گے۔ باوجود اس علم کے بھی مرزا قادیانی سے اس نے حتمی وعدہ کر لیا اور نہایت زور سے نکاح میں لانے کا نہیں یقین دلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ضرور ہوا کہ اس نے قصداً جھوٹا وعدہ کیا۔

اے عزیز! اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی بدگمانی مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب اور ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس لئے یہاں پر اب ضرور تسلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام شیطانی تھا یا مرزا قادیانی نے شادی ہو جانے کی غرض سے خدا پر افتراء کیا۔ مرزائی حضرات اگر اللہ تعالیٰ کو علام الغیوب اور صادق الوعد سمجھتے ہیں تو مرزا قادیانی کے اس الہام کو الہام شیطانی یا افتراء کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے اور اگر مرزا قادیانی کو سچا جانتے ہیں اور اس الہام کو الہام ربانی کہتے ہیں تو گویا خدا پر الزام دیتے ہیں۔ گو ظاہر الفاظ میں نہ ہو۔ مگر معنی ”ضرور دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے خط میں لکھا تھا کہ تم لوگ خدا کو جھوٹ بولنے والا اور جھوٹا وعدہ کرنے والا سمجھتے ہو۔

غرض مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق نہ اس کا باپ مرزا اور نہ کوئی مانع دور ہوا۔ اس لئے مرزا قادیانی ضرور مفتری ثابت ہوئے۔ چونکہ اس کا باپ اپنی اتفاقیہ موت سے مراتب مرزا قادیانی نے غل مچانا شروع کیا کہ پیش گوئی کا ایک جزو پورا ہو گیا۔ تب اس طرف لوگوں کی پوری نظر ہو گئی اور اس کے داماد کی موت کا انتظار کرنے لگے۔ بعد گذرنے میعاد ڈھائی برس کے جب اس کا شوہر زندہ رہ گیا اور مرزا قادیانی کی پیش گوئی غلط ہو گئی اور اہل حق مرزا قادیانی پر اعتراضات کی بوچھاڑا لنے لگے اور مرزا قادیانی رسوا اور ذلیل ہونے لگے۔ تب اپنی سیاہی کو دور کرنے کے لئے پھر دوسری پیش گوئی اس کے داماد کے موت کی کرنے لگے۔ وہ دوسری پیش گوئی (انجام آتھم ص ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱) میں یوں درج ہے۔ ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔“

اور پھر اس پیش گوئی کو تفصیل کے ساتھ (انجام آتھم ص ۲۲۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۳) میں یوں تحریر کرتے ہیں۔ ”بلکہ اصل امر بحال خود قائم است و پچکس با حیلہ خود اور ارتوان کرد و این تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است و عنقریب وقت آن خواهد آمد پس قسم آں خدا یکے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ را برائے ما مبعوث فرمود اور اہترین مخلوقات گردانید۔ ان حق است و عنقریب خواہی دید و من این را برائے صدق خود یا کذب خود معیاری گردانم و من نہ گفتم الا بعد ازان کہ از رب خود خبر داده شد۔“

پھر (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۸) میں یوں تحریر کرتے ہیں۔ ”یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی۔ یعنی احمد بیگ کا داماد میرے سامنے نہ مرا۔ تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احمقویہ انسان کا افتراء نہیں کسی خمیٹ مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھو کہ

خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔“

۱۔ اے عزیز یہ کہنا رہ گیا اس لئے حاشیہ لکھتا ہوں۔ میں نے تین قول مرزا قادیانی کے نقل کئے ہیں۔ انہیں میں غور کرنے سے مرزا قادیانی کے سچے چھوٹے ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی بات لگی نہیں رہتی۔ آخر کے دظوں قول میں خوب غور کرو ان سے وہ سب باتیں غلط ہو جاتی ہیں جو اس غلط پیشین گوئی کے جواب میں بنائی جاتی ہیں۔ (۱) کو دیکھو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ یعنی ان وعدوں میں سے نہیں ہے جو کسما وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان باتوں میں ہے جو بدلتی نہیں۔ اس لئے اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔ اب اس کے لئے کوئی مانع مرزا قادیانی کے قول کے بموجب نہیں ہو سکتا۔ (۲) اور دیکھو! لکھتے ہیں کہ اگر احمد بیگ کا دبا دبا میرے سامنے نہ مراتو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اب تم غور کرو کہ کوئی خدا کا رسول اپنی صداقت کے بیان میں بغیر الہام الہی اس طرح نہیں کہہ سکتا جس طرح مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں اور جب یہ مقولہ بالہام الہی ہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ عالم الغیب باوجود جاننے موانعات کے مرزا قادیانی کی زبان سے یہ کہلائے کہ اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ جب ایسا کہلایا تو معلوم ہوا کہ اس کے لئے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ اس کا ظہور ہر طرح ہوگا۔ اب جو باتیں بنائی جاتی ہیں ان سب کو یہ قوم جھوٹا ٹھہراتا ہے اور بالفرض اگر مرزا قادیانی نے غلطی سے ایسا کہا تو ضرور تھا کہ قبل مشہور ہونے اور مخالفوں تک پہنچنے کے اس کی طرف سے اطلاع ہوتی اور بالفرض اگر غلطی سے مشہور ہو گیا تھا تو فوراً اس کے بعد ہی اس کی غلطی کو مشہور کرتے اور تنبیہ الہی کو دنیا پر ظاہر کرتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس لئے بالیقین معلوم ہوا کہ یہ وعدہ الہی نہ تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اسے جھوٹا کر کے دنیا کو ان کا کاذب ہونا دکھا دیا۔ (۳) پھر دوسرے قول میں دیکھو کہ فارسی میں سخت قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کا پورا ہونا سچ ہے۔ یعنی اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ احمد بیگ کا دبا دبا میرے بد و بدتر سے گوارا اس قول کے سچ ہونے کو تو عقرب دیکھنے لگا۔ میں اس کو اپنے سچے یا چھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ یہ سب باتیں کہہ کر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ: ”من گفتم الا بعد ازاں کہ از رب خود فرودا وہ شدم۔“ یعنی جو میں نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ بلکہ وہی کہا ہے جس کی اطلاع میرے پروردگار نے مجھ ہی سے تمام باتیں کہہ کر آخر میں یہ سہلہ کہنا صاف بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا وہ سب الہامی ہے۔ اے عزیز! آنکھیں کھولو اور خدا کا خوف دل میں لا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یقین اور یقینی سے وعدہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی اس کے پورا ہونے پر قسم کھا رہے ہیں اور اپنے صدق و کذب کا معیار بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مانع پیش آئے۔ جس کی وجہ سے اس کا ظہور نہ ہو اور خدا تعالیٰ (۱) اپنے رسول کی قسم کو جھوٹا کر دے اور قسم اس بات پر ہے۔ (۲) جس کے پورا کرنے کا پختہ وعدہ اس خدائے صادق الوعد نے کیا ہے۔ جس کی باتیں نہیں ملتیں اور وہ وعدہ (۳) جسے خدا تعالیٰ نے اس کی صداقت کا عظیم الشان نشان ٹھہرایا ہے۔ (۴) جسے اس کے برگزیدہ رسول نے دنیا کے روبرو اپنی صداقت کا معیار ٹھہرایا ہے۔ (۵) جس کے ظہور میں نہ آنے سے وہ رسول اپنے پختہ اقرار سے جھوٹا ٹھہرتا ہے۔ (۶) کوہ نشان جس کے جھوٹا ہونے کا انتظار آریہ اور عیسائی دشمنان اسلام کر رہے ہیں۔ (۷) جس کے ظہور کے لئے بقول مرزا قادیانی ہزاروں مسلمان دعا کر رہے ہیں۔ بایں ہمہ خدا تعالیٰ اس نشان کو ظاہر نہ کرے یہ کیسا غضب ہے کہ ایسا قسم بالشان نشان جس کے ظہور کے لئے سات دہائیوں یقین دلاتی ہوں کہ اس نشان کا ظہور ضرور ہوگا اور ایک وجہ ایسی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اگر اس کا داماد نے سر کے مرنے کے بعد خوفِ الوام سے ہراس ہو کر توبہ اور رجوع کر لیا اور ڈھائی سال کے اندر مطابق پیش گوئی مرزا قادیانی کے نہیں مرنا یعنی توبہ اور رجوع کی وجہ سے وہ جرم سے رہا کر دیا گیا اور مزائے موت سے بچ گیا تو پھر ”انجامِ آہتم“ میں اس کے موت کی دوسری پیش گوئی کرنے کی مرزا قادیانی کو کیا ضرورت پڑی اور اس کے مرنے کو خدا کا سچا وعدہ کیوں کہا۔ پھر اس کا داماد توبہ اور رجوع کے بعد کس جرم کا مجرم ہو گیا کہ مزائے موت کے پانے کا مستحق ہو گیا۔ چونکہ مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کے مطابق بھی اس کا داماد مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر نہیں مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی خود ہی اس کے سامنے مر گئے۔ اس لئے مرزا قادیانی کی یہ دوسری پیش گوئی بھی جھوٹی ہو گئی۔

اب یہ تو بتلاؤ کہ مرزا قادیانی سے اس کے ملہم نے ایسی جھوٹی بات کیوں کہی کہ احمد بیگ کے داماد کا تمہاری زندگی کے اندر مرنا تقدیرِ مبرم ہے اور پھر وہ نہ مرا۔ پہلی دفعہ تو مرزا قادیانی کے ملہم سے غلطی ہو چکی تھی۔ کیا پھر بھی مرزا قادیانی کے ملہم کو اس کی خبر نہیں تھی کہ مرزا قادیانی کی عمر سے اس کے داماد کی عمر زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی مرزا قادیانی کے ملہم نے غلطی کی۔ یا مرزا قادیانی اس کہنے میں خود مضتری تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو گذشتہ اور آئندہ کا علم پورا ہے۔ اس لئے داماد احمد بیگ کے نہ مرنے سے صاف ثابت ہو گیا کہ یہ سب الہامات بھی الہامِ ربانی نہیں تھے۔ بلکہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) قوی ہے کہ اگر اس وعدہ کا ظہور نہ ہو تو خدا تعالیٰ کا کوئی وعدہ اور وعید لائق اعتبار نہ رہے۔ تمام شریعت درم برہم ہو جائے اور اس کا خاص رسول اپنے مقرر کردہ معیار کے بموجب دنیا کے روبرو جھوٹا ثابت ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کیا وجہ ہے کہ منکرینِ اسلام مذہبِ اسلام پر مضحکہ نہ کریں۔ دہریہ خدا کی قدرت کا انکار نہ کریں۔ اے عزیز! ذرا ہوش سنبھال کر اس کا جواب دو اور تم کیا دو گے۔ یہاں سے قادیان تک اپنی ساری جماعت سے دریافت کرو۔ مگر سب کو اس کے جواب سے عاجز پاؤ گے۔ اب یہ بھی کہو کہ اس وعید کی پیش گوئیوں کو کسی بادشاہِ سلامت کے قیدی چھوڑنے اور مجرم کو رہا کرنے سے کیا واسطہ۔ دونوں میں آسمان وزمین کے فرد سے بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ اس پیشین گوئی کے قیدی کو چھوڑ دینے سے اس کا سچا رسول جھوٹا نظر نہ رہتا ہے اس کی قسم جھوٹی ہوتی ہے وہ اپنے اقرار سے کلاب قرار پاتا ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا سے جھوٹا ماننے پر مجبور ہے۔ اب اگر وہ سچا رسول ہے تو اس کے نہ ماننے والوں کو جہنمی ٹھہرانا اوروں پر ظلم ہے۔ کیونکہ مرزائی خیال کے بموجب خدا تعالیٰ نے نہایت صفائی سے ایسی باتیں ظہور میں لائیں۔ جس سے انسان اس کے جھوٹا جاننے پر مجبور ہوئے۔ کسی بادشاہِ سلامت کے قیدی چھوڑنے میں ان میں سے ایک خرابی بھی نہیں پائی جاتی۔ اب دونوں کو یکساں سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ دیکھو یہ کیسی صاف تقریر ہے۔ جس کا کچھ جواب نہیں ہو سکتا اور صرف اسی بات پر مرزا قادیانی کا خاتمہ ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جس کا جھوٹا ہونا نہایت صفائی سے اس کے متعدد اقوال سے ثابت ہے۔ (۶) اس کی صداقت قرآن مجید سے ثابت ہو سکے بلکہ ایسا کہنا قرآن مجید پر سخت اہرام لگانا ہے۔

ڈرانے دھمکانے کے لئے بار بار کہا جاتا تھا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کا داماد پہلی دفعہ مطابق پیش گوئی مرزا قادیانی کے ڈھائی برس کے اندر نہیں مرا، اور مرزا قادیانی اس میں جھوٹے ہو گئے اور لوگوں کی طرف سے مرزا قادیانی پر اعتراضات کی بوچھاڑ پڑنے لگی تو پھر مرزا قادیانی نے اپنی زندگی بھر کی قید لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ میری زندگی کے اندر اس کا مرنا تقدیر مبرم ہے۔ وہ میرے سامنے ضرور مرے گا۔ بڑے سوچ سمجھ سے مرزا قادیانی نے زندگی بھر کی قید لگائی تھی۔ ایسا کہنے میں ہر صورت سے مرزا قادیانی کو فائدہ تھا۔

۱..... اگر کہیں اتفاقاً اس کا داماد مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر مر گیا تب تو مرزا قادیانی کی چاندی چوکی ہوگی۔

۲..... اور اگر مرزا قادیانی پہلے مر گئے اور وہ زندہ رہ گیا تو بھی اچھے لئے کہ اعتراضات کی بوچھاڑ سے چھٹکارا ہو گیا۔

چونکہ ایسی پیش گوئی کرنے میں مرزا قادیانی پر ان کی زندگی بھر میں کوئی اعتراض کا موقع نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اس کو نہایت ہی زور سے بیان کیا اور لوگوں کو یقین دلانے کا کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ مرزا قادیانی نے بڑی عقلمندی سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کا انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اپنی موت کی شرط کیا اچھی شرط ہے۔ یعنی ہم مر جائیں گے تو کون مجھ کو جھوٹا کہے گا اور ماننے والے کچھ بات بنا ہی دیں گے۔ چنانچہ تم کیسی غلط باتیں بتا رہے ہو اور ایسی باتیں خود مرزا قادیانی کے قول سے غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل ”بیان حقانی تو ضیح حصہ دوم فیصلہ آسانی“ میں خوب کی گئی ہے۔ وہاں دیکھو! واقعات نے تو یہ شہادت دے دی کہ نہ مرزا قادیانی کے سامنے اس کا شوہر مرا اور نہ مرزا قادیانی سے اس کی بی بی کی شادی ہوئی۔ جس کا نہایت پختہ وعدہ تھا۔ اب یہ تو بتلاؤ کہ مرزا قادیانی کے ساتھ کس خبیث مفتری کا کاروبار تھا کہ جس کی کل باتیں ٹل گئیں۔ جب مرزا قادیانی کے سامنے اس کا شوہر نہیں مرا تو مرزا قادیانی اپنے اقرار کے مطابق ہر بد سے بدتر ہوئے یا نہیں اور اپنے مقرر کردہ معیار کے بموجب جھوٹے ہوئے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ہم وعدہ کے سچے ہیں۔ ہم اپنے رسولوں سے خلاف وعدگی نہیں کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ضرور یقین کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی

کے ساتھ خدا کا وعدہ نہیں تھا۔ بلکہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار تھا۔ اوپر والے مضمون کے نتیجہ کو نمبر وار درج کرتا ہوں۔ اس کا جواب اپنے کانشنس سے طلب کرو۔

نمبر ۱..... مطابق خیال مرزائیوں کے اگر اس کا داماد توبہ اور رجوع کی وجہ سے ڈھائی سال کے اندر نہیں مرا۔ مگر اس کے بعد دوسری پیش گوئی کے مطابق مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر کیوں نہیں مرا۔ مرزا قادیانی کی دوسری پیش گوئی کیوں جھوٹی ہوگئی۔ اس جگہ پر اس کے داماد نے کس توبہ اور رجوع سے فائدہ اٹھایا؟

نمبر ۲..... اگر اس کے داماد کا مرنا مرزا قادیانی کی زندگی میں تقدیر مبرم تھا تو پھر یہ تقدیر کہاں انک رہی؟ اس جگہ پر یا تو مرزا قادیانی کو مفتری کہا جائے یا یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کو مفتری کہنا ضرور ہے۔ تم مرزا قادیانی کو مفتری کہو گے یا اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے سے انکار کرو گے۔

نمبر ۳..... مرزا قادیانی نے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کے پورے ہونے کا یقین دلایا تھا وہ قسم سچی ہوئی یا جھوٹی۔

نمبر ۴..... مرزا قادیانی اس کے پورے نہ ہونے پر اپنے کو جھوٹا اور ہر بد سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ مطابق اپنے اقرار کے مرزا قادیانی جھوٹے اور ہر بد سے بدتر ہوئے یا نہیں۔ اگر جھوٹا نہیں مانتے تو اس کی وجہ بیان کرو۔ میں نے انہیں کا قول نقل کیا ہے۔ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی۔

نمبر ۵..... مرزا قادیانی کے ساتھ کس خبیث مفتری کا کاروبار تھا۔ جس کی باتیں بدل گئیں۔  
نمبر ۶..... یہ انسانی افتراء نہیں تھا تو کیا تھا؟

نمبر ۷..... مرزا قادیانی اس کو خدا کا سچا وعدہ بتلاتے ہیں۔ اب کہو کہ یہ وعدہ سچا ہوا یا جھوٹا؟ اور جھوٹا ہونا تو ظاہر ہے تو اس کے جھوٹا ہونے سے کون جھوٹا ہوا۔ مرزا قادیانی یا اللہ تعالیٰ؟ (نعوذ باللہ)

نمبر ۸..... خدا صدق الوعد ہے یا نہیں۔ وعدہ خلافی اس کی شان سے بعید ہے یا نہیں۔ اس جگہ پر مرزا قادیانی جو اس کو خدا کا سچا وعدہ بتلاتے ہیں۔ اس کہنے میں مرزا قادیانی سچے ہیں یا خدا وعدہ خلافی کر گیا؟

اگر تم یہ کہو کہ خدا کے سب وعدے اور وعیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں بعض ہوتی ہیں تو



مرزا قادیانی کا یہ قول نہایت صاف طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ یعنی احمد بیگ کے داماد کے مرنے کا وعدہ ان جھوٹے وعدوں میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ سچا وعدہ ہے۔ بہر حال اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔ اب اس بات کا جواب ملاحظہ کرو کہ اس کا داماد تو بہ اور رجوع کی وجہ سے بچ گیا یا مرزا قادیانی اس کہنے میں بھی جھوٹے ہیں؟ تعریف تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی کی تحریر سے یہ قول بھی جھوٹا ہو جاتا ہے۔

اپریل ۱۸۹۲ء میں مرزا احمد بیگ نے اپنی لڑکی کی شادی (یعنی مرزا قادیانی کی محبوبہ کی) سلطان محمد بیگ سے کر دی اور ڈھائی برس تک یعنی ستمبر ۱۸۹۳ء تک اس کا داماد سلطان محمد بیگ مطابق پیش گوئی مرزا قادیانی کے نہیں مرا۔ تب پھر مرزا قادیانی نے ۱۸۹۷ء میں دوسری پیش گوئی اس کی موت کی۔ جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں اور الہام بھی ان کا نقل کر چکا ہوں۔ جس ”انجام آتھم“ میں اس کی موت کی دوسری پیش گوئی درج ہے۔ اسی (انجام آتھم ص ۲۲۳، خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۳) میں یعنی شادی ہونے کے پانچ برس بعد اور مرزا قادیانی کی پہلی پیش گوئی جھوٹی ہونے کے ڈھائی برس کے بعد یوں تحریر کرتے ہیں۔ ”من می یتیم کہ او شاں سوئے عادتہائے پیش میل کردہ اندو لہاے شان سخت شد چنانکہ عادت جاہلان است و ایام خوف را فراموش کردند و سوی زیادتی و تکذیب عود نمودند پس عنقریب امر خدا بر ایشان نازل خواهد شد چون خواهد دید کہ ایشان در غلوزیادت کردند۔“

مرزا قادیانی کی اس عبارت سے روشن ہو رہا ہے کہ اس کا داماد مرزا قادیانی کی تکذیب میں زیادتی کرنے لگا۔ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ اس لئے اس پر عذاب آدے گا۔ مرزا قادیانی کی تحریر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس نے توبہ اور رجوع نہیں کی تھی۔

۱..... کیونکہ اگر خوف کی وجہ سے توبہ اور رجوع کرتا اور مرزا قادیانی کو بزرگ مان لیتا اور اس کے پاس عاجزی کا خط لکھواتا تو پھر تکذیب میں زیادتی کرنے کے کیا معنی؟

۲..... اگر اس کا داماد خوف کی وجہ سے توبہ اور رجوع کرتا اور مرزا قادیانی کے پاس خط لکھواتا یا لکھتا تو اپنی عادت کے بموجب مرزا قادیانی معترضین کو ساکت کرنے کے لئے اس کے خط کو موٹے موٹے حرفوں میں لکھ کر تمام دنیا میں شائع کر دیتے۔ مگر شائع نہیں کیا۔ اس سے بخوبی سمجھا جاتا ہے کہ جب مرزا قادیانی پر اعتراضات کی بوچھاڑ پڑنے لگی اور مرزا قادیانی بغل جھانکنے لگے تو محض دروغ گوئی سے یہ کہہ دیا کہ توبہ اور رجوع کی وجہ سے زندہ رہ گیا۔ اس پر نہ کوئی تحریر شوٹ لائق اعتبار ہے اور

نہ کوئی زبانی شہادت قابل وثوق۔ بلکہ اس کے خلاف رسالہ (اشاعت السنۃ بابت ۱۱، ۱۳۱۰ھ) میں لکھا ہے کہ سلطان محمد سے کئی سوال کئے گئے تھے۔ ان میں تیسرے سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں۔

### مرزا سلطان محمد بیگ کا جواب

مرزا قادیانی کو میں جھوٹا اور دروغ گو جانتا تھا اور جانتا ہوں اور میں مسلمان آدمی ہوں خدا کا ہر وقت شکر گزار ہوں۔

### سلطان محمد بیگ بقلم خود

(نمبر ۶، ج ۱۶، ص ۱۹۱، سطر ۱۳) میں یہ تحریر بائیس برس کی چھپی ہوئی موجود ہے۔ مرزا قادیانی اس وقت خوب زوروں پر تھے۔ مگر اس کا غلط ہونا نہ مرزا قادیانی نے لکھا اور نہ ان کے خلیفہ اول نے اس لئے اب جو خط شائع کیا گیا وہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز لائق اعتبار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پہلا خط جو ”اشاعت السنۃ“ میں ہے۔ سچا اور لائق اعتبار ہے۔

۳..... مرزا محمود نے جو مرزا قادیانی کے مرنے کے پانچ چھ برس کے بعد ایک خط چھاپا ہے۔ اس میں اسی قدر ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو پہلے بھی بزرگ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ یہ خط بھی مرزا قادیانی کے انجام آہتم والے مضمون سے غلط ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کی تکذیب کی زیادتی کو لکھ رہے ہیں اور خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کبھی زیادتی ہی نہیں کی۔ ہمیشہ مرزا قادیانی کو بزرگ سمجھتا رہا۔ اگر خط سچا ہے تو مرزا قادیانی جھوٹے ہوتے ہیں اور اگر مرزا قادیانی کی تحریر سچی ہے تو مرزا محمود کی یہ کارروائی جعلی ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کے اقوال سے اس کے خط کی صریح تکذیب ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی آخری عمر تک اسے کوستے رہے اور اپنے سامنے اس کے مرنے کو وعدہ الہی بتاتے رہے اور اس کی بی بی سے اپنا نکاح کرنا بیان کرتے رہے۔ پھر اتنے ہونے پر وہ مرزا قادیانی کو کیونکر بزرگ سمجھ سکتا ہے۔ انسانی طبیعت کا اقتضا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایسے مخالف کو اپنا بزرگ سمجھے۔ خصوصاً جب کہ وہ اپنی ہی پیشین گوئی میں جھوٹا دیکھ رہا ہو۔

۴..... بفرض محال بزرگ سمجھنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی سوائے اپنے مریدین کے اور سب کو جہنم میں اوندھا گرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دشمن قرار

۱۔ الحکم ۲۴، اکتوبر ۱۸۹۹ء میں تحریر کرتے ہیں۔ آج چودھویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کا رسول اس کی طرف سے خلقت کے لئے رحمت و برکت ہے۔ ہاں جو اللہ کے بھیجے ہوئے کونہ مانے وہ جہنم میں اوندھا گرا رہے گا۔

دے رہے ہیں۔ اس کا داماد تو مرزا قادیانی کا مرید نہیں ہوا اور مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لایا۔ اس لئے مرزا قادیانی کے نزدیک جہنم میں اوندھا گرانے کے لائق ہو گیا اور جہنم میں وہی جائے گا جو اللہ کا دشمن ہوگا۔ پھر ایسے خدا کے دشمن کے مقابلہ میں مرزا قادیانی مطابق اپنے اقرار کے ہر بد سے بدتر اور جھوٹے سے جھوٹا ہو کر کیوں چل بسا۔ مرزا قادیانی کے ملہم نے جب کن فیکون کا اختیار مرزا قادیانی کو عطاء کر دیا اور گویا اپنی خدائی میں شریک کر لیا اور اپنے اختیارات سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کئی برس کے لئے مریم بنا دیا۔ پھر اپنی روح پھونک کر حمل ٹھہرا کر دس مہینے کے بعد اس مریم سے عیسیٰ پیدا کر دیا گویا مرد سے عورت پھر عورت سے مرد بنا دیا تو پھر یہاں بھی انہیں اختیارات سے ایک دشمن جہنمی کو فنا کر کے مرزا قادیانی کو ہر بد سے بدتر اور جھوٹے سے جھوٹا کہنے سے کیوں نہ بچایا۔ غرض مرزا قادیانی کے الہامات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی الہام الہام ربانی نہیں تھا۔ بلکہ ان کی خیالی الہامات اور دلی آرزوئیں تھیں۔ جنہیں وہ الہام الہی سمجھتے تھے یا قصد افتراء کرتے تھے۔

تم لکھتے ہو کہ خدا کے غیبوں سے جو سیکنگڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ظاہر ہو کر پورے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک پیش گوئی کا ذکر کیا ہے جو احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق ہے۔ اس پیش گوئی کا ذکر کئی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کو ذرا ہوش کے ساتھ دیکھو اور اپنی جماعت کو دکھلاؤ۔

۱..... اس کو مرزا قادیانی نے اپنا نہایت ہی عظیم الشان نشان کہا ہے۔ جب اس نہایت عظیم الشان نشان میں گفتگو طے ہو جائے اور مرزائی صاحبان اقرار کر لیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی ہوئی تو ہم دوسری پیشین گوئی میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہاں معاملہ علماء سے ہے۔ جہلا سے نہیں ہے کہ ایک بحث شروع کی اور اسے ناتمام چھوڑ کر دوسرے بحث شروع کرنے لگے۔ اسی طرح تیسری چوتھی بحث پر پہنچے۔ بلا آخر کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ جماعت احمدیہ چونکہ علم سے بے بہرہ ہے۔ اس لئے وہ جاہلوں کی سی باتیں چاہتی ہے اور اس کے پڑھے لکھے اسی دھوکے میں رکھتے ہیں۔

۲..... یہ پیشین گوئی ایسی ظاہر ہے کہ اس میں نہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کے معنی میں گفتگو ہو سکے نہ اسے سچ چل سکتا ہے اور پھر ادنیٰ اور اعلیٰ اس کا یقین کر سکتا ہے۔ اس میں کسی گواہ شاہد کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لئے اس میں فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔

۳..... اس پیشین گوئی کا جھوٹا ہونا ایسا اظہر من الشمس ہو گیا کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہا۔ بجز ان کے جنہیں روز روشن میں بھی سورج نظر نہ آئے۔

۴..... اس پیشین گوئی کی نسبت جس قدر باتیں بتائی گئیں اور اپنے خیال میں جواب دیئے گئے۔ سب کا غلط ہونا نہایت کافی دلیلوں سے دکھایا گیا اور اب تک کسی نے ان کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو دعویٰ ہو تو اس سے کہو کہ چند آدمیوں کے سامنے گفتگو کرے۔

۵..... جب مرزا قادیانی کی ایک نہایت ہی عظیم الشان پیشین گوئی غلط ہو گئی تو اب کسی پیشین گوئی کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مدعی نبوت کی ایک پیشین گوئی کے جھوٹا ہونے سے اس کا کذب قرآن مجید سے اور توریت سے ثابت ہے تو اب اگر وہ جھوٹا سو نہیں ہزار پیشین گوئی کرے اور بالفرض وہ سب سچی بھی ہو جائیں تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ ایک کا ہنہ جو قطعی کافر تھی۔ تیس برس تک اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوئی اور بڑے بڑے علماء نے اس کی شہادت دی۔

(فیصلہ آسمانی ص ۶۴، ۶۵)

اے عزیز بڑا افسوس ہے کہ تم ان کتابوں کو نہیں دیکھتے اور ایسی کھلی ہوئی باتوں میں نظر نہیں کرتے اور یہ لکھتے ہو کہ مرزا قادیانی کی بہت سی غیب کی باتیں پوری ہوئیں اور ہورہی ہیں۔

۶..... چھٹی وجہ ذکر نہ کرنے کی یہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کا قول نقل کر آئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر میں یہ کام نہ کروں اور کروڑ نشان دکھاؤں تو بھی میں جھوٹا ہوں۔ جب ہم نے اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کام کچھ نہیں کیا۔ تثلیث پرستی کے ستون کو توڑنا تو بڑی بات تھی ان سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں سو دو ستیث پرست ایمان لے آتے اور تثلیث پرستی سے توبہ کرتے۔ اس لئے وہ اپنے اس اقرار سے جھوٹے ٹھہرے۔ اب سو پیشین گوئیاں بلکہ کروڑ پیشین گوئیاں بھی انہیں کے قول کے مطابق بیکار ہیں۔ اب تو ہم ان کے ارشاد کے بموجب ان کے جھوٹے ہونے پر گواہی دیتے ہیں۔ تمہیں بھی وینی چاہئے۔ اگر کچھ خدا کا خوف ہے۔ اب ان کی پیشین گوئیوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک پیشین گوئی جسے مرزا قادیانی نے نہایت ہی عظیم الشان کہا تھا۔ بطور نمونہ اس کا ذکر کر دیا۔ جس سے ان کا جھوٹا ہونا دوسرے طریقے سے ظاہر ہو گیا۔ اب اگر انہوں کو ہدایت پر لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے بندہ کا کام نہیں۔

اس کے علاوہ اس تحریر میں صریح دو جھوٹ ہیں۔ ایک یہ کہنا کہ صرف ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا یہ بالکل غلط ہے۔ فیصلہ آسمانی اور النجم الثاقب اور مسیح کا ذب وغیرہ دیکھو کہ کتنی پیشین گوئیاں جھوٹی بیان کی گئی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ تمہارے گمراہ کرنے والے تمہیں رسالے دیکھنے نہیں دیتے اور تم ان کے کہنے پر اپنا ایمان قربان کر رہے ہو اور ان کی وجہ سے ایسا صریح جھوٹ

بول رہے ہو۔ اس کے سوا مولوی ثناء اللہ صاحب نے مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کی ساری پیشین گوئیوں کو غلط کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم ساری پیشین گوئیوں کے پڑتال کے لئے موجود ہیں۔ مناظرہ کر لو۔ مرزا قادیانی نے اس کے مقابلہ میں بڑے زور سے انہیں قادیان بلایا اور پھر یہ پیشین گوئی کی کہ وہ ہرگز نہ آئیں گے مگر وہ پہنچ گئے اور مرزا قادیانی گھر سے باہر نہ نکلے اور مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی بھی جھوٹی ہو گئی۔ ان کے مرنے کے بعد مولوی صاحب نے اعلان دیا کہ پیشین گوئی کے پڑتال کے لئے لاہور میں جلسہ کر لیا جائے۔ مگر کوئی مرزائی سامنے نہیں آیا۔ پھر یہ کہنا کیسا غلط ہے کہ صرف ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا دوسری کا نہیں کیا۔ خاص موکیر میں بھی بہت سی پیشین گوئیوں کا ذکر ہوا ہے اور دوسری جگہ ساری پیشین گوئیوں کو جھوٹا کہا ہے۔ جب تم اور تمہاری جماعت آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور نکلے سورج کو نہ دیکھے تو آپ اندھیرے میں گر کر وہیں جائے گی کہ جہاں اس کو جانا چاہئے۔

دوسرے یہ کہ جس پیشین گوئی کو تم ایک کہہ رہے ہو اس میں تو درحقیقت چھ پیشین گوئیاں ہیں اور چھوٹے غلط ہوئیں۔ اب ان چھوٹوں کو ایک کہنا صریح غلط ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم انہیں جھوٹا نہیں جانتے۔ ہم نے تو ان کے قول کے بموجب انہیں جانچا اور جھوٹا پایا۔

دیکھو مرزا قادیانی کا اشتہار (۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۹) میں تحریر کرتے ہیں۔ ”لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا۔“ مطابق اس قول کے ہم نے ان کی پیش گوئیوں کو جانچا اور خاص کر وہ پیش گوئی جس کو انہوں نے نہایت ہی عظیم الشان کہا تھا وہ غلط ہوئی اور یقیناً غلط ہوئی۔ اب تمہارے عذرات پیش کرنا بھی بیکار ہیں۔ کیونکہ سچے رسول کی پیش گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور غلط ہونے کے بعد کوئی عذر قابل سماعت نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی باتیں انسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب وہ نہیں ہو سکا تو پھر عذر کرنے لگے۔

تم لکھتے ہو کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کی شرارت اور بغاوت کی تحقیق کے بعد حکم سزا نافذ فرماویں اور پھر قبل اس کے کہ وہ سزا بھگتے یا کچھ بھگت چکنے پر کسی اس کی تغیر حالت کی وجہ سے یا محض ترحم خسروانہ سے اس کو معاف فرماویں اور اس پر سزا عائد نہ ہو تو کیا اس کو جھوٹ اور فریب سے کام لینا کہیں گے۔ فرض کیجئے کہ اس حکم سزا سے بادشاہ سلامت کسی اپنے دوست کو آگاہ بھی کر دیں اور پھر قبل اس کے کہ سزا عائد کی جائے معاف بھی کر دیں تو کیا اس دوست کو حق ہوگا کہ بادشاہ سلامت کو جھوٹ بولنے والا اور جھوٹا وعدہ کرنے والا ٹھہراوے۔

اے عزیز! تم نے اس مثال میں بڑا دھوکا کھایا۔ اگر تم اپنے اوپر رحم کر کے اس مثال میں اور مرزا قادیانی کی الہامی وعید احمد بیگ کے داماد میں ذرا بھی انصار سے غور کرو گے تو آسمان وزمین کا فرق پاؤ گے۔ تم ایسے نادان تو نہ تھے۔ مرزا قادیانی کو مان کر عقل و سمجھ سب کھو بیٹھے۔ احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی کی حالت میں مفصل بیان کر آیا ہوں۔ اسے غور سے دیکھو۔ متن کے علاوہ حاشیہ میں سات وجہیں نہایت صاف اور صریح ایسی بیان کی ہیں۔ جن سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس مثال میں اور اس وعدہ الہی میں کوئی نسبت نہیں ہے اور اس وعدہ کا پورا ہونا ضرور ہے۔ ص ۳۳ سے ۳۴ تک یہ حاشیہ ہے۔ اسے ضرور دیکھو۔ اس کے بعد تم میں کچھ خوف خدا ہے تو اس مثال کو یقیناً غلط سمجھو گے۔ تم خدا تعالیٰ کے حال کو انسان کی حالت پر قیاس کرتے ہو۔ یہ کیسی نادانی ہے۔ انسان ضعیف البیان کو اس قادر مطلق سے کیا نسبت۔ وہ عالم الغیب ہے۔ اس پر آئندہ اور گذشتہ کی کوئی خبر اور کوئی حالت مخفی نہیں رہ سکتی۔ جس بات کو وہ کہے گا اس کے انجام کو وہ دیکھتا ہے۔ اس لئے وہ ایسا وعدہ ہرگز نہ کرے گا۔ جس کی انجام میں کوئی مانع یا کوئی وجہ ایسی پیش آئے۔ جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ ہو۔ بھلا وہ ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کوئی شریف انسان بھی ایسا وعدہ نہیں کرتا۔ جس کے انجام کو وہ جانتا ہو کہ یہ پورا نہ ہو سکے گا۔ دنیاوی بادشاہ یا کسی اعلیٰ افسر کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی حالت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی شخص کے بارہ میں کوئی حکم سزا نافذ کرے یا کسی شخص کو کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے۔ مگر اس کے بعد اسے ذاتی یا ملکی اغراض ایسے پیش آسکتے ہیں کہ وہ اپنے وعدہ یا وعید کو پورا نہ کرے۔ اس کے پورا کرنے میں اسے کسی قسم کا خوف خطرہ پیش آجائے یا اس کی حالت میں تغیر آجائے۔ جس سے اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے۔ ”لا تبدیل لکلمات اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اب اگر اس کا وعدہ یا وعید بدل جائے تو صریح اس آیت قرآنی کے خلاف ہوگا۔ اب سمجھ لو کہ وعید الہی کے مقام پر یہ مثال پیش کرنا آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ یہ وعید ایسی ہے کہ اگر پوری نہ ہو تو ایک نہایت حتمی اور قطعی وعدہ اس کی بیوی کے نکاح میں آنے کا پورا نہ ہوگا اور ایسے حتمی وعدہ کو پورا نہ کرنا تو معزز انسان کی شان سے بعید ہے اور خدا کی شان تو بہت ہی اعلیٰ اور اشرف ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں دوسری طرح سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب صادق الاعداد اور غیر متغیر ہے۔

اپنے کسی وعدہ یا وعید کو نال نہیں سکتا۔ کیونکہ عالم الغیب وہی وعدہ کرے گا جس کا پورا ہونا اس کے علم میں قرار پا چکا ہے اور جو وقوع میں آنے کو ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس وعدہ کے پورا نہ ہونے کو وہ یقیناً جانتا ہے۔ اس کی نسبت اس طرح کہہ دے کہ میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ جیسا کہ منکووحہ آسمانی کی نسبت کہا گیا کہ آخر کار اور انجام کار احمد بیگ کی لڑکی میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ جب وہ عالم الغیب اس کہنے سے پہلے جانتا تھا کہ ایسی باتیں پیش آئیں گی جن کی وجہ سے وہ نکاح میں نہ آئے گی اور باوجود اس علم کے یہ وعدہ کرنا کہ انجام کار وہ لڑکی تیرے نکاح میں آئے گی جھوٹ اور صریح فریب نہیں تو کیا ہے۔

ذرا کچھ تو غور کرو۔ تم لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس وعدہ کے پورا نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ پر کیسا بھاری الزام آتا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہو کہ اس کے خوف کی وجہ سے وعید پوری نہ ہوئی۔ اس لئے وعدہ بھی ٹل گیا۔ اس وعدے کے ٹلنے میں خدا پر سخت الزام آتا ہے۔ اس لئے بھی داماد احمد بیگ کی وعید کا پورا ہونا ضرور ہے اور پھر خاص کر اس کے مرنے کی دوسرے مرتبہ الہاماً پیش گوئی کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اس کی شادی کے دن سے ڈھائی برس کے اندر اس کی موت بتلاتے ہیں اور دوسرے مرتبہ اپنی زندگی کے اندر اس کے مرنے کو کہتے ہیں اور انجام کار میں اس کی بی بی سے اپنی شادی ہو جانا کہتے ہیں۔ جو واقعات گذر چکے ہیں۔ ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ داماد احمد بیگ نہ ڈھائی برس کے اندر مر اور نہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر مر اور نہ اس کی بی بی مرزا قادیانی کے پاس آئی۔ بلکہ مرزا قادیانی خود ہی مر گئے۔

غرض کہ مرزا قادیانی سے جو وعدہ الہی الہامات میں ہوا تھا۔ اس کی صورتیں اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ اس کا پورا ہونا ضرور ہے اور اگر ایسے وعدے پورے نہ ہوں تو تمام وعدے الہی اور وعدے رسول بیکار ہو جاویں گے۔ کوئی قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں۔ ”کیا ایسے بزرگ اور حتمی وعدے کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا؟“ (توضیح المرام ص ۸، خزائن ج ۳ ص ۵۵)

اس کے یہی معنی ہیں کہ تمام وعدوں میں زلزلہ پڑ جائے گا اور کوئی وعدہ لائق وثوق نہ رہے گا۔ جس وعدہ الہی کو مرزا قادیانی نے یہاں بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے پورا نہ ہونے سے اس کے تمام وعدوں میں زلزلہ پڑ جائے گا۔ اس سے بہت زیادہ یہ وعدہ ہے جو مرزا قادیانی نکاح میں آنے کے لئے بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی وعید ہے۔ اس زور سے

اس کے پورا ہونے کا وثوق دلایا گیا ہے کہ اس کے پورا ہونے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ازلیۃ الادہام میں لکھتے ہیں کہ آخر کار انجام کار وہ لڑکی میرے نکاح میں ضرور آئے گی اور اس وعید کی نسبت لکھتے ہیں کہ اگر یہ پوری نہ ہو تو میں جھوٹا اور ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اگر ایسے وعدہ اور وعید پورے نہ ہوں تو پھر شریعت الہی کے کسی بات کا اعتبار نہ رہے اور نبی کے تمام اقوال سے وثوق اٹھ جائے اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ شخصی وعید ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید اور حدیث سے اور تمام مفسرین کے کلام سے ظاہر ہے۔ دیکھو فیصلہ آسمانی حصہ سوم۔ فقط تمت!

### نیا اعتراض و جواب

بعض مرزائی اپنے خیر خواہوں پر یہ الزام دیتے ہیں کہ اعتراض میں مرزا قادیانی کا بعینہ قول نقل نہیں کرتے۔ لفظ کو بدلتے ہیں۔ بھائیو! تمہارے اس کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بہکنے والے اصل اعتراض کے جواب سے عاجز ہیں۔ اپنے خیر خواہوں پر کچھ الزام لگا کر کم علموں کو گمراہی پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ اپنے دل میں اس جواب کو مہمل سمجھتے ہیں۔ ورنہ ضرور اس امر کو مشتہر کرتے۔ اب مجھ سے اس کا جواب سنئے۔ ہماری جماعت نے اکثر جگہ مرزا قادیانی کے بعینہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ آپ سامنے آئیں تو وہ مقامات کھول کر دکھادئے جائیں اور بعض مقام پر بعینہ عبارت نقل نہیں کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عبارت میں بہت طوالت ہوتی ہے۔ اصل مطلب بہت کم ہوتا ہے۔ اس لئے پوری عبارت نہیں لکھی جاتی۔ اصل مطلب بیان کر دیا جاتا ہے۔ بعض وقت رسالہ میں ایک جگہ پوری عبارت لکھ دی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کا حاصل لکھا گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس میں کیا الزام ہے۔ ہاں اگر ہمارا حوالہ غلط ہو یا مرزا قادیانی کی عبارت کا جو خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے وہ غلط ہو اگر ایسا ہوا ہے تو ہمیں دکھائیے کہ ہم نے کیا غلطی یا بددیانتی کی ہے۔ ہم حق پرست ہیں۔ حق بات کے ماننے میں اور کہنے میں کبھی ہم کو تا مل نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک خاص امر میں بحث ظہور ہی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کے صادق یا کاذب ہونے میں اس کے ثبوت میں جو ذی علم ہماری غصی ثابت کرے گا اس کا جواب دیں گے اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو اسے ہم بخوشی مانیں گے۔ بلکہ ان کے ممنون ہوں گے اور جنہیں علم نہیں ہے ان کے خیال میں جو غلطی معلوم ہو وہ علمائے موافقین سے بیان کریں۔ ان کی پوری تسلیم کر دی جائے گی۔ اب مقابلہ پر آئیے اور اس کا تجربہ کیجئے اور یوں عوام کے بہکانے کو ایک بات بنا کر کہہ دینا اہل حق کا کام نہیں ہے۔